

خطاباتِ ناصر

خطابات

بر

جلسہ ہائے سالانہ جماعت احمدیہ

۱۹۶۵ء تا ۱۹۷۳ء

فرمودہ

سیدنا حضرت حافظ مرزا ناصر احمد

خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ

جلد اوّل

خطباتِ ناصر جلد اول - 1965-1973ء
خطباتِ جلسہ ہائے سالانہ فرمودہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ

Khetabaat-e Nasir Volume: 1

1965-1973

Addresses at annual gatherings from 1965 to 1973

delivered by Hadhrat Mirza Nasir Ahmad,

Khalifatul Masih III (Rahemahu Allah)

© Islam International Publications

Published by:

First Published in 2010

ISBN: 1 85372 914 0

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ہو انشاء

پیش لفظ

سیدنا حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ خطابات کی جلد اول پیش خدمت ہے۔ یہ جلد ۱۹۶۵ء سے ۱۹۷۳ء تک کے جلسہ سالانہ کے افتتاحی خطاب، دوسرے روز کے خطاب اور اختتامی خطابات پر مشتمل ہے۔ ان تقاریر کی کل تعداد ۲۴ ہے جن میں سے ۱۶ تقاریر غیر مطبوعہ ہیں اور پہلی دفعہ شائع کی جا رہی ہیں۔ حضور رحمہ اللہ کے مستورات سے خطابات لجنہ اماء اللہ پاکستان نے ”المصاحیح“ کے نام سے الگ شائع کئے ہیں اس لئے انہیں اس جلد میں شامل نہیں کیا گیا۔

جن مقدس وجودوں کو خدائے قادر مقام خلافت پر فائز کرنے کے لئے منتخب فرماتا ہے انہیں اپنی غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔ ان کی زبان مبارک سے حقائق و معارف اور دقائق و لطائف جاری فرماتا ہے۔ اس جلد میں مندرجہ ذیل اقتباسات جماعتی نقطہ نگاہ سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

(۱) ۱۹ دسمبر ۱۹۶۵ء کو اپنی خلافت کے پہلے جلسہ سالانہ کے افتتاحی خطاب کے موقع پر فرمایا:-
”اے جان سے زیادہ عزیز بھائیو! میرا ذرہ ذرہ آپ پر قربان کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جماعتی اتحاد اور جماعتی استحکام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھانے کی توفیق عطا کی کہ آسمان کے فرشتے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ آسمانی ارواح کے سلام کا تحفہ قبول کرو۔ تاریخ کے اوراق آپ کے نام کو عزت کے ساتھ یاد کریں گے اور آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی کہ آپ نے محض خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس بندہ ضعیف اور ناکارہ کے ہاتھ پر متحد ہو کر یہ عہد کیا ہے کہ قیام تو حید اور

اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے قیام اور غلبہ اسلام کے لئے جو تحریک اور جو جدوجہد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شروع کی تھی اور جسے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آرام کھو کر اپنی زندگی کے ہر سکہ کو قربان کر کے اکناف عالم تک پھیلا یا ہے۔ آپ اس جدوجہد کو تیز سے تیز تر کرتے چلے جائیں گے۔

میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں۔ میں نے آپ کی تسکین قلب کے لئے، آپ کے بارہلکا کرنے کے لئے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اپنے رب رحیم سے قبولیت دعا کا نشان مانگا ہے اور مجھے پورا یقین اور پورا بھروسہ ہے اس پاک ذات پر کہ وہ میری اس التجا کو رد نہیں کرے گا۔ (صفحہ ۲۱، جلد ۲)

(۲) ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء کو اپنی خلافت کے پہلے جلسہ سالانہ کے دوسرے روز کے خطاب میں فرمایا:-

”مامور اور نبی اپنی جماعت کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے اور یہی کام ان کے بعد ان کی نیت میں ان کے خلفاء کو کرنے پڑتے ہیں اور یہی ان کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے ایک جماعتی نظام قائم کیا جاتا ہے اور جہاں تک عزم اور فیصلہ کا تعلق ہے۔ اس نظام کی پوری ذمہ داری خلیفہ وقت پر ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری نہایت نازک ہے اور ذمہ داری کے نبھانے میں خلیفہ وقت کو جماعت سے دو بنیادی باتوں کی توقع ہوتی ہے (اول) جماعت کے مخلصانہ مشورے (دوم) ان کی دعائیں اور جس طرح مجھ سے پہلے خلفاء جماعت سے ان دو بنیادی باتوں کی توقع رکھتے تھے۔ اس طرح میں بھی ان کی توقع رکھتا ہوں کیونکہ ان کے بغیر خلافت کے اہم کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاسکتا پس آپ کے مخلصانہ مشوروں اور پُر سوز دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کی طرف سے ملتی رہیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔“ (صفحہ ۱۱، جلد ۱)

(۳) ۲۱ دسمبر ۱۹۶۵ء کو اپنی خلافت کے پہلے جلسہ سالانہ پر اختتامی خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

میرے جیسا انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے کن الفاظ میں پیش کرے لیکن اس تمام نیستی کے باوجود جو میں اپنے نفس میں اپنے لئے پاتا ہوں۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر کھڑا کیا ہے اس مقام کی حفاظت کا ذمہ خود اس نے لیا ہے اور جب تک وہ مجھے زندہ

رکھنا چاہے گا۔ اس کا قادر و توانا اور قوی ہاتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور جس طرف بھی خدا تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے ہوئے جماعت کو ترقی کے لئے لے جانا چاہے گا اس میں برکت ہوگی اور اگر کوئی شخص اس راستہ کو چھوڑے گا تو وہ ناکام رہے گا۔ اس لئے نہیں کہ مجھ میں کوئی خوبی یا طاقت ہے بلکہ اس لئے کہ جس وجود نے مجھے اس مقام پر کھڑا کیا ہے تمام خوبیاں اور طاقتیں اس کو حاصل ہیں..... وہ ہمیں کامیاب کرے گا اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ساری جماعت کو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور تمام دنیا کو جہاں کہ آج کی آواز پہنچے یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ پچیس تیس سال کے اندر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس روحانی انقلاب کو روک نہیں سکتیں۔“ (صفحہ ۲۳ تا ۵۲ جلد ہذا)

(۴) ۲۷ جنوری ۱۹۶۷ء کو جلسہ سالانہ کے دوسرے روز اپنے خطاب میں فرمایا:-

”آپ میں سے ہر شخص کی خواہش، تمنا اور دعا ہے کہ مثلاً سیرالیون سارا احمدی ہو جائے، مثلاً غانا سارا احمدی ہو جائے، مثلاً گیمبیا سارا احمدی ہو جائے، مثلاً نائیجیریا سارا احمدی ہو جائے۔ وہ کون سا ملک ہے جس کے احمدی ہو جانے کے متعلق آپ کے دل میں خواہش نہ ہو اور اس کے لئے آپ کی دعا نہ ہو جس وقت وہ ملک احمدی ہو گیا اور اس کی مالی قربانیاں آپ سے بڑھ گئیں اس دن وہ کہے گا نظام ہمارے ہاتھ میں دو یا ہمارے مقابلہ میں آ کے قربانیاں دو۔ تو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے کہ آپ کے ہاتھ سے یہ فضیلت چھین لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کا نظام آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے چلا رہا ہے ان باتوں کی طرف توجہ دو اور اپنی قربانیوں کے معیار کو اور قربانیوں کی رفتار کو بڑھاؤ۔ مل کے سب نے ایک تشبیہ ہمیں کر دی ہے۔ وارننگ سگنل بلند ہو چکا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔“ (صفحہ ۱۱۴ جلد ہذا)

(۵) ۲۸ جنوری ۱۹۶۷ء کو جلسہ سالانہ کے اختتامی خطاب کے دوران فرمایا:-

”حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اسلام کو تمام ادیان عالم کے مقابلہ میں غالب کرے گا اور اگر سارے مذاہب کے سربراہ اور ان کے علماء اور ان میں متقی قرار دیئے جانے والے اور بزرگ اور نیک اکٹھے ہو جائیں تمام مذاہب کے اور وہ میرے مقابلہ پر آ کر کھڑے ہوں۔ وہ ایک چیز کے مستحق دعا کریں اور میں بھی اس کے متعلق دعا کروں تو ان تمام بزرگوں کی دعائیں رد کر دی جائیں گی اور میری دعا قبول

ہو جائے گی۔..... اسی طرح آج میں یہ کہتا ہوں..... جو ایک نہایت ہی ادنیٰ خادم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہوں اور آپ کے آقا و مطاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اکیلا دعا کروں گا اور اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں بلکہ اس کے لئے کہ اسلام خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ایک بہت بڑی صداقت ہے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کے خلفاء کی مدد کے لئے آسمان سے اتر کر رہے گا۔ میں آج اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر آپ سب کے مقابلہ میں میں اکیلا دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبولیت بخشے گا اور آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا۔“ (صفحہ ۱۵۸، ۱۵۹ جلد ہذا)

(۶) ۲۷ دسمبر ۱۹۶۹ء کو جلسہ سالانہ کے دوسرے روز کے خطاب کے دوران فرمایا:-

”ابھی میں نے اسلام کے اقتصادی نظام کے اصول اور اس کے فلسفہ پر جو خطبات دیئے تھے جس وقت میں یہ خطبات دے چکا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اکثر احمدی تو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ان خطبات میں جو مختلف مذہبی پہلو بیان ہوئے ہیں۔ جن کی بنیاد پر آگے اقتصادی اصول قائم کئے گئے ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھیں گے اور بڑی لذت محسوس کریں گے لیکن دوسرے لوگ خصوصاً غیر مسلم جو ہیں ان کو تو مذہب یا اسلام یا قرآن سے دلچسپی نہیں وہ شاید bore یعنی اکتا جائیں اس لئے ان سارے خطبات کا ایک خلاصہ بیان کر دینا چاہئے جس میں صرف اصول بتا دیئے جائیں۔ اس کی حکمتیں اور وہ روحانی بنیاد جن کے اوپر ان کو قائم کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو تعلیم ہے اور جو اس کا فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا جائے اور یہ دراصل خلاصہ ہوگا ان خطبات کا۔ چنانچہ میں اس وقت بہت دعا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جو کچھ تم نے ان چودہ خطبات میں بیان کیا ہے یہ سارا مضمون سورۃ فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ تم سورۃ فاتحہ کی اقتصادی تفسیر بیان کر دینا تو ان خطبات کا خلاصہ آجائے گا۔..... اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سورۃ فاتحہ کی اقتصادی تفسیر بھی آجائے گی۔“ (صفحہ ۳۵۳، ۳۵۴ جلد ہذا)

(۷) ۲۷ دسمبر ۱۹۷۳ء کو جلسہ سالانہ کے دوسرے روز اپنے خطاب میں فرمایا:-

”گیمبیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ ان ممالک میں ان کی خدمت کے لئے خرچ کرو۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو پہلا ملک جہاں افریقہ سے باہر ٹھہرا

وہ انگلستان تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو میں اُن سے اللہ تعالیٰ کی اس منشاء کے مطابق یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے پانچ سات سال کے اندر اندر تمہارے منکلوں میں سولہ نئے طبی مراکز کھولوں گا اور کافی نئے سینڈری سکول کھولوں گا۔ تعداد بھی میں نے بتائی تھی اس وقت مجھے یاد نہیں رہی بہر حال سولہ سے زیادہ ہی بتائی ہوگی۔ اس کے لئے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ٹیچرز اور پروفیسروں کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے مال کی ضرورت ہے اور چونکہ خدا نے کہا کہ کم سے کم اتنا خرچ کرو اس لئے میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے سامان وہ خود ہی پیدا کر دے گا اور مجھے ایک سینڈ کے لئے بھی گھبراہٹ نہیں کہ مجھے ڈاکٹر کہاں سے ملیں گے۔ سکولوں میں پڑھانے والے ایم ایس سی لیکچرز کہاں سے آئیں گے۔ سکولوں یا ہسپتالوں کی عمارتیں بنانے کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا کی یہ منشاء ہے خدا کی منشاء پوری ہوگی۔ ایک چیز کی مجھے فکر ہے اور وہ یہ میرا پہلا اعلان تھا وہاں سے آ کر اور مجھے بھی اس کی فکر ہے تمہیں بھی اس کی فکر کرنی پڑے گی پیسہ بھی خدا دے گا اور آدمی بھی دے گا لیکن مجھے اور تمہیں یہ فکر کرنی چاہئے کہ ہم یہ حقیر قربانی جو اپنے رب کے حضور پیش کریں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے لئے ہمیں دعائیں کرنی چاہئیں کہ خدا ہماری ان حقیر قربانیوں کو قبول فرمائے۔ (صفحہ ۶۳۹، ۶۴۰ جلد ہذا)

(۸) ۲۸ دسمبر ۱۹۷۳ء کو جلسہ سالانہ کا اختتامی خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ جماعت صد سالہ جشن منائے۔ یعنی وہ لوگ جن کو سوواں سال دیکھنا نصیب ہو وہ صد سالہ جشن منائیں اور میں اپنی بھی اسی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ صد سالہ جشن منایا جائے۔ اس لئے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے اور میں نے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑے غور کے بعد تاریخ احمدیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگلے چند سال جو صدی پورا ہونے سے قبل باقی رہ گئے ہیں وہ ہمارے لئے بڑی ہی اہمیت کے مالک ہیں۔..... حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت پر اس معنی میں کہ آپ نے جو پہلی بیعت لی اور صالحین اور مطہرین کی چھوٹی سی جماعت بنائی تھی اس پر ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء کو سو سال گزر جائیں گے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا

کہ ہمیں کوئی منصوبہ بنانا چاہئے تاکہ ہم تیاری کریں اس صدی کے جشن کو منانے کی لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ۱۹۸۹ء کا سال بڑا ہی اہم سال ہوگا اس لئے میری طبیعت کا میلان سو سالہ جشن منانے کی طرف اتنا نہیں (وہ بھی ہم نے منانا ہے) جتنا دوسری صدی کے استقبال کی تیاری کی طرف میرا میلان ہے۔ (صفحہ ۶۲۷، ۶۲۸ جلد ہذا)

(۹) ۲۸ دسمبر ۱۹۷۳ء کو جلسہ سالانہ پر اختتامی خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

”اشاعت اسلام کا یہ جامع منصوبہ ہے جسے میں نے مختصراً بیان کر دیا ہے۔ دنیا کا ہر منصوبہ روپیہ چاہتا ہے مثلاً جو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن لگانے پر روپیہ خرچ ہوگا۔ قرآن کریم کے تراجم پر روپیہ خرچ ہوگا۔ سوزبانوں میں اسلامی لٹریچر کی اشاعت پر بہت رقم خرچ آئے گی۔..... اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک معقول رقم کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم ”صد سالہ احمدیہ جو بلی فنڈ“ کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس فنڈ کے لئے رقم کی ضرورت ہے۔ اس کی آخری شکل تو سولہ سال کے بعد بنے گی۔ سردست اس کے لئے جتنی رقم کی اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اڑھائی کروڑ روپیہ ہے۔..... ہو سکتا ہے کہ جماعت اگلے سولہ سال میں اشاعت اسلام پر ۵۰ کروڑ روپے خرچ کرنے لگ جائے۔“ (صفحہ ۶۷۷، ۶۷۸ جلد ہذا)

خطبات ناصر کی دوسری جلد انشاء اللہ تعالیٰ حضور انور کی تقاریر جلسہ سالانہ ۱۹۷۳ء تا ۱۹۸۱ء

پر مشتمل ہوگی۔

فہرست خطابات

جلد اول

(خطابات جلسہ سالانہ از ۱۹۶۵ء تا ۱۹۷۳ء)

نمبر شمار	عنوان	خطاب فرمودہ	صفحہ
جلسہ سالانہ ۱۹۶۵ء (منعقدہ دسمبر ۱۹۶۵ء)			
۱	میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں	افتتاحی خطاب ۱۹ دسمبر ۱۹۶۵ء	۱
۲	تحریک جدید کے اجرا کی غرض دنیا میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا	دوسرے روز کا خطاب ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء	۵
۳	خدا شاہد ہے کہ پسر موعود کے شامل حال ایک عظیم الشان نور تھا	اختتامی خطاب ۲۱ دسمبر ۱۹۶۵ء	۳۳
جلسہ سالانہ ۱۹۶۶ء (منعقدہ جنوری ۱۹۶۷ء)			
۴	جو عہد بیعت تم نے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ چشتگی سے اس پر قائم رہو	افتتاحی خطاب ۲۶ جنوری ۱۹۶۷ء	۸۷
۵	جس وقت کوئی ملک پورا احمدی ہو گیا تو وہ کہے گا کہ نظام ہمارے ہاتھ میں دو یا ہمارے مقابلہ میں قربانیاں دو	دوسرے روز کا خطاب ۲۷ جنوری ۱۹۶۷ء	۹۱
۶	انہوائی مظلومیت اور متضرعانہ دعا اللہ تعالیٰ کی معجزانہ نصرت کو جذب کرتی ہے	اختتامی خطاب ۲۸ جنوری ۱۹۶۷ء	۱۳۷

نمبر شمار	عنوان	خطاب فرمودہ	صفحہ
جلسہ سالانہ ۱۹۶۷ء (منعقدہ جنوری ۱۹۶۸ء)			
۷	میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ تم پاک دل اور مطہر نفس بن جاؤ	افتتاحی خطاب ۱۱ جنوری ۱۹۶۸ء	۱۸۱
۸	جس قوم نے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اس کو ہر قسم کی عادت سے آزاد رہنا چاہئے	دوسرے روز کا خطاب ۱۲ جنوری ۱۹۶۸ء	۱۸۷
۹	ہر فرد جماعت کو چاہئے کہ اپنے اندر صحابہ رسولؑ والی بنیادی خوبیاں پیدا کرے	اختتامی خطاب ۱۳ جنوری ۱۹۶۸ء	۲۲۵
جلسہ سالانہ ۱۹۶۸ء (منعقدہ دسمبر ۱۹۶۸ء)			
۱۰	جلسہ کے یہ بابرکت ایام کوئی دنیاوی میلہ یا اکٹھ نہیں	افتتاحی خطاب ۲۶ دسمبر ۱۹۶۸ء	۲۵۹
۱۱	اللہ تعالیٰ عزت کا سرچشمہ ہے جو خدا سے دور ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا	دوسرے روز کا خطاب ۲۷ دسمبر ۱۹۶۸ء	۳۶۳
۱۲	خلافتِ حقہ کا حق ادا کرنے والے انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	اختتامی خطاب ۲۸ دسمبر ۱۹۶۸ء	۳۰۳
جلسہ سالانہ ۱۹۶۹ء (منعقدہ دسمبر ۱۹۶۹ء)			
۱۳	اے ہمارے سچے اور حقیقی محسن! ہمیں اپنی محبت کی نعمت سے مالا مال کر	افتتاحی خطاب ۲۶ دسمبر ۱۹۶۹ء	۳۲۵
۱۴	خلفائے احمدیت کی سورۃ فاتحہ کی کی گئی تفسیر بڑی حسین اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے	دوسرے روز کا خطاب ۲۷ دسمبر ۱۹۶۹ء	۳۵۱
۱۵	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرکزی نقطہ ہے اور یہی حقیقت محمدیہ ہے	اختتامی خطاب ۲۸ دسمبر ۱۹۶۹ء	۳۹۱

نمبر شمار	عنوان	خطاب فرمودہ	صفحہ
جلسہ سالانہ ۱۹۷۰ء (منعقدہ دسمبر ۱۹۷۰ء)			
۱۶	قلوب کو خدا اور اس کے رسولؐ کی محبت کی آگ سے روشن رکھو	افتتاحی خطاب ۲۶ دسمبر ۱۹۷۰ء	۴۳۱
۱۷	کتب کی کثرت اشاعت سے مراد یہ ہے کہ نئے سے نئے علوم نکلیں گے	دوسرے روز کا خطاب ۲۷ دسمبر ۱۹۷۰ء	۴۳۱
۱۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان اور ہر زمانہ کے لئے رحمت بن کر مبعوث ہوئے	اختتامی خطاب ۲۸ دسمبر ۱۹۶۹ء	۴۷۵
۱۹۷۱ء میں جلسہ سالانہ منعقد نہیں ہوا			
جلسہ سالانہ ۱۹۷۲ء (منعقدہ دسمبر ۱۹۷۲ء)			
۱۹	جلسہ سالانہ کی بنیاد اعلیٰ کلمہ اسلام پر رکھی گئی ہے	افتتاحی خطاب ۲۶ دسمبر ۱۹۷۲ء	۵۲۷
۲۰	اللہ سے تجارت ایک ایسی تجارت ہے جس میں پیسے کے ضیاع کا کوئی خطرہ نہیں	دوسرے روز کا خطاب ۲۷ دسمبر ۱۹۷۲ء	۵۳۳
۲۱	اسوۂ نبویؐ کے بارہ میں قرآن کریم کے بیان فرمودہ بنیادی اصولوں کا ذکر	اختتامی خطاب ۲۸ دسمبر ۱۹۷۲ء	۵۷۳
جلسہ سالانہ ۱۹۷۳ء (منعقدہ دسمبر ۱۹۷۳ء)			
۲۲	آسمانوں پر جو فیصلہ ہو چکا ہے زمین کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی	افتتاحی خطاب ۲۶ دسمبر ۱۹۷۳ء	۶۱۱
۲۳	ہم دولت مند ہیں اس لئے کہ ہمارے پیسے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی ہے	دوسرے روز کا خطاب ۲۷ دسمبر ۱۹۷۳ء	۶۱۷
۲۴	مہدی علیہ السلام روحانی قوتوں اور ان کی نشوونما میں آنحضرتؐ کا عکس اور ظل کامل ہیں	اختتامی خطاب ۲۸ دسمبر ۱۹۷۳ء	۶۳۷

میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں

﴿افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۱۹ دسمبر ۱۹۶۵ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

اے خدائے بزرگ و برتر کی برگزیدہ اور محبوب جماعت! خدا کرے کہ اُس کے قُرب کی راہیں آپ پر ہمیشہ کھلی رہیں۔ اے نُورِ محمدی کے پروانو! خدا کرے کہ دُنیا کی کوئی شمع کبھی تمہیں اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ اے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت گزار جماعت اور آپ کے جاں نثارو! خدا آپ کے نفوس اور اموال میں برکت ڈالے اور آپ ہمیشہ ان بشارتوں کے وارث بنے رہیں جو آسمان سے آپ کے لئے نازل کی گئی ہیں۔

اے مصلح موعودؑ کے فیوض اور قوتِ قدسی سے تربیت یافتہ جماعت! خدا کرے کہ آپ اس مقامِ تربیت سے کبھی نیچے نہ گریں۔

اے جان سے زیادہ عزیز بھائیو! میرا ذرہ ذرہ آپ پر قربان کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جماعتی اتحاد اور جماعتی استحکام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھانے کی توفیق عطا کی کہ آسمان کے فرشتے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ آسمانی ارواح کے سلام کا تحفہ قبول کرو۔ تاریخ کے اوراق آپ کے نام کو عزت کے ساتھ یاد کریں گے اور آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی کہ آپ نے محض خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس بندہ ضعیف اور ناکارہ کے ہاتھ پر متحد ہو کر یہ عہد کیا ہے کہ قیام تو حید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے قیام اور غلبہ اسلام کے لئے جو تحریک اور جو جدوجہد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شروع کی تھی اور جسے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آرام کھوکرا اپنی زندگی کے ہر سکہ کو قربان کر کے اکناف عالم تک پھیلا یا ہے۔ آپ اس جدوجہد کو

تیز، تیز کرتے چلے جائیں گے۔

میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں۔ میں نے آپ کی تسکین قلب کے لئے، آپ کے بارہا کرنے کے لئے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اپنے رب رحیم سے قبولیت دعا کا نشان مانگا ہے اور مجھے پورا یقین اور پورا بھروسہ ہے اس پاک ذات پر کہ وہ میری اس التجا کو رد نہیں کرے گا۔ ہم جس عہد کی تجدید کے بعد اور جن اغراض کی خاطر آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے پیش نظر ہمیں بعض باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔

اوّل تو یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے اجتماع پر اللہ تعالیٰ ایک گھڑی ایسی بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ جس گھڑی میں وہ ان کی دعا کو خاص طور پر قبول کرتا ہے۔ یہ پاک اجتماع بھی کچھ اسی قسم کا اجتماع ہے۔ ہم کسی دنیوی میلہ میں شمولیت کے لئے یہاں نہیں آئے۔ ہم خدا تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں اس کی رضا کی راہوں کو ڈھونڈنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پس اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں خرچ کرو۔ انہیں ضائع نہ کرو کہ آپ اس مسیح کی طرف منسوب ہونے والے ہیں۔ جس کے متعلق خود خدا تعالیٰ نے فرمایا الذی لا یضاع وقتہ (تذکرہ ایڈیشن چہارم صفحہ نمبر ۵۵۰) کہ اس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اور اس کی جماعت کا ہر فرد معمور الاوقات ہوگا اور معمور الاوقات ہونے کے یہی معنی ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر گھڑی خدا تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی رضا کی تلاش میں، اس کے دین کی خدمت میں اور اس کی مخلوق کی بھلائی میں خرچ ہو۔

پس ان ایام میں اس پاک گھڑی کی تلاش میں لگے رہو کہ جس وقت خدا تعالیٰ خصوصیت سے آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لئے آسمان سے نیچے اترے اور آپ کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرمائے۔

دوسرا۔ جب جم غفیر ہوتا ہے تو بعض تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں بعض بے آرامیاں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ آپ بشاشت کے ساتھ ان کو سہیں۔ یہاں کے رہنے والے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت کرتے ہیں لیکن آخر وہ انسان ہیں کبھی غلطی بھی کر سکتے ہیں آپ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں اور پردہ پوشی سے کام لیں اور ان کے لئے بڑی

دعائیں کریں کہ وہ دن رات آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے مولا، اپنے آقا کی رضا کے طلب گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کرے اور آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ جن روحانی خزانوں سے جھولیاں بھرنے کے لئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں اور آپ کے یہاں پہنچنے کا دن اس دن سے کم تر ہو جس میں آپ یہاں سے واپس جائیں اور آپ کی روانگی کا دن آپ کو بلندتر مقام پر پہنچا کر یہاں سے رخصت کرنے والا ہو۔

تیسرا جو دعائیں آپ یہاں کریں ان میں اپنے واقفین زندگی بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو اشاعت اسلام کے لئے اکناف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔

پھر آپ کے لاکھوں ہم وطن بھائی ایسے ہیں جن کو ابھی تک ربوہ آنے کی بھی توفیق نہیں ملی کیونکہ ان کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ ان کے دل تڑپتے ہیں لیکن بعض حالات کی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ ان کے اندر اس قدر اخلاص ہے اس قدر اخلاص ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ان دنوں باہر سے آنے والے ہزاروں خطوط پڑھے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک خط لکھنے والا اسلام کی محبت، احمدیت کی محبت اور حضرت مصلح موعودؑ کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ یہ چند دن ان کے لئے بڑے سخت تھے جن میں سے وہ گزرے۔ وہ بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور مستحق ہیں کہ آپ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

اللہ تعالیٰ نے دُور افتادہ ممالک میں بسنے والوں پر احمدیت اور اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے بڑا فضل کیا ہے اور ان کے دلوں کی حالت کو کلینتہ بدل دیا ہے۔ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں جا کر ان سے ملا ہو یا کثرت سے اس نے ان کے خطوط پڑھے ہوں۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ نہ کبھی وہ یہاں آئے اور نہ کبھی مرکز کو دیکھا اور نہ مرکز کے رہنے والوں سے بات چیت کی نہ صحابہ حضرت مصلح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت انہیں نصیب ہوئی لیکن ان کے دل ہیں کہ اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھرے ہوئے ہیں۔ گویا ایک آگ ہے جو ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہے کہ کاش وہ لوگ بھی جو اس نعمت سے ابھی تک محروم ہیں اس نعمت کو پالیں اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے اسی طرح وارث ہوں جس طرح

وہ خود اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا وارث دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

پھر کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی اس وقت بڑے دکھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ قیدیوں کی طرح ہیں اور راہِ نجات ان پر بند نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہمارا خدا بڑی طاقت والا اور بڑی قدرتوں والا خدا ہے وہ اگر چاہے تو ایک آن میں ان کے حالات بدل سکتا ہے اور وہ ان کے حالات کو انشاء اللہ جلد ہی بدل دے گا آپ انہیں اپنی دعاؤں میں کبھی نہ بھولیں وہ آپ کی دعاؤں کے بہت مستحق ہیں۔

پھر آپ اپنے لئے، اپنوں کے لئے اور ہر احمدی کے لئے ہر وقت دعا کرتے رہیں اس پر آپ کا کچھ خرچ نہیں آتا لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔

پچھلے دنوں ہر نماز میں اپنے رب سے خاص طور پر ہمیں یہ دعا کرتا رہا ہوں کہ اے خدا! تو ہمارے کمزوروں کو طاقت بخش اور ہمارے بیماروں کو شفا دے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے اندھیروں کو نور سے بدل دے اور ہم پر اپنی بڑی رحمتیں نازل کر اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور احمدیت کو جس مقصد کے لئے قائم کیا گیا ہے ہمیں اس مقصد میں جلد تر کامیابی عطا فرماتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ لیں کہ ساری دُنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی ہے۔

اب میں دعا کر دیتا ہوں سب دوست میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔

(روزنامہ الفضل ربوہ ۳۰ دسمبر ۱۹۶۵ء صفحہ ۲۱)



تحریک جدید کے اجرا کی غرض دنیا میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء بمقام ربوہ﴾

شہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوۂ حسنہ کے مطابق میں آج عمومی رنگ میں بعض باتیں دوستوں سے کہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض کتابوں اور رسائل کے متعلق مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں دوستوں کو ان کی خریداری کے متعلق تحریک کروں۔ ان کے متعلق میں ایک اصولی بات دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری کتب اور لٹریچر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھنے والی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی کتب ہیں اور ان کے بعد علماء سلسلہ اور دوسرے احباب کا پیدا کردہ لٹریچر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے علم کا اتنا بڑا ذخیرہ عطا کیا تھا کہ آپ کی کتب میں قیامت تک کے مسائل کے لئے ضروری مواد موجود ہے آپ کی بیان کردہ قرآن کریم کی تفسیر آج کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے آپ کی خواہش کے مطابق ہر احمدی کو اپنی زندگی میں کم سے کم تین بار آپ کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہئے اور اگر کوئی خوش قسمت احمدی ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے اور اس بات کی توفیق بھی عطا کرے کہ وہ تین بار نہیں، تین سو بار بھی ان کتب کو پڑھے تب بھی اس کی طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس سمندر میں سے (جب بھی آپ غوطہ لگائیں گے) نئے سے نئے موتی آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ میں نے خود بھی حضور کی بعض کتب کو دس پندرہ دفعہ پڑھا ہے اور ہر دفعہ مطالعہ کے وقت میں نے محسوس کیا ہے کہ نہ جانے پہلی بار میری نظر سے وہ باتیں اوجھل کیوں ہو گئی تھیں۔ جواب میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی بعض کتب چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نئی باتیں پائی جاتی ہیں مثلاً ”سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب“ ایک چھوٹا رسالہ ہے جس کا حجم صرف اکٹھ ۶۱ صفحے چھوٹی تفتیح کے ہیں لیکن اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو سینکڑوں دلائل عیسائیت کے غلط عقائد کی تردید میں ملیں گے۔ پہلی بار پڑھیں گے تو پندرہ بیس دلائل نظر آئیں گے۔ دوسری بار پڑھیں گے تو اس قدر اور دلائل آپ کی نظر میں آجائیں گے۔ تیسری بار پڑھیں گے تو کچھ اور دلائل کا علم ہوگا۔ جو پہلے آپ کی نظر سے اوجھل رہے تھے۔ علیٰ ہذا القیاس بار بار کے مطالعہ سے نئے سے نئے دلائل نگاہ میں آنے کا یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ یہی حال آپ کی دوسری کتب کا ہے۔ درحقیقت ہماری روح کی غذا ان کتب میں پائی جاتی ہے۔ پھر ان کے بعد آپ کے خلفاء کی تحریریں ہیں۔ چاہے وہ کتب کی شکل میں ہوں، رسائل کی شکل میں ہوں، یا چھپے ہوئے خطبات کی شکل میں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد علم کا دروازہ جماعت کے اوپر بند ہو گیا ہے۔ نہیں۔ اللہ بڑا ”دیالو“ ہے۔ اس نے جماعت پر علم کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت تک یہ دروازے کھلے رکھے۔ آمین۔ جیسا کہ ہماری جماعت کے لٹریچر میں ہر سال مفید اضافہ ہوتا ہے۔ اس سال بھی ہوا ہے اور بعض شائع کنندگان نے جرات کر کے مجھے لکھ دیا ہے کہ میں ان کی شائع کردہ کتب کی خریداری کی تحریک جماعت میں کر دوں ”بعض“ میں اس لئے کہتا ہوں کہ بعض کتب ایسی بھی ہوں گی۔ جو اس سال شائع تو ہوئی ہیں لیکن شائع کرنے والوں نے مجھے ان کی خریداری کی تحریک کرنے کے لئے نہیں لکھا۔ بہر حال جماعت کو ان سب کی خریداری کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے ان کو پوری کوشش اور جدوجہد کرنی چاہئے کہ ہماری زندگی کا کوئی سال ایسا نہ گزرے جس میں درجنوں نئی کتب جو علمی معیار کی ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان کردہ نئے نئے حقائق پر مشتمل ہوں ہم شائع نہ کریں۔ تاہم دنیا پر اپنے اس دعویٰ کو ثابت کر سکیں کہ جس طرح قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لکھی ہوئی قرآن کریم کی تفسیر بھی زندہ تفسیر ہے اور اس سے ہمیشہ نئے سے نئے علوم نکلتے رہتے ہیں۔ غرض بنیادی کتب ہمارے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب ہیں۔ ان کے

بعد آپ کے خلفاء کی کتب ہیں اور پھر آپ کے بعد ان کوششوں کے نتائج ہیں جو دورانِ سال ہمارے علماء کرتے ہیں۔ اس وقت جن کتب، رسائل اور اخبارات کے متعلق مجھے سفارش کے لئے کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روزنامہ الفضل ہے۔ الفضل ہمارا مرکزی اخبار ہے اور اس کے بمشکل ۳۶۰۰ مستقل خریدار ہیں۔ جب کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں کی ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اس کی ذمہ داری ایک حد تک خود الفضل کے ادارہ پر ہے۔ جنہوں نے اس کے معیار کو اتنا بلند نہیں کیا جتنا کہ جماعت ان سے توقع رکھتی ہے لیکن اس کی ایک حد تک ذمہ داری ہم پر بھی ہے کہ ہم اپنے اس مرکزی اخبار کو اتنی وقعت نہیں دیتے۔ جتنی کہ دینی چاہئے اور نہ اس کی اشاعت کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ۳۶۰۰ بھلا کوئی تعداد ہے۔ بہت سی ایسی جماعتیں ضرور ہوں گی جہاں تک الفضل نہیں جاتا یا پچھلے سال تک نہیں جاتا تھا کیونکہ گزشتہ سال صدر انجمن احمدیہ نے یہ کوشش کی تھی کہ ہر جماعت میں کم از کم ایک کاپی الفضل کی ضرورت پہنچ جایا کرے۔ پس ایک طرف میں ادارہ الفضل سے یہ کہوں گا کہ وہ الفضل کے معیار کے بہت جلد بلند کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعودؑ نے جب یہ اخبار جاری کیا تھا تو آپ نے ایک نوٹ شائع کیا تھا۔ جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ میں الفضل کو اس طرح چلاؤں گا آپ نے سات آٹھ عنوان تحریر کئے تھے اور لکھا کہ میں ان عنوانوں پر مضامین شائع کرتا رہوں گا اور قرآن کریم کی عام تفسیر کے علاوہ ہر ہفتہ اسلام کی ایک دل آویز خوبی لکھا کروں گا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی کوئی نہ کوئی نئی دلیل پیش کیا کروں گا۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت یہ اخبار ہفتہ وار تھا۔ اب روزنامہ ہے اور ہفتہ وار اور روزنامہ اخبار میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن اگر ہم آگے نہ بھی بڑھتے بلکہ اس منصوبہ اور خواہش کے مطابق جس کا حضرت المصلح الموعودؑ نے اعلان فرمایا تھا۔ اخبار کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرتے۔ تو آج احمدی اسے دیوانہ وار خریدتے پس میرے نزدیک اس کی بڑی حد تک ذمہ داری ادارہ الفضل پر ہے لیکن جب آپ لوگ، آپ دوست، آپ میرے بھائی اس اخبار کو خریدیں گے نہیں، اُسے پڑھیں گے نہیں تو آپ اپنی اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں گے۔ آپ نے اس اخبار کے معیار کو بڑھانا ہے۔ آپ جب اسے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ نقائص ہیں اور کہ یہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں

کرتا۔ تو آپ ادارہ الفضل کو یا مجھے لکھیں گے کہ یہ یہ ضرورتیں ہیں اور اخبار انہیں پورا نہیں کر رہا۔ ہر علاقہ کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ سندھ کی ضروریات اور ہیں اور پشاور کی ضروریات اور ہیں۔ ایک مقام پر ایک قسم کے اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ تو دوسرے مقام پر دوسری قسم کے اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ ایک جگہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسری جگہ دوسرا سوال سامنے آ جاتا ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات ہمارے مرکزی اخبار میں آنے چاہئیں۔ تا وہ ساری جماعت کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور دراصل یہی غرض ہے وہ، جس کے لئے یہ جاری کیا گیا تھا اگر آپ دوست اسے پڑھیں گے ہی نہیں تو اُس کا معیار کیسے بلند ہوگا پس میں جماعت کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ الفضل کو خریدیں اور اُسے پڑھا کریں (چاہے اس کا معیار ابھی اتنا بلند نہیں ہے) تا ان مقاصد کے پورا کرنے میں آپ کا بھی حصہ ہو جن کے لئے اسے جاری کیا گیا تھا۔ پھر آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس اخبار کے ادارہ کو توفیق عطا کرے کہ وہ اس کے معیار کو ان بلندیوں پر لے جائے۔ جن بلندیوں پر پہنچانے کی اس کے بانی کی خواہش تھی۔

پھر ایک رسالہ الفرقان ہے جسے مخدومی محترمی ابو لعلطاء صاحب نکالتے ہیں۔ اس کا ایک خاص مقصد ان کے سامنے ہے اور وہ حتی الوسع خوش اسلوبی سے اُسے نبھا رہے ہیں۔ یہ رسالہ بڑا دلچسپ اور مفید ہے امید ہے کہ دوست اس کی خریداری کی طرف بھی توجہ کریں گے۔

ماہنامہ انصار اللہ مجلس انصار اللہ کا رسالہ ہے اس کی پالیسی بھی مخصوص نوعیت کی ہے اور اسے خاص غرض کے لئے جاری کیا گیا ہے جن لوگوں نے یہ رسالہ دیکھا ہے انہوں نے نوٹ کیا ہو گا کہ اس میں اشتہارات نہیں ہوتے اس میں زیادہ تر تربیتی مضامین ہوتے ہیں اور تبلیغ کو بالواسطہ طریق سے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ تربیت خود اشاعت مقصد اور اشاعت عقائد کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ دوستوں کو اس کی خریداری کی طرف بھی توجہ کرنا چاہئے۔

اسی طرح خدام الاحمدیہ کا ماہنامہ خالد اور اطفال کا ماہنامہ تشحیذ الاذہان ہے ہمارے نوجوان انصار، خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ کو ان کی طرف توجہ دینی چاہئے اور ان کی اشاعت کو کم از کم اس حد تک پہنچا دینا چاہئے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور دوسری مددوں سے قوم نکال

کران پر خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

کتب میں سے قیمتیں رتانیہ ہے یہ مکرم مولوی ابو العطاء صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور ۱۹۳۰ء میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ حضرت مصلح موعودؑ نے اس کا نام تجویز فرمایا تھا اور اسے جماعت کا اعلیٰ لٹریچر قرار دیا تھا۔ اب یہ کتاب دوسری بار مزید اضافہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ دوست اس کی خریداری کی طرف توجہ فرمائیں۔ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہئے۔ اس میں آپ کو بڑے مفید حوالے ملیں گے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لئے بڑی ہی مفید ہے جنہیں دوسرے لوگوں سے تبادلہ خیالات کا شوق ہے اور پھر اس کے مواقع انہیں میسر آتے ہیں۔

سب سے بڑھ کر میں تفسیر صغیر کے متعلق کہنا چاہتا ہوں تفسیر صغیر کو حضرت مصلح موعودؑ نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا اور بیماری کے دوران بڑا وقت صرف کر کے اور اطباء کی ہدایت کے خلاف محنت کر کے اسے جلد سے جلد شائع کرنے کی سعی فرمائی تھی اور اس سعی میں آپ کامیاب ہوئے جلدی کی وجہ سے یا کاتبوں نے حسب عادت بہت سی غلطیاں بھی کر دیں پروف ریڈنگ بھی صحیح طور پر نہیں ہوئی اس طرح جلدی میں یہ کتاب شائع ہو گئی۔ حضور کے دل میں یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح آپ مختصر تفسیری نوٹوں کے ساتھ قرآن کریم کا ایسا با محاورہ اور تفصیلی ترجمہ شائع کر دیں۔ جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کا موجب ہو اس لئے آپ اس کی صحت کی طرف زیادہ توجہ مبذول نہ کر سکے اس کی صحت کی ذمہ داری دراصل ان لوگوں پر تھی۔ جو حضور کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ کیونکہ اس بات کی توقع نہیں رکھی جاسکتی تھی کہ امام وقت ترجمہ اور تفسیر بھی لکھے گا اور پروف ریڈنگ بھی خود کرے گا۔ بہر حال حضور کے ساتھ کام کرنے والوں کی پوری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں بہت سی غلطیاں رہ گئی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آیتوں کے بعض حصوں کا ترجمہ بھی کاتب نے چھوڑ دیا ہے اور پروف ریڈنگ کرنے والوں نے بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ پچھلے سال سے احباب جماعت کا بڑا مطالبہ تھا کہ تفسیر صغیر کا نیا ایڈیشن شائع کیا جائے اور اُسے اچھے کاغذ پر شائع کیا جائے پھر اس کی طباعت بھی اچھی ہو۔ چنانچہ پچھلے سال سے ہی اس کی اچھی کتابت کروانے کے بعد بلاک بنوائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک پندرہ پاروں کے بلاک بن چکے ہیں اور چوبیس پاروں تک کتابت ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ یہ قیمتی کتاب مجلس

شوریٰ تک دوستوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے گے۔ وباللہ التوفیق۔ جو نسخے آرٹ پیپر پر شائع کیے جائیں گے ان کی قیمت فی نسخہ مبلغ بیس روپے ہوگی اور عام کاغذ پر شائع کئے جانے والوں کی قیمت فی نسخہ مبلغ تیرہ روپے ہوگی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مبلغ تیرہ روپے میں تفسیر صغیر اتنی سستی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوست نے ثواب کی خاطر اس کے بلاکوں کی قیمت اپنی گروہ سے ادا کر دی ہے اور اس طرح خرچ میں بڑی کمی آگئی ہے اگرچہ تفسیر صغیر مجلس مشاورت تک شائع ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوست قیمت پیشگی ادا کر کے اس کی ایک کاپی ابھی سے ریزرو کروالیں۔ تو وہ ایک بڑی ذہنی تکلیف سے بچ جائیں گے جو ممکن ہے انہیں بعد میں برداشت کرنی پڑے۔ مجھے ان دنوں میں بھی بہت سے دوستوں کے خطوط آچکے ہیں کہ تفسیر صغیر نہیں مل رہی جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہے۔ جس طرح بھی ہو اس کا ایک نسخہ تلاش کر کے ہمیں بھجوایا جائے پس اگر آپ قیمت ادا کر کے یہ کتاب ابھی سے اپنے لئے ریزرو کروالیں گے تو اس قسم کی جلن اور رنج سے یقیناً محفوظ رہیں گے۔ یہ کتاب ادارۃ المصنفین کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے۔

اس طرح ادارۃ المصنفین کی طرف سے ”تاریخ احمدیت“ جلد ششم بھی شائع کی جا رہی ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود کے دور کی دوسری جلد ہے اس میں حضور کے اُن سنہری کارناموں کا ذکر ہے جو آپ نے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بہبودی کے لئے کئے اسی طرح حضور نے اہالیان کشمیر کے لئے جد و جہد فرمائی تھی اس کا مفصل ذکر بھی اس کتاب میں کیا گیا ہے یہ کتاب اس قابل ہے کہ دوست اسے خرید کر خود بھی پڑھیں اور غیر از جماعت دوستوں کو بھی تحفہ کے طور پر دیں دنیا کی لائبریریوں میں رکھوائیں تا لوگوں کو بھی ان قربانیوں کا علم جو دوسرے مسلمانوں کی بہبودی کے لئے جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ اس سال مجلس خدام الاحمدیہ لاہور نے ”فاروق“ سینیئر شائع کیا ہے مجھے یہیں اسٹیج پر ہی اس کی ایک کاپی دی گئی ہے اس لئے اس کے اندر جو مواد ہے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ خدام الاحمدیہ لاہور کی غالباً یہ پہلی کوشش ہے اور جماعت کی طرف سے اسے سراہنے کی ضرورت ہے۔

”مسلم نوجوانوں کے سنہری کارنامے“ شیخ رحمت اللہ صاحب شاہر کی لکھی ہوئی کتاب

ہے اس کا ایک نیا ایڈیشن شائع کیا گیا ہے یہ کتاب تمر الانبیاء حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی ہدایت کے مطابق اور آپ کی خفیف سی نگرانی کے ماتحت شائع کی گئی تھی اور اس کا تعارف بھی آپ نے ہی لکھا ہے۔ یہ اچھی کتاب ہے اور نوجوانوں کے لئے مفید ہے دوست اس کی خریداری کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔

”تجلی قدرت“ مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری کی روایات کی ایک کتاب ہے۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ مولوی صاحب کا حافظہ مقام اور تاریخ وغیرہ کے لحاظ سے اچھا نہیں۔ بلکہ بہت کمزور ہے لیکن اگر مضمون درست ہو اور روایات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہو رہی ہوں اور پھر وہ سچی اور دل پر اثر کرنے والی ہوں۔ تو صرف اس وجہ سے کہ لکھنے والے کے حافظہ نے کہیں غلطی کی ہمیں ان کی اشاعت میں روک نہ بننا چاہئے اور ان کی قدر کرنا چاہئے پس میں کتاب ”تجلی قدرت“ کی طرف بھی دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اسے خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔

ثاقب صاحب زیروی جنہوں نے ابھی ابھی اپنی ایک نظم پڑھ کر ہمارے زخموں کو تازہ کیا ہے ان کا ایک رسالہ ”لاہور“ نامی لاہور شہر سے شائع ہوتا ہے وہ اسے بڑی پریشان حالی میں چلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوست ان کی آواز کو پسند کرتے ہیں ان کی نظموں کو بھی پسند کرتے ہیں لیکن ان کا شکوہ ہے کہ ان کے ”لاہور“ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دوستوں کو چاہئے کہ وہ ان کے اس شکوہ کو دور کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کی جو تحریک جاری فرمائی ہے اور جو جماعت احمدیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی بنیاد الوصیت کے نظام پر ہے۔ جو حضور نے اپنے رسالہ الوصیت میں ایک لحاظ سے تفصیلی طور پر ایک لحاظ سے مختصر طور پر بیان کیا ہے میں مختصراً اس جماعتی نظام کے مختلف شعبوں کے متعلق آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

جماعت احمدیہ کا نظام جو الوصیت کی بنیادوں پر قائم ہے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کی تشکیل فرمائی تھی اور بعد میں خلفاء نے اس کو مضبوط کیا اور اس کے متعدد

شعبہ جات قائم کئے اس نظام میں خلیفہؑ وقت ساری جماعت بحیثیت مجموعی وہ تنظیمیں اور ان کے شعبے جنہیں خلیفہؑ وقت قائم کرتا ہے شامل ہیں۔ خلیفہؑ وقت کا کام نیابت ماموریت اور نبوت کا ہے اور انبیاء اور مامورین کے کام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس ہیں جیسے فرمایا **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ** (البقرة: ۱۳۰) یعنی مامور اور نبی اپنی جماعت کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے اور یہی کام ان کے بعد ان کی نیابت میں ان کے خلفاء کو کرنے پڑتے ہیں اور یہی ان کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے ایک جماعتی نظام قائم کیا جاتا ہے اور جہاں تک عزم اور فیصلہ کا تعلق ہے۔ اس نظام کی پوری ذمہ داری خلیفہؑ وقت پر ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری نہایت نازک ہے اور ذمہ داری کے نبھانے میں خلیفہؑ وقت کو جماعت سے دو بنیادی باتوں کی توقع ہوتی ہے (اول) جماعت کے مخلصانہ مشورے (دوم) ان کی دعائیں اور جس طرح مجھ سے پہلے خلفاء جماعت سے ان دو بنیادی باتوں کی توقع رکھتے تھے۔ اس طرح میں بھی ان کی توقع رکھتا ہوں کیونکہ ان کے بغیر خلافت کے اہم کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاسکتا پس آپ کے مخلصانہ مشوروں اور پُر سوز دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کی طرف سے ملتی رہیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

جو نظام الوصیت کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جاری فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل شاخوں پر مشتمل ہے۔

(۱) اشاعت علوم قرآنیہ (۲) اشاعت کتب دینیہ (۳) ترقی اسلام کے متعلق تجاویز کا سوچنا اور انہیں عملی شکل دینا (۴) واعظین اور مربیوں کا تیار کرنا (۵) جماعت کو روحانی اور اقتصادی طور پر ایک خاص معیار تک پہنچانا اور پھر اس معیار کو قائم رکھنا۔ اس کے ماتحت یتامی اور مساکین کی اعانت بھی آجاتی ہے اور نو مسلموں کی تالیف قلب بھی۔

ان کاموں کو چلانے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”الوصیت“ کا ایک مالی نظام بھی قائم فرمایا ہے جس کے ماتحت ہمیں اپنے مالوں کا کم سے کم سولہواں حصہ جماعت کے خزانہ میں داخل کرانا پڑتا ہے۔ جو لوگ بالفعل موصی ہوتے ہیں وہ اپنی آمد کا کم سے کم دسواں حصہ

اس غرض کے لئے جماعت کے خزانہ میں داخل کراتے ہیں اور جو لوگ بالقوہ موصلی ہوتے ہیں بالفعل نہیں اُن کے لئے ہماری دُعائیں اور کوششیں ہمیشہ یہی ہوتی ہیں کہ وہ موصلی بن جائیں اور دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ مالی قربانی کریں لیکن جب تک وہ بالفعل موصلی نہیں بننے انہیں اپنی آمد کا ۱/۱۶ حصہ اسلام اور احمدیت کی اشاعت کے لئے دینا پڑتا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدر انجمن احمدیہ کا ادارہ قائم کیا تھا جس کے متعلق جماعت کا ایک حصہ یہ سمجھا کہ شاید ہمارے لئے سب کچھ صدر انجمن احمدیہ ہی ہے۔ انہوں نے جو غلطی کی اس کو واضح کرنے کے لئے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بلکہ صرف اُس حصہ جماعت کو دیکھ لینے اور اس کے متعلق کسی قدر علم حاصل کر لینے کی ضرورت ہے خلافت ثانیہ کے قیام کے بعد جماعت کا ایک حصہ یہ سمجھتا تھا کہ جماعت کے سارے اکابر یا ان کا اکثر حصہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک حصہ یہ مشاہدہ کر رہا تھا کہ گود نیوی طاقت اور قوت کے سامان ہمارے پاس نہیں لیکن خدا کا خلیفہ ہمارے پاس ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس حصہ جماعت کے پاس خدا تعالیٰ کا خلیفہ تھا وہ ترقی کرتا کرتا کہیں سے کہیں نکل گیا ہے اور جس کے پاس جماعت کے اکابر یا ان کا اکثر حصہ تھا وہ تنزل کرتے کرتے کہیں سے کہیں تک گر گیا ہے۔ اس کے بعد کسی مزید دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بہر حال صدر انجمن احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (جب تک آپ زندہ تھے) اپنی نگرانی میں اور بعد میں اپنے خلفاء کی نگرانی میں کام کرنے کے لئے قائم کیا اور اس صدر انجمن احمدیہ کے سپرد جماعت کے کاموں میں سے ایک بڑا حصہ ہے لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کا بجالانا تو کیا؟ یہ لوگ اس کے متعلق سوچتے بھی نہیں اور اپنے دماغوں میں اس کا خیال بھی نہیں لاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر ایک ایسی جماعت کا سنبھالنا جو دنیا کے متعدد ممالک میں پھیلی ہوئی ہے کس قدر مشکل ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے پاکستان میں ہنگامی حالات پیدا ہو گئے اور اس کا اثر ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر پڑا۔ ملک کو اپنے زرمبادلہ کو اپنے مخصوص راستوں سے ہٹا کر اپنے دفاع کی طرف پھیرنا پڑا۔ جس کی وجہ سے ہماری زراعت پر بھی اس کا اثر پڑا۔ مثلاً سرگودھا کے علاقہ کو یہی

لے لو اس میں پانی کی کمی کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ جب کہ محاذ جنگ کے قریب جو نہریں تھی اُن کو حفاظتی نقطہ نگاہ سے ہر وقت بھرے رکھنے کی ضرورت تھی اور اس طرح ہماری فصلوں کو نقصان پہنچا بہر حال ہمارے ہر شعبہ زندگی پر ان ہنگامی حالات کا اثر پڑا حالانکہ یہ جنگ جس کی وجہ سے وہ حالات پیدا ہوئے ایک چھوٹا سا ہنگامہ تھا صرف سترہ دن کی جنگ تھی۔ اب کجا یہ بات اور کجا یہ بات کہ دُنیا کے سارے ممالک میں ایک رُوحانی انقلاب پیدا کرنے کی ذمہ داری ایک چھوٹی سی جماعت پر ڈالی جاتی ہے ایک ملک نہیں دو ملک نہیں، پھر ایک زبان بولنے والے ملک نہیں دو زبان بولنے والے ملک نہیں بلکہ ہزاروں زبانیں بولنے والے ملک ہیں، پھر اُن کی تہذیب اور اُن کی عادتیں مختلف ہیں، اُن کے سوچنے اور فکر کے طریق مختلف ہیں، اُن کے کھانے کے طریق مختلف ہیں، اُن کے لباس مختلف ہیں، مذہب کو لیا جائے تو اُن کے مذہب مختلف ہیں، اُن کی عبادت کے طریق مختلف ہیں، ان سب ممالک میں اُن کے رہنے والوں کی طبیعت کے مطابق ان کی زبانوں پر ہم نے اسلام کو اُن کے سامنے پیش کرنا ہے پھر جیسے کسی کی عقل ہے ویسے ہی ہم نے اُسے سمجھانا ہے تا یہ سب لوگ اسلام کی خوبی کو سمجھ لیں اور اس کی سچائی کو جان لیں یہ عظیم کام ایک ایسی چھوٹی سی جماعت کے سپرد کیا گیا جس کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ تعداد، نہ ظاہری سامان ہے اور نہ ذرائع جن کو اختیار کر کے وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکے۔ ایک عظیم انقلاب پیدا کرنا اس جماعت کے سپرد ہے اگر ہم سوچیں تو کیا ہم رات کو ایک لمحہ بھی سو سکتے ہیں اس عظیم کام کو پورا کرنے کے لئے جو ہمارے ذمہ ڈال دیا گیا ہے، ہمیں تدابیر اختیار کرنا ہیں منصوبے بنانے ہیں، وسائل ڈھونڈنے ہیں اور پھر کام کرنے والے تیار کرنے ہیں ان کاموں کے کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں فرشتے تو نہیں دیئے کہ وہ تمام ملکوں میں پھیل جائیں اور اسلام کی اشاعت کریں، ہمارے ہی بچوں کو اپنا ملک اپنے والدین اپنے اقارب اور دوست چھوڑ کر باہر نکلنا ہے اور اشاعت اسلام کا کام کرنا ہے یہ کام ضرور ہوگا اور اس میں ناکامی اس لئے نہیں ہوگی کہ خدا کی تقدیر کہہ رہی ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ ہم سے یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ جس حد تک ہمیں توفیق ہے ہم اپنے اموال خرچ کریں جس حد تک ہمیں طاقت ہے ہم اپنی جانیں اور عزتیں اس کے لئے قربان کریں ہم اپنے بچوں کو اس غرض کے لئے وقف کریں یہاں تک کہ ہم

اپنے رب سے کہہ سکیں کہ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے ہمیں دیا تھا وہ ہم نے تیرے قدموں میں لا ڈالا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اب تیرا ہی کام ہے کہ تو ہمیں کامیاب و کامران کرے۔

جب انسان اپنی ساری طاقت خرچ کر دیتا ہے تو خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرما دیا کرتا ہے غرض صدر انجمن احمدیہ کے سپرد ایک عظیم کام ہے اور اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے انہیں اس عظیم کام اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور اپنے ماتحت کام کرنے والے اداروں اور افراد کو محبت اور پیار کے ساتھ ان کی ذمہ داری سمجھانی چاہئے اور ان کے کام کی نگرانی کرنی چاہئے یہ صحیح ہے کہ جو کام خلیفہ وقت کا ہے وہ ایک صدر انجمن تو کیا ہزار صدر انجمن بھی نہیں کر سکتی اس کی میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں۔ صدر انجمن احمدیہ نے کام کرنے والے مہیا کرنے کے لئے صد ہا اپیلیں کیں لیکن جماعت کی طرف سے انہیں کوئی کارکن نہیں ملا الا ماشاء اللہ لیکن خلیفہ وقت کی اپیل پر درجنوں نہیں سینکڑوں آدمی کھڑے ہو گئے بلکہ میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ خلیفہ وقت کے اپیل پر ہزاروں افراد جماعت میں سے آگے آگئے شدھی کی تحریک اٹھی۔ تحریک آزادی کشمیر اٹھی اور اس قسم کے ہزاروں کرائی سز (Crisis) ہماری زندگی میں مسلمانوں اور اسلام پر آئے اور ہنگامی حالات پیدا ہو گئے اور ان سے نپٹنے کے لئے آدمیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو خلیفہ وقت کی اپیل پر سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی کام کے لئے نکل آئے۔ غرض جو کام خلیفہ وقت کا ہے وہ صدر انجمن احمدیہ اور دوسری تنظیمیں نہیں کر سکتیں لیکن اس کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو کام ان تنظیموں کے سپرد کیا گیا ہے وہ تو انہیں ہی کرنا چاہئے اور پھر ان تنظیموں کی وجہ سے جو ذمہ داریاں احباب جماعت پر ڈالی جاتی ہیں۔ انہیں ادا کرنا احباب جماعت کا کام ہے ورنہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ جماعتوں اور افراد کے ذمہ جو مالی قربانی لگانی لگتی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آمد کام سے کم سواہواں حصہ جماعت کے کاموں کے لئے ادا کریں پہلے پہل یہ چندہ حضرت مسیح موعودؑ نے مقرر فرمایا تھا پھر جماعت کے نمائندوں نے اس کے متعلق خود فیصلے کئے تھے لیکن انہی چندوں کے بقایہ جات صرف پاکستان کی جماعتوں کے ذمہ غالباً تمیں لاکھ روپیہ کے ہیں۔ اگر یہ بقائے ادا کر دیئے جاتے تو جماعت کا کام کہیں تک پہنچ جاتا اگر کوئی بقایا دار یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا بقایا ادا

نہیں کر سکتا تو اُسے کم سے کم اپنے دل میں یہ عہد کر لینا چاہئے کہ آئندہ وہ اپنے ذمہ کوئی بقایا نہیں رہنے دے گا۔ غرض صدر انجمن احمدیہ پر ایک عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے اُسے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اُسے جماعتوں سے ان احکام کی تعمیل کرنی چاہئے اور احباب جماعت کو بھی اپنے دلوں میں یہ عہد کر لینا چاہئے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور پھر انہیں دعائیں کرنی چاہئیں کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل سے ان کی کوششوں کے بہتر نتائج پیدا کرے۔

صدر انجمن احمدیہ کے علاوہ تحریک جدید بھی جماعت کا ایک اہم شعبہ ہے اسے حضرت مصلح موعودؑ نے ۱۹۳۴ء میں شروع کیا تھا اور اس کی بڑی غرض یہ تھی کہ اکناف عالم میں اشاعتِ اسلام کے سامان پیدا کئے جائیں۔ ۱۹۳۴ء میں ہندوستان سے باہر بہت کم جماعتیں تھیں لیکن آج بعض ایسے ملک بھی ہیں جہاں کے احمدی چندہ دہندگان کی تعداد پاکستان کے چندہ دہندگان کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے افریقہ کے بیشتر ممالک میں جماعت کو بہت ترقی نصیب ہوئی ہے وہاں عیسائیوں، دہریوں، بت پرستوں، اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد کو احمدیت اور اسلام نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کیا ہے۔ چنانچہ جو جماعتیں وہاں قائم ہوئی ہیں ان میں بڑے مخلص، دعا گو اور خدا تعالیٰ کی خشیت اور خوف رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ ان لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ اس کے فضلوں کے وارث ہیں۔ وہ لوگ آپ کے لئے بھی بڑا اِخْلَاص رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ان کے لئے اس تڑپ اور جوش کے ساتھ دعائیں کریں گے۔

اور یہ سارا نتیجہ ہے تحریک جدید کے کام کا جو حضرت مصلح موعودؑ نے ۱۹۳۴ء میں جاری کی تھی اس کی غرض دنیا میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا۔ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔

مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا

مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوانِ یار

یعنی ہمیں ظاہری حکومتوں طاقتوں اور ملکوں کی ضرورت نہیں ہمیں بنی نوع انسان کے دل کی

ضرورت ہے اور دلوں کو فتح کرنے کے لئے ہی تحریک جدید کو قائم کیا گیا تھا بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس کام میں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے لیکن ابھی بہت دنیا صداقت کی پیاسی ہے اور وہ ہماری طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے ان کے ہاتھ ہماری طرف اٹھ رہے ہیں اور وہ ہم سے یہ التجا کر رہے ہیں اور با آواز بلند پکار رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ہماری روحانی پیاس بجھانے کے لئے کھڑا کیا ہے، پھر تم کیوں ہماری طرف نہیں آتے تم ہمیں پیاس کی وجہ سے تڑپتا دیکھتے ہو پھر اپنے گھروں میں خاموش کیوں بیٹھے ہو۔

پس سچی بات یہی ہے کہ ابھی ہم نے اس کام کو جو ہمارے سپرد کیا گیا تھا پورے طور پر نہیں کیا۔ تحریک جدید کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور اسے اپنے کام کے لئے مبلغوں کی ضرورت ہے اور روپیہ کی ضرورت ہے گوان دنوں باہر روپیہ بھیجنے کی بھی دقت ہے کیونکہ موجودہ ہنگامی حالات کی وجہ سے زرمبادلہ کے حصول میں مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن خدا کا فضل ہے کہ کچھ زرمبادلہ ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دے دیا ہے اور کچھ بوجہ جماعتیں خود اٹھا رہی ہیں۔ مالی مشکلات پھر بھی کم نہیں ہوں گی۔ ہمیں ابھی باہر کی جماعتوں کو مزید مالی قربانیوں کے لئے کہنا پڑے گا اور اس ملک میں رہتے ہوئے زرمبادلہ کے حصول کے بعض جائز وسائل ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بہر حال ہمیں ایک اہم ضرورت لاحق ہے اور ایسی ہے کہ اسے خاموش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے دنیا کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں اور اس کی روحانی پیاس کو بجھانا تحریک جدید کے ذمہ ہے اور تحریک جدید کو یہ ذمہ داری بہر حال نبھانا ہوگی۔

پھر وقف جدید کی تنظیم ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے جماعت کو ترقی دینے کے لئے تجاویز سوچنا امام وقت کا کام ہے۔ اب اس زاویہ نگاہ سے آپ حضرت مصلح موعودؑ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا دماغ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح کوئی ایسی تدبیر نکالیں جس کے ذریعہ جماعت کو ترقی نصیب ہو اور اشاعت احمدیت (حقیقی اسلام) کا کام زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا جائے۔ آپ گویہ جانتے تھے کہ بعض قسم کے کام ابھی ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ جب جماعت کو طاقت اور توفیق دے۔ اُسے فلاں فلاں کام ضرور کرنا چاہئے۔ آپ نے ہمارے سامنے کچھ آئیڈیلز (Ideals) رکھ دیئے ہیں۔ مثلاً مربی ہیں۔ ہمارے ہاں

مرہی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پوری طرح تعلیم حاصل کر کے تبلیغ و تربیت کے میدان میں اترتا ہے۔ اس کی تیاری کے لئے بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ بڑی محنت درکار ہوتی ہے پھر اس کام کی اہمیت اور ضرورت کے مطابق مرہیوں کو تیار کیا جاسکے لیکن جب ہماری جماعت نے اپنے بچے دین کی خدمت کے لئے وقف کرنے میں سستی دکھائی۔ تو ہمارے امام نے ستاری سے کام لیتے ہوئے یہ تحریک شروع کر دی کہ مجھے مقامی تبلیغ کے لئے معلموں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایسے نوجوانوں کی ایک تعداد جن کی تعلیم صرف آٹھویں جماعت تک تھی۔ آگے آگئی اور حضور نے انہیں چند ماہ دینی تعلیم اور تربیت دے کر ان سے تعلیم و تربیت کا کام لینا شروع کر دیا۔ آپ نے سوچا کہ اگر جماعت دینی خدمت کے لئے مناسب آدمی پیش نہیں کرے گی اور اپنے بچوں کو بھی وقف نہیں کرے گی کہ انہیں ایک لمبا عرصہ تک تعلیم دلا کر اور تربیت دے کر اس سے مرہی کا کام لیا جائے اور میں بھی کچھ نہیں کروں گا تو جماعت اللہ تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ جائے گی لیکن اگر میں جماعت کی سستی کو کسی اور طریق سے چھپا دوں اور اس کی پردہ پوشی کروں تو اللہ تعالیٰ ستار ہے وہ بھی ستاری سے کام لیتے ہوئے پردہ پوشی کرے گا اور جماعت کو روحانی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے تربیت کی غرض سے ساٹھ ستر آدمی لے لئے۔ پھر جب آپ نے محسوس کیا کہ اور آدمیوں کی ضرورت ہے اور جامعہ احمدیہ جماعت کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا۔ تو آپ نے وقف جدید کا نظام جاری کر دیا۔ اس نظام میں بھی کم تعلیم یافتہ افراد کو لے لیا جاتا ہے انہیں کچھ عرصہ تک تربیت دی جاتی ہے اور پھر انہیں کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ریفریش کورس جاری کر کے ان کو مزید تربیت دی جاتی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر چھوٹی عمر کے ہیں کچھ بڑی عمر کے بھی ہیں لیکن سب کے سب بظاہر کم تعلیم یافتہ ہیں باوجود اس کے انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اشاعت ہدایت کے لئے علم کی نسبت جذبہ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے ذریعہ بہ نسبت ان مرہیوں کے جنہوں نے باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کی ہے تعداد میں زیادہ لوگوں نے ہدایت پائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ اُسے ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے ہاں وہ دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے اس کی نظر دل کے

جذبہ پر ہوتی ہے جہاں اُسے اخلاص تقویٰ، شوق، فدائیت، تدلل نظر آئیں گے۔ وہاں اس کا رحم بھی جوش میں آئے گا اور ایسے لوگوں کے کاموں میں اس کی طرف سے برکت دی جائے گی۔

غرض بہت سے کم علم معلم اپنے کام کے لحاظ سے ان مربیوں سے آگے نکل گئے ہیں جن کا علم اور تجربہ نو دس سال سے زیادہ کا تھا۔ غرض نتیجہ زیادہ تر انکسار اور دعا سے نکلتا ہے کیونکہ دعا کے نتیجہ میں قوت جذب پیدا ہو جاتی ہے اور جب کسی میں قوت جذب پیدا ہوتی ہے تو پھر غیر اس کی طرف خود بخود کھینچ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عجیب آدمی ہے پھر ہچکچاہٹ کے ساتھ شرماتے شرماتے اُسے دعا کے لئے کہہ دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کی تار ہلاتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ماحول میں رہنے والے دوسرے لوگ بھی یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے تو کم عمر کا اور تعلیم بھی اس کی زیادہ نہیں لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ضرور ہے۔ کیونکہ یہ دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور انہیں قبول کر لیتا ہے اس طرح علاقہ کے بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں اپنی باتیں سنانے کے قابل ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کی باتیں سچی ہوتی ہیں اور سچی باتوں کا دلوں پر اثر ہوتا ہے اس لئے لوگ اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور احمدیت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔

غرض وقفِ جدید انجمن احمدیہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے لیکن اس میں ابھی پھیلاؤ اور وسعت کی بڑی گنجائش ہے۔ اس وقت اس کے پاس ساٹھ ستر یا اسی معلم ہیں لیکن ہمیں ساٹھ، ستر، اسی ہزار معلموں کی ضرورت ہے اتنے معلم کہاں سے آئیں گے فرشتے تو آسمان سے اس کام کی غرض سے آئیں گے نہیں اور نہ ہم مٹی کے بت بنا کر ان میں جانیں ڈال سکتے ہیں۔ پس یہ معلم آپ نے ہی مہیا کرنے ہیں آپ ہی اپنے بچوں کو پیش کریں گے تو معلم تیار ہوں گے اس لئے جس طرح آپ صدر انجمن احمدیہ کو اپنے بچے پیش کریں۔ جس طرح آپ تحریکِ جدید کو اپنے بچے پیش کریں۔ اسی طرح چاہئے کہ وقفِ جدید کو بھی اپنے بچے پیش کریں اگر آپ ہر سہ قسم کے وقف کی صحیح معنی میں ذمہ داری اٹھالیں چاہے وہ وقف صدر انجمن احمدیہ کے لئے ہو، تحریکِ جدید کے لئے ہو یا وقفِ جدید کے لئے ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ چند سال کے اندر اندر اس ملک میں انقلابِ عظیم پیدا کر دے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے اس انقلابِ عظیم کا مشاہدہ کریں گے۔

ان تین تنظیموں یعنی صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید اور وقف جدید کے علاوہ حضرت مصلح موعودؑ نے جماعت میں کچھ ذیلی تنظیمیں بھی قائم کی ہیں اور وہ ذیلی تنظیمیں مجلس انصار اللہ، مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس اطفال الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ اور ناصرات الاحمدیہ ہیں۔ ان ذیلی تنظیموں کے سپرد جو کام حضرت مصلح موعودؑ نے کئے وہ اصولاً تین قسم کے ہیں بعض کام جماعتی تنظیموں کے رضا کار کے طور پر ان کے سپرد کئے گئے تھے کیونکہ وہ کام ان کے اپنے نہیں تھے بلکہ وہ کام جماعتی تنظیموں کے تھے اور ان ذیلی تنظیموں سے کہا گیا تھا کہ وہ رضا کار کے طور پر وہ کام کریں۔ پھر بعض کام ایسے تھے جو ان کے سپرد جماعتی نظام کے رضا کار کے طور پر کئے گئے تھے۔

وہ کام نہ ان کے اپنے تھے اور نہ صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید اور وقف جدید کے تھے بلکہ وہ جماعتی نظام سے تعلق رکھتے تھے جو صدر انجمن احمدیہ تحریک جدید اور وقف جدید کے مجموعہ کا نام ہے اور جس کی نگرانی خلیفہ وقت کے سپرد ہے اور کچھ کام بطور نوافل کے خود ان کے سپرد کئے گئے تھے وہ ان کے اپنے کام تھے میں ان تنظیموں سے کہوں گا کہ جو کام ان کے سپرد جماعتی تنظیموں یا جماعتی نظام کے رضا کار کے طور پر سپرد کئے گئے ہیں ان کو بجالانے میں وہ بہترین رضا کار ثابت ہوں مثلاً تربیت کا کام ہے وہ جماعتی نظام کے رضا کار کے طور پر خدام الاحمدیہ کے سپرد ہے اور خلیفہ وقت کی براہ راست نگرانی میں ہے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ احمدی نوجوانوں میں تذلل اور تواضع کا جذبہ ابھار کر اُسے ان کا شعار بنا دیں گے۔

حضرت مصلح موعودؑ نے بہت سے چھوٹے چھوٹے فقرے خدام الاحمدیہ کو دیئے ہیں جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور قیامت تک ہماری راہ نمائی کا موجب ہیں۔ آج میں مجلس خدام الاحمدیہ کو ان پہلے فقرات کے علاوہ جو ماٹو اور مطمح نظر کے طور پر ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک الہام ایک زائد ماٹو اور مطمح نظر کے طور پر دیتا ہوں اور وہ نہایت ہی پیارا الہام یہ ہے۔

”تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔“ (تذکرہ نیا ایڈیشن صفحہ ۵۹۵)

اس الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے انکسار اور تذلل پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ خدام الاحمدیہ کو بھی عجز و انکسار تذلل اور تواضع کا ایک نمونہ

بنا چاہئے۔ خدام الاحمدیہ کوئی ذنبیوی جماعت نہیں کہ اُسے ونڈو ڈریسنگ (Window Dressing) اور نمائش کی ضرورت ہو۔ ہمیں تو خدا تعالیٰ کی رضا چاہئے پس یہ کام ہر خادم کو زبانی یاد ہونا چاہئے اور اُسے ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہئے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی عاجزانہ راہیں اختیار کرنے کی ضرورت تھی اور یہی وہ عاجزانہ راہیں تھیں جو آپ کے رب کو پسند آئیں۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے اور ہمیں کتنے عجز اور انکسار سے اپنی زندگی کے دن گزارنے چاہئیں۔

خدام الاحمدیہ کے سپرد جو کام ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں انہیں اور باقی ذیلی تنظیموں انصار اللہ، اطفال الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ اور ناصرات الاحمدیہ کو ان کی بنیادی کمزوری کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج ان میں نظر آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ذیلی تنظیموں کی بعض مجالس بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں۔ وہ قابل رشک ہیں اور ہماری دعاؤں کی مستحق ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مغربی پاکستان میں ہماری جماعتوں کی تعداد آٹھ سو اور ہزار کے درمیان ہے ان جماعتوں کی بھاری اکثریت ایسی ہے جہاں یہ ذیلی تنظیمیں فعال تنظیم کی حیثیت سے موجود نہیں؟ ہمیں تمام نوجوانوں کو چاہئے وہ لاہور کے رہنے والے ہوں یا کسی چھوٹے سے قصبے کے رہنے والے ہوں تمام بہنوں کو چاہئے وہ کراچی کی رہنے والی ہوں یا سندھ کے کسی دُور افتادہ گوشے کی رہنے والی ہوں اور تمام انصار کو چاہئے وہ ڈھا کہ کے رہنے والے ہوں یا چٹاگانگ کے ہل ٹریکس (Hill Tracks) یعنی پہاڑی علاقوں میں کسی جگہ ان کی رہائش ہو مدعا کہ ان سب کو کم از کم اس معیار تک ضرور لانا ہے اور جلد تر لانا ہے اس کے بغیر ہماری ترقی میں تیزی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر ان تمام ذیلی تنظیموں کو اس طرف توجہ دینی چاہئے کہ وہ ہر اس مقام پر جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے اپنی مجلس کو منظم کریں آٹھ دس بیس یا تیس یا چالیس پچاس مجالس کا فعال اور ایکٹیو (Active) ہونا ہماری تسلیٰ کا موجب نہیں اور نہ ہی اس طرح ہم خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ پس جہاں جہاں جماعتیں پائیں جاتی ہیں وہاں یہ تنظیمیں ہونی چاہئیں اور پھر فعال قسم کی ہونی چاہئیں اگر آئندہ سال تک ہر جماعت میں یہ ذیلی تنظیمیں فعال قسم کی قائم ہو جائیں تو میں بھی خوش ہوں گا۔ آپ بھی خوش ہوں گے اور سب سے زیادہ خدا تعالیٰ ان سے خوش

ہوگا اور انہیں اپنے فضلوں اور برکتوں سے نوازے گا۔

اب میں اس واقعہ کو لیتا ہوں جو گزشتہ ستمبر میں ہماری قوم اور ہمارے ملک پر گزرا۔ ۶ ستمبر کو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے نہایت ظالمانہ طور پر اور فریب سے کام لیتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا۔ سترہ دن تک یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ عام معمولی جنگوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اس میں ہمیں بعض ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو اسے ایک خاص قسم کی جنگ بنا دیتی ہیں کیونکہ دوران جنگ پاکستانی قوم پر اللہ تعالیٰ کے مختلف اقسام کے افضال اور برکتیں نازل ہوتی نظر آئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے۔

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار

کاخِ کنند دعویٰ حُبِ پیمبرم

(در شین فارسی صفحہ ۱۰۷)

آپ نے ایک موقع پر فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورۃ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر اور مرتبہ ظاہر کیا ہے اور وہ سورۃ ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ“^۱ یہ سورۃ اس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا مویذ و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی اُن کا مکرا لٹا کر اُن پر ہی مارا اور چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لئے بھیج دیئے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوقین نہ تھیں بلکہ مٹی تھی سِسِجِيلِ بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے اور اصحاب الفیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔ یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لئے جو سامان کرتے ہیں اور جو تدابیر عمل میں لاتے ہیں۔ ان کے تباہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو اُلٹا کر دیتا ہے کسی بڑے

سامان کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہاتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ کر دیا ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی۔ جب کبھی کوئی اصحاب الفیل پیدا ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ ان کے تباہ کرنے کے لئے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے.....

اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے مسلمانوں کی حالت میں بہت کمزوریاں ہیں اسلام غریب ہے اور اصحاب فیل زور میں ہیں مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے چڑیوں سے وہی کام لے گا۔“

(الحکم ۱۷ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہاں ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا سوال پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کہلانے والوں کی کمزوریوں کو نظر انداز کر دے گا اور اپنے اس مقدس بندے کی عزت اور ناموس کی خاطر اس کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بتایا گیا تھا کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے قلعہ ہند میں“

(تذکرہ نیا ایڈیشن صفحہ ۴۰۴)

سو پاکستان وہ قلعہ ہند ہے جس پر بھارت نے حملہ کیا تو خدا تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کی تائید میں اترے اس کے نتیجے میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دیکھنی پڑی۔ جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ بھارت اور پاکستان کا فوجی لحاظ سے کوئی باہم مقابلہ تھا ہی نہیں۔ آج کل جنگی نقطہ نگاہ سے ہوائی جہازوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بھارت کے ہوائی جہاز ہم سے چھ گنا زیادہ تھے اور پھر وہ ہمارے جہازوں سے اچھے تھے۔ تیز رفتار تھے اور ان کے پیچھے بڑی ٹریننگ تھی لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرة: ۲۵۰)

کہ میں یہ اذن آسمان سے نازل کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی تعداد والے جہاز بڑی تعداد والے جہازوں پر غالب آئیں گے اور یہ ایک حقیقت ہے ایک واقعہ ہے جسے ہم نے دیکھا اور خود مشاہدہ کیا حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے جسے بظاہر انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن جو واقعہ ہمارے

آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

پاکستان کی فضائیہ کے پاس جنگی جہاز بڑی کم تعداد میں تھے پھر بھی انہوں نے ایک ایسی حکومت سے مقابلہ کیا جس کے پاس ان سے چھ گنا زیادہ جنگی جہاز تھے انہوں نے اپنی تعداد کے برابر یا اس کے کچھ زیادہ دشمن کے جہازوں کو تباہ کر دیا اور ہمارے صرف بارہ ہوائی جہاز دشمن کے حملہ سے تباہ ہوئے۔ ہمارے ایک ہوا باز نے ایک وقت میں دشمن کے پانچ جہاز مار گرائے۔ جب اخباری نمائندہ اس کے پاس انٹرویو کے لئے آیا تو اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھے تو صرف اتنا علم ہے کہ ایک وقت میں بھارت کے پانچ جہاز میرے سامنے زاویہ بنا کر لڑے میں بھی ان کے پیچھے اسی زاویہ میں مڑ گیا پھر یکدم میرے سامنے اندھیرا آ گیا میں نے اپنے جہاز کا ایک خاص بٹن دبا دیا اور کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ان میں سے چار جہاز نیچے آ رہے تھے اس نے یہ بھی کہا مجھے اپنے کارنامہ پر نہ کوئی فخر ہے اور نہ میں اسے اپنی ذات سے منسوب کرتا ہوں یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے اس وقت فرمایا۔

یہی حال میدانی محاذ کا تھا۔ ایک محاذ پر ہمارا صرف ایک بریگیڈ دشمن کی تین ڈویژن فوج کا مقابلہ چار دن تک کرتا رہا دشمن کی فوج نے ان چار دنوں میں اس پر چھ یا آٹھ حملے کئے اور ہر دفعہ خدا تعالیٰ نے اس کے حملے کو ایسا ثابت کیا جیسے کوئی دیوانہ پتھر کی دیوار پر سر مارتا ہے اور واپس ہٹ جاتا ہے قرآن کریم نے اس قسم کے مسائل پر بہت کچھ فرمایا ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں اس وقت ایک مضمون کو بطور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إذ يريكم الله في منامك قليلاً ولو أراكم كمشيراً لَفَشَلْتُمْ
وَلَتَنَارَعَنَّ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
وَإِذْ يَرِيكُمْ مَوْهُمْ إِذْ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

(الانفال: ۲۴، ۲۵)

اگرچہ ان آیات میں ایک مخصوص جنگ کی طرف اشارہ ہے لیکن قرآن کریم میں جو

واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں بعض اصول بیان کئے گئے ہیں جو آئندہ آنے والوں کے لئے مشعلِ راہ ہیں لہذا ان آیات میں گواہی مخصوص جنگ کی طرف اشارہ ہے لیکن جو اصول ان میں بیان کیا گیا ہے وہ دائمی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خواب میں تجھے ان کافروں کو کم کر کے دکھایا تھا۔ تاکہ مومن جب یہ خواب سُنیں تو اس کی تعبیر سُن کر خوش ہوں۔ اگر خواب میں دشمن تھوڑا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ چنانچہ بتایا اگر تجھے وہ کفار بڑی تعداد میں دکھائے جاتے تو تم ضرور کمزوری دکھاتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں انذار کیا ہے کہ ہمیں شکست ہوگی اور اس معاملہ میں یعنی لڑائی کے بارہ میں آپس میں جھگڑتے کہ لڑائی کی جائے یا نہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ رکھا وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے اور یاد کرو جب کہ وہ ان کفار کو تمہاری نظر میں لڑائی کے وقت کمزور دکھاتا تھا اور قبل از جنگ تم کو ان کی نظر میں کمزور اور قلیل التعداد دکھاتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کرے جس کا وہ فیصلہ کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب باتیں لوٹائی جائیں گی۔ اس طرح فرمایا:-

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۗ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ۗ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٥﴾

(ال عمران: ۱۵)

یعنی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے تمہارے لئے یقیناً ایک نشان تھا ان میں سے ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کے رستہ میں جنگ کرتا تھا اور دوسرا منکر تھا وہ یعنی مسلمان ان کافروں کو آنکھوں سے اصل تعداد سے دو چند نظر آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت بخشتا ہے اس بات میں آنکھوں والوں کے لئے یقیناً ایک نصیحت ہے کہ کبھی آنکھیں باذن اللہ دھوکہ کھاتی ہیں اور اس شخص کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔

اس آیت کو پہلی آیات سے ملا کر دیکھا جائے تو ہمیں یہ مضمون نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو لڑائی سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم دکھاتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو ذلت آمیز شکست

دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کی سنت یہ ہے کہ وہ قوم جس کو وہ شکست دینا چاہتا ہے گو وہ اپنی مدد مقابل قوم سے مال و اسباب کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے تعداد میں زیادہ ہوتی ہے اور اپنی اس طاقت پر بڑا گھمنڈ رکھتی ہے اپنے مقابل کی قوم کو بہت کم تعداد میں دیکھتی ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ ڈالے کہ جو قوم ان کے مقابلہ میں آرہی ہے وہ بھی بڑی طاقت ور ہے تو وہ جنگ میں ابتداء ہی نہیں کریں گے اور مسلمان بھی ابتداء نہیں کریں گے کیونکہ انہیں حکم ہے کہ تم جنگ میں ابتداء نہ کرو پس اگر مدد مقابل قوم مسلمانوں کو طاقتور سمجھے گی یا یہ سمجھے گی کہ ہم انہیں کسی صورت میں شکست نہیں دے سکتے تو وہ حملہ کیوں کرے گی؟ لیکن خدا تعالیٰ تو جنگ کے میدان میں انہیں شکست دینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ **لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا**۔ اس لئے خدا تعالیٰ یہ تدبیر کرتا ہے کہ جنگ سے پہلے پہلے مسلمان ان کی نظر میں حقیر، ذلیل، کمزور اور قلیل التعداد دکھائی دیتے ہیں اور اس طرح ان کے دل میں جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں۔

بالکل اسی طرح ۶ ستمبر ۱۹۶۵ء کو ہوا۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کے بڑے لیڈروں نے لڑائی سے پہلے ہی اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے لندن کی اخباروں میں ۶ ستمبر کو ہی چھپوا دیا کہ لاہور شہر پر بھارت کی فوجوں کا قبضہ ہو گیا ہے اتنا غرور تھا انہیں اپنی طاقت پر۔ اتنی امید تھی انہیں اپنی کامیابی کی اور اتنا وثوق اور اعتماد تھا انہیں اپنی فوجوں پر کہ ہم اُس کا اندازہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی فوجیں اس قدر کمزور ہیں کہ ان کی شکست یقینی ہے اس لئے انہوں نے لڑائی سے پہلے ہی اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی قوم کو جو بڑی طاقت ور ہوتی ہے شکست دینا چاہتے ہیں۔ تو تدبیر کرتے ہیں کہ اس کے دشمنوں یعنی مسلمانوں کو ان کی نظر میں بہت کم کر کے دکھا دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں ہم سے بہت کم ہیں اُن کے ہوائی جہاز ہم سے کم ہیں ان کی پیدل فوج کی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے ہم سے کم ہے اس لئے ہم ان کے پر نچے اڑا کر رکھ دیں گے لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے زاویوں کو اس طرح بدل دو کہ وہ مسلمان جو جنگ سے پہلے انہیں کم اور کمزور دکھائی دے رہے تھے زیادہ تعداد میں اور طاقت ور نظر آنے لگیں چنانچہ پچھلی جنگ میں اس قسم کے بیسیوں واقعات مشہور ہوئے ہیں لیکن

میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں یہ واقعہ مجھ سے ایک ایسے افسر نے بیان کیا جو خود اس کا گواہ ہے اور میں اسے وثوق کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک محاذ پر شروع شروع میں چار بٹالین بھارتی فوج ہمارے علاقہ میں گھس آئی اور ہمارے ایک وسیع رقبہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ان کے سامنے اس وقت ہماری صرف ایک فوج بٹالین تھی۔ گویا دشمن کی فوجوں اور ہماری فوجوں کے درمیان ایک چار کی نسبت تھی ایک دن ہماری اس بٹالین کو حکم ملا کہ بھارت کی چار بٹالین فوج پر حملہ کر کے اپنا علاقہ خالی کرو اور ہماری اس بٹالین کے پیچھے بھی کوئی فوج نہیں تھی جو وقت پڑنے پر مدد کر سکے لیکن حکم تھا کہ حملہ کر دو چنانچہ اس بٹالین نے بھارتی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کی چار بٹالین فوج میں سے دو بٹالین فوج یا تو ماری گئی یا زخمی ہوئی اور بعض فوجی قیدی بنائے گئے باقی دو بٹالین فوج بھاگ گئی اور ہمارا علاقہ خالی ہو گیا عجیب بات یہ تھی کہ ہماری بٹالین کا ایک آدمی بھی نہ مارا گیا یہ تو عملاً ایک معجزہ تھا جو ان لوگوں نے دیکھا لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہوئی وہ دوست بتاتے ہیں کہ جو لوگ قیدی بنائے گئے ان کو پیچھے لانے کے لئے میری ڈیوٹی تھی ان قیدیوں میں ایک ہندو افسر تھا۔ جس کا عہدہ میجر کا تھا اس کو میں نے ازراہ مذاق کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا تمہارے پاس چار بٹالین تھی لیکن تم اس ایک بٹالین کے حملہ کی بھی تاب نہ لا سکے۔ تمہاری آدھی فوج ماری گئی یا قیدی بنالی گئی اور آدھی فوج بھاگ گئی اس پر وہ ہندو افسر کہنے لگا کہ جیتنے کے بعد ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں ہم پر تمہاری پانچ بٹالین نے حملہ کیا تھا۔ وہ دوست کہتے ہیں میں نے سارا راستہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری فوج اور تمہاری فوج میں ایک اور چار کی نسبت تھی مگر وہ نہ مانا تب مجھے خدا تعالیٰ کا یہ کلام یاد آیا کہ جنگ کے میدان میں تمہاری تعداد دشمن کو خوب بڑھ چڑھ کر دکھائی جاتی ہے اور آسمان سے مدد کے لئے فرشتے نازل کئے جاتے ہیں اور میدانی، فضائی اور سمندری جنگوں میں مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت، اپنی اخوت اور اتحاد اور باطنی طاقت کے ایسے ہزاروں جلوے دیکھے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ان دنوں ہم پر اور ہماری ساری قوم پر ہوا۔

دوسرا فضل جو خدا تعالیٰ نے ان دنوں ہم پر اور ہماری قوم پر کیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن

کریم میں فرماتا ہے:-

وَأَنْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ
اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الانفال: ۶۴)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا۔ اگر تو جو کچھ زمین میں ہے ان پر خرچ کر دیتا تو بھی ان کے دلوں کو اس طرح باندھ نہیں سکتا تھا اور ان میں اخوت پیارا اتحاد اور استحکام کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں باہمی محبت پیدا کر دی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔

اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ پانچ ستمبر کی شام کو پاکستان کی قوم ایک منتشر حالت میں سوئی تھی حکومتِ وقت سے اختلاف رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے اور حکومت سے بڑے اختلاف رکھتے تھے لیکن جب چھ ستمبر کی صبح کو سورج طلوع ہوا تو اس نے ایک متحد اور مستحکم قوم پر اپنی کرنیں پھینکیں۔ ایک رات کے اندر اندر ساری قوم ایک جان ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا کے تمام مال اور دنیا کے تمام اسباب بھی خرچ کر دیتے تو اس قسم کا اتحاد اور اتفاق پیدا نہ ہو سکتا۔ یہ اتحاد اور استحکام اس وقت پیدا ہوتا ہے لَٰكِنَّ اللّٰهَ اَلْفَ بَيْنَهُمْ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پیدا ہو چھ ستمبر کو ہم نے دیکھا کہ یہ اتحاد قائم ہو گیا قوم مستحکم ہو گئی اس سے لازماً ہمیں یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے یہ حکم نازل کیا تھا کہ اے پاکستانیو! تم پر نازک وقت آیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تم فرد و واحد کی طرح ایک ہو جاؤ اور آپس کے سب اختلافات بھول جاؤ۔

اس ضمن میں ہم نے اپنی قوم کے باہمی اتحاد اور اتفاق کا ایک اور عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نومبر میں ہماری جماعت پر جو عظیم قیامت خیز زلزلہ آیا۔ یعنی حضرت مصلح موعودؑ جیسا محسن وجود ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اس موقع پر باوجود اعتقادی اختلافات کے ہزاروں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ غیر از جماعت دوستوں نے بسوں میں سیٹیں چھوڑ دیں اور خود باہر نکل آئے اور احمدیوں سے کہا کہ ہماری جگہ پر بیٹھ کر تم ربوہ چلے جاؤ۔ تمہارا وہاں وقت پر پہنچنا ضروری ہے۔ ہم کچھلی بس لے لیں گے۔ یہ نتیجہ تھا اتحاد اور اتفاق کا جو خدا تعالیٰ نے ہماری قوم کے اندر پیدا کر دیا تھا۔

تیسرا فضل جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پر کیا اور جو بالواسطہ نوعیت کا ہے یہ ہے کہ جب کسی

شخص یا قوم سے کوئی دوسرا شخص یا قوم حسد کرنے لگ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ محسود کی مدد کے لئے آگیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا تھا إِذَا نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ جَعَلَ لَهُ الْحَاسِدِينَ فِي الْأَرْضِ (تذکرہ نیا ایڈیشن صفحہ ۶۵) یعنی جب اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے تو زمین میں ان کے حاسد پیدا کر دیتا ہے چنانچہ جنگ کے بعد ہمارے لئے جو بعض الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں ان میں حسد ہی کام کر رہا ہے۔ مثلاً امریکہ ہے اس کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی اور طاقت ور قوم ہیں کہ دنیا کی کوئی اور قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہاں اگر کوئی قوم ہمارے مقابلہ پر کھڑا ہو سکتی ہے تو شاید وہ روس ہو اور اس بات پر انہیں بڑا گھمنڈ ہے لیکن وہ سا لہا سال سے اپنی پوری طاقت ایک چھوٹے سے ملک وینام میں خرچ کر رہے ہیں اور باوجود عظیم نقصان اٹھانے کے ان کی طاقت وینام میں وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکی جو حالیہ جنگ میں پاکستان کی چھوٹی سی فوج نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے سے چھ گنا طاقت ور دشمن کے مقابلہ میں کامیابی کی شکل میں خوش کن نتیجہ نکال دکھایا ہے۔ پس ہماری ان کامیابیوں کو دیکھ کر امریکہ اور اس کے علاوہ دوسری اقوام جو روحانی طور پر جاہل ہیں پاکستانیوں سے حسد کرنے لگ گئی ہیں۔ اس لئے وہ کسی حد تک ہمیں تنگ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے لیکن اس صورت حال پر ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جب ہم نے ایک دفعہ عملاً اپنے رب کی مدد اس کی نصرت اور تائید کو آسمان سے نازل ہوتے دیکھ لیا ہے ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ آئندہ بھی ہمارا خدا ہمیں کبھی اپنی نصرت اور تائید سے محروم نہیں رکھے گا کیونکہ وہ کمزور نہیں اس میں وہ ازلی وابدی طاقتیں پائی جاتی ہیں جن کا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں اس کی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی آ سکتی ہے پھر چھ ستمبر سے پہلے ہمیں بحیثیت قوم اس قسم کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اب تو حق الیقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے وہ ایک دفعہ ہماری مدد کے لئے آیا اور اس نے غیر معمولی حالات میں ہمیں فتح اور نصرت عطا کی۔ امید واثق ہے کہ وہ آئندہ بھی ہماری مدد کرے گا اور پاکستان کو دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے اُسے مزید کامیابیاں عطا کرے گا اس لئے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جاسکتے۔

چوتھا فضل جو ان دنوں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ پاکستان پر بھارت کے حملہ کے وقت

احمدیوں کو پاکستان کی فتح کے لئے سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں بشارتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملیں۔ بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے دوستوں کو خوابیں آئیں کشف ہوئے اور الہام بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہی ہے پاکستان کو فتح عطا کرے گا اور آسمان پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فرشتے پاکستانیوں کی مدد کو پہنچیں۔ غرض پاکستان کی فتح کے متعلق بہت سے احمدیوں نے واضح کشوف اور روڈیا دیکھے دوسرے (غیر از جماعت) مسلمانوں کو بھی روایا ہوئے ہوں گے لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہمیں تو انہی کشوف اور روڈیا کا علم ہے جو ہمارے احمدی دوستوں کو ہوئے اور یہ بشارتیں اتنی کثرت سے دی گئیں کہ میں سمجھتا ہوں۔ اگر ہم فی الواقع خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں تو چاہئے کہ قیامت تک ہم اور ہماری آئندہ نسلیں خدا تعالیٰ کے اس فضل اور احسان پر شکر یہ ادا کرتی رہیں اگر ہم ایسا کریں تب بھی ہم اس کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جماعت احمدیہ اور پوری پاکستانی قوم کو ان غیر معمولی افضال پر جوان پر نازل ہوئے ہیں صحیح معنوں میں خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اب میں مختصر آئیے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر گزار بندے بننے کا جو طریق سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہئے کہ تین چیزیں ہیں جو افضال الہیہ کی وجہ سے ایک شکر گزار بندہ بجالاتا ہے ان میں سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور توکل رکھتا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جھکتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو اپنی توجہ اور اُمید کا مرکز بناتا ہے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی دو صورتیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں اول یہ کہ مادی طاقتیں اور ان کے مادی اسباب اور وسائل خواہ کتنے ہی زیادہ عظیم کیوں نہ ہوں ہم ان سے مرغوب نہ ہوں اور اس یقین پر قائم رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں دنیا کے ملکوں اور قوموں کی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں وہ اتنی حیثیت بھی رکھتیں جتنی کہ میرے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کا ایک ذرہ رکھتا ہے۔

شکر کی ادائیگی کا دوسرا طریق اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس مادی اسباب اور وسائل خواہ کتنے کم ہی کیوں نہ ہوں اور ہمیں اپنی کمزوریاں خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ نظر آ رہی ہوں۔ ہم کبھی مایوس نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارا بھروسہ اپنی طاقت، اپنی تعداد یا اپنے اسباب پر نہیں بلکہ

اس مسبب الاسباب ہستی پر ہے جس نے تمام سامانوں کو پیدا کیا ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان ہیں اور جس کے کُن کہنے سے دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے اور دنیا قائم بھی ہو جاتی ہے۔


شکر کی ادائیگی کا تیسرا طریق جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کا شکر بھی ادا کریں ہمارے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ (ترمذی کتاب البر والصلۃ)

کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے اگر انسان ایک چھوٹے سے احسان کا شکر ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو جس ہستی کے احسانوں کے نیچے وہ دبا ہوا ہے اس کا شکر یہ کیسے ادا کرے گا اس لئے ہر وہ فرد ہر وہ قوم اور ہر وہ ملک جس نے اس آڑے وقت میں پاکستان کی مدد کی ہمارے شکر یہ کا مستحق ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں ہم ان سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کے بندوں اور اس کی پیدا کردہ اقوام کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَآزِيدُ نِعْمَکُمْ (ابراہیم: ۸) کے وعدہ کے مطابق اپنے فضلوں کو ہم پر اور بھی زیادہ موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے جلوے ہم پہلے کی نسبت زیادہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں اور وہ ہمیں اپنے فضل کے ساتھ اس مقام پر کھڑا رکھے کہ ہم سوائے اس کے کسی اور پر بھروسہ رکھنے والے نہ ہوں اور دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب نہ ہوں۔ خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا جلوہ کچھ اس طرح ہم پر ظاہر ہو کہ دنیا کی ہر طاقت کو ہیچ کر کے رکھ دے اے خدا تو ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا آمین ثم آمین۔

(از رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)





خدا شاہد ہے کہ پسرِ موعود کے شامل حال ایک عظیم الشان نور تھا

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۱ دسمبر ۱۹۶۵ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

دوستو۔ پیارو: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قبل اس کے کہ میں اس مضمون کے متعلق کچھ کہوں جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں میں دوستوں کو دو کتابوں کی خرید کے متعلق تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ ان کتابوں کے متعلق کل نہ تو مجھے یاد دہانی کرائی گئی اور نہ مجھے خود یاد آیا۔ بعض اور دوستوں نے بھی آج مجھے اپنی کتب کے متعلق تحریک کرنے کے لئے کہا ہے لیکن چونکہ ہر اجلاس میں اس قسم کی تحریک کرنا مناسب نہیں ہوتی اس لئے میں نے ان سے معذرت کر دی ہے لیکن یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کے متعلق کچھ کہنے سے میں رک نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک تو قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ تفسیر ہے جو تحریک جدید کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اشاعت کا سوال ہو اور میں خاموش رہوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ سو انگریزی دان اور احمدی احباب اپنے لئے، اپنوں کے لئے یا تبلیغ کی خاطر اس تفسیر کو خریدیں اور اس کی تقسیم اور اشاعت کا انتظام کریں۔

دوسری کتاب ”مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریروں کی رو سے“ ہے اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کے اقتباسات جمع کئے گئے ہیں اور محترم سید داؤد احمد صاحب نے اسے مرتب کیا ہے۔ بیس تیس عنوان ہیں جن کے تحت اقتباسات اکٹھے کیے گئے ہیں اور یہ ایک بڑا مفید مجموعہ بن گیا ہے گو کچھ لمبا ہے لیکن اسے مختصر بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال یہ کتاب ایسی ہے جس سے پڑھے لکھے دوست ہر وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر جماعت میں کم از کم اس کتاب کے ایک نسخہ کا ہونا ضروری ہے

اور کئی جماعتیں اس کی ایک سے زائد کاپیاں بھی خرید سکتیں ہیں تا پڑھے لکھے دوست دوسروں کے لئے ہدایت کے سامان اس سے حاصل کریں اور اپنے بھائیوں کو سنائیں۔ ایک بڑی خوشخبری ملی ہے جو میں جماعت کے دوستوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افریقہ کا ایک ملک گیمبیا ہے جو اسی سال ماہ فروری میں آزاد ہوا تھا۔ چند دن ہوئے وہاں کے قائم مقام گورنر کے عہدہ کے لئے چار نام بھجوائے گئے تھے ان چار ناموں میں سے جس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے وہ الحاج ایف ایم سنگھائے ہیں۔ ایف ایم سنگھائے خدا تعالیٰ کے فضل سے مخلص احمدی ہیں ۱۹۴۲ء میں وہ احمدی ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر چھپن سال کے قریب یعنی میری عمر کے برابر ہے۔ آپ پہلے گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔ ۱۹۴۲ء کے شروع میں آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ وہ گیمبیا کے سیاسی لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ۱۹۴۲ء میں آپ کو جسٹس آف پیس (Justice of peace) مقرر کیا گیا۔ اسی سال آپ کوچ بیت اللہ کا شرف حاصل ہوا۔ آپ مینڈنگا (Mandinga) قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں جماعت کے پریذیڈنٹ ہیں اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے انہیں گیمبیا کا قائم مقام گورنر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی جماعت کے لئے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرے فضل تم پر اب بھی جاری ہیں۔ پچھلے ماہ کی جو رپورٹیں میرے پاس آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف غیر ممالک میں تقریباً پچاس احباب احمدیت میں داخل ہوئے ہیں۔

کل مخدومی و محترمی چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے ایک تحریک جماعت کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کا پہلے جو نام تجویز کیا گیا تھا وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں لیا تھا اب مشورہ کے بعد اس کا نام ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ رکھا گیا ہے۔ چوہدری صاحب موصوف نے دوستوں کے سامنے یہ تحریک کی تھی کہ ایک فاؤنڈیشن قائم کی جائے اور اس کی آمد سے بعض ایسے کام کئے جائیں جن سے حضرت مصلح موعودؑ کو خاص دلچسپی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ صدر انجمن احمدیہ جس کو موجودہ شکل حضرت مصلح موعودؑ نے دی ہے تحریک جدید جسے آپ نے قائم کیا ہے اور وقف جدید جسے آپ نے جاری کیا ہے اسی طرح مجلس انصار اللہ، خدام الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ، ناصرات الاحمدیہ، اطفال

احمدیہ جو ذیلی تنظیمیں آپ نے قائم فرمائی ہیں یہ سب (بنیادی اور ذیلی تنظیمیں) جب تک قائم رہیں گی اور جب تک ان کے اچھے اور خوش کن نتائج نکلتے رہیں گے (اور ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت تک ان تنظیموں کے اچھے اور خوش کن نتائج نکلتے رہیں گے) اس وقت تک حضرت مصلح موعودؑ کا نام زندہ رہے گا اور دنیا عزت کے ساتھ آپ کو یاد کرتی رہے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدقہ جاریہ اور فیض جاری کے طور پر ہم کوئی اور سکیم نہ بنائیں چنانچہ اس خیال کے تحت دوستوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ عام مالی قربانیوں کے علاوہ جو دہ کر رہے ہیں ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ میں رقوم پیش کریں اور یہ رقوم وہ بنائش اور اخلاص نیت کے ساتھ دیں اور اس دعا کے ساتھ دیں کہ اس فاؤنڈیشن سے اچھے نتائج نکلیں اور ان کا ثواب خدا تعالیٰ حضرت مصلح موعودؑ کو بھی پہنچائے اور ہمیں بھی پہنچائے جو یہ رقوم دینے والے ہیں۔

کل اس تحریک کا یہاں اعلان ہوا تھا اور باہر کی جماعتوں پر ابھی اس تحریک کی اطلاع نہیں ہوئی۔ صرف امراء وغیرہ نے ان دوستوں سے جو یہاں موجود تھے مشورہ کیا ہے باوجود اس کے اس وقت تک جو وعدے آچکے ہیں وہ تقریباً پندرہ لاکھ کے ہیں اور ہمارا اندازہ ہے کہ انشاء اللہ وعدوں کی مقدار پچیس لاکھ سے کہیں زیادہ تک پہنچ جائے گی پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک کی جماعتوں سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ کم وبیش پندرہ لاکھ روپیہ ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ کے لئے جمع کریں گی۔

ہم جو حضرت مصلح موعودؑ کی جسمانی اولادیں ہیں گو ہم سب جمع نہیں ہو سکے لیکن ہم میں سے اکثر یہاں موجود تھے۔ ہم نے (اس خیال کے ماتحت کہ حضورؑ نے جو جائیداد بنائی تھی اس کے متعلق حضورؑ کی نیت یہی تھی کہ اس سے دینی کام جاری کئے جائیں اور اپنے بچوں کو بھی حضورؑ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیوی فکروں سے اس لئے آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ تا تم اپنے اوقات کو دین کی خدمت میں لگائے رکھو) مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ حضورؑ کی جائیداد میں سے انشاء اللہ ایک لاکھ روپیہ اس فنڈ میں دیں گے۔ دوست اس بات کا خیال رکھیں کہ گو اس تحریک کے لئے وعدے تو ابھی ہونے چاہیں لیکن ان کی ادائیگی تین سالانہ قسطوں میں ہو سکتی ہے یعنی جو دوست چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ چندہ دیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال کے دوران وہ اس قدر رقم

نہیں دے سکیں گے ان کی سہولت کے پیش نظر یہ تجویز کی گئی ہے کہ وہ اپنے وعدہ کو تین سال میں، تین فسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح امید ہے کہ دوست اور خصوصاً وہ دوست جنہوں نے اب بھی اس فنڈ میں کافی بڑی رقمیں دی ہیں اور اس خیال کے ماتحت دی ہیں کہ انہیں جلد ادا کرنا ہے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وعدوں میں زیادتی کریں گے۔ خدا کرے کہ ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ کی رقم پچاس لاکھ اور کروڑ کے درمیان تک پہنچ جائے۔

اس فاؤنڈیشن کے متعلق اب تک جو سوچا گیا ہے (گو میں ایک کمیٹی مقرر کر دوں گا جو غور کرے گی کہ اس کی آمد کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا قواعد وضع ہونے چاہئیں لیکن میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا) وہ یہ ہے کہ اس کی آمد سے ایک تو مبشرین تیار کئے جائیں گے یعنی بیرونی ممالک میں کام کرنے والے مبلغین اور پاکستان میں کام کرنے والے مربیان اور معلمین کو زیادہ تعداد میں تیار کیا جائے گا اور اس فنڈ کی آمد سے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ کیونکہ ہماری ضرورتیں جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا بہت زیادہ ہیں اور وہ جلد تر پوری ہونی چاہئیں اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مقاصد جن کے لئے ہم جدو جہد کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو ہمیں مبشرین اور مربیان کی تعداد کو بہر حال بڑھانا پڑے گا۔ سو فضل عمر فاؤنڈیشن کی آمد سے ایک تو مبشر اور مربی تیار کئے جائیں گے۔

پھر ہمارے بعض بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دماغ عطا کئے ہیں کہ ان کی پوری تربیت اور تعلیم کا انتظام ہو جائے تو بہت جلد دنیوی لحاظ سے چوٹی کے دماغوں میں شمار ہونے والے بن سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حالات کی مجبوری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی جاسکتی۔ کالج میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ ہر سال داخل ہونے والوں میں سے ایک دو طالب علم ضرور ایسے ہوتے تھے کہ اگر ان کی ٹھیک تربیت اور صحیح تعلیم کا انتظام ہو جائے تو وہ چوٹی کے دماغوں میں شامل ہونے کی استعداد اور قابلیت رکھتے ہیں۔ ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ کی آمد سے اس قسم کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اس طرح اور بھی بہت سی ضروریات ہیں جن کی تفصیل میں وہ کمیٹی جائے گی جو میں مقرر کروں گا اور پھر ہم باہم مشورہ اور غور کے بعد اس چیز کو مکمل کر لیں گے۔ فی الحال میرا کوئی آخری فیصلہ نہیں لیکن خیال ہے کہ اس

فاؤنڈیشن کو علیحدہ طور پر رجسٹر کروا لیا جائے اور اس کی مجلس عاملہ کے طور پر اس وقت بعض نام میرے ذہن میں آئے ہیں۔ مثلاً مخدومی و محترمی چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب، ایک نمائندہ صدر انجمن احمدیہ کا، ایک نمائندہ تحریک جدید انجمن احمدیہ کا، چوہدری محمد انور صاحب کابلوں (جو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ہیں گو وہ ادھر کے ہی رہنے والے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ساری عمر قریباً وہیں گزار دی ہے وہ) ایسٹ پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ہمارے نزدیک وہ اس کے اہل بھی ہیں وکلاء میں سے میر محمد بخش صاحب گو جرانوالہ امراء اور تاجر پیشہ اصحاب میں سے شیخ محمد حنیف صاحب کوئٹہ اور مستعدی سے کام کرنے کے لحاظ سے کرنل عطاء اللہ صاحب جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا دماغ دیا ہے اور انہیں ایسے امور کے متعلق بڑی معلومات حاصل ہیں لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فی الحال یہ نام زیر غور ہیں ان میں سے بعض تو یقیناً اس میں آجائیں گے اور ممکن ہے بعض نام تبدیل بھی کرنے پڑیں۔

بہر حال یہ مختصر سا ڈھانچہ ہے جو اس وقت تک ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ہے اور میں چاہتا تھا کہ اسے دوستوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تا اس امر کے متعلق ان کی دلچسپی بڑھے وہاں ان کی دعائیں بھی اس کے شامل حال ہو جائیں۔ اب میں نفس مضمون کی طرف آتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا۔

خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس (تذکرہ نیا ایڈیشن صفحہ ۱۹۷)

یہ حکم ہمیں بھی ہے اور حضور کی روحانی اولاد کو بھی۔

یعنی اے فارس کے بیٹو تم توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھو توحید کو مضبوطی سے پکڑو اور اسے سنبھالے رکھو۔“ گو اس حکم کے پہلے مخاطب میں اور میرے بہن بھائی ہیں لیکن جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہے۔ آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانی اولاد ہیں اس لئے اس الہام میں خدا تعالیٰ ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے۔

خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس

کہ اے فارس کے بیٹو تم توحید پر قائم رہو اور اس مقام سے ادھر ادھر نہ جانا۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ خالی زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک کہہ دینا یا

یہ فقرہ کہہ دینا کہ ہم توحید پر قائم ہیں یہ نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی معنی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں توحید اس چیز کا نام ہے کہ سورج چاند آسمان کے کسی ستارے، آگ، پانی یا زمین کی کسی اور چیز کو اپنا معبود نہ ٹھہراؤ اور جن چیزوں سے تم منفعت حاصل کرتے ہو ان کے متعلق یہ نہ سمجھو کہ ان میں نفع پہنچانے کی ذاتی طور پر کوئی طاقت ہے کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس وقت تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اسے آسمان سے اذن عام کے ساتھ ساتھ اذن خاص بھی نہ دیا جائے۔ پھر تم دنیا کے اسباب کو ایسی عزت نہ دو اور ان پر ایسا بھروسہ نہ کرو کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے شریک ہیں۔ تم اپنی کوشش اور ہمت کو کچھ نہ سمجھو کہ یہ بھی توحید باری کے خلاف ہے اور شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تم اپنے اعمال، قربانیوں اور اپنی جدوجہد پر تکیہ نہ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ خدا کی راہ میں تمہارے اعمال، تمہاری قربانیاں یا کوئی اور جدوجہد اپنی ذات میں کوئی خوبی رکھتی ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر صرف الہی چیزوں کے ذریعہ تم پر نجات کی راہ کھل سکتی ہے نہیں ہرگز نہیں۔ تم سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھو کہ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے اپنے علم پر غرور کرو اور نہ اپنے اعمال پر ناز۔ تم اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھو اور اپنے آپ کو فی الحقیقت کمزور اور ناتواں جانو۔ خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر دم اور ہر وقت اپنی روح گداز رکھو۔ اپنی عاجزانہ دعاؤں کے ساتھ اس کے فیوض کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرو اور یقین کرو کہ تمہارا خدا وہ زندہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد و یگانہ ہے۔ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی نہیں اور نہ کسی وجود کی صفات اس کی صفات کی مانند اور مثل ہیں۔ یاد رکھو کہ انسان کا علم بھی ایک معلم کا محتاج ہے اس لئے وہ محدود ہے مگر اس علام الغیوب کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اس لئے وہ غیر محدود ہے۔ انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور معین طور پر بیس سے بیس ہزار صوتی لہروں تک محدود ہے بیس سے نیچے صوتی لہر ہو تو انسان کوئی بات نہیں سن سکتا اور بیس ہزار سے اوپر صوتی لہر ہو تو انسان کے کان اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں دیتے مگر خدائے سمیع کی شنوائی اس کی ذاتی طاقت کی وجہ سے ہے اس لئے وہ غیر محدود ہے۔ پھر انسان کی بینائی بیرونی روشنی کی محتاج ہے اور معین ضیائی لہروں کے اندر محدود ہے مگر خدائے بصیر کی بینائی اس کی ذاتی روشنی سے ہے اس کی کوئی درجہ بندی نہیں

کی جاسکتی کیونکہ اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ۳۶) اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر انسان کی تعمیری قوتیں وقت کی محتاج ہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلنے کے لئے کچھ وقت چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دل نے کوئی ارادہ کیا اس میں کوئی خواہش پیدا ہوئی یا ہم نے اپنا ہاتھ ہلایا اور اسی وقت اس کا نتیجہ نکل آیا۔ غرضیکہ انسان کی کوششوں کا نتیجہ ایک وقت کے بعد جا کر نکلتا ہے۔ پھر بسا اوقات انسانی یہ کوششیں بے نتیجہ رہ جاتی ہیں مگر خدائے خالق و باری کی قوت نہ کسی مادہ اور اسباب کی محتاج ہے اور نہ کسی وقت کی۔ اس کی قدرتوں کے لاکھوں کروڑوں جلوے ہر آن سَمْنٌ فَيَكُونُ (البقرة: ۱۱۸) سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہی حال اس کی تمام صفات کا ہے کہ بے مثال و مانند ہے۔ غرض تو حید کا یہ سبق ہے جو ہمیں پڑھایا گیا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور اس کے دیگر بزرگ بندوں نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے جلوے دیکھے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہی مقامِ توحید اور مقامِ عبودیت کو حاصل کیا مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا عظیم جلوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقدر تھا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا اس جلوہ کی ایک جھلک تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی اور وہ بھی جبل طور کی وساطت سے براہ راست نہیں مگر جبل طور کا پتھر پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جلوہ کی تاب نہ لا کر بیہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کا یہی جلوہ جب اپنی شان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا تو اس نے آپ کو عاجزی اور تذلل کے اس مقام پر پایا کہ اس نے آپ کے وجود اور آپ کی روح کو پوری طرح اپنے احاطہ میں لے لیا اور آپ کی روح کے کسی حصہ اور آپ کے جسم کے کسی ذرہ نے بھی اس کے مقابلہ میں کوئی سختی نہ دکھائی اور آپ کلی طور پر اطاعت میں محو ہو کر عبودیت کے جلوہ کو اپنے اندر لیتے ہوئے اس کے سامنے جھک گئے تب ہم نے دیکھا کہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت تامہ کاملہ کے ارفع اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

پھر ہم نے بھی دیکھا کہ انسانی تاریخ میں جہاں خدا تعالیٰ کے ہر نبی نے اس کی توحید کا نعرہ لگایا اور اپنی عبودیت کا اظہار بھی کیا وہاں جس اہتمام اور جس تاکید کے ساتھ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبودیت کا اظہار کیا اس کی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی آپ نے شروع دن سے ہی اپنے ماننے والوں کو خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی طرف توجہ دلائی اور ان کے ذہنوں میں پختگی کے ساتھ یہ ڈال دیا کہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے اور ہر چیز کا درجہ اور تمام فیوض کا منبع اس کی ذات ہے اور جب کوئی انسان اس کی طرف رُخ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا یا یوں کہو کہ اُسے کسی اور کی طرف رُخ نہیں کرنا چاہئے۔ آپ نے دنیا میں یہ اعلان کیا کہ اگرچہ میں عبودیت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوں لیکن ہوں خدا تعالیٰ کا بندہ اس کا قرب اتم مجھے حاصل ہے اور قیامت تک اس نے صرف میرے ذریعہ سے ہی بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن جو فیوض بنی نوع انسان مجھ سے حاصل کریں گے وہ اس کے ارادہ اس کے اذن اور اس کے حکم کی وجہ سے حاصل کریں گے میری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے بار بار اٹھتے بیٹھتے اپنی مجالس میں اپنی تقاریر میں پھر بنی نوع انسان سے حُسن سلوک کرتے ہوئے اپنی اداؤں سے، اپنے عمل سے اور اپنی عبادات سے آپ نے اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے اندر توحید کے سبق کو اس طرح رچا دیا اور اس کو دماغ کے اندر اس طرح مستحکم کر دیا کہ ان کے لئے اس راہ سے بھٹکنا ممکن ہی نہ رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے دل نے چاہا اور آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ارفع مقام کی وجہ سے میرے ماننے والوں میں بعض گمراہ ہو جائیں۔ تب آپ اور صرف آپ نے ہی یہ حکم دیا کہ دنیا کی پستی اور بلندی سے جب تم خدائے برتر و ارفع کی تکبیر اور اس کی عظمت اور جلال کا نعرہ لگاؤ اللہ اکبر کی آواز فضا میں گونجے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا جائے تو اس کے ساتھ ہی وا شہد ان محمدًا عبده؛ ورسولہ کا نعرہ ضرور لگے۔ یعنی جب بھی خدا تعالیٰ کی بزرگی اس کی برتری اس کی عظمت اور اس کے جلال کا نعرہ بلند ہو تو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ نعرہ بھی بلند کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا ایک بندہ ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

کتنا خیال تھا آپ کو خدا تعالیٰ کی توحید کا، کتنا پاس تھا آپ کو اپنی بندگی کا، کتنی محبت تھی آپ کو اپنے مقام عبودیت کے ساتھ کہ آپ اس بات کی تاکید پر تاکید کرتے چلے گئے اور سبق پر سبق سکھاتے چلے گئے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہو وہاں آپ کے مقام عبودیت کا بھی اظہار ہو۔

آپ کے ماننے والوں میں سے اس سبق کو سب سے زیادہ سیکھنے والا اور یاد رکھنے والا وجود جس نے مصائب اور ہوموم و غموم کے اوقات میں اس سبق کو یاد رکھا اس مقامِ عبودیت کا عرفان رکھنے والا نازک ترین وقت میں اس کا اظہار کرنے والا وہی تھا جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ میری مراد اس وجود سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کے دلوں کو اس صدمہ نے توڑ دیا وہ بالکل حواس باختہ ہو گئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کی عقلیں ماری گئیں ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جو ان کے دلوں میں تھی ان کے ذہنوں کی جلاء پر پردہ ڈال دیا اور وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود فوت ہو جائے۔ تب خدا تعالیٰ کا بندہ یعنی حضرت ابو بکرؓ کھڑا ہوا اور اس نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ.

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ (صحیح بخاری کتاب الجنائز)

یعنی تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں لیکن تم میں سے وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سبق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس کی توحید پر قائم رہنے والا اور اس سے تمام برکتیں حاصل کرنے والا تھا۔ اُسے تمام فیوض کا سرچشمہ سمجھتا تھا اسے جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی ذات واقعی حئی و قیوم ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آتی اسلام کی ساری زندگی اسی کی ذات سے قائم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں اور اب بھی اس کی زندگی خدا تعالیٰ کی ذات سے ہی قائم رہے گی۔ خدا تعالیٰ اب بھی زندہ ہے جیسا کہ وہ پہلے بھی زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس لئے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کی وجہ سے اسلام پر موت نہیں آ سکتی تمہیں کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ وہ خدائے حئی و قیوم جس نے تمہیں پہلے قائم رکھا ہوا تھا اب بھی تمہیں قائم رکھے گا اور تمہیں تباہ ہونے سے بچالے گا۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات حئی و قیوم ہے اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے اسلام کو کوئی

نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اسلام کی زندگی کا انحصار خدائے حییٰ و قیوم پہ ہے۔ اس کے استحکام اور قیام کا انحصار خدائے حییٰ و قیوم کی طاقتوں پر ہے۔ غرض یہ نعرہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر بڑے پیار کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلند کیا اور اس پیار کے ساتھ بلند کیا جو آپ کے دل کے گوشہ گوشہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہہ نکلا اور اس کے چشمے پھوٹ پڑے۔

آج ہمارے دل بھی مجروح ہیں اور ہم ایک ایسے صدمہ سے دوچار ہوئے ہیں جس کا شاید عام انسانوں کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ ہو۔ ہمارا وہ محبوب ہمارا وہ آقا جس نے باون سال تک ہم پر غیر محدود احسان کئے جس نے باون سال تک ہمارے غموں میں شرکت کی جو باون سال تک ہمارا سہارا بنا رہا جس نے باون سال تک ہمیں علم قرآن سکھایا جس نے باون سال تک ہمیں خدا تعالیٰ کے چمکتے ہوئے نشان دکھائے جس نے باون سال تک ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کی جستجو کے لئے جن اعمال کی ضرورت تھی وہ بتائے جس نے اتنے لمبے عرصہ تک ہماری راہ نمائی کی ہماری پرورش کی ہماری تعلیم کا خیال رکھا ہمارے پیسوں کا سہارا بنا رہا ہماری بیواؤں کی اس طرح مدد کرتا رہا کہ ہم جو حاضر رہنے والے تھے ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کون آپ کے احسانوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے (کبھی اس کا ہمیں علم ہوتا تھا) پس اتنا لمبا عرصہ ساتھ رہنے والا پھر اتنی شفقت سے پیش آنے والا۔ اتنا احسان کرنے والا اور اتنا بابرکت وجود کہ جب بھی جماعت پر کسی مخالف نے حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک خیال کرنے لگا کہ شاید اب جماعت کا بچنا مشکل ہو وہ آگے آیا اور اس وقت جو تیر چلائے گئے وہ سارے اس نے اپنے سینے پر لیے۔ جب ہم میں سے بہت سے سو رہے ہوتے تھے اسی خیال سے کہ ایک دل ہے جو ہمارے لیے تڑپ رہا ہے وہ واقعی ہمارے لئے تڑپ رہا ہوتا تھا اور اپنے رب سے عاجزی، خشوع، تذلل اور تواضع کے ساتھ یہ عرض کرتا تھا کہ اے میرے خدا یہ جماعت تیرے مسیح کا لگایا ہوا پودہ ہے اور کمزور ہے پھر غریب بھی ہے۔ اور کم علم بھی۔ لیکن اے خدا یہی وہ جماعت ہے جس نے تیرے محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ اگر آج دشمن انہیں تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر تیرا وہ مقصد کیسے کامیاب ہوگا جو تو نے اس جماعت کے قیام کے وقت اپنے سامنے رکھا تھا۔

غرض راتیں اس نے جاگ کر گزاریں اور دنوں کے متعلق تو میں ذاتی طور پر گواہی دے سکتا ہوں کہ مہینوں کے بعد مہینے اور سالوں کے بعد سال گزرے جن میں آپ نے کم از کم اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے روزانہ کام کیا۔ آپ نے ہر قسم کا دکھ اٹھایا تا کہ ہم سکھ میں رہیں ہر قسم کی تکلیف برداشت کی تا کہ ہمیں کوئی غم نہ پہنچے ہر قسم کا بار اٹھایا تا ہمارے بار کو ہلکا کر جائیں۔ آپ کے احسان اتنے ہیں کہ نہ میں انہیں گن سکتا ہوں اور نہ آپ گن سکتے ہیں پھر آپ خدا کی منشاء، اور اس کی مرضی کے مطابق سات اور آٹھ نومبر کی درمیانی شب ہم سے جدا ہو گئے اس صدمہ کی وجہ سے ہمارے دلوں پر جو گذر رہی ہے وہ تو ہم ہی جانتے ہیں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی میں انہیں بیان کرنے کی اس وقت جرأت کروں گا۔ آج ہمارے دلوں کو اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے آج اگر کوئی چیز ہمارے دلوں کے لئے ڈھارس بن سکتی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا وہی قول ہے جو آپ نے چودہ سو سال قبل کہا اور ایسے موقع پر کہا جو اس واقعہ سے بہت بڑا تھا اور دور رس تھا وہ دنیا کے لئے اور پھر قیامت تک کے لئے ایک زلزلہ تھا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک وجود اس دنیا سے اٹھ گیا اس کو یاد کر کے سارے غم ہیچ ہو جاتے ہیں اسی عظیم غم کے وقت ہی خدا تعالیٰ کے اس بندے نے کہا تھا۔ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَا يَمُوتَ (بخاری کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری و قیصر باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ) کہ تم میں سے جو شخص اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے اسے یقین کرنا چاہئے کہ ہمارے خدا کی ذات جی و قیوم ہے۔ پھر ہمارا خدا بڑی وفا کرنے والا ہے۔ وہ ہم سے اس صدمہ کے وقت بے وفائی نہیں کرے گا اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ ہماری دعاؤں اور کوششوں کے نتیجے میں ہر آن اور ہر لحظہ ہماری مدد اور نصرت کرے گا۔

اصل میں ہماری ساری بڑائیاں اور ساری خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ہماری ہر چیز ظلی اور ذیلی ہے۔ امت محمدیہ میں بڑے بڑے وجود پیدا ہوئے ہمارے نزدیک ان میں سے سب سے بڑھ کر وجود خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں لیکن آپ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ پایا خدا کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے اور ہم احمدی آپ کے ذریعہ جو کچھ پاتے ہیں وہ حقیقتاً آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

سے ہی پاتے ہیں ہمیں جو فیض پہنچ رہا ہے۔ وہ دراصل آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف واسطہ ہیں جو درمیان میں پیدا ہو گیا ہے ہم بھول گئے تھے آپ ہمیں یاد کرانے کے لئے آئے غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ ایسا تھا جو آج تک بھی انسانیت بھلا نہیں سکی اور نہ قیامت تک انسان اسے بھول سکتا ہے اس کے مقابلہ میں جو صدمہ آج ہمیں پہنچا ہے وہ کم نظر آتا ہے اور ہماری نگاہیں جب چودہ سو سال قبل کی طرف جاتی ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بھاری صدمہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے ابو بکر کو کھڑا کیا تھا اور اس نے سب صحابہ کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی تھی

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَا يَمُوتَ

اس لئے ہم بھی آج یہی کہتے ہیں مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَا يَمُوتَ یہ آپ تسلی رکھیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اس کا جو فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے وہ زمین پر ضرور پورا ہوگا جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور پھر اس ایمان پر قائم رہیں گے وہ بھی ہماری مدد اور نصرت کو اسی طرح آتارہے گا جس طرح کہ وہ پہلے آتارہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پر اسی طرح نازل ہوتی رہیں گی جیسا کہ وہ پہلے نازل ہوتی رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے علموں کو اسی طرح فراست اور نور بخشتا رہے گا جیسا کہ وہ پہلے بخشتا رہا ہے خدا تعالیٰ کی مدد کے متعلق یہ نہ سمجھو کہ وہ پیچھے رہ گئی ہے اور آگے نہیں چلے گی وہ آئندہ بھی ہمیں ملتی رہے گی۔ ہم اس کی ذات سے مایوس نہیں بلکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہی ہے جو ہمیں زندہ رکھ رہا ہے ورنہ جس طرح اس باپ نے ہم سے شفقت کی اور جس طرح ہم بچوں نے اس سے پیار کیا صرف اسے دیکھا جائے تو آج ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہمارے دل بند ہو جاتے اور ہم ایک سیکنڈ کے لئے بھی زندہ نہ رہ سکتے۔

غرض ہمیں آج صدمہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور ان دو چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے ہمیں زیادہ شدت کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہئے اور اپنی کوششوں کو پہلے سے بہت زیادہ تیز کر دینا چاہئے تا وہ دن جس کی آمد کے انتظار میں ہی ہمارا آقا اس جہاں سے رخصت

ہو گیا وہ جلد تر آ جائے اور اسلام تمام دنیا پر غالب آ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تمام اقوام عالم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔

اس کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئی کے متعلق جو آپ نے مصلح موعود کے متعلق فرمائی بعض باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے احمدی بھائی اور بہنیں قریب ہی عرصہ میں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں اور بہت سے بچے نئے نئے نوجوان ہوئے ہیں۔ اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر شروع سے ہی اس پیشگوئی کو لوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ۲۰ فروری ۱۸۸۰ء کو ایک اشتہار دیا جو عام طور پر ہماری جماعت میں ”سبز اشتہار“ کے نام سے موسوم ہوتا ہے اس اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قدرت، رحمت اور قربت کے نشان کی ایک پیشگوئی فرمائی ہے جو ایک صالح فرزند کے تولد کے بارہ میں تھی جس نے ان صفات کے مطابق پیدا ہونا تھا جن کا ذکر اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

”لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور پیدا

ہوگا۔ خواہ جلد ہو خواہ دیر سے۔ بہر حال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا“

(اشتہار ۲۲ مارچ ۱۸۸۶ء مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر ۹۸)

گویا سبز اشتہار میں جس فرزند جلیل کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ نو برس کے اندر اندر ضرور پیدا ہو جائے گا اور یہ دعویٰ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ بلکہ فرمایا میرا یہ کہنا بموجب وعدہ الہی ہے۔ بعض غیر مبائعین اس پیشگوئی کی غلط تاویلیں کرتے ہیں۔ انہیں خاموش کرانے کے لئے یہ ایک فقرہ ہی کافی ہے کہ ”بموجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ میں ضرور پیدا ہوگا“ پھر اس نشان آسمانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔

”مفہوم پیشگوئی کا اگر بنظر یکجائی دیکھا جاوے تو ایسا بشری طاقتوں سے بالاتر ہے۔

جس کے نشان الہی ہونے میں کسی کو شک نہیں رہ سکتا اور اگر شک ہو تو ایسی قسم کی پیشگوئی جو ایسے ہی نشان پر مشتمل ہو پیش کرے۔ اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہئے کہ یہ صرف

پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جلشآنہ نے ہمارے نبی کریم رؤف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لئے ظاہر فرمایا ہے اور درحقیقت یہ نشان (فرزند موعود کا) ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے۔ مردہ کی بھی روح دعا سے واپس آتی ہے اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔“ (مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۹۹، ۱۰۰)

نو برس کی میعاد پر بعض لوگوں نے مثلاً منشی اندر من مراد آبادی نے اعتراض کیا کہ اس لمبی میعاد میں تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی مخالفوں نے کہا۔ یہ بھی کوئی پیشگوئی ہے آپ کی بیوی ہے بچے اس سے پیدا ہو رہے ہیں پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ کہہ دینا کہ نو سال کے اندر ایک لڑکا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ کیا پیشگوئی ہوئی ہم ایسی پیشگوئی کو نہیں مانتے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔

”واضح ہو کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے کسی لمبی میعاد سے گو نو برس سے بھی دو چند ہوتی اوس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ بلکہ صریح دلی انصاف ہر ایک انسان کا شہادت دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور انحصں آدمی کے تولد پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے اور دعا کی قبولیت ہو کر ایسی خبر کا ملنا بے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشان ہے نہ یہ کہ صرف پیشگوئی ہے“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۰۱)

۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء کو جب حضرت مصلح موعودؑ پیدا ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی پیدائش کی اطلاع اس اشتہار کے ذریعہ دی جس کا نام ”تکمیل تبلیغ“ تھا چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

”خدائے عز و جل نے جیسا کہ اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۶ء و اشتہار دسمبر ۱۸۸۶ء میں مندرج ہے۔ اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا

بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا اور اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ وہ قادر ہے جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے سو آج ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء میں مطابق ۹ جمادی الاول ۱۳۰۶ھ روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضلہ تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تقاؤل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۶۰، ح ۱۶۱، ح)

مطلب یہ ہے کہ تقاؤل کے طور پر میں اس بچے کا نام محمود اور بشیر رکھ رہا ہوں اور ابھی مجھے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ پسر موعود یہی لڑکا ہے یا کوئی اور لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس انکشاف کی اطلاع آپ کو کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کیا علم دیا ہے ابھی تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں کیونکہ بشیر اول پیدا ہوا اور چند کے ماہ بعد فوت ہو گیا اس لئے جب تک خدا تعالیٰ نہ بتائے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ بچہ ہے جو صلح موعود اور عمر پانے والا ہے۔

لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا (یعنی نوسال سے) تو خدائے عزوجل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔۔۔۔۔ پس اگر حضرت باری جلشاندہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں جس کا نام بطور تقاؤل بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے ظہور میں آئی تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو۔ ورنہ وہ بفضلہ تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۶۱، ح)

پھر جب حضور پر کامل انکشاف ہو گیا تو اس کے متعلق حضور نے دنیا کو جو اطلاع دی وہ یہ تھی۔
”پانچویں پیشگوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لئے سبز ورق کے اشتہار

شائع کئے گئے تھے۔ جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔

چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب نويس سال میں ہے

(سراج منیر روحانی خزائن جلد نمبر ۱۲ صفحہ ۳۶)

سراج منیر ۱۸۹۷ء میں تصنیف ہوئی تھی۔ گویا ۱۸۹۷ء میں کامل انکشاف کے بعد حضور نے

دنیا کو اپنے الفاظ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس بچے کا نام میں نے تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا تھا۔ وہی لڑکا حقیقتاً مصلح موعود اور عمر پانے والا ہے۔

یہ مختصری تمہید میں نے صرف یہ بتانے کے لئے بیان کی ہے کہ اگر کوئی نوحی یا کوئی احمدی

نوجوان یہ اعتراض سنے کہ مصلح موعود کی پیشگوئی کسی اور وقت میں پوری ہوتی تھی (اور خلافت سے

برگشتہ لوگ جنہوں نے اپنا علیحدہ مرکز بنا لیا ہے یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں) تو اسے کسی اور دلیل کی

ضرورت نہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک وقت میں اشتہار دیا کہ میرے ہاں

ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے اور میں نے تفاعل کے طور پر اس کا نام بشیر اور محمود رکھا ہے پھر (اس جگہ

فرمایا گویا یہ الفاظ نہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ خود مجھے یہ علم

دے گا کہ آیا پسر موعود یہی لڑکا ہے جو عمر پانے والا ہے یا اس کے بعد کوئی اور آئے گا آپ نے دنیا

کو بتایا کہ مجھ پر انکشاف ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ خبر دے چکا ہے کہ وہی بچہ مصلح موعود ہے

جس کا نام میں نے تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا تھا اور جس کے متعلق میں نے سبزا اشتہار میں

پیشگوئی شائع کی تھی۔ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے اور اب نويس سال میں

ہے اس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ لڑکا معین ہو گیا۔ جو خدا تعالیٰ کی

نگاہ میں اس پیشگوئی کے مطابق مصلح موعود بن کر دنیا کی طرف آیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مصلح موعود کے متعلق جو پیشگوئی فرمائی تھی۔ اس

کے الفاظ یہ ہیں۔

”خدا نے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے (جل شانہ و عز اسمہ) مجھ کو

اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق

جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے

ہماری قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو (جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے) تیرے لئے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر اسلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے بچنے سے نجات پائیں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں اور تادین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تالوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں۔ جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ ”سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ اس کا نام عنمو ایل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ جس سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیمار یوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اُسے کلمہء تجید سے بھیجا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا (اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے)

دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ۔ فرزند دلہند گرامی ارجمند مظهر الاول و الآخر مظهر الحق و العلاء کأن اللہ نزل من السماء جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے مسح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اُس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور تو میں اس

سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امرأ مقضياً (مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۹۵، ۹۶)۔

اسی طرح یکم دسمبر ۱۸۸۸ء کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا اور وہ بھی سبز اوراق کا اشتہار ہے اس میں حضور تخریر فرماتے ہیں۔

”خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا۔ جس کا نام محمود بھی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں اولوالعزم ہوگا۔ یخلق اللہ ما یشاء“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۵۲ ح)

اب ہم اس پیشگوئی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ پیشگوئی میں پسر موعود کی جو بنیادی صفت اور خاصیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے۔ ”نور آتا ہے نور“ باقی تمام خواص اس مرکزی نقطہ کے گرد گھومتے ہیں۔ گزشتہ باون برس تک ہم نے انوار الہیہ کو اس پاک نفس پر بارش کی طرح برستے ہوئے دیکھا اور خود ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ انوار کبھی اخبارِ غیبیہ کے رنگ میں کبھی علوم و معارف کی صورت میں اور کبھی اخلاقی فاضلہ کے پیرایہ میں اس پر اپنا پرتو ڈالتے رہے تھے۔ وہ نظرِ احدیت کا منظور تھا۔ جس پر فضل ربانی کا عظیم الشان سایہ تھا اور دیکھنے والوں کو صریح دکھائی دیتا تھا کہ قادرِ مطلق کا نور اس کی صحبت میں، اس کی توجہ میں، اس کی ہمت میں، اس کی دعا میں، اس کی نظر میں، اس کے اخلاق میں، اس کی خوشنودی میں، اس کے غضب میں، اس کی رغبت میں، اس کی نفرت میں، اس کی حرکت میں، اس کے سکون میں، اس کے نطق میں، اس کی خاموشی میں، اس کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں ایسے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ایک مصفیٰ شیشہ ایک نہایت عمدہ اور اعلیٰ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہتوں نے اس کے فیضِ صحبت سے اور اس سے دلی تعلق پیدا کر کے وہ نورانی برکات حاصل کیں۔ جو مجاہداتِ شاقہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتیں اور اس سے ارادت اور عقیدت کا تعلق پیدا کرنے سے ہم میں سے بہتوں کی ایمانی حالت نے ایک دوسرا ہی رنگ پکڑا جس سے ان میں نیک اخلاق ظاہر کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی اور نفسِ امارہ پر زوال آ گیا اور جن خوش بختوں کو اس کی طویل صحبت میسر آئی وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت مصلح موعودؑ کا پاک وجود اپنی ایمانی قوتوں میں اخلاقی حالتوں میں انقطاع عن الدنیا اور توجہ الی اللہ میں،

محبت الہی میں، شفقت علی العباد میں، وفا، رضا اور استقامت میں اس عالی مرتبہ پر تھا جس کی نظیر آج کی دنیا میں ملنی ممکن نہیں۔ غرضیکہ اس کی نورانیت اس سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں کو ہر وقت اور ہر آن منور کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ ”نور آتا ہے نور“ اور خدا شاہد ہے کہ پسر موعود کے شامل حال ایک عظیم الشان نور تھا۔ براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس زمرہ ابرار کا ذکر کیا ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے طفیل بہت سی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ان برکتوں میں سے ایک چیز ”نور“ بھی ہے۔ جس کی حقیقت آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرمائی۔

”اور حقیقت میں وہی ایک نور ہے جو اُن کے ہر ایک قول اور فعل اور حال اور قال اور عقل اور فہم اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جاتا ہے اور صد ہا شاخیں اس کی نمودار ہو جاتی ہیں اور رنگا رنگ کی صورتوں میں جلوہ فرماتا ہے۔ وہی نور شدائد اور مصائب کے وقتوں میں صبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور استقامت اور رضا کے پیرایہ میں اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تب یہ لوگ جو اُس نور کے مورد ہیں آفات عظیمہ کے مقابلہ پر جبالِ راسیات کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور جن صدمات کی ادنیٰ مس سے نا آشنا لوگ روتے اور چلاتے ہیں بلکہ قریب بمرگ ہو جاتے ہیں ان صدمات کے سخت زور آور حملوں کو یہ لوگ کچھ چیز نہیں سمجھتے اور فی الفور حمایتِ الہی کنارِ عاطفت میں ان کو کھینچ لیتی ہے اور کوئی خامی اور بے صبری ان سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ محبوبِ حقیقی کے ایلام کو برنگِ انعام دیکھتے ہیں اور بکشاہدگی سینہ وانشراح خاطر اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس سے متلذذ ہوتے ہیں۔ کیونکہ طاقتوں اور قوتوں اور صبروں کے پہاڑ ان کی طرف رواں کئے جاتے ہیں اور محبتِ الہیہ کی پُر جوش موجیں غیر کی یادداشت سے ان کو روک لیتی ہیں۔ پس اُن سے ایک ایسی برداشت ظہور میں آتی ہے کہ جو خارق عادت ہے اور جو کسی بشر سے بلاتائید الہی ممکن نہیں اور ایسا ہی وہ نور حاجات کے وقتوں میں قناعت کی صورت میں ان پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ سو دنیا کی خواہشوں سے ایک عجیب طور کی برودت اُن کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بدبودار چیز کی طرح دنیا کو سمجھتے ہیں اور یہی دنیوی لذات جن کے حظوظ پر دنیا دار لوگ فریفتہ ہیں و بشوق تمام ان کے جویاں اور اُن کے زوال سے سخت ہراسان ہیں یہ اُن کی نظر میں بغایت درجہ ناچیز ہو

قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں“

ہم میں سے ہزاروں لاکھوں نے خود مشاہدہ کیا کہ قرآن کریم کی سچی متابعت اور اس مطہر صحیفہ سے کامل محبت اور اخلاص کے فیض سے اس پاک وجود مصلح موعودؑ کی نظر اور فکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام فیوض کا سرچشمہ ہے۔ ایک نور عطا ہوا۔ جس سے علم الہی کے عجیب و غریب لطائف اور نکات جو کلام الہی اور کتاب مکنوں میں پوشیدہ تھے۔ اس پر کھلنے لگے اور دقیق معارف ابرنیساں کے رنگ میں اس پر برسنے لگے اور خدائے وہاب نے اپنی رحمانیت سے اس کے فکر اور نظر کو ایک ایسی برکت عطا کی کہ اس کے آئینہ فکر و نظر پر کامل صد اقتین منکشف ہونے لگیں۔ سو جو جو علوم و معارف اور دقائق و حقائق اور لطائف و نکات اور ادلہ و براہین اُسے سوجھے اور جنہیں اس نے تفسیر کبیر اور اپنی دوسری کتب میں بیان کیا۔ وہ اپنی کمیت اور کیفیت میں ایسے کامل مرتبہ پر واقع ہیں کہ جو یقیناً خارق عادت ہے اور جس کا مقابلہ کسی دوسرے کے لئے ممکن نہیں۔ کیونکہ تفسیر کا یہ خارق عادت معجزہ اس کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اسے غیبی تفہیم اور خدائے صمد اور قدوس کی تائید سے اس نے لکھا تھا اور یہی خوارق اس کی عالی منزلت اور حسن و احسان میں مسیح محمدی کا مثیل ہونا ثابت کرتے ہیں اور خدائی بشارات اور الہی تفہیم کے مطابق دین و دنیا کے علوم و نکات کے بیان میں وہ اپنے ہم عصروں سے اس قدر سبقت لے گیا کہ اس کی تقریروں کو سن کر اور اس کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے اور پرانے اس اعتراف پر مجبور ہوئے کہ اس کے بیان کردہ علوم و معارف ایک دوسرے ہی عالم سے ہیں۔ جن کا دنیوی تعلیم و تدریس سے دُور کا بھی واسطہ نہیں اور جو تائیدات الہیہ کے خاص رنگ سے رنگین ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت نے حضرت مصلح موعودؑ کو علوم ظاہری اور باطنی میں برتری عطا کی تھی اور اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے جو قوتیں آپ کو بخشی گئیں ان کو ثابت کرنے کے لئے آپ نے متعدد بار دنیا کو لگا لگا کر کوئی نہ تھا جو آپ کے مقابلہ پر آنے کی جرأت کرتا۔ ۱۹۱۷ء میں آپ نے تمام دنیا کو مندرجہ ذیل الفاظ میں چیلنج دیا۔

”میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام دنیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر کوئی

شخص ایسا ہے جسے اسلام کے مقابلہ میں اپنے مذہب کے سچا ہونے کا یقین ہے۔ تو آئے

اور آ کر ہم سے مقابلہ کرے۔ مجھے تجربہ کے ذریعہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسلام ہی زندہ مذہب ہے اور کوئی مذہب اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے اور ایسے حالات میں قبول کرتا ہے جبکہ ظاہری سامان بالکل مخالف ہوتے ہیں اور یہی اسلام کے زندہ مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو آئے اور آزمائے ہاتھ لگن کو آرسی کیا۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں۔ جنہیں یقین ہے کہ ہمارا مذہب زندہ ہے تو آئیں ان کے ساتھ جو خدا کا تعلق اور محبت ہے اس کا ثبوت دیں۔ اگر خدا کو ان سے محبت ہوگی تو وہ مقابلہ میں ضرور ان کی مدد اور تائید کرے گا۔۔۔۔۔ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ مقابلہ پر آئیں۔ تاکہ ثابت ہو کہ خدا کس کی مدد کرتا ہے اور کس کی دعا سنتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہئے کہ اپنی طرف سے لوگوں کو اس مقابلہ کے لئے کھڑا کریں۔ لیکن اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں مقابلہ کرتا ہوں بلکہ ان کو مقابلہ پر آنا چاہیے۔ جو کسی مذہب یا فرقہ کے قائم مقام ہوں۔ اُس وقت دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کس کی دعا قبول کرتا ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہماری ہی دعا قبول ہو گی افسوس ہے کہ مختلف مذاہب کے بڑے لوگ اس مقابلہ پر آنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ مقابلہ کے لئے نکلیں تو ان کو ایسی شکست نصیب ہوگی کہ پھر مقابلہ کرنے کی انہیں جرأت ہی نہ رہے گی، (زندہ مذہب انوار العلوم جلد نمبر ۳ صفحہ ۶۱۲، ۶۱۳)

۱۹۳۶ء میں آپ نے دنیا کو یہ چیلنج دیا:

”قرآن کریم کو وہ عظمت حاصل ہے جو دنیا کی اور کسی کتاب کو حاصل نہیں اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کی مذہبی کتاب بھی اس فضیلت کی حامل ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔ اگر کوئی وید کا پیرو ہے تو وہ میرے سامنے آئے۔ اگر کوئی توریت کا پیرو ہے تو وہ میرے سامنے آئے۔ اگر کوئی انجیل کا پیرو ہے تو وہ میرے سامنے آئے اور قرآن کریم کا کوئی ایسا استعارہ میرے سامنے رکھ دے جس کو میں بھی استعارہ سمجھوں۔ پھر میں اس کا حل قرآن کریم سے ہی پیش نہ کر دوں تو وہ پیشک مجھے اس دعویٰ میں جھوٹا سمجھے لیکن اگر پیش کر دوں تو اُسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سوا دنیا کی اور کوئی

کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں، (فضائل القرآن (۶)۔ انوار العلوم جلد نمبر ۴ صفحہ ۴۰۸) ۱۹۳۸ء میں آپ نے فرمایا۔

”صرف یہی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہی یہ بات تھی بلکہ آپ آگے بھی یہ چیز دے گئے ہیں اور آپ کے طفیل مجھے بھی ایسے قرآن کریم کے معارف عطا کئے گئے ہیں کہ کوئی شخص خواہ وہ کسی علم کا جاننے والا اور کسی مذہب کا پیروہو۔ قرآن کریم پر جو چاہے اعتراض کرے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قرآن کریم سے ہی اس کا جواب دوں گا۔ میں نے بارہا دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ معارف قرآن میرے مقابلہ میں لکھو حالانکہ میں کوئی مامور نہیں ہوں مگر کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہوا۔ اور اگر کسی نے اُسے منظور کرنے کا اعلان بھی کیا تو بے معنی شرائط سے مشروط کر کے ٹال دیا۔ مثلاً یہ کہ بند کمرہ ہو کوئی کتاب پاس نہ ہو مگر اتنا نہیں سوچتے کہ اگر خیال ہے میں پہلی کتب اور تفاسیر سے معارف نقل کر لوں گا۔ تو وہی کتب تمہارے پاس بھی ہوں گی تم بھی ایسا ہی کر سکتے ہو۔ پھر اگر میں دوسری کتب سے نقل کروں گا۔ تو خود اپنے ہاتھ سے اپنی ناکامی ثابت کر دوں گا۔ کیونکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ نئے معارف بیان کروں گا لیکن مقابلہ کے وقت جب پرانی تفاسیر سے نقل کروں گا۔ تو خود ہی میرے لیے شرمندگی اور ندامت کا موجب ہوگا مگر میں جانتا ہوں یہ سب بہانے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی کو سامنے آنے کی جرأت ہی نہیں“

(تحقیق حق کا صحیح طریق۔ انوار العلوم جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۴۱۰، ۴۱۱)

پھر مارچ ۱۹۴۴ء میں آپ نے دنیا کو لاکار اور چیلنج دیا

کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے اور میرے اندر اس نے ایسا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ جس طرح کسی کو خزانہ کی کنجی مل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی افضلیت اس پر ظاہر نہ کر سکوں یہ لاہور شہر ہے۔ یہاں یونیورسٹی موجود ہے کئی کالج یہاں کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے علوم کے ماہر اس جگہ پائے جاتے ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں دنیا کے کسی علم کا ماہر میرے سامنے آ جائے۔ دنیا کا کوئی

پروفیسر میرے سامنے آجائے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان میرے سامنے آجائے اور وہ اپنے علوم کے ذریعہ قرآن کریم پر حملہ کر کے دیکھ لے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُسے ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا تسلیم کرے گی کہ اس کے اعتراض کا رد ہو گیا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام سے ہی اس کو جواب دوں گا اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ سے ہی اس کے اعتراضات کو رد کر کے دکھا دوں گا۔“

(میں ہی مصلح موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ انوار العلوم جلد نمبر ۷ صفحہ ۷۲۷)

دسمبر ۱۹۴۴ء میں فرمایا:-

ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا اور اس لئے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعہ اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے۔ پھر میں وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لئے بھیجا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے واہمہ اور گمان میں بھی نہیں آسکتے تھے۔ وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے۔ بلکہ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردہ پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کے لئے تیار ہوں لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے پردہ پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو۔ خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانہ میں اس نے قرآن سکھانے کے لئے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے خدا نے مجھے اس غرض کے لئے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلہ میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگالے وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں۔ یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے دنیا کی تمام بڑی بڑی مال دار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور

”مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لئے متحد ہو جائیں۔ پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلہ میں ناکام رہیں گی اور وہ خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا اور خدا میرے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعہ سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقہ اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا۔ جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا ”زندہ نبی“ تسلیم نہ کر لیا جائے۔۔۔۔۔

میں اس سچائی کو نہایت کھلے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آواز وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت سے ہے۔ یہ سچائی نہیں ٹلے گی۔ نہیں ٹلے گی۔ اور نہیں ٹلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا مسیحیت دنیا میں مغلوب ہو کر رہے گی۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے خدا میرے ہاتھ سے اس کو شکست دے گا اور یا تو میری زندگی میں ہی اس کو اس طرح چل کر رکھ دے گا کہ وہ سر اٹھانے کی بھی تاب نہیں رکھے گی اور یا پھر میرے بوئے ہوئے بیج سے وہ درخت پیدا ہوگا جس کے سامنے عیسائیت ایک خشک جھاڑی کی طرح مرجھا کر رہ جائے گی اور دنیا میں چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلندیوں پر اڑتا ہوا دکھائی دے گا“ (الموعود، انوار العلوم جلد ۱، ۶۳۶ تا ۶۳۸)

پھر آپ نے فرمایا:

”خدا تعالیٰ کی صفت علیم جس شان اور جس جاہ و جلال کے ساتھ میرے ذریعہ جلوہ گر ہوئی اس کی مثال مجھے خلفاء کے زمرہ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ میں وہ تھا جسے کل کا بچہ کہا جاتا تھا۔ میں وہ تھا جسے احمق اور نادان قرار دیا جاتا تھا مگر عہدہ خلافت کو سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآنی علوم اتنی کثرت کے ساتھ کھولے کہ اب قیامت تک امت مسلمہ اس بات پر مجبور ہے کہ میری کتابوں کو پڑھے اور ان سے فائدہ اٹھائے وہ کون سا اسلامی

مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ اپنی تمام تفصیل کے ساتھ نہیں کھولا۔ مسئلہ نبوت، مسئلہ کفر، مسئلہ خلافت، مسئلہ تقدیر، قرآنی ضروری امور کا انکشاف اسلامی اقتصادیات، اسلامی سیاسیات اور اسلامی معاشرت وغیرہ پر تیرہ سو سال سے کوئی وسیع مضمون موجود نہیں تھا۔ مجھے خدا نے اس خدمتِ دین کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے ہی ان مضامین کے متعلق قرآن کے معارف کھولے۔ جن کو آج دوست دشمن سب نقل کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی لاکھ گالیاں دے۔ مجھے لاکھ برا بھلا کہے۔ جو شخص اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے لگے گا۔ اسے میرا خوشہ چیں ہونا پڑے گا اور وہ میرے احسان سے کبھی باہر نہیں جاسکے گا چاہے پیغامی ہوں یا مصری۔ ان کی اولادیں جب بھی دین کی خدمت کا ارادہ کریں گی۔ وہ اس بات پر مجبور ہوں گی کہ میری کتابوں کو پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں بلکہ میں بغیر فخر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس بارہ میں سب خلفاء سے زیادہ مواد میرے ذریعہ سے جمع ہوا ہے اور ہورہا ہے پس مجھے یہ لوگ خواہ کچھ کہیں۔ خواہ کتنی بھی گالیاں دیں ان کے دامن میں اگر قرآن کے علوم پڑیں گے تو میرے ذریعہ ہی اور دنیا ان کو یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ اے نادانو! تمہاری جھولی میں تو جو کچھ بھرا ہوا ہے۔ وہ تم نے اسی سے لیا ہے پھر اس کی مخالفت تم کس منہ سے کر رہے ہو۔“

(خلافت راشدہ انوار العلوم جلد نمبر ۱۵ صفحہ ۲۸۷، ۲۸۸)

خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اس کے متعلق میں نے بہت سی تفصیلات جمع کی تھیں لیکن اس وقت میں صرف وہ نقشہ ہی پیش کر سکتا ہوں جو میں نے اس غرض کے لئے تیار کروایا ہے اور وہ یہ ہے۔

۱۔ تفسیر

اس سلسلہ میں حضور کی ایک کتاب تو تفسیر کبیر ہے جو خود اتنی عجیب تفسیر ہے کہ جس شخص نے بھی غور سے اس کے کسی ایک حصہ کو پڑھا ہوگا وہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اگر دنیا میں کوئی خدا رسیدہ بزرگ پیدا ہوتا اور وہ صرف یہ حصہ قرآن کریم کا تفسیری نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیتا تو یہ اس کو دنیا کی نگاہ میں بزرگ ترین انسانوں میں سے ایک انسان بنانے کے لئے کافی تھا یعنی اس

پر ہی بس نہیں۔ قرآن کریم پر اور بہت سی کتب لکھیں اور میرا خیال ہے کہ حضور نے صرف قرآن کریم کی تفسیر پر ہی آٹھ دس ہزار صفحات لکھے ہیں تفسیر کبیر کی گیارہ جلدات بھی ان میں شامل ہیں۔

۲۔ کلام کے اوپر حضور نے دس کتب اور رسائل لکھے۔

۳۔ روحانیات، اسلامی اخلاق اور اسلامی عقائد پر اکتیس کتب اور رسائل تحریر فرمائے

۴۔ سیرت و سوانح پر تیرہ کتب و رسائل لکھے۔

۵۔ تاریخ پر چار کتب و رسائل۔

۶۔ فقہ پر تین کتب و رسائل۔

۷۔ سیاسیات قبل از تقسیم ہند و پچیس کتب و رسائل۔

۸۔ سیاسیات بعد از تقسیم ہند و قیام پاکستان نو کتب و رسائل۔

۹۔ سیاسیات کشمیر پندرہ کتب اور رسائل۔

۱۰۔ تحریک احمدیت کے مخصوص مسائل و تحریکات پر ایک کم سو کتب و رسائل۔

ان سب کتب و رسائل کا مجموعہ ۲۲۵ بنتا ہے۔ تو جیسا کہ فرمایا تھا۔ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا حضور کی ان کتب پر ایک نظر ڈال لیں تو ان میں علوم ظاہری بھی نظر آتے ہیں اور علوم باطنی بھی نظر آتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ جب بھی آپ نے کوئی کتاب یا رسالہ لکھا۔ ہر شخص نے یہی کہا کہ اس سے بہتر نہیں لکھا جا سکتا سیاست میں جب آپ نے قیادت سنبھالی یا جب بھی آپ نے سیاست کے بارہ میں قائدانہ مشورے دیئے بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے مثال قابلیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ غرض حضور کے علوم ظاہری و باطنی سے پُر ہونے کے متعلق ایک بڑی تفصیل ہے جس کے ہزاروں حصہ میں بھی میں نہیں جا سکتا صرف ایک سرسری سی چیز آپ کے سامنے رکھ کر اس حصہ کو ختم کرتا ہوں پھر دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ اقوام عالم پر ظاہر کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ علوم و معارف جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے آپ کو عطا ہوئے۔ ان کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جائے۔ اگر خالی اردو میں ہی وہ علوم لکھے جاتے تو آپ کا دعویٰ بے معنی بن کر رہ جاتا کیونکہ غیر ممالک اور غیر اقوام اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتیں۔ پس اگر اس مصلح موعود کے ذریعہ سے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ تمام اقوام عالم پر ظاہر ہونا تھا۔ تو

اس کے ذریعہ ظاہر ہونے والے علوم و معارف کا ترجمہ تمام دنیا کی زبانوں یا دنیا کی ان زبانوں میں ہونا ضروری تھا۔ جو دنیا کے اکثر حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں مجھے ابھی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تدبیر کی کہ دنیا کے بہت سے ممالک صرف دو تین قوموں کے سیاسی اقتدار کے نیچے آگئے۔ اس میں دنیا کے لئے ایک بڑا روحانی فائدہ مضمر تھا اور وہ فائدہ یہ تھا کہ اشاعت اسلام کا کام آسان ہو جائے۔ ورنہ مسیح محمدی کے زمانہ میں اس وقت تک آپ کا پیغام تمام دنیا میں نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک دنیا کی ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ نہ کیا جاتا چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دنیا کی اقوام میں سے کچھ تو میں انگریزوں کے اقتدار کے نیچے آگئیں کچھ فرانسیسیوں کے اقتدار کے نیچے آگئیں اور کچھ جرمنوں کے اقتدار کے نیچے آگئیں۔ اس لئے ہم اسلام کا پیغام ان تین زبانوں کے ذریعہ اقوام عالم کی خاصی بڑی تعداد تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر روسی اور چینی بھی شامل کر لئے جائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اسی، نوے فیصدی آبادی کو ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے لئے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش اور قربانیوں اور مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی اللہ تعالیٰ کے سارے ہی کام حکمت سے پُر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔

غرض یہ ضروری تھا کہ ان علوم و معارف کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کروایا جاتا چنانچہ اس کی طرف حضور نے خاص توجہ دی اور بڑی کوشش فرمائی سب سے ضروری کام تو قرآن کریم کے صحیح تراجم کا دنیا میں پھیلانا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضور نے جو کام شروع کروائے ان میں سے کچھ تو پورے ہو گئے ہیں اور کچھ پورے ہونے والے ہیں۔

انگریزی زبان میں ترجمہ قرآن کریم (جیسا کہ آپ جانتے ہیں) شائع ہو چکا ہے اس طرح تفسیر القرآن بھی شائع ہو چکی ہے۔ جرمنی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے نیز سورہ کہف کی تفسیر بھی شائع ہو چکی ہے ڈچ زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے ڈینش زبان میں قرآن کریم کے پہلے سات پاروں کا ترجمہ مع مختصر تفسیری نوٹ شائع ہو چکا ہے۔ مشرقی افریقہ کے لئے سواحیلی زبان میں ترجمہ مع مختصر تفسیری نوٹ شائع ہو چکا ہے۔ لوگنڈی زبان میں قرآن کریم کے پہلے پانچ پاروں کا ترجمہ مع تفسیری نوٹ شائع ہو چکا ہے۔ مغربی افریقہ کے لئے مینڈی زبان میں پہلے پارہ کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے اس کے علاوہ کئی تراجم

کئے گئے ہیں۔ فرانسیسی زبان میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے نظر ثانی ہو رہی ہے ہسپانوی زبان میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے نظر ثانی ہو رہی ہے۔ اٹالین زبان میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ نظر ثانی ہو رہی ہے۔ روسی زبان میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے نظر ثانی کروانی باقی ہے۔ پرتگیزی زبان میں ترجمہ تیار ہے نظر ثانی کروانی باقی ہے۔ ڈینش زبان میں بقیہ تیئیس پاروں کا ترجمہ مع تفسیری نوٹ تیار ہے۔ طباعت کا انتظام کیا جا رہا ہے مشرقی افریقہ کے لئے کیکو یو زبان میں ترجمہ تیار ہے نظر ثانی کروانی باقی ہے۔ کیکا ماز زبان میں ترجمہ تیار ہے نظر ثانی کروانی باقی ہے مغربی افریقہ کے لئے مینڈی زبان میں بقیہ ۲۹ پاروں میں سے ۲۰ پاروں کا ترجمہ ہو چکا ہے ۹ پاروں کا ترجمہ کروایا جا رہا ہے۔ انڈونیشین زبان میں دس پاروں کا ترجمہ مع مختصر تفسیری نوٹ مکمل ہے بقیہ بھی زیر تکمیل ہے۔ تراجم قرآن کریم کے علاوہ بہت سی کتب کا حضور نے مختلف زبانوں میں ترجمہ کروایا اور ان کی اشاعت کروائی مثلاً احمدیت یعنی حقیقی اسلام، اسلامی اصول کی فلاسفی وغیرہ جن کتابوں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کروایا گیا ہے۔ ان کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ یہاں بیان نہیں کی جاسکتی غرض قرآن کریم کے علوم اور معارف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ ضروری تھا کہ ان کو کثرت سے دنیا میں پھیلا یا جاتا اور یہ کام ہونہیں سکتا تھا جب تک کہ ان کے تراجم دوسری زبانوں میں نہ کرائے جاتے اور اس کام کو بڑی حد تک حضرت مصلح موعودؑ نے پورا کیا اور بہت سا کام باقی ہے وہ انشاء اللہ اپنے وقت پر ہو جائے گا۔

پھر دنیا اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ بنی نوع انسان پر ظاہر کرنے کے لئے تمام دنیا میں مساجد کا ایک جال پھیلا یا جانا ضروری تھا۔ حضور نے اس کی طرف بھی خاص توجہ دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک کئی ممالک میں مساجد تعمیر کروائی جا چکی ہیں۔

مساجد کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ مساجد دینی علوم سیکھنے کے لئے درس گاہوں کا کام دیتی ہیں اور تربیت کے لئے مساجد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر مسجد کو اخلاص، نیک نیتی اور ”اُسَسَّ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ“ کے طور پر بنایا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک نمازی بھی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی مساجد کے لئے نمازی پیدا کر دیتا ہے۔ غرض مساجد انسانی معاشرہ کے اندر بڑا ضروری کردار ادا کرتی ہیں۔ حضرت مصلح موعودؑ نے اس طرف

خاص توجہ دی اور آپ کے مبارک عہد میں جو مساجد تعمیر ہوئیں۔ ان کی فہرست درج ذیل ہے۔

امریکہ، ۳۔ انگلستان، ۱۔ سوئٹزرلینڈ، ۱۔ ہالینڈ، ۱۔ فلسطین، ۱۔ برما، ۲۔ ماریشس،
۶۔ انڈونیشیا، ۷۔ غانا، ۱۶۲۔ سیرالیون، ۳۰۔ نائیجیریا، ۲۰۔ یوگنڈا، ۴۔ کینیا، ۳۔ ٹانگانیکا،
۲۔ جرمنی، ۲۔ شمالی بورنیو، ۳۔ کل تعداد ۳۳۱۔

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامات پر مساجد زیر تعمیر ہیں۔

۱۔ ہمالے (غانا) ۲۔ مساکا (یوگنڈا) ۳۔ ٹانگا (تنزانیہ) ۴۔ گیمبیا (جس کے گورنر جنرل
جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا۔ ایک احمدی دوست مقرر ہوئے ہیں) ۵۔ فری ٹاؤن
(سیرالیون) ۶۔ نائیجیریا میں اس وقت پانچ مساجد زیر تعمیر ہیں۔ ۷۔ ڈنمارک میں احمدی بہنوں
کی کوشش اور چندہ سے ایک مسجد بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔

پھر دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ اقوام عالم پر ظاہر کرنے کے لئے یہ بھی نہایت
ضروری تھا کہ ایسے مخلصین کا ایک گروہ تیار کیا جائے جو نامساعد حالات کی پروا نہ کرتے ہوئے
اکتاف عالم میں پھیل جائے اور وہ ملک کے قریہ قریہ میں اسلام کی نورانی شمعیں فروزاں کرتے
چلے جائیں۔ حضور کی توجہ سے ایک سو چونسٹھ ایسے واقفین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں
میں مندرجہ ذیل ممالک میں اسلام کی اشاعت کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔

انگلستان، فرانس، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، سپین، ڈنمارک، سویڈن، ہنگری، سسلی، اٹلی، روس،
جرمنی، انڈونیشیا، سنگاپور، ملائیشیا، جزائر فیجی، بورنیو، برما، ہانگ کانگ، ایران، جاپان، فلپائن،
سیلون، شام، لبنان، عدن، دوبئی، فلسطین، اردن، مسقط، مصر، غانا، سیرالیون، ٹوگولینڈ، لائبیریا،
آئیوری کوسٹ، نائیجیریا، گیمبیا، کینیا، یوگنڈا، تنزانیہ، ماریشس، برٹش گی آنا، ٹرینی ڈاڈ،
ڈچ گی آنا، ارجنٹائن

گویا حضور نے اپنے عہد مبارک میں چھیالیس ملکوں میں اپنے مشن قائم کیے اور ان مشنوں
نے جو کام کیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے مہینوں میں بھی بیان نہیں کیا جاسکتا۔

غیر ممالک میں ہماری جماعتیں بڑی ہی مخلص ہیں ان کے ممبران صرف نام کے احمدی یا مسلم
ہی نہیں بلکہ وہ توحید باری پر پختگی سے قائم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے بہت سے ایسے ہیں جنہیں سچی خوابیں آتی ہیں اور ہر رنگ میں وہ روحانی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ حضور کے وصال پر ان احباب کی طرف سے جو خطوط ملے ہیں ان سے ان کے اخلاص کا علم ہوتا ہے ان خدا رسیدہ لوگوں میں سے ایک کا خواب میں بطور نمونہ سناتا ہوں تا وہ دوستوں کے ازدیاد ایمان کا موجب ہو۔ وہ خدا رسیدہ اور دین اسلام کا ایک حبشی تھا جس کا رنگ سیاہ اور ہونٹ لٹکے ہوئے تھے دنیا کی مہذب قومیں اسے حقارت سے دیکھتی تھیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل خدا تعالیٰ کی نظر کرم اس پر پڑی اور وہ اس سے ہم کلام ہوا یہ ہیں ہمارے دوست امری عبیدی اور ان کا انتخاب میں نے اس لئے بھی کیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ ہوا جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں یہ دوست احمدیت کے شیدائی اور فدائی تھے ربوہ میں بھی کچھ عرصہ رہ کر گئے ہیں وہ خواب بین انسان تھے انہیں بڑی واضح اور سچی خوابیں خدا تعالیٰ نے دکھائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسٹر جولیس نیریرے (Mr. Julius Nyerere) کرسی پر بیٹھے ہیں مجھے دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کرسی پر مجھے بٹھا دیا کچھ عرصہ تک وہ اس خواب کی کوئی اور تعبیر سمجھتے رہے لیکن یہ خواب اس طرح پوری ہوئی کہ آزادی کے بعد لیجسٹو کونسل (Legislative Council) بنی اس کے افریقن ممبران کی ایک سوسائٹی تھی اور جولیس نیریرے جو ٹانگانیکا افریقن نیشنل یونین کے پریزیڈنٹ ہونے کے باعث لیجسٹو کونسل (Legislative Council) کی افریقن پارٹی کے لیڈر تھے اس سوسائٹی کے صدر تھے۔ دوسرے سال جب سوسائٹی کا انتخاب ہوا۔ تو مسٹر جولیس نیریرے کو دوبارہ صدر چن لیا گیا سوسائٹی کے اس اجلاس میں مسٹر جولیس نیریرے موجود نہیں تھے۔ انہیں اطلاع بھجوائی گئی چنانچہ وہ آئے انہوں نے آکر شیخ امری عبیدی کو جو اس وقت لیجسٹو کونسل کے ممبر بن چکے تھے بازو سے پکڑا اور کرسی پر بٹھا دیا اور کہا کہ یہ آپ کے چیئرمین ہیں۔ گویا خواب میں جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسے لفظ بلفظ پورا کر دیا اور یہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام کے گرویدہ ہو رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہو رہے ہیں خالی دلائل کے ساتھ یہ اخلاص پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے قوتِ قدسیہ کی ضرورت تھی اس نور کی ضرورت

تھی جو ربوہ میں بیٹھا تھا۔ اس کی نورانی کرنیں ایک طرف افریقہ کے ممالک میں پہنچ رہی تھیں اور دوسری طرف یورپ اور امریکہ کے ممالک کو روشن کر رہی تھیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جو کچھ کہا تھا وہ لفظ بلفظ پورا ہوا کہ۔

”وہ اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا“

”وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا

اور تو میں اس سے برکت پائیں گی“

آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بیرون ممالک میں قائم ہونے والی جماعتوں میں سے بعض اپنی قربانیوں میں ہم سے کم نہیں مثلاً انڈونیشیا کے چندہ دھندگان کی تعداد قریباً پاکستان کے چندہ دھندگان کے برابر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح افریقین ممالک میں بڑی قربانی کرنے والی جماعتیں ہیں وہ مالی قربانیاں بھی کرتی ہیں، وقت کی قربانیاں بھی کرتی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں۔ ان لوگوں کا نمونہ اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ غیروں کو اسلام کی طرف کھینچنے والا اور جذب کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ

”ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے“

اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً روح کے ایک معنی قرآنی محاورہ میں یہ ہیں کہ وہ کلام جو اُخروی حیات کا سبب اور ایک ذریعہ ہو۔ گویا قرآنی محاورہ میں روح قرآن کریم کو کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا (الشوریٰ: ۵۳)

اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ یہ مرتبہ عالیہ حضرت مصلح موعودؑ کو بکمال حاصل تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی معرفت کو اور آپ کی خدا شناسی کو بذریعہ کشف صادقہ اور الہامات صریحہ اور مکالمات و مخاطبات کمال تک پہنچا دیا ہوا تھا۔ چنانچہ سرسری تحقیق کے بعد جو علم مجھے حاصل ہوا ہے یہ ہے کہ حضور کے رویائے صالحہ اور کشف کی مجموعی تعداد کم و بیش پانچ سو اور حضور کے الہامات کی تعداد ۸۸ کے قریب ہے۔ غرض یہ ایک بڑا مجموعہ ہے اور ابھی تو یہ محض سرسری ہے بہت ممکن ہے ان کی تعداد

اس سے زیادہ ہو لیکن اتنی تو بہر حال ہے ان پیشگوئیوں میں سے جو حضور نے بیان فرمائیں لیکن بعض بطور نمونہ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پیشگوئی جو حضور نے بیان فرمائی یہ ہے۔

ہماری جماعت کی ترقی کا زمانہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت قریب آ گیا ہے اور وہ دن دور نہیں جبکہ افواج در افواج لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ مختلف ملکوں سے جماعتوں کی جماعتیں داخل ہوں گی اور وہ زمانہ آتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر احمدی ہوں گے اور ابھی سے مختلف اطراف سے خوشخبری کی ہوائیں چل رہی ہیں اور جس طرح خدا کی یہ سنت ہے کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے تاکہ غافل لوگ آگاہ ہو جائیں اور اپنے مال و اسباب کو سنبھال لیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے ہماری ترقی کی ہوائیں چلا دی ہیں پس ہوشیار ہو جاؤ۔ آپ لوگوں میں سے خدا کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں۔ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت پائی ہے۔ آپ کے منہ سے باتیں سنی ہیں۔ آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ آنے والوں کے لئے ہدایت اور راہنمائی کا باعث ہوں۔ کیونکہ کوئی ایک شخص بہتوں کو نہیں سکھا سکتا۔“

(انوار خلافت۔ انوار العلوم جلد ۳ صفحہ ۱۶۵)

اب دیکھیں کہ حضور کی یہ پیشگوئی کہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس سلسلہ میں مختلف ملکوں سے جماعتیں کی جماعتیں داخل ہوں گی۔ کس شان سے پوری ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ حضور نے ۱۹۱۵ء میں کہے تھے اور ۱۹۳۴ء میں تحریک جدید کا افتتاح ہوا ہے۔ جس کے ذریعہ غیر ممالک میں باقاعدہ تبلیغ جاری کی گئی ہے۔ ۱۹۱۵ء میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ۱۹۱۴ء میں جماعت کے صاحب اثر لوگ مرکز سے لاہور چلے گئے اور خزانہ اور دوسرا سامان ساتھ لے گئے۔ جب خلافت ثانیہ قائم ہوئی ہے اس وقت خزانہ میں صرف چند آنے تھے اور ۱۹۱۵ء میں حضور نے مذکورہ بالا پیشگوئی کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سال اور چند ماہ میں جماعت کی قوت اور طاقت اتنی نہیں بڑھی تھی کہ اس کو دیکھتے ہوئے کوئی قیاساً یہ الفاظ کہہ سکتا یہ الفاظ وہی کہہ سکتا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے پہلے سے اس کا علم دیا ہو۔

پھر فرماتے ہیں۔

”دیکھو میں آدمی ہوں اور جو میرے بعد ہوگا وہ بھی آدمی ہی ہوگا۔ جس کے زمانہ میں

فتوحات ہوں گی۔ وہ اکیلا سب کو نہیں سکھا سکے گا تم ہی لوگ ان کے معلم بنو گے۔ پس اس وقت تم خود سیکھو تا ان کو سکھا سکو۔ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ دنیا کے لئے پروفیسر بنا دیے جاؤ اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ تم خود پڑھو تا آنے والوں کے لئے استاد بن سکو۔ اگر تم نے خود نہ پڑھا تو ان کو کیا پڑھاؤ گے۔ ایک نادان اور جاہل استاد کسی شاگرد کو کیا پڑھا سکتا ہے‘ (انوار خلافت۔ انوار العلوم جلد ۳، صفحہ ۱۷۰)

۱۹۱۴ء میں آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی۔

”پہلا فرض خلیفہ کا تبلیغ ہے جہاں تک میں نے غور کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں بچپن ہی سے میری طبیعت میں تبلیغ کا شوق رہا ہے اور تبلیغ سے ایسا انس رہا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں چھوٹی سی عمر میں بھی ایسی دعائیں کرتا تھا اور مجھے ایسی حرص تھی کہ اسلام کا جو کام بھی ہو میرے ہی ہاتھ سے ہو میں اپنی اس خواہش کے زمانہ سے واقف نہیں کہ کب سے ہے۔ میں جب دیکھتا تھا اپنے اندر اس جوش کو پاتا تھا اور دعائیں کرتا تھا کہ اسلام کا جو کام ہو میرے ہی ہاتھ سے ہو پھر اتنا ہوا اتنا ہو کہ قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہ ہو جس میں اسلام کی خدمت کرنے والے میرے شاگرد نہ ہوں میں نہیں سمجھتا تھا اور نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جوش اسلام کی خدمت کا میری فطرت میں کیوں ڈالا گیا۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جوش بہت پرانا ہے۔ غرض اسی جوش اور خواہش کی بناء پر میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ میرے ہاتھ سے تبلیغ اسلام کا کام ہو۔

اور میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میری ان دعاؤں کے جواب میں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں غرض تبلیغ کے کام سے مجھے بڑی دلچسپی ہے یہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ سب دنیا ایک مذہب پر جمع نہیں ہو سکتی اور یہ بھی سچ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو نہیں کر سکے اور کون ہے جو اسے کر سکے یا اس کا نام بھی لے لیکن اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خادم اور غلام توفیق دیا جاوے کہ ایک حد تک تبلیغ اسلام کے کام کو کرے تو یہ اس کی اپنی کوئی خوبی اور کمال نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے میرے دل میں تبلیغ کے لئے اتنی تڑپ تھی

میری مددگار ہوں گی۔

میں خیالی طور پر نہیں کامل یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ ان کاموں کی تکمیل واجراء کے لئے کسی محاسب کی تحریکیں کام نہیں دیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود سے خود وعدہ کیا ہے کہ **يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُّوحِيَّ اِلَيْهِمْ تِيرِي** مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم وحی کریں گے پس ہمارے محاسب کا عہدہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ روپیہ دینے کی تحریک ہم خود لوگوں کے دلوں میں کریں گے۔ ہاں جمع کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ بعض انسان بھی ہماری اس تحریک کو پھیلا کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پس خدا آپ ہی ہمارا محاسب اور محصل ہوگا۔ اسی کے پاس ہمارے سب خزانے ہیں ہاں ثواب کا ایک موقع ہے۔ مبارک وہ جو اس نے فائدہ اٹھاتا ہے“

(منصب خلافت۔ انوار العلوم جلد نمبر ۲ صفحہ ۳۵ تا ۳۸)

پیشگوئی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ”وہ اپنے کاموں میں اولوالعزم ہوگا“ مردِ مومن کا عزم تو کُل کی بنیادوں پر بلند ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (ال عمران: ۱۶۰)

عزم اور توکل میں بڑا گہرا تعلق ہو ہے دراصل یہ ایک ہی چیز کے دوسرے ہیں اور جہاں تک ہم نے حضرت مصلح موعودؑ کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا خود بھی شاہد ہے اور ہم بھی اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا محبوب مصلح موعودؑ توکل کے ایک بلند مقام پر فائز تھا۔ قوت توکل اور نور معرفت اُسے ایسے تھامے تھا کہ بسا اوقات بے سرو سامان ہوتے ہوئے اور اسباب عادیہ سے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی بشاشت اور انشراح صدر سے اس نے زندگی بسر کی نامساعد حالات میں بھی اُس نے ایسی خوشی سے دن گزارے کہ گویا اس کے پاس ہزاروں خزانے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی ”صاحب دولت“ ہونے کی مستقل مزاجی دنیا نے آپ کے چہرہ پر دیکھی اور تنگی کی حالت میں بھی بکمال کشادہ دلی اور یقین کامل اپنے مولیٰ کریم پر بھروسہ رکھا۔ سیرت ایثار آپ کا مشرب تھا اور خدمت خلق آپ کی عادت، ہزار ہا غرباء کو آپ نے سہارا دیا۔ ہزار ہا یتیموں کی پرورش کی بے سہارا طلبہ کو تعلیم دلوائی بے سہارا بچوں کی شادیاں کروائیں اور یوں

معلوم ہوتا تھا کہ اگر سارا جہان بھی آپ کا عیال ہو جاتا تب بھی آپ کے دل میں کوئی انقباض پیدا نہ ہوتا۔ خدا خود آپ کا کارساز اور متولی تھا۔ جب کہ ۱۹۵۳ء میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور ہم اس بات کے عینی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیٹولسی الصالحین نیک اور برگزیدہ لوگوں کا متولی ہوتا ہے اولوالعزمی کی خارق عادت سیرت جو خاص اس وجود میں ظاہر ہوئی۔ کسی دوسرے میں ہمیں نظر نہیں آتی جب آپ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو جماعت کے اکابر کا بڑا حصہ آپ کا ساتھ چھوڑ بیٹھا تھا اور خزانہ خالی تھا مگر اس اولوالعزم وجود نے اپنے قادر و توانا خدا پر کامل بھروسہ رکھا اور اس کا دل ایک لمحہ کے لئے بھی گھبرایا نہیں اور نہ وہ مایوس ہوا اور دنیا نے اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کا ایک ظلی معجزہ دیکھا اور جب وہ اپنے مولیٰ کو پیارا ہوا تو دنیا کے طول و عرض میں لاکھوں دل اس کی یاد میں تڑپے اور لاکھوں روہیں اس کی بلندی درجات کے لئے دعائیں کرتی ہوئیں اپنے رب کے حضور جھکیں اور اپنے پیچھے آنے والوں کے لئے بھرا ہوا خزانہ اور ایک ایثار پیشہ قوم چھوڑ گیا۔ ربوہ کی سرزمین کا ذرہ ذرہ جسے اس نے اپنے آنسوؤں اور خون سے سینچا اس کی اولوالعزمی پر گواہ ہے اور ہم سب شاہد ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں اولوالعزم تھا پیشگوئی میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ دل کا حلیم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الْحَلِيمُ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا وَسَيِّدٌ فِي الْآخِرَةِ

یعنی حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو تمام صفات حسنہ سے متصف ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے سردار بنایا جائے گا۔ گویا خدا تعالیٰ نے ”وہ دل کا حلیم ہوگا“ کہہ کر بتایا وہ تمام صفات حسنہ سے متصف ہوگا اور تَخَلَّقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ (التعريفات جلد ۱ صفحہ ۲۱۶) کا مظہر کامل ہوگا اور ہم میں سے ہزاروں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارا آقا اور ہمارا محبوب مصلح موعودؐ اس زمرہ ابرار میں شامل تھا جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

”سخاوت، شجاعت، ایثار، علو ہمت، وفور شفتت، حلم حیا، موڈت یہ تمام اخلاق بھی بوجہ احسن اور انسب انہیں سے صادر ہوتے ہیں اور وہی لوگ بہ یمن متابعت قرآن شریف وفاداری سے اخیر عمر تک ہر یک حالت میں ان کو بخوبی و شائستگی انجام دیتے ہیں اور کوئی انقباض خاطر ان کو ایسا پیش نہیں آتا کہ جو اخلاق حسنہ کی کما ینبغی صادر ہونے سے ان

کو روک سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ خوبی علمی یا عملی یا اخلاقی انسان سے صادر ہو سکتی ہے وہ صرف انسانی طاقتوں سے صادر نہیں ہو سکتی بلکہ اصل موجب اس کے صدور کا فضل الہی ہے پس چونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ موردِ فضل الہی ہوتے ہیں اس لئے خود خداوند کریم اپنے تفصیلاتِ لامتناہی سے تمام خوبیوں سے ان کو متمتع کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ حقیقی طور پر بجز خدائے تعالیٰ کے اور کوئی نیک نہیں تمام اخلاقِ فاضلہ اور تمام نیکیاں اسی کے لئے مسلم ہیں۔ پھر جس قدر کوئی اپنے نفس اور ارادت سے فانی ہو کر اس ذاتِ خیر محض کا قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر اخلاقِ الہیہ اس کے نفس پر منعکس ہوتی ہیں۔ پس بندہ کو جو جو خوبیاں اور سچی تہذیب حاصل ہوتی ہے وہ خدائے ہی کے قرب سے حاصل ہوتی ہے اور ایسا ہی چاہئے تھا کیونکہ مخلوق فی ذاتہ کچھ چیز نہیں ہے سو اخلاقِ فاضلہ الہیہ کا انکا س انہیں کے دلوں پر ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن شریف کا کامل اتباع اختیار کرتے ہیں اور تجربہ صحیحہ بتلا سکتا ہے کہ جس مشربِ صافی اور روحانی ذوق اور محبت کے بھرے ہوئے جوش سے اخلاقِ فاضلہ ان سے صادر ہوتے ہیں اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی اگرچہ منہ سے ہر یک شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور لاف و گداز کے طور پر ہر یک کی زبان چل سکتی ہے مگر جو تجربہ صحیحہ کا تنگ دروازہ ہے۔ اس دروازہ سے سلامت نکلنے والے یہی لوگ ہیں اور دوسرے لوگ اگر کچھ اخلاقِ فاضلہ ظاہر کرتے بھی ہیں تو تکلف اور تصنع سے ظاہر کرتے ہیں اور اپنی آلودگیوں کو پوشیدہ رکھ کر اپنی بیماریوں کو چھپا کر اپنی جھوٹی تہذیب دکھلاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ امتحانوں میں ان کی قلعی کھل جاتی ہے اور تکلف اور تصنع اخلاقِ فاضلہ کے ادا کرنے میں اکثر وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اپنی دنیا اور معاشرت کا حسن انتظام وہ اسی میں دیکھتے ہیں اور اگر اپنی اندرونی آلائشوں کی ہر جگہ پیروی کریں۔ تو پھر مہماتِ معاشرت میں خلل پڑتا ہے اور اگرچہ بقدر استعداد فطرتی کے کچھ تخمِ اخلاق کا ان میں بھی ہوتا ہے مگر وہ اکثر نفسانی خواہشوں کے کانٹوں کے نیچے دبا رہتا ہے اور بغیر آمیزشِ اغراضِ نفسانی کے خالصاً اللہ ظاہر نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ اپنے کمال کو پہنچے اور خالصاً اللہ انہیں میں وہ تخمِ کمال کو پہنچتا ہے کہ جو خدا کے ہو رہتے ہیں اور جن کے نفوس کو خدائے تعالیٰ غیریت کی لوٹ سے بالکل خالی پا کر خود

اپنے پاک اخلاق سے بھر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں وہ اخلاق ایسے پیارے کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو آپ پیارے ہیں۔ پس وہ لوگ فانی ہونے کی وجہ سے تخلق باخلاق اللہ کا ایسا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ گویا وہ خدا کا ایک آلہ ہو جاتے ہیں جس کی توسط سے وہ اپنے اخلاق ظاہر کرتا ہے اور ان کو بھوکے اور پیاسے پا کر وہ آب زلال ان کو اپنے اس خاص چشمہ سے پلاتا ہے جس میں کسی مخلوق کو علی وجہ الاصلت اس کے ساتھ شرکت نہیں،

(براہین احمدیہ حصہ چہارم - روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۴۰ تا ۵۴۲ حاشیہ در حاشیہ)

غرض ہم نے پایا کہ ہمارا ”دل کا حلیم“ محبوب اس زمرہ ابرار میں شامل تھا۔

پھر خدا تعالیٰ نے پیشگوئی میں فرمایا تھا کہ ”وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا“ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیاں بہت سے واقعات کو چند لفظوں میں بیان کر دیتی ہیں اور وہ واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جن میں زمانی فاصلہ سالوں کا ہوتا ہے اور زمینی فاصلہ ہزار ہا میل کا ہوتا ہے لیکن ایک اچھا شکاری ایک فائر کے ساتھ ایک سے زائد پرندے گرا لیتا ہے حالانکہ اس کے پاس محدود اسباب اور محدود طاقت ہوتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جس کی طاقتیں غیر محدود ہیں اور جو ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔ اس کے لئے تو آسان ہے کہ وہ چھوٹی سی بات بیان کرے اور اس میں دو چار یادس باتیں پرور کر رکھ دے اور پھر وہ ساری کی ساری سچی ہوں اور نہ صرف خود علیحدہ طور پر پوری ہوں بلکہ پیشگوئی کو پورا کرنے والی ہوں۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ ”تین کو چار کرنے والا ہوگا“ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کیا معنی ہیں اب تک یہ الہام الہی کئی شکلوں میں پورا ہو چکا ہے اور ان کا ذکر ہمارے لٹریچر میں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فقرہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جن چار لڑکوں کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبر دی تھی ان میں سے چوتھا لڑکا حضرت مصلح موعود کے صلب سے پیدا ہوگا اور وہ بمنزلہ مبارک احمد ہوگا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا۔ ساتھ ہی خدا تعالیٰ

نے یہ الہام کیا۔ اِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ يَنْزِلُ مِنْزِلَ الْمُبَارَكِ۔ یعنی ایک

حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو اس لئے اس نے مجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ ۷۱-۷۲)

غرض اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔
 مصباح موعود تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ یعنی تین تو وہ بھائی ہوں گے اور چوتھے بیٹے کی جو بشارت دی گئی ہے۔ وہ اس کی صُلب سے پیدا ہوگا گویا اس کے ذریعہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اب میں کچھ اپنے متعلق کہنا چاہتا ہوں میں بغیر کسی جھجک اور تکلف کے آپ سب کے سامنے اور اپنے خدا کے حضور یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں تدلل نیستی اور انکسار کا وہ مقام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ میں اس مقام انکسار سے بھی کہیں نیچے ہوں کیونکہ حضور نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان کے کچھ کمالات کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے لیکن یہاں کوئی کمال نہیں البتہ ذلت انکسار اور عاجزی پوری پوری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”اور منجملہ عطیات کے ایک کمال عظیم جو قرآن شریف کے کامل تابعین کو دیا جاتا ہے عبودیت ہے یعنی وہ باوجود بہت سے کمالات کے ہر وقت نقصان ذاتی اپنا پیش نظر رکھتے ہیں اور شہود کبریائی حضرت باری تعالیٰ ہمیشہ تدلل اور نیستی اور انکسار میں رہتے ہیں اور اپنی اصل حقیقت، ذلت اور مفلسی اور ناداری اور پُر تقصیری اور خطا واری سمجھتے ہیں اور ان تمام کمالات کو جو ان کو دیئے گئے ہیں۔ اس عارضی روشنی کی مانند سمجھتے ہیں جو کسی وقت آفتاب کی طرف سے دیوار پر پڑتی ہے جس کو حقیقی طور پر دیوار سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہوتا اور لباس مستعار کی طرح معرض زوال میں ہوتی ہے۔ پس وہ تمام خیر و خوبی خدا ہی میں محصور رکھتے ہیں اور تمام نیکیوں کا چشمہ اسی کی ذات کامل کو قرار دیتے ہیں اور صفات الہیہ کے کامل شہود سے ان کے دل میں حق الیقین کے طور پر بھر جاتا ہے کہ ہم کچھ چیز نہیں ہیں۔

یہاں تک کہ وہ اپنے وجود اور ارادہ اور خواہش سے بکلی کھوئے جاتے ہیں اور عظمت الہی کا پُر جوش دریا ان کے دلوں پر ایسا محیط ہو جاتا ہے کہ ہزار ہا طور کی نیستی ان پر وارد ہو جاتی ہے اور شرک خفی کے ہریک رگ و ریشہ سے بکلی پاک اور منزہ ہو جاتے ہیں۔“

(برائین احمدیہ حصہ چہارم۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱ صفحہ ۵۴۲، ۵۴۳ ح ۵۴۳ (درج))

پس یہ تو صاحب کمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا جلوہ دیکھنے کے لئے اپنا سب کچھ اس عظمت و جلال کے اندر کھو بیٹھتے ہیں لیکن جس میں کوئی بھی کمال نہ ہو وہ خود کو کن الفاظ سے یاد کرے میں تو اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے متعلق جب یہ کہیں اور انسانوں کو نہیں خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

تو میرے جیسا انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے کن الفاظ میں پیش کرے لیکن اس تمام نیستی کے باوجود جو میں اپنے نفس میں اپنے لئے پاتا ہوں۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر کھڑا کیا ہے اس مقام کی حفاظت کا ذمہ خود اس نے لیا ہے اور جب تک وہ مجھے زندہ رکھنا چاہے گا۔ اس کا قادر و توانا اور قوی ہاتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور جس طرف بھی خدا تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے ہوئے جماعت کو ترقی کے لئے لے جانا چاہے گا اس میں برکت ہوگی اور اگر کوئی شخص اس راستہ کو چھوڑے گا تو وہ ناکام رہے گا۔ اس لئے نہیں کہ مجھ میں کوئی خوبی یا طاقت ہے بلکہ اس لئے کہ جس وجود نے مجھے اس مقام پر کھڑا کیا ہے تمام خوبیاں اور طاقتیں اس کو حاصل ہیں اور جب کہ آپ نے ابھی حضرت مصلح موعودؑ کی ایک پیشگوئی میں یہ سنا ہے کہ:

”جو میرے بعد آئے گا وہ بھی ایک انسان ہی ہوگا۔ جس کے زمانہ میں فتوحات ہوں گی“

میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا کوئی علم نہیں دیا کہ وہ بعد میں آنے والا میں ہی ہوں لیکن میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے اور ارادہ کرے تو وہ میرے جیسے ناکارہ وجود سے سب کام لے سکتا ہے

اور یہ خدائی وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا کہ اسلام ساری دنیا پر غالب آئے گا اور دنیا کی کوئی طاقت بلکہ دنیا کی سب طاقتیں مل کر بھی اس الہی تقدیر کے، راستہ میں روک نہیں بن سکتیں۔ ہر طاقت جو اسلام کی بڑھتی ہوئی عزت کے راستہ میں حائل ہوگی ذلیل کر دی جائے گی اور اگر دنیا کے تمام اموال بھی اکٹھے کر کے عیسائیت اور دوسرے ادیان باطلہ کے پھیلانے اور اسلام کی مخالفت پر خرچ کئے جائیں۔ تو بھی ان کا نتیجہ مٹی کی اس چنگلی سے زیادہ نہیں نکلے گا جو آپ اپنے پاؤں کے نیچے سے اٹھاتے ہیں اور جو حقیر اموال خدا تعالیٰ نے ہمیں دئے ہیں اور اپنے فضل سے جن قربانیوں کی توفیق اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ کسی فرد بشر یا تمام بنی نوع انسان کی جرأت نہیں کہ ان کے مقابلہ میں آئے یا ان کے مقابلہ میں ٹھہر سکے۔ خدا کی توحید دنیا میں قائم ہو کر رہے گی۔ شرک دنیا سے مٹایا جائے گا۔ مسیح کے پجاری یا پتھروں کے سامنے اپنے جبینوں کو جھکانے والے یاد رختوں کی عبادت کرنے والے اپنی اسباب اور سامانوں پر بھروسہ کرنے والے یا دوسری اقسام کے شرکوں میں مبتلا لوگوں کے شرکوں کو اس طرح کاٹ دیا جائے گا جس طرح ایک تیز دھار والی تلوار شیر کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم کمزور ہیں لیکن جس خدا کی طرف ہم منسوب ہوتے ہیں۔ وہ کمزور نہیں پھر ہم مایوس کیوں ہوں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں۔ خطا کار ہیں ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں لیکن ہم اپنے رب سے مایوس نہیں۔ ہمارے کانوں میں اس کی میٹھی آواز ہمیشہ آتی رہتی ہے کہ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (التَّوْبَةُ: ۵۴)

ہماری لغزشوں کو ہمیں یقین ہے وہ اس لئے معاف کر دے گا کہ ہماری حرکت جس جہت کی طرف ہے۔ وہ جہت وہ ہے جہاں ہم نے اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے ہمارے قدموں کو وہ اپنے فضل سے تیز تر کر دے گا اور ہمارے نفوس و اموال میں وہ برکات دے گا جن برکات کا وعدہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے اور وہ ہمیں توفیق دے گا کہ اپنے نفوس و اموال کی ان برکات اور بڑھوتی کو جو محض اس کے فضل سے عطا ہوئی ہے ساری کی ساری اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں اور وہ ہماری ان حقیر کوششوں کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ بلکہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ساری جماعت کو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے

اور تمام دنیا کو جہاں کہ آج کی آواز پہنچے یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ پچیس تیس سال کے اندر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس روحانی انقلاب کو روک نہیں سکتیں شاید وہ دن قریب ہے جب کہ دنیا کے ممالک کی اکثریت اسلام کو قبول کر چکی ہوگی اور وہ لوگ جو اب خدا تعالیٰ کے مامور اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کی زبانیں آپ پر درود بھیجتے ہوئے خشک ہو رہی ہوں گی اور ان کے دلوں کی یہ تمنا ہوگی کہ ان کی پہلی زندگی کے مقابلہ میں ان کی اس زندگی کے دن چوبیس گھنٹے کی بجائے اڑتالیس گھنٹے کے ہو جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں درود پڑھ کے اپنی پرانی خطاؤں کو خدا تعالیٰ سے معاف کرا سکیں۔ غرض یہ دن آنے والا ہے مگر جو ذمہ داری خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے اسے بھی ہم نے بہر حال پورا کرنا ہے۔ ہمیں بھی اس عظیم روحانی انقلاب کے قرب کی وجہ سے عظیم قربانیاں دینی پڑیں گی اور یہ کام ظاہری اصطلاح کی رو سے خالی ہاتھ سے نہیں ہوگا بلکہ جب ہم اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیں گے تو خدا تعالیٰ کہے گا میرے بندے نے جب اپنا سب کچھ میری راہ میں دے دیا تو میں بھی اپنا سب کچھ جو ان کے لئے ضروری ہے کیوں بچائے رکھوں اور جب خدا تعالیٰ کی ساری طاقتیں اور اس کے سارے خزانے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر تم خود ہی سوچ لو۔ ہمیں کس چیز کی کمی محسوس ہوگی۔

اپنے متعلق کچھ کہنے کے بعد میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی مختلف اقوام میں جو مختلف انقلابات برپا ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں نو جگہوں پر اپنے تبلیغی مراکز کو بند کرنا پڑا اور وہ ملک جن میں تبلیغی مراکز بند کئے گئے ہیں۔ فرانس، ہنگری، جزائر سسلی، اٹلی، روس، ایران، جاپان، مسقط اور مصر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان جگہوں پر احمدی نہیں۔ ان سب جگہوں پر احمدی موجود ہیں لیکن ہمارے باقاعدہ تبلیغی مراکز وہاں موجود نہیں۔ ہمارے مشنری اور مبلغ وہاں نہیں۔ اس وقت سب سے پہلا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے اور جس کے بغیر ہمیں چین نہیں آنا چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ وہ تمام مراکز جو کسی نہ کسی وقت حضرت مصلح موعودؑ نے کھولے تھے لیکن بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں بند کرنا پڑا جتنی جلدی ہو سکے اور جب بھی ممکن ہو انہیں دوبارہ کھول دیا جائے اور پھر جن جن ممالک میں نئے مشن کھولنے کی ضرورت ہے وہاں مشن کھول

دیئے جائیں۔ اس وقت تک جو مطالبات مختلف جگہوں سے آئے ہیں ان کے مطابق سات ایسے ممالک ہیں (گوغور کے بعد ان میں کچھ اور ممالک کا بھی اضافہ ہو جائے گا) جہاں فوری طور پر تبلیغی مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہمیں یہاں سے مبلغ بھجوا کر تبلیغ کا کام جاری کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس وقت وہاں کی آبادی کا اسلام کی طرف رجحان ہے ان سات ممالک کے نام یہ ہیں۔

۱۔ جاپان، ۲۔ فلپائن، ۳۔ آسٹریلیا، ۴۔ جنوبی افریقہ، ۵۔ کانگو، ۶۔ وسطی افریقہ، ۷۔ ٹوگولینڈ

یہ سات ملک ایسے ہیں۔ جہاں ہمیں وہاں کے حالات کے تقاضا کے مطابق جلد سے جلد مشن کھولنے چاہئیں اور مشن کھولنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک تو مبلغین اور مربی ہیں یعنی ہمیں مبلغ مشنری مربی اور واعظ درکار ہیں۔ اگر میرے پاس مبلغ اور مربی نہ ہوں تو میں وہاں کس کو بھجواؤں گا۔ آپ مجھ سے کس بات کی توقع رکھتے ہیں۔ کیا میں آسمان سے فرشتے منگواؤں یا غیر احمدیوں کو نوکر رکھوں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لئے احمدی بچوں کو آگے آنا پڑے گا اور آپ کو اپنے بچے پیش کرنے پڑیں گے ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا پھر بچوں کے وقت میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا انہیں ایک وقت تک ہمیں تعلیم دینی پڑے گی اور پھر کہیں جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ انہیں باہر بھجوا یا جائے اور ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں انتظار کرنا چاہئے اس کی ایک ہی تدبیر ہے کہ بچوں کو تیار ہونے تک کا جو وقفہ ہے اس کے لئے ایسے دوست آگے آئیں جو اپنے کاموں سے ریٹائر ہو چکے ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں یا ریٹائر ہو سکتے ہیں مثلاً ایک شخص ہے اس کی ملازمت تیس سال کی ہو گئی ہے۔ اسے پوری پینشن مل سکتی ہے لیکن گورنمنٹ کے قواعد کے مطابق ابھی وہ تین چار سال اور ملازمت کر سکتا ہے۔ ایسا آدمی سلسلہ کی خدمت کے لئے آجائے۔ کافی عرصہ تک اس نے گورنمنٹ کی سروس کر لی ہے اب اسے چھوڑ دے۔ وہاں سے فراغت حاصل کرے۔ پوری پینشن لے اور یہاں آ کر کام کرے۔ ایسے لوگوں کے لئے ایک تعلیمی نصاب مقرر کیا جاسکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار پڑھے لکھے معمر تجربہ کار دوست جنہوں نے ایک حد تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہو۔ ان کے لئے چھ ماہ کا نصاب کافی ہے اس کے بعد ہم انہیں باہر بھجوا سکتے ہیں اور یہ لوگ بیرونی ممالک میں ہمارے اسی طرح مربی مبلغ اور مشنری ہوں گے جس طرح

پاکستان میں وقف جدید کے معلم کام کر رہے ہیں یعنی جس طرح معلم سند یافتہ مبلغ نہیں لیکن انہیں تبلیغ کے کام پر لگایا گیا ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کر رہے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی بیرونی ممالک میں ہمارے مبلغ ہوں گے۔ گو سند یافتہ مبلغ نہیں ہوں گے اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص پہلے جامعہ احمدیہ میں داخل ہو اور وہاں کئی سال تک تعلیم حاصل کرتا رہے تب کہیں جا کر وہ مبلغ بنے۔ مبلغ کے لئے دراصل دعا کی ضرورت ہے اس کے لئے اصل چیز اپنے رب پر توکل ہے اور کبر و غرور کا فقدان۔ پس اصل چیز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے پایا ہے خدا تعالیٰ سے پایا ہے اور خدا تعالیٰ جتنا چاہے مجھے دے سکتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے غرض اصل چیز دعاؤں کی عادت ہے دوسروں کی خدمت بھی دعا کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ پیسے دے کر دوسروں کی خدمت کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کے لئے فراخ دلی سے وقت دے دیتے ہیں لیکن ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم ان کی بہترین خدمت دعا کے ذریعہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات جو خدمت کے سلسلہ میں ایک احمدی کے سامنے آنی چاہئے وہ دعا ہے۔ جب بھی اس کے کسی دوست کی کوئی ضرورت اس کے سامنے آئے وہ اپنے رب سے کہے خدا! یہ صحیح ہے کہ میں کچھ بھی نہیں لیکن تو میری دعا قبول کر لے اس طرح اس کی توجہ تیری طرف ہو جائے گی۔ اس وقت وہ تیری طرف متوجہ نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب محاذ جنگ پر ہماری افواج کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائے تو مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ سینکڑوں ہمارے آفسر ایسے تھے جو نام کے مسلمان تھے اور قریباً دہریہ تھے۔ انہوں نے نہ تو کبھی قرآن کریم کو ہاتھ لگایا تھا اور نہ وہ حقیقتاً دل سے کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تھے لیکن اب وہ قرآن کریم کے شیدائی بن گئے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا خدا ایسا ہے جو اس قسم کے معجزے دکھاتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔ پہلی اور حال کی کئی بشارتیں ہماری فوج کے اندر بہت مقبول ہوئی ہیں۔ پس یہ بہت بڑی بات ہے بظاہر کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے۔ صرف منہ سے چند کلمات دعا کہہ دینے ہیں۔ کوئی روپیہ خرچ نہیں آتا۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں آتا لیکن ایک نمایاں تغیر دنیا کے سامنے آجاتا ہے اور دیکھنے والا حیران ہوتا ہے اور پھر وہ اس وجود کی طرف جس کی قوت اور قدرت سے وہ تغیر رونما ہوا جھکتا ہے۔

غرض ہمیں بہت جلد ایسے بڑی عمر کے آدمیوں کی ضرورت ہے جو دین کا کام کر سکیں انہیں مختصر تعلیمی نصاب میں سے گزارا جائے گا اور اس کے بعد غیر ممالک میں تبلیغ کے لئے بھیج دیا جائے گا۔ میں نے بتایا ہے کہ سات ایسے ملک ہیں جہاں نئے مشن کھولنے کی ضرورت ہے اور جہاں پرانے مشن ہیں وہاں بھی ہمیں بیسیوں مبلغین اور مبشرین کی ضرورت ہے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ہمارے ایک ایک یا دو مبلغ ہیں اور ان کے باشندے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اور آدمی بھجواؤ کیونکہ علاقے کے علاقے اس وقت اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور جتنے مبلغ اس وقت ہمارے پاس ہیں وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔

پھر ہمیں مالی قربانوں کی ضرورت ہے۔ مالی قربانیاں ہمیں بہر حال دینی پڑیں گی۔ پاکستانی احمدیوں کو بھی مالی قربانیاں دینی پڑیں گی اور غیر پاکستانی احمدیوں کو بھی مالی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میں اس وقت کوئی ٹھوس مطالبہ نہیں کرتا میں صرف آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو مالی وعدے ایک احمدی کی حیثیت سے آپ کر چکے ہیں۔ ان کو پورا کر دیں۔ وعدہ آپ کر چکے ہیں اور سال کا بیشتر حصہ بھی گزر چکا ہے پس مالی سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے چندوں کو پورا کر دیں اور کوئی بقایا اپنے اوپر نہ رہنے دیں۔ اگر آپ سب اس بات میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں جماعت کی کوششیں بڑھیں گی اور آپ پر بھی خدا تعالیٰ کے افضال نازل ہوں گے اور اس کی مزید برکتوں کے آپ وارث بنیں گے۔

زیر طبع تراجم قرآن کریم کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرانسیسی زبان میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے نظر ثانی ہو رہی ہے۔ ڈینش زبان میں سات پاروں کا ترجمہ مع مختصر تفسیری نوٹس شائع ہو چکا ہے۔ بقیہ حصہ بھی تیار ہے اور اس کی طباعت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہسپانوی زبان میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اطالوی، روسی، پرتگیزی، لیکویوز بانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور نظر ثانی ہو رہی ہے۔ لوگنڈازبان میں پچیس پاروں کا ترجمہ مع تفسیری نوٹس ابھی باقی ہے مینڈی زبان میں بیس پاروں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بقیہ ترجمہ تیار ہو رہا ہے۔ بہر حال کئی تراجم مکمل ہو چکے ہیں ان پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ کئی زبانوں میں ترجمہ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ کام حضرت مصلح موعودؑ نے شروع فرمایا تھا اور اس کو

کامیاب اختتام تک پہنچانا میرا فرض ہے اور میں نے اپنا فرض بہر حال ادا کرنا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ پس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کام میں میرے ساتھ پورا پورا تعاون کریں گے۔

ان تراجم کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت جلد چینی اور جاپانی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنا چاہئے اگرچہ چین کے بڑے حصہ پر اس وقت کمیونسٹوں کا سیاسی اقتدار ہے اور وہاں ایک حد تک مذہبی آزادی ہے لیکن مذہبی آزادی کا جو مفہوم ہم لیتے ہیں اور جو مفہوم وہ لیتے ہیں۔ ان میں بڑا اختلاف ہے بہر حال فارموسا میں کچھ دوست بغیر کسی مبلغ کے احمدی ہو گئے ہیں۔ وہاں کی مسلم ایسوسی ایشن کے صدر جو غالباً پچھلے سال یہاں آئے تھے دل سے احمدی ہیں۔ گو انہوں نے احمدیت کو ابھی ظاہر نہیں کیا لیکن ان کے دل میں احمدیت کی اس قدر محبت ہے کہ جب وہ ربوہ آئے اور مجھ سے انہوں نے ملاقات کی تو عجیب نظارہ پیش آیا جب وہ میرے سامنے آئے تو پہلے کچھ جھجکے اور انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح ضبط کیا جس طرح کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہے بھی اور نہ بھی کرنا چاہے۔ کوئی دو سیکنڈ تک ان کی یہ حالت رہی۔ پھر وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھے اور مجھ سے لپٹ گئے وہ اس محبت کو جو انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تھی روک نہ سکے انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کیں۔ جن سے ان کے اخلاص کا علم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم انہیں اپنی کتب بھجوائیں۔ بہر حال چینوں کا ایک بڑا حصہ اس وقت احمدیت کی طرف متوجہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چین کے دوسرے بڑے حصہ میں بھی جہاں کمیونسٹوں کا تسلط ہے ہمارے لئے تبلیغ کی راہیں کھول سکتا ہے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بات ناممکن نہیں غرض چینی اور جاپانی زبان میں بھی قرآن کریم کے تراجم بہت جلد کروائے جائیں گے۔

مساجد جو زیر تعمیر ہیں اور ان کو مکمل کرنا نہایت ضروری ہے ان میں سے ایک مسجد ڈنمارک کی ہے۔ پھر غانا میں ہمالے کے مقام پر، یوگنڈا میں مساکا کے مقام پر، تنزانیہ میں ٹانگا کے مقام پر سیرالیون میں فری ٹاؤن کے شہر میں، نائیجیریا میں پانچ مقامات پر اسی طرح گیمبیا میں مساجد بنائی جا رہی ہیں ان کے علاوہ کئی اور مقامات پر مساجد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن ابھی تک وہاں نہ مسجد بنانے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ کوئی انتظام۔ اور وہ جگہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

کیپ ٹاؤن (جنوبی افریقہ) اکرہ (غانا) لیگوس (نائیجیریا کوش) (نائیجیریا)

یہ تو فوری کام ہیں جن کی طرف جماعت کو اگلے سال کے اندر اندر توجہ دینی پڑے گی لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ کام یہیں ختم ہو گیا ہے انگریزی کا محاورہ ہے Momentum Gains یعنی موٹر اور گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوئی ہے۔ ہماری حرکت بھی آہستگی کے ساتھ تیزی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مصلح موعودؑ نے جماعت کے کاموں میں ایک قسم کی تیزی پیدا کر دی ہے اور جب حرکت میں تیزی پیدا ہو جائے تو دو میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو حرکت بند ہو جاتی ہے اور اس کا نام موت بھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ابھی ہماری جماعتی موت کا وقت نہیں آیا۔ ابھی ہماری زندگی اور کامیابیوں کا وقت ہے یا پھر وہ حرکت پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور کم خرچ پر زیادہ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً موٹر اگر بیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جارہی ہو تو ایک گیلن پٹرول خرچ ہوگا اور اگر اس کی رفتار چالیس میل سے بڑھ جائے۔ تو وہ ایک ہی گیلن پٹرول میں یہ فاصلہ طے کرے گی اور یہ اس نے کم خرچ میں زیادہ نتیجہ نکالا ہے یہ دونوں چیزیں (یعنی کم رفتار یا زیادہ رفتار) اپنے نتائج کے لحاظ سے مفید ہوئی ہیں لیکن ہم نے کسی ایک نتیجہ پر ٹھہرنا نہیں اور نہ اپنی کوشش کو ایک جگہ روکنا ہے بلکہ اُسے پہلے سے زیادہ کرنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا خدا محض اپنے فضل سے ہماری کوششوں کے نتیجے پہلے کی نسبت زیادہ سے زیادہ نکالتا چلا جائے گا۔

اپنے متعلق اور فوری پروگرام کے متعلق میں اسی قدر کہنا چاہتا ہوں۔ اب وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور دو تین دن سے مجھے خونی پیش بھی ہے جس کی وجہ سے زیادہ بولنا مشکل ہے گو میں بیمار تھا لیکن ان دنوں میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ میں اس بات کے متعلق سوچوں کہ کام کم بھی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے عزیز بھائی ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کو یہ کہا کہ میں کوئی ایسی دوائی نہیں لگاؤں گا جو میرے کام میں روک بنے اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ آج کچھ افاقہ ہو گیا۔ جس کی وجہ سے میں نے اس قدر تقریر کر لی ہے لیکن بیماری کا بہر حال مجھ پر اثر تھا اور اس اثر کی وجہ سے بعض اوقات میری زبان بھی رُک جاتی تھی اور لفظ کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا احباب کے سامنے بیان کر دیا ہے۔

دعا کے متعلق میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑی ضروری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھڑی نہیں بتائی ہاں یہ بتایا ہے کہ وہ پہلی اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک کے وقفہ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک دعاؤں میں لگے رہو۔ تا یہ گھڑی جو دعا کی قبولیت کی ہے تم سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارا جلسہ سالانہ کا اجتماع بھی بڑا مبارک ہے۔ دیکھو اس کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کتنی دعائیں کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بشارتیں ہیں جو عملی رنگ میں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ جلسہ جس کے میدان ان کے آخر تک جاتے ہوئے نظر تھک جاتی ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ پہلے جلسہ میں صرف ۵۷ آدمی تھے اور اس وقت صرف اسٹیج پر جو دوست بیٹھے ہیں۔ ان کی تعداد بھی ۵۷ سے زیادہ ہے تو دیکھو خدا تعالیٰ کے کتنے افضال اس جماعت پر نازل ہوئے ہیں اور کل ہی میں نے بتایا تھا کہ ابھی یہ جلسہ گاہ بھی ضرورت کو پورا نہیں کر رہی بعض دوستوں کو جلسہ گاہ کے باہر بھی ٹھہرنا پڑا باوجود اس کے ہر سال جلسہ گاہ کو وسیع کیا جاتا ہے۔ جگہ کی تنگی پھر بھی محسوس ہوتی ہے ابھی بعض خاندانوں کو ایسی مجبوریاں پیش آ گئی تھیں کہ وہ باوجود خواہش کے جلسے پر نہیں آسکے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد کو ۵۷ سے بڑھا کر اتنا کر دیا کہ باوجود اس کے ہر سال جلسہ گاہ کو وسیع کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی تنگ محسوس ہوتی ہے اور پھر ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی دوست نے ایک آنہ بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا تو آپ نے اس کا نام اپنی کتب میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا اور اب یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں ایسے دوست بھی موجود ہیں۔ اگر وہ بیس ہزار روپیہ بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیں تب بھی ہمارا دل کہتا ہے کہ انہوں نے ابھی اپنی طاقت کے مطابق مالی قربانی نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل اتنا بڑا ہے کہ اگر ہماری آئندہ نسلیں بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں تو ہم اس کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔

باہر کی جماعتوں نے اس موقع پر دعا کے لئے تاریں کی ہیں آپ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کی شکل سے واقف نہیں نہ ان کی عادات کے واقف ہیں۔ پھر وہ کون سا رشتہ ہے جو ان کے اور

ہمارے درمیان قائم ہے۔ یہ اسلام اور احمدیت کا رشتہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ قائم ہوا ہے اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ آپ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں اور آپ کو دعا کے لئے تاریں دے رہے ہیں اور ان تاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے لئے اس دعا کے مقابل پر ہیچ ہیں۔ جو اس موقع پر آپ ان کے لئے کریں گے۔ پس جس جذبہ اور جس محبت اور جس نیت سے ان دوستوں نے ہمیں دعا کے لئے لکھا ہے ہمیں بھی چاہئے کہ اسی جذبہ، محبت اور نیت سے ان کے لئے دعائیں کریں۔ جن جماعتوں اور جن دوستوں نے تاریں دی ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

۱۔ جماعتہائے احمدیہ سیرالیون۔ مغربی افریقہ

۲۔ جماعتہائے احمدیہ، غانا۔ مغربی افریقہ

۳۔ جماعت احمدیہ ڈنمارک

۴۔ جماعتہائے احمدیہ نائیجیریا۔ مغربی افریقہ

۵۔ جماعتہائے احمدیہ انگلستان

۶۔ جماعتہائے احمدیہ تنزانیہ۔ مشرقی افریقہ

۷۔ جماعتہائے احمدیہ انڈونیشیا

۸۔ جماعتہائے احمدیہ ملائیشیا

۹۔ جماعتہائے احمدیہ ججہ۔ یوگنڈا مشرقی افریقہ

۱۰۔ ہالینڈ کے احمدی دوست

۱۱۔ سیلون کے احمدی دوست

۱۲۔ سنگاپور کے احمدی دوست

۱۳۔ سوئٹزرلینڈ کے احمدی دوست

۱۴۔ کینیڈا کے احمدی دوست

۱۵۔ واشنگٹن اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے احمدی دوست

یہ سب جماعتیں آپ سب کو السلام علیکم کہتی ہیں اور درخواست کرتی ہیں کہ جلسہ سالانہ کے

اختتام کے موقع پر جب آپ اپنے رب کے حضور عاجزانہ دعاؤں کے لئے جھکیں تو انہیں بھی اپنی ان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

پھر ہماری چھوٹی پھوپھی حضرت سیدہ امتہ الحفیظہ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ الفضل میں بھی دعا کے لئے چھینتا رہا۔ کچھ افاقہ بھی ہوا ہے لیکن تین روز سے انہیں اس قسم کی پھر زیادہ شکایت ہو گئی ہے بازوؤں میں شدید درد ہے۔ خون کے ٹیسٹ سے انفیکشن معلوم ہوتا ہے۔ پس دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے رکھے اور ان کی اور ان کی بڑی ہمشیرہ حضرت نواب سیدہ مبارکہ صاحبہ کی عمر میں برکت ڈالے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کو ”پنج تن“ کہا تھا۔ ان میں سے اب صرف یہی دو بہنیں رہ گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نواب سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ کس درد اور کس فراست کے ساتھ جماعت کے نام پیغام ارسال کرتی رہتی ہیں۔ ان دونوں بہنوں سے بھی بہت سی برکتیں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل فرمائے اور انہیں اپنی امان میں رکھے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کے مقاصد میں ایک یہ بات بھی رکھی تھی کہ اس موقع پر ان سب احمدی دوستوں کے لئے دعائے مغفرت کی جائے جو سال کے دوران فوت ہو گئے ہیں۔ حضورؐ کے اس ارشاد کے یہ معنی نہیں کہ ایک اکٹھی نماز جنازہ یہاں پڑھی جائے۔ کم سے کم میں تو اس کے یہ معنی نہیں لیتا۔ کیونکہ حضور کے الفاظ میں نماز جنازہ کا ذکر نہیں۔ دعائے مغفرت کا ذکر ہے اور نماز جنازہ میں تو جیسا کہ دوست جانتے ہیں ایک دفعہ دعائے مسنون پڑھ لیتے ہیں۔ یہی دستور ہے جو ابتدائے اسلام سے چلا آ رہا ہے یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک بڑی مختصر سی دعا ہے جو ہم نماز جنازہ میں کرتے ہیں لیکن وہ مخلص دوست جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری ہے اور سال رواں میں (جس کا اب اختتام ہے) وہ فوت ہو گئے ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہمارا فرض ہے پس تمام احمدی بھائی اور احمدی بہنیں جو یہاں ہیں یا جن تک میری آواز پہنچے۔ وہ اپنی دعا میں ان مخلصین کو یاد رکھیں۔ جو گزشتہ جلسہ سالانہ اور اس جلسہ سالانہ کے درمیانی عرصہ میں قضائے الہی سے فوت ہو چکے ہیں۔ پھر اپنی دعاؤں میں پاکستان کو ضرور یاد رکھیں (کوئی مانے یا نہ مانے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ

پاکستان وہ قلعہ ہند ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا رہے وہ ہمیشہ ملائکہ کی افواج بھجواتا رہے۔ جب بھی اور جس وقت بھی پاکستان کو مشکل پیش آئے وہ ملائکہ اللہ کی امداد سے محروم نہ ہو اور ان نوجوانوں کے دلوں میں اپنا نور داخل کرے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر شجاعت اور بہادری کے ایسے شاندار کارنامے جنگ کے محاذ پر دکھائے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کے نام عزت سے لئے جائیں گے۔ یہ نوجوان ہماری دعاؤں کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فضل کیا ہے وہاں وہ انہیں دوسرے فضلوں سے بھی نوازے میں بھی واپس لے جائے اور ان کے گھروں کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ یہ سامان پیدا کرے کہ ہمارے محاذ جنگ کو اس جگہ سے جہاں وہ پہلے تھا کہیں زیادہ آگے لے جائے تا ان کے گھر آئندہ کے لئے پوری طرح محفوظ ہو جائیں۔


پھر یہ دعا بھی خاص طور پر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جلاء پیدا کرے اور انہیں توفیق عطا کرے کہ وہ دین اور دنیا کے علوم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہیں اور سب احمدیوں کو توفیق بخشے کہ کسی بھی علمی میدان میں جب بھی ان کے مقابلہ پر کوئی آئے وہ اس پر بھاری رہیں۔ اپنے بیمار بھائیوں کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جنہیں آپ جانتے ہیں ان کے نام لے کر دعا کریں اور جنہیں آپ نہیں جانتے ان کے لئے اصولی دعا مانگ کر کہ اے خدا تو اپنے فضل سے ہمارے سب بیماروں کو شفا عطا کر۔ اسی طرح یہ دعا بھی کریں کہ اے خدا تو کمزوروں کو طاقت عطا کر ہمارے سب اندھیروں کو نور میں بدل دے۔ ہمارے سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا تو اس قوم پر خوش ہو جا اور اس کے ہر فرد کو اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا کر پھر ان قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول کیونکہ ہمارا کوئی حق نہیں تھے کہیں کہ تیرے حضور ہم نے یہ پیش کیا۔ اس لئے ہمارا حق ہے کہ تو اسے قبول کر لے بلکہ تو محض اپنے فضل سے ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما اور پھر انہیں قبول کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا میں ان کا اجر بطور انعام عطا کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ان انعاموں کو جو تیری طرف سے

نازل ہوں۔ تیری راہ میں پھر قربان کر دیں تا اس کے نتیجے میں اور زیادہ انعام ہمیں ملیں اور یہ سلسلہ مرتے دم تک چلتا اور بڑھتا چلا جائے تا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری نگاہ میں کوئی خاص مقام رکھتے ہوں۔ عام مومنوں میں شامل نہ ہوں بلکہ ان مقربین کے گروہ میں شامل ہوں جنہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا کرے گا اب ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔

اس کے بعد حضور انور نے احباب سمیت لمبی اور پُر سوز دعا فرمائی۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)





جو عہدِ بیعت تم نے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ پختگی سے قائم رہو

﴿افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ جنوری ۱۹۶۷ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:-

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْبَيْتِ أَفْقُلٍ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

(الانعام: ۵۵)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات اور ہمارے کلام پر ایمان لاتے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں تو تو انہیں ہماری طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچادے اور انہیں یہ بھی بتادے کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لئے رحمت کو فرض کر لیا ہے۔

پس اے میرے عزیز بھائیو! جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندِ جمیل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس جلسہ کی برکات سے استفادہ کے لئے یہاں جمع ہوئے ہو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس عظیم فرزند کی نیابت میں تمہیں سَلِّمْ عَلَيْهِمْ کہتا ہوں۔ تمہارے رب کی رحمت کا سایہ ہمیشہ تم پر رہے۔

جو عہدِ بیعت تم نے اپنے رب سے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ اس پر پختگی سے قائم رہو۔ اسے کبھی نہ توڑو۔ یہ دُنیا بھی تمہارے لئے جنت بنی رہے اور مرنے کے بعد بھی ابدی جنت میں تمہیں داخلہ ملے جہاں ہر دروازہ سے فرشتے تمہارے پاس آئیں کہ تم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے اس لئے اللہ کی سلامتی تمہارے لئے مقدّر کی گئی ہے۔ دیکھو تمہیں ایک ایسی زندگی مل رہی ہے جس کے ساتھ فنا نہیں۔ ایک ایسی تو نگری عطا ہو رہی ہے جس کے ساتھ فقر اور تنگدستی کا کوئی خطرہ نہیں۔ خدائے عزیز تمہیں ایک ایسی عزت بخش رہا ہے جس کے ساتھ کوئی ذلت اور

خواری نہیں۔ اور ایسی صحت اور تندرستی تمہارے نصیب میں لکھی جا رہی ہے جس کے ساتھ کسی بیماری اور کمزوری کا کوئی خوف نہیں۔

میرا رب تمہارے ایمانوں میں پختگی اور صدق اور وفا پیدا کرے۔ خدا کی راہ میں تمہارے اعمال، اخلاص و ارادات سے پُر اور فساد سے خالی ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ سب راہیں جن کو تم اختیار کرو فلاح اور کامیابی تک پہنچانے والی ہوں میرے رب کی جنتوں میں تمہارا ابدی قیام ہو اور اس کی تسبیح اور حمد کے درمیان تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (ابراہیم: ۲۴) تم ایک دوسرے کے لئے سلامتی چاہنے والے اور اپنے رب سے سلامتی پانے والے ہو۔

میرا رب تمہیں حُسنِ عمل اور نیکو کاری کی راہ پر چلنے کی ہمیشہ توفیق دیتا چلا جائے۔ یہ دُنیا بھی تمہارے لئے جنت بن جائے۔ جہاں شیطان کا عمل دخل نہ رہے اور جب گُوج کا وقت آئے تو فرشتے یہ کہتے ہوئے اس کی ابدی جنتوں کی طرف تمہیں لے جائیں۔ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ اس کی رحمت کے سایہ میں اس کے فضل کے تازہ بہ تازہ پھل تمہیں ملتے رہیں۔ خدا کی حمد میں مشغول رہنا اور اس کا شکر بجالانا تمہاری عادت بن جائے۔ تم حقیقی معنی میں خدا کی جماعت بن جاؤ۔ میرے رب کی ایک برگزیدہ اور چنیدہ جماعت۔ تم پر ہمیشہ میرے رب کی سلامتی نازل ہوتی رہے۔

خدا کرے کہ تمہارے سب اندھیرے تمہارے پیچھے رہ جائیں اللہ کے نور سے تم منور رہو تمہارا نور تمہارے آگے آگے چلے۔ عبودیت کا نور اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ۳۶) کے ساتھ جا ملے اور قُرب کا کمال تمہیں حاصل ہو۔ اللہ کی رحمتیں ہمیشہ تم پر برستی رہیں۔ اس کے فرشتوں کی دُعائیں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلامتی کے تحفے کے تم حق دار ٹھہرو۔

خدا کرے کہ ذکرِ الہی میں تم ہمیشہ مشغول رہو اور ذکرِ الہی کے اس سرچشمہ سے ابدی مسرتوں کے چشمے تمہارے لئے پھوٹیں اور بہہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہے۔ تمہاری پاسبانی کرتی رہے اور اُس کے لطف و کرم کی چاندنی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے چھپر کھٹوں پر نور افشانی کرتی رہے۔ تمہارے اعمال اسی کے فضل سے بہتر پھل لائیں۔ تمہارے دل اور تمہارے سینے ہمیشہ نیک تمناؤں اور نیک خواہشات ہی کا گہوارہ رہیں جو

تم چاہو تم پاؤ اور رب رحیم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ تمہیں ہر آن ملتا رہے۔

اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہو، اس کی محبت کے تم وارث بنو اور تمہارا وجود دُنیا پر یہ ثابت کر دے کہ اس کی راہ میں عمل اور مجاہدہ کرنے والوں، ایثار اور قربانی دکھانے والوں کو بہترین انعام ملتا ہے۔ اللہ کی محبت کے وہ وارث ہوتے ہیں۔

خدا کرے کہ اس کے قُرب کی راہیں تم پر کھولی جائیں اور اُن راہوں پر گامزن رہنا تمہارے لئے آسان ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ راہیں تمہیں اس کی نعمت اور اس کے فضل کی جنتوں تک پہنچادیں۔ آرام اور آسائش کی زندگی جہاں تم پر ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے۔

(دُعا ہے کہ) میرا رب تمہیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے تا دُنیوی جنت میں تم اُن گھروں کے مکین بنے رہو جو ذکرِ الہی سے معمور اور شیطانی وساوس سے بلند و بالا ہیں اور تا اُس اُخروی جنت میں بھی بالا خانوں میں تمہارا قیام ہو جہاں فرشتوں کی دُعائیں اور تمہارے خالق اور تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہر لمحہ تمہیں ملتا رہے۔

قرآنی انوار سے تمہارے سینہ و دل ہمیشہ منور رہیں اور خدا کرے کہ یہ نور اُن راہوں کی نشان دہی کرتا رہے جو دارالسلام تک پہنچاتی ہیں۔ تمہارے راستہ کی سب تاریکیاں دُور ہو جائیں۔ رضوانِ الہی کی اتباع اس صراطِ مستقیم کو تمہارے لئے ہمیشہ روشن رکھے جو سیدھی اس کی جنت، اس کی رضا تک پہنچاتی ہے۔

خدا کرے کہ میرے خدا کے روشن نشان تمہارے سینہ و دل میں محبتِ الہی کا ایک سمندر موجزن رکھیں۔ میرا رب تمہیں نیک اعمال، ہر شر اور فساد اور ریا سے پاک اعمال بجالانے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ میرا اللہ خود تمہارا ولی اور دوست بن جائے۔ اُس کے قُرب میں، سلامتی کے گھر میں، تمہارا ٹھکانا ہو۔

خدا کرے کہ تمہارا وجود دُنیا کے لئے ایک مفید وجود ہو جائے۔ ایک دُنیا کی دعائیں تمہیں ملتی رہیں۔ سب ہی تمہیں جانیں اور پہنچائیں اور سب ہی تمہاری سلامتی چاہیں۔ میرے اللہ کی موہبتِ خاصہ تمہیں جلد تر منزلِ مقصود تک پہنچادے توکل اور فرمانبرداری کے مقام پر ثباتِ قدم تمہیں حاصل ہو۔ لقاءِ الہی کی جنت کے تم وارث بنو۔

خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے قیام کا تم ذریعہ بنو۔
 خدا کرے کہ عشقِ محمدؐ میں تم ہمیشہ مسرور اور مست رہو۔
 خدا کرے کہ نورِ محمدؐ کی شمع تمہارے ہاتھ سے ہر دل میں فروزاں ہو۔
 خدا کرے کہ مسیحِ محمدی علیہ السلام کی سب دُعاؤں کے تم وارث بنو۔
 خدا کرے کہ رُوحانی خزانے سے اپنی جھولیاں بھر کے تم اس جلسہ سے واپس کوٹو۔
 میرا خدا سفر و حضر میں تمہارا حافظ و ناصر ہو۔

خدا کرے کہ تم اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں کو ہر طرح خیریت سے پاؤ۔ تم اور وہ ہمیشہ ہی خیریت سے رہیں۔ اور خدا کرے کہ اپنے رب کا یہ ناچیز، حقیر اور عاجز بندہ بھی محض اُس کے فضل اور احسان سے اُن سب دُعاؤں کا وارث ہو جو اس عاجز نے اس مجمع میں تمہیں دی ہیں۔ آؤ اب عاجزی کے ساتھ اُس کے دَر پر جھکیں اور اُس سے اُس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے طالب ہوں۔

(روزنامہ الفضل ربوہ یکم فروری ۱۹۶۷ء صفحہ ۲، ۳)



جس وقت کوئی ملک پورا احمدی ہو گیا تو وہ کہے گا کہ نظام ہمارے ہاتھ میں دو یا ہمارے مقابلہ میں قربانیاں دو

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ جنوری ۱۹۶۷ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

دوست جانتے ہیں کہ آج کی تقریر میں بعض عام قسم کے لیکن ضروری معاملات کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے کسی خاص عنوان کے ماتحت آج کی تقریر نہیں ہوتی بلکہ اہم واقعات اور مسائل کے متعلق جو دوران سال ہوئے ہوں یا ان سے تعلق رکھنے والے ہوں ان مسائل کا اور حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے لیکن قبل اس کے کہ میں وہ باتیں بیان کرنا شروع کروں جو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں لیکن ایک زائد بات کہنے پر مجبور ہوا ہوں اور وہ یہ کہ کچھ عرصہ سے ہمارے ان بھائیوں نے جو عہد بیعت توڑ کر غیر مبائعین کہلائے گئے اچھا لنے میں بڑی شدت اختیار کر لی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے ایک کتاب ”فتح حق“ کے نام سے شائع کی اس میں انہوں نے نہایت ہی اشتعال انگیزی اور گندہ دہنی سے کام لیا۔ ان کے بعض اکابر گزشتہ گرمیوں میں مجھے ایک مقام پر ملے تھے میں نے انہیں بتایا کہ آپ لوگوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور آپ اسے دنیا میں شائع کر رہے ہیں۔ اب ہمیں بھی اس کا جواب دینا ہوگا اس لئے آپ کو اس کے متعلق کوئی گلہ نہیں پیدا ہونا چاہئے لیکن آپ تسلی رکھیں کہ جو گند آپ میں تھا وہ اس کتاب میں ظاہر ہوا ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی گند نہیں ہے اس لئے ہماری طرف سے اس کا جو جواب شائع ہوگا اس میں کسی گند کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ نہایت شرافت کے ساتھ نہایت متانت کے ساتھ عقلی دلائل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے ساتھ آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کتاب یعنی ”فتح حق“ کے جواب میں ہماری طرف سے ایک کتاب ”غلیہ حق“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

غیر مبائعین نے بعض اشتہارات وغیرہ بھی شائع کئے ہیں اور ہمارے اس جلسہ کے موقع پر انہوں نے یہ اشتہارات ان مقامات پر تقسیم کئے ہیں مثلاً چنیوٹ، چنیوٹ سے کراچی والے بھی گزر رہے ہیں سیالکوٹ والے بھی گزر رہے ہیں لاہور والے بھی گزر رہے ہیں۔ اس قسم کے مقامات پر انہوں نے آدمی مقرر کر کے اشتہارات تقسیم کئے ہیں۔ اگر صرف انہی اشتہارات کا سوال ہوتا جنہیں چھپے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے خاموشی اختیار کی تھی اب بھی خاموشی اختیار کر لیتا کیونکہ میں ان لوگوں کی باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ ہزاروں آدمیوں کو ان اشتہارات کا علم ہوا ہے اور میرے بھائی مجھ سے یہ توقع رکھتے ہوں گے کہ میں ان باتوں کا ضرور جواب دوں جو ان اشتہارات میں لکھی گئی ہیں۔ پس اگر غیر مبائعین میرے منہ سے ہی کچھ سننا چاہتے ہیں تو وہ آج سن لیں جہاں تک عقائد کا سوال ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی گردنیں ہیں یہ اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ کے دن سے لے کر آج کے دن تک ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم اور عدل مانا اور تسلیم کیا ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ہر حکم بطور حکم کے ہمارے لئے قابل قبول اور قابل عمل ہے اور ہم آپ کے ہر حکم کے قیام کیلئے اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حکم اور عدل ہونے کی حیثیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر حکم روحانی عدل اور انصاف کے مطابق ہے لیکن آپ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم نہیں مانتے آپ سے کہا گیا کہ آپ اور باتوں کو ترک کر دیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک مختصر سی تصنیف ”ایک غلطی کا ازالہ“ ہے۔ آپ اس کو شروع سے آخر تک پڑھ کر یہ فقرہ لکھ دیں کہ نہ اس سے زائد اور نہ اس سے کم پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ بھی دستخط کر دیں اور ہم بھی دستخط کر دیتے ہیں لیکن آپ اس انصاف کے فیصلہ کی طرف نہیں آتے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب سے بعض چھوٹے چھوٹے فقرے نکال کر ہم سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے نیچے تم دستخط کر دو۔ آپ کی یہ بات اس شخص کی طرح ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا لاکر تقرّبوا للصلوٰۃ (النساء: ۴۴)

کسی کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تم اس کے نیچے دستخط کر دو کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں آپ مذہب کو کھیل مت بنائیں ورنہ خدا تعالیٰ کا قہر تم پر نازل ہوگا۔

باقی رہی یہ بات کہ اگر بعض عقائد آپ کی سمجھ سے باہر اور آپ کی دسترس سے پرے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی فراست عطا کرے کہ آپ حقائق کو سمجھنے لگیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ گالی کے مقابلہ میں نہ ہم گالی دیتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا یہی حکم ہے کہ گالی کے مقابلہ میں گالی نہ دو لیکن جو شخص یا جو لوگ گالی دینے کے عادی ہوں وہ گالی سننے کے بھی عادی ہوتے ہیں اگر انہیں گالی کے مقابلہ میں گالی نہ دی جائے تو ان کی طبیعت بڑی مگدڑ اور بد مزہ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ”کوئی لطف نہ آیا گالی دین دا اگلا چپ ہی کر گیا“ پس اس لحاظ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں آپ کی دلچسپی کے سامان مہیا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر خدا تعالیٰ نے گالی دینے کا مادہ نہیں رکھا۔ میں آپ سے قرآن کریم کی زبان میں بات کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا کرے کہ آپ اس نکتہ کو پالیں اور اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفْهَمُ الْغَالِبُونَ (الانبیاء: ۴۵)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دو شکلوں میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور اوّل یہ کہ جس قوم اور سلسلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہو کہ وہ اُسے درجہ بدرجہ ترقی کی منازل طے کراتا چلا جائے وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تدریجی ترقی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گروہ یا وہ سلسلہ جو اپنے آپ کو الہی سلسلہ کہتا ہے واقع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے مقابلہ میں تدریجی تنزل اس بات کی دلیل ہے کہ جس گروہ یا سلسلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہو گیا کہ اس کو تدریجی تنزل کی طرف لیتے چلے جاؤ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ وہ غلطی پر قائم ہے۔ اس اصول کے مد نظر جب ہم اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دن آپ نے قادیان کی مبارک بستی کو جہاں وہ مقامات تھے جن کو خدا تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے

جہاں وہ مٹی تھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم پڑے تھے جس کی سرزمین وہ سرزمین تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ارض حرم قرار دیا تھا آپ نے چھوڑا۔ اس زمین سے آپ نکلے تو آپ خوش تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کے مسیح کے گاؤں اور اس کے شہر کو سونا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ سو میں سے ننانوے احمدی آپ کے ساتھ ہیں اور سو میں سے ایک آدمی آپ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت ایسے سامان پیدا کر دیئے تھے کہ خزانہ اس وقت خالی تھا۔ اس میں شاید چند آنے تھے گویا اس سونے گھر کو آباد کرنے کا بھی آپ نے اپنے زعم میں کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا تھا اور آپ میں سے بعض نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قادیان کے تعلیمی اداروں پر عیسائیت کا قبضہ ہوگا اور اس کے مکانات میں اُلُو بولیں گے مگر خدا تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کی نگاہ میں حقیقی انسان نہیں تھے قادیان میں نہیں رہنے دے گا اور وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے جو سورج ہم پر چڑھایا وہ ایک زیادہ طاقت ور، ایک زیادہ منظم اور تعداد میں زیادہ جماعت کے اوپر چڑھا اور ہر سورج جو آپ پر چڑھا اس نے آپ کے کان میں یہ سرگوشی کی کہ تمہارا قدم تنزل کی طرف آیا ہے اور تم تنزل کے گڑھوں کی طرف جا رہے ہو۔ اس وقت آپ کی جماعت (آپ کے کہنے کے مطابق) سو میں سے ننانوے تھی اور آج اگر میں ایک کونہ پھاڑوں تو میں اس نسبت کو بیان ہی نہیں کر سکتا جو آپ کی جماعت کو ہماری جماعت کے مقابلہ میں ہے۔ آپ ہمارے مقابلہ میں سو میں سے ایک بھی نہیں رہے۔

یہ پاک نفوس جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یا عورتوں کے جلسہ گاہ میں جو پاک ہستیاں بیٹھی ہیں ان میں سے ہر ایک اس بات پر گواہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس لئے کہ ۱۹۱۴ء سے لے کر آج تک خدا تعالیٰ کے اس سلوک میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی جو ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ جو سلوک ۱۹۱۴ء میں تھا یا جو ۱۹۱۵ء میں تھا وہی سلوک آج بھی ہے۔ اگر ہمارے عقائد بدل جاتے تو خدا تعالیٰ کا ہمارے ساتھ سلوک بھی بدل جاتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: ۱۲)

خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہر قوم کے ساتھ چلتا ہے اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ

ہمارے جو عقائد ہیں وہ اس کو محبوب اور پیارے ہیں اور وہ ایسے عقائد ہیں جو اس کی جماعت کے ہونے چاہئیں تبھی تو وہ ہمیں ترقی دیتا چلا جاتا ہے اور تبھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے تمام جلوے آپ کے لئے اے جماعت غیر مبائعین جلوہ گر ہوئے جو اس جماعت کے لئے جلوہ گر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تنزل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہر وہ جلوہ ہم پر ظاہر ہوا جو اس جماعت پر ظاہر ہوتا ہے جس کو وہ ترقی کی منازل پر چڑھاتا چلا جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے عقائد نہ بدلے اور نہ غلط ہوئے اور خدا تعالیٰ کی نگاہ میں پیارے ہیں۔ انہی عقائد کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہے اور آپ نے انہی عقائد کو چھوڑ کر تنزل کی راہوں کو اختیار کیا ہے۔ آج آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کا حالیہ جلسہ سالانہ جو دسمبر ۱۹۶۶ء میں ہوا۔ اس میں آپ کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد تھی اس سے سولہ گنا زیادہ غیر ممالک میں ایک سال کے اندر جماعت احمدیہ کی نئی بیعتیں ہوئی ہیں اور آپ کے جلسہ سالانہ کی جو کم سے کم تعداد تھی اس سے پچاس گنا زیادہ غیر ممالک میں ایک سال کے اندر جماعت احمدیہ کی نئی بیعتیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم کمزور انسانوں کو ہمارا بڑائی کا کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم کسی طاقت کا دعویٰ کرتے ہیں نہ ہم کسی علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہم کسی تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں لیکن خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہماری باہوں کو پکڑتے اور ہمیں ان بلند یوں تک پہنچاتے چلے جا رہے ہیں جہاں تک ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔

ایک اور بات جو یہ لوگ دہراتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ ہے جو پیغام صلح میں بھی لکھا گیا اور انگریزی کا جو اخبار ہے اس میں بھی لکھا گیا کہ بے شک حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بلند روحانی مقام پر قائم تھے لیکن حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو اس روحانیت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں تھا بلکہ آپ الٹ تھے۔ آپ کے اندر کوئی روحانیت نہیں تھی اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کو ویسے اللہ تعالیٰ نے عقل بڑی دی تھی لیکن جو خلیفہ ثالث انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں عقل بھی کوئی نہیں، نہ روحانیت ہے نہ عقل ہے۔ ایک تو مجھے یہ سوچ کے رحم آتا ہے کہ میرے بعد جو ہوگا اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے۔ آپ نے اپنے لئے دروازہ بند کر لیا ہے۔ حضرت

مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں جو روحانیت تھی اگر وہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی تو یہ کون لوگ بیٹھے ہیں جن سے خدا تعالیٰ ہمکلام ہوتا ہے، جن سے خدا تعالیٰ باتیں کرتا ہے، جن کو کشف اور رؤیا ہوتی ہیں، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، آپ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی فراست سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ فکر نہ کریں میری حماقت سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کا یہ وار جو آپ نے مجھ پر کیا ہے یہ بھی ہوا میں ضائع ہو گیا۔ کیونکہ میں نے کبھی فراست اور عقل مندی کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا جس کو غلط ثابت کرنے کے لئے آپ یہ فقرے مجھ پر کس رہے ہیں۔ میں تو ایک حقیر انسان ہوں، ایک ناچیز ذرہ ہوں مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ناچیز ذرہ خدا کے ہاتھ میں ہے اگر آپ میرے مقابلہ پر آئیں گے ہمارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہم پر کیوں ہے سوائے اس کے کہ ہم سے وہ خود ہماری سمجھ کے بغیر ایسے کام لے رہا ہے جن کے نتیجے میں وہ سمجھتا ہے کہ توحید خالص دنیا میں قائم ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں قائم ہوگی۔ اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب ہوگا۔ غرض اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دیتا ہے اور ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا کرے۔

۱۔ نئی کتب اور نئے اور پرانے اخبارات

جیسا کہ دوست جانتے ہیں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر گزشتہ سال سے پہلے بالکل نایاب ہو چکی تھی اور بہت سے دوست (پرانے بھی اور نئی نسل جو جوان ہوئی تھی) ان کا یہ مطالبہ رہتا تھا کہ جلد اس کی اشاعت کی جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چنانچہ گزشتہ سال اس کی اشاعت کا دوبارہ انتظام کیا گیا اور بلاکس پر اس کو لکھوایا گیا۔ پہلی طباعت بھی اس کی اچھی بہت اچھی تھی اور کاغذ بھی بڑا ہی اچھا تھا ہم نے اسے دو قسم کے کاغذ پر چھپوایا تھا۔ پہلے وہ کاغذ استعمال کیا گیا تھا جس کو آرٹ پیپر کہتے ہیں اور جس میں چمک ہوتی ہے۔ میں تو اسے رات کو پڑھوں تو مجھے کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری دفعہ جب اسے شائع کیا گیا تو سپر کیلنڈر (Super Calendar) کاغذ لگایا گیا تھا۔ یہ کاغذ دیکھنے میں اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا لیکن اس میں چمک

نہیں ہے اور میرے جیسے انسان کے لئے جو عینک لگاتا ہے بلب کی روشنی میں اس کا پڑھنا نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ ویسے تو اس کے پہلے بھی کچھ ایڈیشن چھپ چکے ہیں لیکن اب جبکہ اس کی اشاعت کا دوبارہ انتظام ہوا تو پہلا ایڈیشن دو ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے رقمیں جمع کروادی تھیں لیکن ان کو تفسیر صغیر کی کاپی اب تک نہیں مل سکی۔ اس کے بعد یہ سپر کیلنڈر کاغذ پر تین ہزار کی تعداد میں شائع کی گئی۔ اس ایڈیشن کی بھی تھوڑی سی کاپیاں باقی رہ گئی ہیں۔ باقی سب بک چکی ہیں اور مجھے خیال پیدا ہوا کہ ابھی مانگ کافی ہے اس لئے قبل اس کے کہ یہ کاپیاں بھی ختم ہو جائیں اسے دوبارہ شائع کر دینا چاہئے۔ چنانچہ اب پھر تفسیر صغیر دو ہزار کی تعداد میں آرٹ پیپر پر شائع ہو چکی ہے اور یہاں وہ پہنچ چکی ہے۔ باوجود اس کے کہ کاغذ اعلیٰ ہے جو ایک دوکاندار کے ذریعہ باہر سے درآ مد کیا گیا ہے لیکن اس کی قیمت وہی ہے جو پہلے تھی۔ جو دوست لینا چاہیں وہ اسے جلد سے جلد خرید لیں تا بعد میں انہیں مایوسی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے۔

تاریخ احمدیت کی جلد ۷ ادارۃ المصنفین کی طرف سے شائع کی گئی ہے جن دوستوں کے پاس پہلی چھ جلدیں موجود ہیں۔ انہیں یہ جلد ضرور لیننی چاہئے اور جن کے پاس پہلی چھ جلدیں نہیں ہیں انہیں اس جلد کے ساتھ پہلی چھ جلدیں بھی خرید لیننی چاہئیں۔ اپنی تاریخ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھو تا ہماری اگلی نسل اپنے مستقبل کو فدائیت اور قربانی اور ایثار کے ساتھ بھرتی رہے۔ ماضی کی تاریخ اس وقت تک مزہ دیتی ہے اور اسی وقت تک فائدہ پہنچاتی ہے جب اس کے مقابلہ میں مستقبل کی جھولیاں بھی ایثار اور قربانی کے ساتھ بھردی جائیں ورنہ وہ ایسا ماضی ہوگا جس پر اگلی نسلیں صحیح معنی میں فخر نہیں کر سکتیں۔ یہ بنیاد بنتی ہے اوپر کی منزل کی اور اوپر کی منزل آپ بنا نہیں سکتے جب تک نچلی منزل نہ ہو اور جس کو اپنی نچلی منزل یا منزلوں کا علم ہی نہ ہو وہ اس سے اوپر کی منزل بنانے کی طرف کس طرح متوجہ ہوگا۔

ادارۃ المصنفین کی طرف سے بخاری شریف مع ترجمہ و شرح جو مکرم و محترم سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے اس کا آٹھواں حصہ بھی شائع ہوا ہے۔ پہلے سات حصے گزشتہ کسی وقت شائع ہوئے تھے۔ اب یہ آٹھواں

حصہ شائع ہوا ہے۔ دوست اسے خریدیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ادارۃ المصنفین کی طرف سے شائع شدہ تین کتب تھیں۔

شرکتہ الاسلامیہ نے روحانی خزائن جلد ۲۰ - ملفوظات جلد ۱۰ - اسیرۃ خاتم النبیین حصہ اول (جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تصنیف ہے اور تین جلدوں میں ہے۔ پہلے نایاب تھی اب اس کی پہلی جلد دوبارہ شائع کی گئی ہے) اور فقہ احمدیہ یہ چار کتب شائع کی ہیں۔ دوستوں کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ”تبادلہ خیال کے لئے تین مسئلے“ مکرم و محترم عزیز الرحمان صاحب مرہبی نے لکھی ہے جو بڑی دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔

اسی طرح جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے ”فتح حق“ کے جواب میں ”غلبہ حق“ نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اور غیر مبائعین نے جو اختلافی مسائل پیدا کر لئے تھے ان کو حل کیا گیا ہے۔ اسے قاضی محمد نذیر صاحب نے لکھا ہے۔ اسی طرح نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے ایک اور کتاب ”مقام خاتم النبیین“ شائع کی گئی ہے۔ یہ کتاب بھی قاضی محمد نذیر صاحب نے لکھی ہے اور اس میں قرآن کریم اور احادیث اور بزرگان امت کے اقوال کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاتم النبیین کے جو معنی جماعت احمدیہ کرتی ہے اکابر آئمہ بھی قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں وہی معنی کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ اس مسئلہ پر شور نہیں مچانا چاہیے۔

مکرم مولوی محمد اجمل صاحب شاہد ایم۔ اے عربی نے جو آج کل کراچی میں مرہبی ہیں ”اسلامی نماز“ کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا ہے جو مفید ہے۔

اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فارسی کلام ”درمبین فارسی“ جو پہلے بھی ایک دفعہ شائع ہو چکا ہے۔ مکرم شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی نے شائع کرایا ہے۔ حضرت محترم ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کا کیا ہوا ترجمہ بھی ساتھ دیا گیا ہے۔ بڑا مفید اور اثر والا یہ کلام ہے بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ بڑا مفید اور اثر والا یہ کلام بھی ہے کیونکہ ہر کلام کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ دوست اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ دوست اس کی طرف توجہ کریں اور اسے خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

ایک کتاب مکرم مولوی عبدالرحمان صاحب مبشر فاضل نے ”برہان ہدایت“ کے نام سے شائع کی ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پہلے دو خلفاء کے حالات خصوصاً تبلیغ کے متعلق کچھ واقعات اور اسی طرح بزرگان جماعت احمدیہ کے تبلیغی واقعات دیئے گئے ہیں۔ پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کتاب کے متعلق کچھ نہ کہوں کیونکہ میں اندھیرے میں تھا۔ کل ہی انہوں نے مجھے دی تھی میں نے یہ کتاب پڑھی نہیں تھی لیکن اتفاقاً چند منٹ مجھے ملے اور میں نے سرسری طور پر اسے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ کتاب مفید بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ اس لئے میں نے خیال کیا کہ میں اس کا اعلان بھی کر دوں تاکہ دوست اس کی طرف بھی توجہ دیں۔

دی ہولی قرآن (The Holy Quran) یعنی قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ۔ تحریک جدید کی طرف سے دی اورینٹل اینڈ رییلیجس پبلیشنگ کمپنی (The Oriental and Religious Publishing Company) نے شائع کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ درس میں انگریزی ترجمہ والا قرآن کریم لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی طبیعت، مذاق اور مزاج ہے اور خصوصاً ہمیں اس طبقہ کے ہاتھ میں اسے پہنچانا چاہیے جو اردو سے واقفیت نہیں رکھتا اور اس وجہ سے کہ انہیں اردو زبان سے کوئی دلچسپی نہیں وہ قرآن کریم کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو اور ترجمہ بھی وہ جو واضح اور صحیح ہو اور ایک حد تک قرآن کریم کے مطالب پر روشنی ڈالنے والا ہو تو خدا کرے کہ قرآن کریم کے نور کا دروازہ ان پر بھی کھلے۔

پھر رسالوں میں ”انصار اللہ“ کا رسالہ خدام الاحمدیہ کا رسالہ ”خالد“ ہے۔ اطفال کا رسالہ ”تشحیذ الاذہان“ اور لجنہ اماء اللہ کا رسالہ ”مصباح“ ہے۔ جامعہ احمدیہ کا رسالہ ہے مکرم و محترم ابو العطاء صاحب کا ”الفرقان“ ان سب رسالوں کو پڑھنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ انہیں پڑھیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو علاوہ فائدہ کے آپ کو یہ ثواب بھی پہنچ رہا ہوگا کہ آپ اس طرح ان رسالوں کو زندہ رکھنے میں مدد دے رہے ہوں گے کیونکہ ان میں سے کوئی رسالہ بھی ایسا نہیں جو انسانی تدبیر کے بغیر زندہ رکھا جاسکے۔ گو تدبیر میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوا کرتا ہے لیکن تدبیر کو خدا تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ اس سے اس دنیا میں فائدہ

حاصل کیا جائے۔

سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر میں ”الفضل“ پہنچے اور ”الفضل“ سے ہر گھر فائدہ اٹھا رہا ہو۔ ابھی جماعت کے حالات ایسے ہیں کہ شاید ہر گھر میں ”الفضل“ نہیں پہنچ سکتا لیکن جماعت کے حالات ایسے نہیں کہ ہر گھر اس سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر ہر جماعت میں ”الفضل“ پہنچ جائے اور جو بڑی جماعت ہے اور اس کے آگے کئی حلقے ہیں۔ اس کے ہر حلقے میں الفضل پہنچ جائے اور الفضل کے مضامین وغیرہ دوستوں کو سنائے جائیں تو ساری جماعت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے خصوصاً خلیفہ وقت کے خطبات اور مضامین اور درس اور ڈائریاں وغیرہ ضرور سنائی جائیں۔ خصوصاً میں نے اس لئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو امر بالمعروف کا مرکزی نقطہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کو نیکی کی باتیں بتاتا رہے وہ امر بالمعروف کرتا رہے اور نہی عن المنکر کرتا رہے بدیوں سے روکتا رہے۔ اب ہر آدمی جب دوسرے بھائی کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتا ہے تو جس شخص کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے سمجھانے والے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا کہ وہ ضرور اس کی بات مانے گا۔ سمجھانے والے کا کام ہے سمجھا دینا اور خاموش ہو جانا اور مخاطب کا کام ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق ان باتوں پر عمل کرے اس کے سامنے دورستے ہیں وہ ان دورستوں میں سے ایک رستہ اختیار کرے گا یا تو اُسے وہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور وہ سمجھانے والے کو کہے گا میاں تم جاؤ اور اپنا کام کرو مجھے تم کیوں ستارہ ہو۔ اور اگر اُسے بات سمجھ آ جائے کہ ایسا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے تو وہ بڑے پیار سے جواب دے گا میاں میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے میری توجہ اس طرف پھیری ہے لیکن اپنے دل میں وہ یہی سوچے گا کہ اپنے حالات کو میں بہتر جانتا ہوں۔ قرآن کریم کا یہ حکم نہیں کہ میں ہر وہ کام کروں جسے کوئی دوسرا شخص نیکی سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کا تو یہ حکم ہے کہ جو ہدایت تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس میں سے جسے تم احسن سمجھو اس کی پیروی کرو اِنَّہٗ حَسَنٌ مَّا اُنزِلَ اِلَیْکُمْ (الزمر: ۵۶) تو افراد کے متعلق تو یہ قانون ہے لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے صرف خلیفہ وقت کی ذات ہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے اس کے ساتھ یہ عہد بیعت کیا ہے کہ جو نیک کام بھی آپ مجھے بتائیں گے میں اس میں آپ کی فرمانبرداری کروں گا۔ یعنی امر

یا المعروف میں اطاعت کا عہد جماعت کے اندر صرف خلیفہ وقت سے ہے اور جماعتی نظام میں جب تک کسی جماعت میں خلافت قائم رہے یہ فیصلہ کرنا کہ جماعتی کاموں میں کونسی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق احسن ہے اور کونسی نہیں یہ صرف خلیفہ وقت کا کام ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ اس نے بتانا ہے کہ موجودہ حالات میں مثلاً دوسروں کے ساتھ مذہبی تبادلہ خیال اس رنگ میں کرو۔ ہزار طریقے ہیں جن سے ہم مذہبی تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ کس موقع پر، کس وقت پر، کس مقام پر، کس ملک میں ایک طریقہ احسن ہوتا ہے تو دوسرے موقع پر دوسرے وقت میں، دوسرے مقام پر یا دوسرے ملک میں دوسرا طریقہ احسن ہوتا ہے۔ ایک یہ فیصلہ کرنا کہ کونسے مقام یا کون سے ملک میں کون سا طریقہ احسن ہے خلیفہ وقت کا کام ہے جب خلیفہ وقت حالات دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور جماعت سے کہتا ہے۔ اَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ یہ چیز اس وقت کے لحاظ سے اور ان حالات میں احسن ہے تم اس کی اتباع کرو۔ آپ کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری جماعتیں (جماعت سے مراد مثلاً گجرات یا جہلم کی جماعت ہے) بوجہ اس کے ان تک خلیفہ وقت کی آواز نہیں پہنچتی وہ کام نہیں کر سکتیں۔ تو بفضل اس شخص کی بات آپ کے کان تک پہنچاتا ہے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لگائی ہے کہ جماعت کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اسے اس وقت فلاں کام کرنے چاہئیں لیکن اگر آپ اپنے کانوں میں الفضل نہ منگوا کر یا اسے نہ سن کر انگلیاں ڈال لیں تو پھر کام کیسے چلے گا۔ ہر جماعت میں کم از کم ایک پرچہ الفضل کا جانا چاہیے۔ اور اس کی ذمہ داری امراء اضلاع اور ضلع کے مرہبان پر ہے۔ اور اس کی تعمیل دو مہینے کے اندر ہو جانی چاہیے۔ ورنہ بعض دفعہ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسے مریبوں کو جو ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کام سے فارغ کر دیا جائے۔ اگر ان لوگوں نے خلیفہ وقت کی آواز جماعت کے ہر فرد کے کان تک نہیں پہنچانی تو اور کون پہنچائے گا اس آواز کو اور اگر وہ آواز جماعت کے کانوں تک نہیں پہنچے گی تو جماعت بحیثیت جماعت متحد ہو کر غلبہ اسلام کے لئے وہ کوشش کیسے کرے گی جس کوشش کی طرف اُسے بلایا جا رہا ہے۔ پس الفضل کی اشاعت کی طرف جماعت کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الفضل خریدنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کانوں تک وہ آواز پہنچنی چاہیے جو مرکز کی طرف سے اٹھتی ہے اور خلیفہ وقت جو امر بالمعروف کا مرکزی نقطہ ہے اس کی طرف آپ کے

کان ہونے چاہئیں اور اس کی طرف آپ کی آنکھیں ہونی چاہئیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام جلد تر غالب ہو جائے۔

۲:- تحریک جدید۔

تحریک جدید کے متعلق میں سوچ رہا تھا۔ تو بعض باتیں میرے ذہن میں آئیں ان کے متعلق میں نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے بعض حوالے نکلوائے۔ جب میں نے وہ حوالے دیکھے تو مجھے بڑا لطف آیا کیونکہ ان حوالوں میں ایک ایسی بات تھی جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا اور وہ بڑی زبردست بات تھی لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور مجھے علم ہے ہماری نگاہ ابھی اس تک نہیں پہنچی تھی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ اس عرصہ کے بعد دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوگا کہ جماعت احمدیہ کی ترقی کے رستہ میں جو روکیں ہیں ان میں سے بعض دور ہو جائیں گی اور اس لحاظ سے بھی جماعت زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض پیشگوئیوں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ الہام یا کشوف روایا جس سے حضور نے یہ نتیجہ نکالا ہے وہ خود حضور کو ہوئی ہیں یا حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئیوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ بہر حال آپ نے اتنا کہا ہے کہ بعض پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جماعت کی ترقی کے راستہ میں جو بعض رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ حضور کے وہ اقتباس اب میں سناتا ہوں ذرا غور سے سنیں۔ ہاں جب تحریک جدید کی ابتداء کی حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ تحریک یا یوں کہنا چاہئے کہ اس تحریک کی مالی قربانیوں کا عرصہ آپ نے صرف تین سال مقرر کیا تھا کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جماعت سے کہ اگلے تین سال کے اندر تین سال کی مجموعی رقم تین لاکھ دس ہزار کچھ سو روپیہ تحریک جدید کے کاموں کے لئے مجھے دے دو۔ یہ صرف تین سال کے لئے جاری کی گئی تھی اور مطالبہ ہے تین لاکھ دس ہزار کچھ سو روپیہ کا۔ حضور نے تحریک جدید کا تین سال کے عرصہ کے لئے اجراء فرمایا تھا اور یہ جو مجھے حوالے ملے ہیں اور جو میں آپ کو اس وقت سنانا چاہتا ہوں وہ دوسرے سال کے ہیں۔ اس لئے تحریک جدید کے آئندہ جاری رہنے کے متعلق بھی بیان ان حوالوں میں آ گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں:-

”تین سال تو پہلا قدم ہے..... قربانیوں کے مطالبات اب زیادہ ہوں گے کم نہیں۔ جو

خیال کرتا ہے کہ اب سال ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو جانی چاہئیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ میرے ساتھ اب وہی چلیں گے جو یہ مستقل ارادہ رکھتے ہوں گے کہ ہم نے اب سانس نہیں لینا۔ اب ہم خدا کے قدموں میں ہی مریں گے اور جان دیں گے۔“ (الفضل مورخہ ۷ نومبر ۱۹۳۵ء صفحہ ۸ کالم نمبر ۲)

نومبر ۱۹۳۷ء میں آپ نے یہ فرمایا کہ:-

”تیریک ابتداء تین سال کے لئے تھی اور یہ تین سال تجربہ کے تھے اور اس کے شروع میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ (جب کہ دوسرے سال اعلان کر دیا) بلکہ تین سال کے بعد یہ اس سے بھی زیادہ تعہد کے ساتھ جاری ہوگی اور زیادہ گراں اور بوجھل سکیم پیش کی جائے گی۔“ (الفضل ۱۸ نومبر ۱۹۳۷ء صفحہ ۶ کالم نمبر ۴)

جنوری ۱۹۳۸ء میں آپ نے فرمایا کہ:-

”یاد رکھو کہ قربانی وہی ہے جو موت تک کی جاتی ہے پس جو آخر تک ثابت قدم رہتا ہے وہی ثواب بھی پاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر نئے دور کو سات سال تک کیوں محدود رکھا ہے (جب تین سال گزر گئے تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اب میں مزید سات سال کے لئے تحریک جدید کا اجراء کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بند نہیں ہوگی بلکہ جاری رہے گی۔ تو ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے جاری رہنا ہے تو سات سال کا یہ ایک دور کیوں مقرر کیا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں) تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانیاں کئی رنگ میں کرنی پڑتی ہیں موجودہ سکیم کو میں نے سات سال کے لئے مقرر کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بعض پیشگوئیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۴ء تک کا زمانہ ایسا ہے جس تک سلسلہ احمدیہ کی بعض موجودہ مشکلات جاری رہیں گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھی پیدا کر دے گا کہ بعض قسم کے ابتلاء دور ہو جائیں گے۔“ (الفضل ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء صفحہ ۶ کالم نمبر ۳)

حضور نے یہ نتیجہ بعض پیشگوئیوں سے نکالا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کونسی پیشگوئیاں ہیں اور وہ کس کی ہیں۔ یہاں صرف اتنا بتایا ہے کہ بعض پیشگوئیوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۴ء تک کا زمانہ ایسا ہے کہ اس کی انتہا تک یعنی زیادہ سے زیادہ ۱۹۴۴ء تک بعض روکیں قائم رہیں گی۔ یہ تو ایک پیشگوئی ہے۔ دوسری پیشگوئی یہ ہے کہ ۱۹۴۵ء میں وہ روکیں دور ہو جائیں گی اور یہ دوسری

پیشگوئی انفرنس (Inference) کے رنگ میں میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اب وہ کونسی روکیں ہیں جو ۱۹۴۴ء تک عملاً جو ہوا وہ چوالیس تک کا زمانہ ہے۔ یعنی ویسے تو حضور نے فرمایا ۱۹۴۲ء تا ۱۹۴۴ء لیکن عملاً جو ہم نے دیکھا وہ روکیں ۱۹۴۴ء تک قائم رہیں اور ۱۹۴۵ء میں یکدم دور ہو گئیں اور دور بھی ہوئی ہیں یکدم کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے جب یہ حوالہ پڑھا میری توجہ اس طرف گئی کہ حضور نے بڑی اہم بات کہی تھی لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کون سی روکیں تھیں جو ۱۹۴۴ء تک قائم رہیں اور پھر ۱۹۴۵ء میں دور ہو گئیں۔ تو ایک اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہی ہدایت دیتا ہے اور خود ہی راہنمائی کرتا ہے۔ میں نے تحریک جدید سے بعض معلومات حاصل کیں تو جب وہ میرے سامنے آئیں تو اس سوال کا جواب ان معلومات میں موجود تھا مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہاں سے مجھے مل جائے گا۔ تو میں نے خدا تعالیٰ کا بڑا شکر کیا اور اس کی حمد کی کہ پہلے ایک مسئلہ کی طرف توجہ دلائی پھر اپنی طرف سے ہی سامان پیدا کر دیئے کہ اس کا حل بھی مجھے معلوم ہو جائے۔ اور وہ حل یہ ہے اور وہ روکیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا تحریک جدید ابتداءً تین سال کے لئے جاری کی گئی اور اس کے بعد اس کا دوسرا دور سات سالہ ہوا یعنی مالی قربانیوں کا۔ اور یہ محدود سات سال دوسرے لئے ہوئے تھے جس کی وجہ خود حضور نے بتائی جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں۔

یہ دس سالہ دور ۱۹۴۴ء میں ختم ہوتا ہے جیسا کہ خود حضور کا منشا یہی تھا لیکن اس زمانہ میں یعنی ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ء میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے علم نہ حاصل کرے کہ یکدم اور اچانک دنیا میں ایک انقلاب عظیم پھا ہوگا اور وہ اس طرح پھا ہوا کہ جس وقت تحریک جدید کی ابتداء کی گئی اس وقت تمام دنیا میں جماعت جو کام کر رہی تھی اس کا بار مرکز کے اوپر تھا۔ اس وقت ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور سارا ملک ہندوستان کہلاتا تھا۔ بعد میں وہ تقسیم ہو گیا اور پاکستان علیحدہ قائم ہو گیا اور جماعت کا مرکز پاکستان میں آ گیا۔ اس لئے میں اس وقت لفظ مرکز ہی استعمال کروں گا تا سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جو کام بھی ہم کرتے تھے اس کا سارا مالی بوجھ مرکزی جماعت پر ہوا کرتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام دنیا میں غلبہ اسلام کے کام کی ذمہ داری صرف مرکزی

جماعت کے اوپر تھی۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ مرکز اپنا کام جاری نہ رکھ سکتا تو دنیا میں غلبہ اسلام کی تحریک یا ختم ہو جاتی یا کھڑی ہو جاتی۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز تھی سوچنے والے کے لئے۔ ۱۹۴۴ء تک ایک پیسہ بھی آمد تحریک جدید کے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ غیر ممالک کی طرف سے کوئی آمد ہوئی ہو۔ اس دس سالہ دور میں تحریک جدید کا سارا بار مرکزی جماعتوں یا مرکز کے سوسز آف انکم (Sources Of Income) یعنی ذرائع آمد نے اٹھایا اور جماعت کے ریکارڈ میں ایک دھیلہ بھی ایسا نہیں جو غیر ممالک نے اس تحریک میں ادا کیا ہو۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ بڑی خطرناک حالت تھی ایک ملک کے اوپر انحصار کرنا ایک عالمگیر تحریک کا، اگر یہ تحریک انسان کی ہوتی تو ہم کہتے بیوقوف ہیں۔ خدا کی تھی اور خدا سامان بھی پیدا کر رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا لیکن یہ تحریک خدا کی طرف سے تھی اور خدا تعالیٰ خود ہی اس کی مضبوطی کے ایسے سامان پیدا کر رہا تھا جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے (غیر مبائعین کے نزدیک حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو تقویٰ کا مقام ہی نہیں حاصل لیکن خدا تعالیٰ کا آپ سے یہ سلوک تھا کہ اس نے آپ کو وقت سے پہلے یہ بتایا کہ ۱۹۴۴ء تک کا زمانہ بڑا خطرناک ہے بعض ایسی روکیں ہیں جماعت کی ترقی میں۔

اس وقت تک جماعت احمدیہ کی ترقی کے رستہ میں بعض روکیں قائم رہیں گی۔ اب یہ کوئی کم روک نہیں ہے کہ بلکہ ایک زبردست روک ہے کہ جماعت کی ترقی کی سکیم کا انحصار صرف ایک ہی ملک یعنی مرکزی جماعتوں پر ہو اور اگر کسی وجہ سے یہ کام معطل ہو جائے تو ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کا کام معطل ہو جائے۔ تو خود ہی بتایا کہ ۱۹۴۴ء تک یہ روکیں ہیں۔ ۱۹۴۴ء تک جاری رہیں گی۔ اور ۱۹۴۴ء کے بعد روکیں دور ہو جائیں گی۔ اور ۱۹۴۵ء میں ہمیں یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ یہ روکیں دور ہو گئیں۔ خدا بڑی شان والا ہے وہ بڑی قدرتوں والا ہے اس کی قدرتوں کے جب نظارے ہم پر جلوہ گر ہوتے ہیں تب ایک طرف ہماری ہستی بالکل لاشیٰ محسوس ہوتی ہے دوسری طرف مخالف اور منکر مقابلہ میں جو کوششیں کرنے والے ہیں وہ مردہ نظر آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ان تجلیات کے بعد ہم نے پھر کیا ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اب دیکھیں ۱۹۴۴ء کے بعد ۲۳ سال ہوئے ہیں اس ۲۳ سال میں غیر ممالک کی احمدی جماعتوں اور غیر ممالک کے جو ذرائع آمد ہیں ان سے تحریک جدید

کو ایک کروڑ بانوے لاکھ روپیہ سے اوپر کی آمد ہوئی ہے۔ یعنی پہلے تین سال کا مطالبہ تحریک جدید کی مالی قربانیوں کا تین لاکھ کا تھا اور بعد میں ۱۹۴۵ء کے بعد ۲۳ سال میں غیر ممالک کی جماعتوں نے قریباً دو کروڑ روپیہ تحریک جدید کے کاموں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور یہ ذرائع آمد باہر کے کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہیں بلکہ درجنوں ممالک جو ہیں وہ آمد پیدا کر رہے ہیں اور اس طرح پر جماعت کا قدم دنیا میں بین الاقوامی جماعت کی حیثیت سے بڑی مضبوطی سے قائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے محمود کو دیا تھا ابتداء میں تحریک جدید کی مالی قربانیوں کا مطالبہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے پہلے تین سال کا مطالبہ تین لاکھ دس ہزار روپیہ کا تھا۔ اب تک تحریک جدید کی مجموعی آمد تین کروڑ اسی لاکھ سے اوپر نکل گئی ہے یعنی تین کروڑ چھبیس لاکھ۔ یعنی ہر لاکھ کے مقابلہ میں سو گنا زیادہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہمارے اندر ایک خواہش ایسی پیدا کی جو اس وقت انہونی تھی اور انسان کا دل سمجھتا ہے کہ یہ بھی مل جائے تو یہ بڑا ہی فضل ہے خدا کا۔ اور پھر جب دینے پر آیا تو اس نے سو گنا زیادہ دے دیا تاکہ طبیعت میں سرور اور بشارت پیدا ہو۔

یہ تو تحریک جدید کے متعلق ضروری تمہید تھی اب میں تحریک جدید کے گزشتہ سال کے کام جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جماعت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے کہ وہ کس طرح ہماری بالکل حقیر کوششوں میں برکت پہ برکت ڈال رہا ہے اور اپنے فضلوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔

پہلا اور بنیادی کام ہماری جماعت کا اشاعت قرآن ہے۔ چنانچہ میں نے گزشتہ سال جماعت کے دوستوں کے سامنے یہ بات تفصیل سے رکھی تھی کہ بہت سے تراجم غیر بانوں میں ہو چکے ہیں۔ بہت سے تراجم زیر طبع ہیں اور بعض عنقریب تیار ہو جائیں گے اور بعض پر ابھی کچھ وقت لگے گا اور بعض زبانوں میں ایسے تراجم ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے ابھی تک ہمیں ایسے ذرائع میسر نہیں آئے کہ ہم ان تراجم کی طرف متوجہ ہوں۔ جماعت یہ سن کر خوش ہوگی کہ ڈینش زبان میں گزشتہ سال قرآن کریم کے سات پاروں کا ترجمہ شائع ہوا تھا لیکن امسال پورے قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو کر شائع ہو چکا ہے اور اس کی ایک کاپی وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ آج کی ڈاک میں پہنچ جائے گی اور میں دوستوں کو اگرچہ دور سے ہی ہودکھا دوں

گا لیکن وہ آج کی ڈاک میں موصول نہیں ہوئی۔ اگر وہ کل تک پہنچ گئی تو میں اسے کل دوستوں کی خدمت میں پیش کر دوں گا انشاء اللہ۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ کی ایک اور زبان میں ترجمہ قرآن مکمل ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

تفسیر القرآن انگریزی جو تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے ۱۹۶۶ء میں مکمل ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اب اس لمبی تفسیر کا خلاصہ تیار کرایا گیا ہے جو اس وقت لاہور میں زیر طبع ہے اور اس طرح اب قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ مع تفسیری نوٹ ایک جلد میں مل سکے گا۔ اور یہ ہینڈی (Handy) ہوگا اور آسانی سے اس کا استعمال کیا جاسکے گا۔ پھر جن غیر مسلموں کو یہ دیا جائے گا ان کی طبیعتوں پر بھی اس کے جسمانی وزن کا بار نہیں ہوگا۔

اس کے علاوہ تفسیر القرآن انگریزی جلد اول سورۃ یونس تا کہف جو نایاب ہو چکی تھی اب دوبارہ طبع ہو رہی ہے اور پریس میں جا چکی ہے۔ وہ بھی انشاء اللہ عنقریب دوستوں کے ہاتھ میں آجائے گی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا فرانسیسی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ نظر ثانی بھی ہو چکی ہے۔ اب مختصر تفسیری نوٹ تیار کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ارادہ ہے کہ تفسیری نوٹوں کے ساتھ یہ فرانسیسی ترجمہ شائع کیا جائے۔

مغربی افریقہ کی فینیٹی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور پانچ پاروں پر نظر ثانی بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی زبان میں دس پاروں کا ترجمہ اور تفسیر مع دیباچہ تفسیر القرآن پریس میں دے دیا گیا ہے اور ایک حصہ چھپ بھی چکا ہے اور بطور نمونہ کے یہاں پہنچ بھی چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترجمہ اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں گزشتہ سال تحریک جدید نے یہ کام کئے ہیں۔

تفسیر قرآن کریم کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتاب ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ انگریزی زبان میں دوبارہ طبع کروائی گئی ہے اور ایک لاکھ کی تعداد میں اسے شائع کرایا گیا ہے تاکہ دنیا میں اسے پھیلا دیا جائے۔ اسی طرح ”ختم نبوت کی حقیقت“ انگریزی زبان میں شائع کی گئی ہے۔

رسالہ جات میں تحریک جدید کا بھی اپنا ایک رسالہ ہے اور اس کا نام بھی ”تحریک جدید“

ہے۔ یہ رسالہ بھی اچھا اور دلچسپ ہے گو میرا یہ فرض ہے کہ میرے پاس جو رسالہ آئے اُسے میں پڑھوں لیکن اپنی مصروفیتوں کے باوجود جن رسالوں کو میں دلچسپی سے پڑھتا ہوں ان میں سے ایک رسالہ ”تحریک جدید“ بھی ہے۔ یہ رسالہ بھی دلچسپ ہے دوستوں کو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اس کی قیمت بھی بہت کم ہے یعنی دو روپیہ سالانہ ہے اور یہ کوئی قیمت نہیں ہے۔

۳: نئی مساجد

ڈنمارک کے دارالخلافہ کوپن ہیگن میں مئی ۱۹۶۶ء میں مسجد کی بنیاد رکھی تھی جو اب قریباً مکمل ہو چکی ہے چھتیس بھی پڑ چکی ہیں۔ آخری جو کام ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت ابھی رہتے ہیں۔ سمجھنا یہی چاہئے کہ یہ مسجد محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہوئی ہے اور اس کی بنیادیں بھی کافی دیر بعد مئی ۱۹۶۶ء میں رکھی گئیں تھیں۔

غانا میں دو نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ مساکا (یوگنڈا) میں زیر تعمیر مسجد مکمل ہو چکی ہے۔ ٹانگانیکا (تنزانیہ) میں ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ نائیجیریا میں پانچ زیر تعمیر مساجد میں سے ایک مکمل ہو چکی ہے۔ یہ مسجد ”کانو“ شہر میں ہے۔ فری ٹاؤن کے لسٹر ایریا میں مسجد کی دیواریں مکمل ہو چکی ہیں۔ چھت پڑنی باقی ہے لیکن وہاں کی احمدیہ جماعت نے اپنی روایات کے مطابق نمازیں ادا کرنی شروع کر دی۔ چھت بھی اپنے وقت پر پڑ جائے گی تو بطور مسجد کے وہ استعمال ہونے لگے گی ہے۔ گیمبیا کے قصبہ ”سارا کوئنڈا“ میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے اسی طرح ”فیرافینی“ میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ اور سالا کینیا میں ایک ایک مسجد تیار ہو چکی ہے۔ گیمبیا وہ ملک ہے جہاں کا گورنر جنرل خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی کو مقرر کیا گیا تھا۔ اور وہ کنفرم (Confrim) بھی ہو چکے ہیں اور مستقل گورنر جنرل بنا دیئے گئے ہیں۔ جماعت کے کاموں میں بڑا حصہ لیتے ہیں دوستوں کو علاوہ باقی دوستوں کے جن کے لئے دعائیں کرنی ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بادشاہ جو ایک رنگ میں ایک آزاد ملک کا صحیح معنی میں بادشاہ ہے دیا ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑوں سے تبرک حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ باوجود کوشش اور خواہش کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تبرک کے بھجانے میں دیر ہوتی چلی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک حکمت رکھی ہوئی

تھی۔ اور آخر جس دن وہ تبرک وہاں پہنچا اور انہوں نے وصول کیا اُسی دن بی بی سی کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ان کو مستقل گورنر جنرل بنا دیا گیا ہے اور پہلی برکت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑوں کی انہوں نے اس طرح وصول کی۔

مشن ہاؤس کے لئے آئیوری کوسٹ میں مشن ہاؤس بنا بنایا خرید لیا گیا ہے۔ اسی طرح لائبریری میں جو فریقہ کا ایک ملک ہے وہاں بھی مشن ہاؤس خرید لیا گیا ہے۔

منع مشن، سکاٹ لینڈ میں نیا مشن کھولا گیا ہے۔ جہاں بشیر احمد صاحب آرچرڈ کام کر رہے ہیں یہ بڑے مخلص انگریز واقف زندگی ہیں کہ یہاں کے لوگ ان کو بھی ان کے اوپر رشک آتا ہے بڑی ہی فدائی، بڑے ہی قربانی دینے والے اور ایثار پیشہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے احمدیت اور اسلام کی خدمت کرنے والے نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا انگلستان میں ایک مبلغ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض دوسرے مشنوں میں بھی مبلغین کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے جیسا کہ مثلاً جرمنی میں ایک مبلغ کا اضافہ ہوا ہے۔ گیمبیا میں ایک مبلغ کا اضافہ ہوا ہے۔ میں نے وہاں کے گورنر جنرل صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ایک ڈاکٹر یہاں آجائے وہ اگر ضرورت کبھی پیش آئے تو آپ کا علاج بھی کرے گا اور آپ کی قوم کی خدمت بھی کرے گا اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے وزیر صحت سے اس کے متعلق بات کر لی ہے آپ کوائف بھیج دیں امید ہے اس کی اجازت مل جائے گی۔ دوست یہ بھی دعا کریں کہ وہاں ہمارے ایک ڈاکٹر بھی پہنچ جائیں اور اس طرح دنیا کی خدمت کے ذریعہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کریں۔ (ہاں وہ جو کتابیں تھیں تحریک جدید، تفسیر القرآن کے بعد یہ مجھ سے زبانی بات کی تھی لیکن ذہن سے نکل گیا۔) اسلامی اصول کی فلاسفی انگریزی زبان میں دوبارہ طبع کروائی گئی اور شائع کی گئی ہے اور ایک لاکھ کی تعداد میں اس کو شائع کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں اس کو پھیلا دیا جائے۔ اسی طرح ختم نبوت کی حقیقت انگریزی میں شائع کی گئی ہے رسالہ جات میں، تحریک جدید کا بھی اپنا رسالہ ہے اس کا نام ہی تحریک جدید ہے وہ بھی بڑا اچھا اور دلچسپ ہے۔ اپنی مصروفیتوں کے باوجود میرے پاس جب آئے گا میرا فرض بھی ہے اور لیکن اس کے علاوہ میں دلچسپی کے لحاظ سے بھی جن رسالوں کو پڑھتا ہوں ان میں ایک تحریک جدید کا بھی رسالہ بڑا دلچسپ ہے دوستوں کو اس طرف بھی توجہ دینی

چاہئے اور بڑی کم قیمت رکھی ہے غالباً ایک روپیہ، دو روپے کوئی قیمت نہیں۔ دو روپے میں آپ کو مل جائے گا۔

۴۔ نئے سکول

غانا میں پانچ نئے پرائمری سکول کھولے گئے ہیں اسی طرح وہاں ایک مشنری ٹریننگ کالج بھی کھولا گیا ہے جہاں ہم مبلغین تیار کر رہے ہیں۔ اس کالج میں نائیجیریا، غانا، سیرالیون، گیمبیا اور لائبیریا کے طلباء تربیت حاصل کر رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں۔

سیرالیون میں ’باجے بو‘ کے مقام پر ایک سیکنڈری سکول کھولا گیا ہے۔ اس سکول کے کھلنے میں بڑی دقتیں تھیں کیونکہ وہاں کے عیسائی مشنری حکومت پر پورا دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس جگہ پہ احمدیوں کی بجائے عیسائیوں کو سکول کھولنے کی اجازت دی جائے اور کافی دیر سے یہ کشمکش جاری تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیئے کہ عیسائیوں کو اجازت ملنے کی بجائے ہمیں احمدیوں کو اجازت مل گئی اور وہاں اب یہ سکول جاری ہو گیا ہے۔ الحمد للہ علی ذالک۔ اور اب اس ملک سیرالیون میں ہمارے تین سیکنڈری سکول کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے تبلیغ میں وسعت پیدا ہو گئی ہے اور نفوذ بہت بڑھ رہا ہے۔

حال ہی میں سابق فرینچ گنی کی سرحد کے قریب سیرالیون میں ایک پرائمری سکول بھی کھولا گیا ہے اور اس سے فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جو فرانسیزی علاقے ہیں وہاں چونکہ کیتھولک مشن تھے اور وہ دوسروں کی نسبت زیادہ متعصب ہیں وہ ان ملکوں میں جانے نہیں دیتے تھے تو کچھ تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ انہوں نے اس کو Encourage بھی کیا تھا۔ وہاں کے مسلمان مولوی بھی بڑے متعصب ہیں اس لئے ان ملکوں میں ہمارے مشن کھلنے میں بڑی دقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر رہا ہے کہ وہاں ہماری جماعتیں قائم ہو رہی ہیں اور وہ اس طرح کہ فرانسیزی علاقوں کے ممالک کی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں جو کسی وقت انگریزوں کی تحویل میں تھے اور اب آزاد ہیں اور جہاں ہمارے مشن ہیں۔ تو وہاں اس قسم کی سرحدیں نہیں جس طرح ہمارے ملک میں واہگہ یا قصور کے آگے حسینی والا کی سرحدیں ہیں بلکہ عام لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں تو اگر ہمارا کوئی سکول یا مشن سرحد پر واقع ہو تو چونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی آدمی ادھر سے آتا جاتا رہتا ہے اس لئے جب وہ

لوگ اس جگہ آئیں گے جہاں ہمارا سکول یا مشن واقع ہوگا تو وہاں وہ زیر تبلیغ آتے ہیں تو وہاں وہ احمدی ہو جاتے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ گیمبیا کے ذریعہ، سیرالیون کے ذریعہ اور بعض دوسرے ممالک کے ذریعہ بہت سے لوگ فرانسیسی ممالک سے وہاں پہنچنے کے بعد احمدیت کو اور اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں جماعتیں قائم کرنے کے سامان پیدا کر رہا ہے۔

نئی بیعتیں

کم و بیش پانچ ہزار نئی بیعتیں غیر ممالک میں ہوئی ہیں۔ فالحمد لله علیٰ ذالک۔

ہماری ضروریات

جہاں تک تحریک جدید کے کاموں کا سوال ہے ہماری ضرورتیں یہ ہیں اور جماعت پر اس کی ذمہ داری ہے۔ جماعت کو سوچ کر شوریٰ کے موقع پر اپنی مجالس عاملہ میں اپنی اپنی جماعتوں کے اندر اور دوسرے مواقع پر ان باتوں پر غور کرنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں جلسہ عام میں دوستوں کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں کیونکہ یہ کوئی میری جائیداد نہیں ہے یہ سارے فضل جو اللہ تعالیٰ مختلف رنگ میں مختلف وقتوں میں اور مختلف ممالک میں ہم پہ کر رہا ہے وہ ساری جماعت کا اور اکٹھا سب کا ملا جلا ورثہ ہے۔ ہم اس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور اپنی برکتوں میں حصہ دار بناتا ہے۔ یہ مشترکہ ورثہ ہے اور مشترکہ ذمہ داری ہے اس کے نتیجہ میں ہم پر مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

پہلی ضرورت ہے مبلغین کی مین اس تھوڑے سے عرصہ میں جب سے مجھ پر یہ ذمہ داری پڑتی ہے بار بار جماعت کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہمیں مبلغین زیادہ تعداد میں چاہئیں۔ دسویں جماعت کے طالب علم ان کے لئے ہزار راستے آگے دُنیا میں ترقی کرنے کے ہیں اور ان کے لئے ایک راستہ وہ کھلا ہے جو علاوہ دُنیا کی ترقی کے ان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ آپ بڑے ظالم ماں باپ ہیں اگر آپ جنت کی طرف جانے والے راستہ پر کھڑے ہو کر اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس طرف جا اس راستہ پر نہیں ہم تمہیں چلنے دیں گے۔ یا اگر وہ جنت کی طرف جانے والے راستہ کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں ظاہری اموال کے لحاظ سے بے شک وہ آپ کو غریب نظر

آئیں لیکن جو لذت اور سرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے اس وقف کی زندگی میں اس کے مقابلہ میں دُنیا کی تمام لذتیں اور سرور ہیچ ہیں۔ اس لئے وہ غریب نہیں ہیں بلکہ دُنیا داروں کی نسبت اپنے نتیجہ کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ پس اپنے بچوں کو اس دولت سے محروم نہ کریں اور خدا کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے میں تمہاری مدد صرف اس وقت اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ تم میرے دین کی مدد کرتے رہو گے۔

پھر ہمیں ضرورت ہے ایسے ڈاکٹروں کی جو ریٹائر ہونے کے بعد فراغت حاصل کر سکتے ہوں تو فراغت حاصل کر کے غیر ممالک میں تحریک جدید کے انتظام کے ماتحت جائیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ انہیں دُنوی اموال بھی دے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق بھی عطا کرے گا کہ وہ ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنائے گا دین اسلام کو مضبوط کرنے کا اور اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنائے گا توحید خالص کے قیام کا۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا اس سے منہ نہ موڑو۔ پس اے میرے بھائی ڈاکٹر! خدا کے دین کے لئے سلسلہ کی آواز پر لیک کہتے ہوئے تم اپنے آپ کو اس کام کے لئے پیش کرو۔ ہمارا کام تا ہماری ذمہ داریاں تا ان ذمہ داریوں کے جو حسین نتائج نکلنے والے ہیں ان کا وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جائے۔

ہمیں ضرورت اس کے علاوہ اساتذہ کی ہے ایم۔ اے، ایم۔ ایس۔ سی۔ یابی۔ اے اور بی۔ ایس۔ سی ٹرینڈ جو غیر ممالک میں جائیں گے ہمارے سکولوں میں یا ہمارے ذریعہ سے بعض دوسرے سکولوں میں کام کریں وہ بھی اسلام کی تقویت کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ ہمارا پہلا تجربہ ہے لیکن میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس وقت تک مغربی افریقہ میں اساتذہ بھیجا کرتے تھے اور چونکہ وہ ممالک تعلیم میں بہت پیچھے ہیں اور ان ممالک میں یہ بڑا خیال ہے کہ ہم اپنے ملک میں تعلیم کو عام کریں اور اس کے معیار کو بلند کریں اس لئے وہ کافی رقوم تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے سکولوں میں جو ایم۔ اے، ایم۔ ایس۔ سی یابی۔ اے، بی۔ ایس۔ سی ٹرینڈ وہاں جاتے ہیں ان کو ہمارے ملک کی نسبت بھی زیادہ تنخواہیں اس لئے دی جا رہی ہیں کہ وہاں کی حکومت بڑا

حصہ اس بوجھ کا اپنے اوپر اٹھا رہی ہے۔ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑتا لیکن مشرقی افریقہ کا یہ حال نہیں وہاں کم از کم چند سال تک صحیح معنی میں جو سیدھے سادھے زندگی گزارنے والے واقف ہیں اس قسم کے استاد چاہئیں۔ ورنہ مشرقی افریقہ میں ہماری رفتار ترقی رک جائے گی یا وہ بہت آہستہ ہو جائے گی۔ وہاں اس وقت ہائر سیکنڈری سکول کھولنے کی بڑی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن جب یہ ملک آزاد ہوئے وہاں عیسائیت کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دوڑ آگئی اور وہ بڑے تعصب سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری مدد کرنے کے لئے تیار نہیں۔ کم از کم کچھ عرصہ تک ہمیں قربانی دینے والے اور ایثار پیشہ اساتذہ ایم۔ اے، ایم۔ ایس۔ سی یا بی۔ اے اور بی۔ ایس۔ سی ٹرینڈ اساتذہ چاہئیں جو ان ملکوں میں جا کر واقفین کے برابر گزارہ لیں یا شاید حالات اگر اجازت دیں تو ہم انہیں کچھ زیادہ بھی دے دیں وہاں جائیں اور سکولوں کی بنیاد رکھ دیں۔

میری یہ خواہش ہے اور میں اس کے لئے کوشش بھی کر رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ بڑی جلدی اور پہلے منصوبہ میں مشرقی افریقہ میں ہمارے ہائر سیکنڈری یا سیکنڈری سکول قائم ہو جائیں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر ہماری ترقی وہاں رُک جائے گی۔ ایک سینڈ کے لئے بھی نہ مئیں اور نہ آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی کے سامان پیدا کئے ہیں اپنی غفلتوں کی وجہ سے ان سامانوں کو ہم ضائع کر دیں اور ان مواقع کو کھو دیں تو ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو قربانی کرنے والے ہوں اور کم تنخواہ پر وہ مشرقی افریقہ کے تینوں ممالک میں جہاں بھی ہمارے سکول کھلیں جا کر کام کریں۔ ایک ملک نے تو لکھا تھا کہ آپ فوراً ہمیں سکول کے لئے اساتذہ بھیجیں یکم جنوری کو جو گزر گیا ہے ہم وہاں سکول کھول دیتے کیونکہ حکومت یہاں جلد سکول کھولنا چاہتی ہے۔

اس کے علاوہ ہمیں روپیہ کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے ہماری ۳۳ سالہ کوشش کے نتیجے میں جو آدھریک جدید کمرکزی جماعتوں کی طرف سے ہوئی اس سے زیادہ آمد غیر ممالک کی جماعت کی ۲۳ سالہ کوشش سے ہو چکی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے آگے نکل گئے ہیں۔ اگر وہ مالی قربانیوں میں مستقل طور پر آگے نکل گئے اور ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو کل کو ان کو یہ حق ہوگا کہ وہ یہ کہیں (اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں) کہ یہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ وقت کے احکام

کو ماننا ہر ملک کے احمدیوں پر فرض ہے اور ہم احکام کے تابع ہیں لیکن غیر ممالک میں اسلام کے غلبہ کے لئے جو کوشش، جو مجاہدہ، جو جدوجہد اور تدبیر اس وقت اختیار کی جا رہی ہے اس میں ہمارا کنٹری بیوشن (Contribution) اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہے اس لئے اس کا سارا انتظام ہم کریں گے۔

صدر انجمن احمدیہ یا تحریک جدید نہیں کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حد تک حق بجانب ہوں گے اور کہیں گے قربانیاں ہم دیں اور نظام ہم کسی اور کے ہاتھ میں رکھتے ہیں جس طرح آپ کے مطبع اور فرماں بردار تحریک جدید کے وکلاء ہیں اسی طرح ہم ہیں ہمیں کیوں محروم رکھا جائے۔ تو مرکزی جماعتوں کا قربانیوں کا معیار بہر حال ان جماعتوں سے بڑھ کر رہنا چاہیے اور اس وقت وہ مجموعی لحاظ سے ہم سے آگے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کی مالی قربانیاں مثلاً اس کا پانچواں یا دسواں حصہ بھی ہوں جو یہاں کی جماعت کر رہی ہے لیکن وہ بہر حال مجموعی حیثیت میں آج ہم سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل ان میں سے کوئی ایک ملک ایسا ہو جائے گا آپ میں سے ہر شخص کی خواہش، تمنا اور دعا ہے کہ مثلاً سیرالیون سارا احمدی ہو جائے، مثلاً غانا سارا احمدی ہو جائے، مثلاً گیمبیا سارا احمدی ہو جائے، مثلاً نائیجیریا سارا احمدی ہو جائے۔ وہ کون سا ملک ہے جس کے احمدی ہو جانے کے متعلق آپ کے دل میں خواہش نہ ہو اور اس کے لئے آپ کی دعا نہ ہو جس وقت وہ ملک احمدی ہو گیا اور اس کی مالی قربانیاں آپ سے بڑھ گئیں اس دن وہ کہے گا نظام ہمارے ہاتھ میں دو یا ہمارے مقابلہ میں آ کے قربانیاں دو۔ تو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے کہ آپ کے ہاتھ یہ سے فضیلت چھین لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کا نظام آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے چلا رہا ہے۔ ان باتوں کی طرف توجہ دو اور اپنی قربانیوں کے معیار کو اور قربانیوں کی رفتار کو بڑھاؤ مل کے سب نے ایک تشبیہ ہمیں کر دی ہے۔ وارننگ سنگل بلند ہو چکا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو مالی قربانیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے نکلو جتنا لٹریچر ہے (کتابیں، رسالے، قرآن قریم کے تراجم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کے تراجم۔ جن کی بڑی ضرورت ہے جتنی اچھی تربیت ہو گئی ہے ناں غیر ممالک میں مثلاً افریقہ کے حبشیوں کی۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعض کتب اور کچھ کتب کے بعض حوالے آپ نے ان کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ اس سے پہلے وہ واقف ہی نہیں تھے ان چیزوں سے کوئی پیاس ان کے اندر نہیں تھی کوئی ان کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی کہ ہم یہ پڑھیں۔ اب آپ نے ان کو چسکا لگا دیا ہے۔ اب کسی اور تحریر سے ان کی یہ پیاس نہیں بجھتی اتنے خطوط آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کا ترجمہ آپ کیوں نہیں کرتے انگریزی میں ہمیں کیوں محروم رکھا ہوا ہے بڑے ظالم ہوں گے آپ کہ آپ پیاس کو بھڑکا دیتے ہیں اور پانی مہیا نہیں کرتے۔ تو یہ لٹریچر کیسے پیدا ہو کس طرح یہ طبع ہو کیسے یہ تقسیم کیا جائے جب تک ہمارے پاس پیسے نہ ہوں۔ اس وجہ سے بھی ہمیں اپنی قربانیوں کے معیار کو بلند کرنا پڑے گا۔

۳۔ وقف جدید

وقف جدید بھی اپنے میدان میں اور ان ذمہ داریوں کے نبانے میں جو ان کے سپرد کی گئی ہیں محض خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑا ہی اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن وقف جدید کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک معلمین کی اور ایک معلمین کے خرچ کو برداشت کرنے کی۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ تجویز ڈالی کہ جماعت کے پندرہ سال سے کم عمر بچوں سے یہ اپیل کروں کہ وہ وقف جدید کے چندے کا جو کم سے کم معیار ہے یعنی چھ روپے دے کر یا بعض گھرانے اگر بہت ہی کمزور ہوں تو سارے بچے مل کر ایک بچہ کی رقم چھ روپے آٹھ آنے ماہوار دے کر وقف جدید کا بوجھ اٹھائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر احمدی بچے اپنے مقام کو پہچانیں یا یوں کہنا چاہئے کہ اگر احمدی بچوں کے والدین اپنے بچوں کو اس بات کے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو کیا مقام عطا کیا ہے اور اس کے نتیجہ میں ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو ہمیں وقف جدید کے چندہ کے متعلق کوئی فکر باقی نہ رہے۔ سارا بوجھ موجودہ اور آئندہ تین سال کا بوجھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھنے والا ہے وہ ہمارے آج کے بچوں کی تعداد اگر سب اس میں شامل ہوں پورا کر دیتی ہے۔ وہ جو تین سال کے بعد جو نئے بوجھ بڑھیں گے اس کے لئے آج سے اللہ تعالیٰ ہمیں نئے بچے دے رہا ہے اور ان تین سالوں میں میرے اندازہ کے مطابق بیس یا پچیس ہزار بچے اگلے تین سال میں احمدی گھرانوں میں پیدا ہو جائیں گے اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ

برکتوں والے، خیر والے بچے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچے اپنے ماں باپ کو کہیں گے۔ وہ بولیں گے بعد میں لیکن اپنی پیاری آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے تمہاری گود کو ہرا کیا ہے اور تمہارے دل کا سرور پیدا کیا ہے تم شکرانہ کے طور پر ہماری طرف سے چھ روپیہ وقف جدید میں دینا شروع کر دو۔

بعض ماؤں کو تو میری تحریک پر اتنا خیال پیدا ہوا جس جمعہ کے روز میں نے یہ خطبہ دیا ہے جب میں گھر گیا تو میں نے گھر میں بات کی کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں ہیں ابھی دنیا میں نہیں آئے اگر مائیں ان کی طرف سے بھی پیسے دے دیں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں ان ماؤں کے لئے بھی اور ان بچوں کے لئے بھی پیدا کر دے گا اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے۔ تو اسی وقت مجھے کسی کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ میں یہ رقم اس بچہ کی طرف سے پیش کر رہی ہوں جو ہونے والا ہے میری طبیعت میں بڑا سرور پیدا ہوا اور یہ سن کر خوشی ہوئی کہ خود ہماری بہنوں کو اس طرف توجہ ہوئی ہے اور یہ برکت والی بات ہے۔

اس وقت سوائے ضروری صدقات کے ہر صدقہ اشاعت اسلام کے نام پر خرچ ہونا چاہئے۔ بچہ کی پیدائش سے پہلے ہزار قسم کے وہم ہوتے ہیں اور بعض قسم کی حقیقی تکالیف بھی ہوتی ہیں اس لئے بعض سمجھدار مائیں خصوصاً شہروں میں رہنے والی مائیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں صدقہ دینا چاہئے اور اس وقت آپ کے پیسہ پر سب سے زیادہ حق اس تحریک کا ہے جس تحریک کے ذریعہ دنیا میں قرآن کریم کے نور کو پھیلا یا جا رہا ہے اور جس تحریک کے ذریعہ دنیا میں قرآن کریم کے نور کو قائم رکھا جا رہا ہے۔

اگر ہمارے بچے اس بوجھ کو اٹھالیں تو ہمیں کوئی فکر باقی نہیں رہتی لیکن ہمارے بہت سے بچے اور بہت سی مائیں اور بہت سے باپ ایسے ہیں جن کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچی تھی کیونکہ وہاں ”الفضل“ نہیں جاتا جیسا کہ میں نے آپ کو ”الفضل“ کے ضمن میں اس طرف متوجہ کیا ہے اور ابھی آگے جا کر پھر میں بعض اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتلاؤں گا کہ بہت کم جماعتوں نے اس طرف توجہ کی ہے ان کو اس طرف توجہ دینی چاہئے۔

اس کے علاوہ واقفین جماعت مہیا نہیں کر رہی اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ساری جماعتوں کو

اطلاع ہی نہیں کہ اس قسم کے لوگ کتنی تعداد میں چاہئیں۔ امرائے اضلاع اور مر بیان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معلومات جماعتوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایک شخص کو سارے ضلع کا امیر مقرر کیا ہے تو اس کا یہ حق نہیں کہ کہے میں سارے ضلع کا امیر نہیں بننا چاہتا میں تو صرف پانچ جماعتوں کا امیر ہوں۔ ان کے متعلق مجھ سے رپورٹیں بھی لے لیں اور ان جماعتوں میں مجھ سے کام بھی کروالیں یہ تو نہیں ہوگا اگر آپ ضلع کے امیر ہیں تو ضلع کی ساری جماعتوں کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی اگر آپ ضلع میں مربی مقرر ہوئے ہیں تو صرف ان مقامات پر جہاں آپ کی دوستی ہو جائے یا جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کو زیادہ سہولت ہے یا جہاں تک پہنچنے میں آپ کو زیادہ آرام ہے وہاں کے تو آپ اپنے کو مربی سمجھیں اور جہاں پہنچنے میں آپ کو دقت ہو جہاں آپ کی دوستی نہ ہو جہاں آپ کو آرام نہ ملتا ہو ان جماعتوں کے متعلق آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم ان جماعتوں کے مربی نہیں ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور نہ میں اس چیز کو برداشت کروں گا آپ آج سے اپنے ذہنوں کی اصلاح کر لیں کیونکہ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں نے بھی اور آپ نے بھی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں آیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب چلنے کا زمانہ نہیں رہا اب ہمیں بھاگنا چاہیے اور جو کمی رہ جائے گی یا جو اونچ نیچ رہ جائے گی (کچھ اس قسم کا فقرہ تھا) اس کو بعد میں میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں دوڑنے لگ گیا ہوں اس کے بعد نظارہ بدلاتو دیکھا کہ جس طرح زمین میں ہل چلایا جاتا ہے اور وہ پوری طرح ہموار نہیں ہوتی۔ اس میں ابھی کچھ ”ڈھمناں“ (یعنی ڈھیلے) ابھی پڑے ہوئے ہیں خواب میں ہی انہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو کہا ہے کہ نشیب و فراز جو رہ جائے گا اسے میں بعد میں دیکھ لوں گا وہ یہ ہیں چیزیں جو یہ رہ گئی ہیں۔

ہم نے بہر حال تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ جب تک خدا تعالیٰ مجھے زندگی دیتا ہے میں آپ کو ان باتوں میں اور ان ذمہ داریوں کے نبھانے میں سست نہیں ہونے دوں گا چاہے آپ مجھ سے خوش ہوں یا مجھ سے ناراض ہوں۔ میں اپنے مولیٰ کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دینا چاہتا۔

۴:- صدر انجمن احمدیہ

صدر انجمن احمدیہ کے متعلق تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ اپریل کے شروع میں نظارت بیت المال کی طرف سے مجھے یہ رپورٹ ملی کہ اب ایک مہینہ بھی پورا نہیں رہا۔ ہمارا بجٹ بہت پیچھے رہ گیا ہے کئی لاکھ روپیہ کی کمی ہے اور اگر یہ پورا نہ ہو تو ہم مقروض ہو جائیں گے اور کاموں کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس وقت میں نے غالباً ۸ اپریل کو خطبہ جمعہ میں جماعت کو اس طرف متوجہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ ان (ہوائی جہازوں کی بجائے) جماعت پر فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے جماعت کے دلوں میں تحریک کی اور تین ہفتے کے اندر اندر پانچ لاکھ روپیہ بیت المال کو وصول ہو گیا اور اس طرح نہ صرف یہ کہ ہمارا بجٹ جو تھا وہ پورا ہو گیا بلکہ کافی رقم اس سے زائد ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو بعض نامعلوم بوجھ بعد میں پڑنے والے تھے ایسے بھی آجاتے ہیں بوجھ ان کی ادائیگی کے بھی سامان پیدا کر دیئے۔

یہ بات میں اس وقت دو وجہ سے بیان کر رہا ہوں ایک تو اس وجہ سے کہ ساری جماعت خدا تعالیٰ کی حمد بجالاتی رہے اور شکر کرتی رہے کہ اس نے محض اپنے فضل سے جماعت کو قربانی کے اس بلند معیار پر قائم کیا ہے اور قائم رکھا ہے اور دوسرے اس لئے کہ بنی نوع انسان یہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کی حمد کریں کہ اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے جو ان کی بہبود اور ان کے فائدہ کے لئے ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنے کے لئے تیار ہے۔

۵:- وقف جدید اور دوسری تحریکات

گزشتہ سال کے دوران میں نے تین تحریکیں کی تھیں ایک تحریک مجلس موصیان کے قائم کرنے کی ایک قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی اور ایک وقف عارضی کی۔ دراصل ان تینوں تحریکوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جس طرح ہمارے جسموں میں خون دوڑ رہا ہے اور خون کی اس گردش کے ساتھ ہی ہماری زندگیوں کا ابدی تعلق قائم ہے اسی طرح ہماری جماعتی زندگی کا تعلق قرآن کریم اور اس کے سیکھنے اور اس کے انوار سے منور ہونے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے اور اس کے نشانات سے سبق حاصل کرنے اور اس کے کلام سے برکت لینے اور اس کو رائج کرنے اور اپنی زندگیاں اسی کے مطابق ڈھالنے میں ہے۔ اس کے بغیر جماعتی لحاظ سے ہم زندہ نہیں رہ

سکتے پس جماعت کے ہر گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا کام ابد الابد تک قیامت تک جاری رہنا چاہیے اس لئے کہ قرآن کریم میں علوم کے وہ خزانے موجود ہیں جو کسی زمانہ میں بھی ختم نہیں ہوتے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آسکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اب میرے خاندان پر قرآن کریم کا مزید مطالعہ کرنے اور اس کے علوم کو مزید حاصل کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ جو کچھ اس میں تھا وہ میں نے حاصل کر لیا کیونکہ جو کچھ اس میں ہے اس کو کوئی خاندان، بنی نوع انسان کی کوئی نسل اور سارے بنی نوع انسان آخری وقت تک حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ شاید ایک فلسفیانہ خیال ہے مگر کچھ بھی ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی قرآن کریم کے سارے کے سارے علوم کو کوئی شخص یا کوئی نسل حاصل نہیں کر سکتی۔

پس اس کے ساتھ چمٹے رہنا ضروری ہے اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم اپنی زندگی قرآن سے حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے روحانی درخت کی جڑوں کو قرآن کریم کی روحانی زمین میں مضبوطی کے ساتھ نہیں گاڑیں گے تو ہمارے ایمان کا درخت سوکھ جائے گا۔ مردہ ہو جائے گا اور اس کی ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی اور وہ نارِ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں رہے گی اور ہمیں جب اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا اور کہے گا میرا نور جو تمہاری راہنمائی کے لئے آیا تھا اس کو تو تم اس دنیا میں چھوڑ آئے ہو۔ اب اس دنیا میں تم کوئی روشنی مجھ سے مانگ رہے ہو۔ تو قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لئے ہم دو طرح کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک مستقل اُستاد اپنے گھروں میں رکھ کر اور ایک عارضی انتظام کر کے۔ اب یہ بات واضح ہے کہ ہر شہر، ہر قصبہ ہر جماعت اور ہر خاندان مستقل اُستاد رکھ کر قرآن کریم نہیں پڑھا سکتا مختلف وجوہات کی بناء پر مثلاً ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مستقل اُستاد کو تنخواہ دے۔ لیکن ہر گھر میں قرآن کریم کا پڑھا جانا ضروری ہے اس لئے ایسے گھروں میں انتظام کرنا ہمارا کام ہے۔ جماعتی لحاظ سے ہم سب کا یہ کام ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ میں وقف عارضی کی سکیم کو اس منصوبہ کو میں جاری کروں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک اس کے بڑے ہی اچھے نتائج نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں۔

میں نے اندازہ لگایا کہ ہماری کم سے کم ضرورت تب پوری ہو سکتی ہے جب پانچ ہزار احمدی دوست وقف عارضی میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ سال رواں میں چونکہ یہ تحریک دیر بعد ہوئی تھی اور بعض لوگوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں یا وہ چھٹیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پہلے بہر حال اطلاع ہونی چاہئے بعض لوگوں کو کافی عرصہ پہلے اطلاع دینی پڑتی ہے اگر انہوں نے چھٹی لینی ہو تو وہ اس کا انتظام کر لیں اس کے علاوہ اور بہت ساری مجبوریاں ہیں یہ تو مجھے یقین تھا کہ پانچ ہزار تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے لیکن میرا یقین اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اور چیز ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے علم میں میرا یقین درست ثابت نہ ہو اور جماعت کا عزم پانچ ہزار تک واقفین عارضی کو پہنچا دے۔ میری بات عملاً غلط ہو جائے تو وہ میرے لئے یہ خوشی کا باعث ہے۔ عملاً اگر میری بات درست ثابت ہو جائے تو میرے لئے خوشی کا نہیں میرے لئے غم اور تکلیف کا باعث بنے گی یہ چیز وقف عارضی کا عرصہ دو ہفتہ تک تھا اور اس وقت تک چھ ہفتہ تک کا عرصہ وقف کرنے والوں کی تعداد اکاون تھی اور دو ہفتے سے چار ہفتے تک وقف کرنے والوں کی تعداد ۱۱۳۵ ہے۔ اس کے علاوہ نئے سال کے واقفین ۵۶ ہیں اور کل تعداد واقفین کی ۱۲۴۲ بنتی ہے۔ اس عرصہ میں دفتر سے ۳۵۵۵ خطوط بھی باہر بھیجے گئے ہیں۔

اس وقت تک ۴۴۴ وفود وقف عارضی میں باہر بھجوائے جا چکے ہیں اور وقف عارضی کا وفد دو احمدی بھائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم نے پالیسی یہ بنائی تھی کہ ایک احمدی کو کسی جگہ نہ بھیجا جائے بعض دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ۔ بعض دفعہ پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے اور اس طرح اُس جماعت کو جہاں ان کے جانے کی اطلاع کی جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے بہت سی جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی جائز مجبوری کی وجہ سے دو میں سے صرف ایک دوست کسی جماعت میں پہنچے اور وہاں جماعت ان کی منتظر تھی اور ان سے فائدہ اٹھایا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ دو کا وفد جاتا ہے ہر جگہ تو اس وقت تک ۴۴۴ وفود جا چکے ہیں اور ۲۸۹ جماعتوں میں یہ تریبتی وفد گئے ہیں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جہاں ہم نے ایک سے زائد وفود بھیجے ہیں اور یہی تجربہ دراصل زیادہ کامیاب ہے اور جب تک ہمارے پاس پانچ ہزار واقفین نہ ہوں اس وقت تک کم سے کم اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ وقف عارضی کے وفد نے ہمیں پہلا بڑا فائدہ یہ پہنچایا کہ نہ امیر ضلع نہ

مرئی بعض جماعتوں کے صحیح حالات ہمیں پہنچاتے تھے اس خیال سے کہ پھر ہم پر بھی الزام آئے گا کہ جو کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں تم ان کے ذمہ دار ہو۔ کیوں تم نے اس طرف توجہ نہیں کی تو بہت سی باتیں مرکز کے علم میں نہیں لائی جا رہی تھیں اور ایک جماعت کے متعلق تو اس حد تک غفلت برتی گئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ (شاید انہی کے لئے یہ سکیم جاری کی گئی تھی) وقف عارضی کے وفود وہاں بھجوانے کا انتظام نہ کرتا تو بالکل خاموشی کے ساتھ وہ جماعت مرتباتی۔ شاید ایسی جماعت کے لئے وقف عارضی کی سکیم جاری کی گئی ہو بہر حال عین وقت کے اوپر وقف عارضی کے وفود پہنچنے شروع ہوئے اور جماعت میں ایک نئی زندگی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔

در اصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری غفلتوں کے باوجود محض اس کے فضل اور اس کے رحم سے کوئی جماعت بھی مردہ نہیں ہوئی ہاں غافل ہو چکی ہیں بعض سوئی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا ہمارے ایک بڑے ہی سمجھدار اور بڑی عمر کے دوست ہیں جب میں نے انہیں ایک جگہ بھجوایا تو پہلے ہفتہ کی رپورٹ میں بڑی وضاحت سے انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہے کئی سوا احمدیوں کی جماعت ہے لیکن ہے مردہ کوئی امید نہیں ہے کہ ان میں زندگی پیدا ہو سکے لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے یہاں بیٹھا ہوں ویسے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ دوسرے ہفتہ جو رپورٹ انہوں نے بھیجی اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ مجھے بڑی تشویش ہوئی ہے اور میں نے دعائیں بھی کی ہیں لیکن اس جماعت کی اصلاح نہیں ہو سکتی لیکن تیسرے ہفتہ کی رپورٹ جو ان کی طرف سے ملی وہ یہ تھی کہ میں نے پہلے دو ہفتوں میں جو رپورٹیں بھیجی ہیں وہ غلط تھیں۔ یہ جماعت مردہ نہیں ہوئی بلکہ سوئی ہوئی ہے اور امید ہے کہ جگانے سے یہ جاگ اٹھیں گے اور بعد کی ایک رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ ایک ۷۵ سال کی بڑھیا عورت ہے جس کی نظر بھی بڑی کمزور ہے وہ ایک بڑا قرآن (بعض قرآن کریم بڑی تقطیع پر کمزور نظر والوں کے لئے شائع ہوئے ہیں) لے کر مسجد میں آتی ہے اور اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا ہے غرض اس جماعت کی تو یہ حالت تھی کہ وہ دوست ایک وقت تک اس سے مایوس ہو چکے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مر چکے بالکل انہوں نے زندہ ہی نہیں ہونا اور پھر وہ تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عورتیں بوڑھیاں اُدھیڑ عمر کی جوان اور بوڑھے مرد انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے کی طرف

توجہ دینی شروع کی اور قرآن کریم کی برکت اور اس کے فیض سے اس جماعت کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے۔ پس تعلیم قرآن اور وقف عارضی اور موصیوں کا انتظام دراصل یہ ایک ہی نظام ہے جس کے تین پہلو ہیں جس کے تین منہ ہیں بعض ایسے نظام بھی ہوتے ہیں جن کے بہت سے وجوہ اور منہ ہوتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا نظام ہے اور میں نے ایک خطبہ میں بھی بتایا تھا کہ ان تینوں تحریکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔

پھر وقف عارضی کے متعلق ایک بات میں دوستوں کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک اس ساری تحریک میں جماعت کے بیت المال پر ایک دھیلہ کا بوجھ بھی نہیں ڈالا گیا۔ یہ سارا کام اور اس کام کا سارا خرچ عام بجٹ پر نہیں بلکہ جو واقفین ہیں وہ تو اپنا خرچ کرتے ہیں کرایہ بھی اور کھانا بھی اور جو خط و کتابت ہے یہاں یا اور بہت سے اخراجات جو ہوئے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے سامان پیدا کر دیئے۔ اس سال میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ میں یہ تحریکیں کر رہا ہوں اگر میں نے ان کے لئے کوئی مالی مطالبہ بھی کیا تو ممکن ہے بعض کمزوروں کے دل میں کئی قسم کے شبہات پیدا ہوں یا ڈرجائیں کہ یہ نئے مالی مطالبات بھی ہوئے ہیں اس لئے اے میرے رب تو تمام قدرتوں والا اور تمام اموال کا حقیقی مالک تو ہی ہے اپنی طرف سے سامان پیدا کر دے کہ جماعت پر اس کا کوئی بوجھ نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ سامان پیدا کر دیئے ایک دھیلے کا خرچ ہماری نظارت بیت المال نے اس وقف عارضی کے کاموں کا نہیں اٹھایا اور جیسا کہ میں نے کہا ہے ۴۴۴ فوڈ جا چکے ہیں اور ۲۸۹ جماعتوں میں یہ وفد جا چکے ہیں بار بار جا چکے ہیں وہاں ہر واقعہ نے اللہ تعالیٰ کی زندہ قدرتوں کے نمونے اس وقف کے ایام میں دیکھے ہیں اور جنہوں نے مجھے لکھا ہے بعض لوگوں کی طبیعت میں حجاب ہوتا ہے اور وہ اپنے خیالات کا اچھی طرح اظہار نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی بڑی کثرت سے واقفین نے مجھے لکھا ہے اور میری طبیعت میں بڑی خوشی پیدا ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عجز و انکسار کے مقام سے نہیں ہٹا ان میں سے ہر ایک نے مجھے لکھا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ذریعہ سے کسی اور کو فائدہ پہنچا ہے یا نہیں لیکن ہم یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایام میں ہم نے اپنی ذات میں بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے زندہ

نمونے دیکھے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تربیت کے علاوہ ان دوستوں سے تبلیغ کا کام بھی لیا ہے پس یہ سکیم بڑی برکتوں والی ہے۔ آج اس کے دو جگہ دفتر کھلے ہیں ایک تو جلسہ گاہ سے باہر خیمہ میں اور ایک مستقل دفتر جو دفتر پرائیویٹ سیکرٹری کے احاطہ میں ہے۔ آپ ان دفاتروں میں سے فارم حاصل کریں اور انہیں پُر کر کے دیں اتنے ہزار دوست آپ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں کیا آپ پانچ ہزار واقفین مجھے نہیں دے سکتے؟ آپ یہاں سے فارغ ہو کر خلوص نیت سے فارم لیں اور دعائیں کرتے ہوئے انہیں پُر کریں اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتوں کے آپ وارث بنیں گے۔

مجلس موصیان کے قیام کے متعلق میں نے اعلان کیا تو بہت سی جماعتوں نے فوراً انتخاب کر کے بھجوانے شروع کر دیئے اور میں ڈر گیا کیونکہ انہوں نے صدر انجمن احمدیہ کے قواعد کے مطابق خود ہی کورم مقرر کر لیا مجھ سے یہ غلطی ہوئی یا اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ میں نے اس کے لئے کوئی کورم مقرر نہ کیا موصیوں کے لئے ۲۵ فیصد کورم کا کیا مطلب ہے موصیوں کا کورم تو سو فیصدی ہے سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی جائز مجبوری ہو اور وہ نہ آسکتا ہو اس کے علاوہ تو کوئی کورم نہیں سو فیصدی کورم ہے کہ کوئی جماعت انتخاب نہ کروائے آپ ہی میں قواعد بناؤں گا تو پھر آپ انتخاب کر کے بھیجیں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اگلے دو ماہ کے اندر اندر مجلس موصیان ہر جماعت میں قائم ہو جانی چاہئے اور اس کی ذمہ داری امیر ضلع اور ضلع کے مربی یا مربیان پر ہے اور مجلس موصیان کا کورم سو فیصدی ہے سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہو یا اسے اس تاریخ کو بوجہ مجبوری اس کو باہر جانا پڑا ہو یعنی اگر کوئی مجبوری نہیں تو موصی کو اپنے سفر کا پروگرام منسوخ کرنا چاہئے اور اس مجلس میں اسے شامل ہونا چاہئے اور اس مجلس کا قیام جیسا کہ میں نے کہا ہے وہ اپنا صدر منتخب کریں گے یہ صدر جو جماعت کا سیکرٹری و صایا بھی ہوگا اور مستورات موصیات جو ہیں وہ الگ مجلس قائم کریں گی اور اپنی صدر مقرر کریں گی جو مجلس موصیان کی نائب صدر ہوگی اور ان کے اوپر ذمہ داری جو ہے کام جو پہلے چل رہا ہے وہ بھی اس شخص نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نظام وصیت کو قائم کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ

”تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے

پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو سچا اور صاف مسلمان ہو“

(رسالہ الوصیت - روحانی خزائن جلد نمبر ۲۰ صفحہ ۳۲۰)

اس شرط کی نگرانی جماعت کو کرنی چاہئے تھی یہ ان کے فرائض میں سے ہے ہمارا عام جو نظام ہے لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ جماعت اس شرط کی نگرانی نہیں کرتی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موصیوں پر اس بلند مقام کو قائم رکھنے کے لئے جو ظاہری دباؤ پڑنا چاہئے وہ دباؤ ان پر نہیں پڑا بہت سے موصی ایسے ہیں جو عادتاً غفلت کے نتیجہ میں اس مقام سے گر گئے اب خدا تعالیٰ نے تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا۔ مجھے یا آپ کو دھوکہ لگ سکتا ہے رب کو تو دھوکہ نہیں لگ سکتا اس علام الغیوب ہستی کو تو جو چیز ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتی اپنے متعلق، اس کا بھی علم ہے۔

پس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی (المائدہ: ۳) کے ارشاد کے ماتحت موصیوں کی اس مجلس پر ذمہ داری یہ ڈالیں کہ وہ اس شرط کے مطابق بھی وصیت کرنے والے مردوں اور وصیت کرنے والی عورتوں کی نگرانی کریں کہ وہ تقویٰ کے بلند معیار پر قائم رہتے ہیں یا نہیں اور ہر قسم کے پیچ ترک کر کے سیدھے سادھے سچے صاف مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں اگر وہ غفلت کرتے یا سستی دکھاتے ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہئے اگر ہماری یہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو ان کی وصیتیں منسوخ ہونی چاہئیں اگر کوئی موصی چھ ماہ چندہ نہ دے تو ہم اس کی وصیت منسوخ کر دیتے ہیں اور اگر کوئی موصی خدا نخواستہ چھ مہینے نماز نہ پڑھے تو ہمیں علم تک نہیں ہوتا کہ وہ تارک الصلوٰۃ ہے میں تو سوچتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں اتنا شدید خوف میرے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح نبھاتے رہے ہو۔

پس ایک ضروری کام اس مجلس موصیوں کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت چوکسی اور بیداری کے ساتھ یہ جائزہ لیتی رہے کہ کوئی موصی مرد یا موصی عورت اپنے بلند مقام تقویٰ سے (یہ صحیح ہے کہ ہم نے صرف ظاہری تقویٰ کو ہی دیکھنا ہے۔ دل کا حال صرف خدا جانتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں) لیکن ظاہری جو مقام تقویٰ ہے اس سے تو نہیں گرتا ظاہر میں کوئی ایسی حرکت تو نہیں کرتا جو

ایک موصیٰ کو نہیں کرنی چاہئے۔

دوسری ذمہ داری ان پر یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وقف عارضی کی جو سکیم جاری کی گئی ہے جماعت اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق اس میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں اور اگر نہیں لے رہی تو اپنے بھائیوں (موصیوں کو بھی اور غیر موصیوں کو بھی) کو اس طرف متوجہ کریں اور پانچ ہزار کیا اگر ہم چاہیں تو دس پندرہ ہزار بھی واقفین عارضی ہمیں مل سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو شاندار نکل سکتا ہے وہ اگر آپ یہ قربانی دیں تو جب نکلے گا اُسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گے تو مجلس موصیان پر ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وقف عارضی کی سکیم اور منصوبہ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنے کی کوشش ہر وقت کرتے رہیں۔

اور مجلس موصیان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہر گھر میں ہر بچہ ہر بڑا ہر مرد اور ہر عورت قرآن کریم سیکھنے اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن کریم کے علوم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر مجلس موصیان اس کی طرف توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور ثواب میں بڑی زیادتی کرے گا اور جو مقام خدا کی نگاہ میں اس کوشش کے بغیر ان کا جنت میں تھا اس سے کہیں بلند یہ مقام جنت میں انہیں نصیب ہوگا۔

تعلیم القرآن کے متعلق دوست یہ سن کر خوش بھی ہوں گے اور شرمندہ بھی کہ ہماری بہنیں اور بچیاں زیادہ فیصد قرآن پڑھی ہوئی اور زیادہ شوق کے ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمارے مرد اور ہمارے بچے اس شوق اور جذبہ کے ساتھ تعلیم قرآن کی سکیم میں شامل نہیں ہوئے جس جذبہ اور شوق کے ساتھ ہماری بہنیں اور بچیاں شامل ہوئی ہیں تو ایک لحاظ سے ہمیں خوشی ہے اور دوسری طرف سے یہ سوچ کر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ عورتیں ہو کر ہم سے آگے نکلی جا رہی ہیں ویسے تو میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے کہ جس حد تک مجھے اس نے توفیق اور طاقت دی میں آپ کو اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ میں سے ہر ایک کو قرآن کریم ناظرہ نہ پڑھالوں اور اس کا ترجمہ سکھانے کا انتظام نہ کر لوں اور آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں جو بھی آپ سمجھیں میں نے یہ عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے لئے سامان

پیدا کر دے۔

۶۔ دوست ریٹائرمنٹ کے بعد زندگیاں وقف کریں

پچھلے سال میں نے یہ درخواست کی تھی جماعت سے کہ بہت سے لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں ایسی اچھی صحت میں ہوتے ہیں کہ وہ بڑے لمبے عرصہ تک دین کی خدمت کر سکتے ہیں ایسے دوست اگر ابھی سے اپنی زندگیوں کو وقف کریں تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فلاں دوست فلاں سن میں ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے مطابق ہم سکیمیں بنا لیں۔

اللہ تعالیٰ نے احمدی کو عقل اور فراست بڑی دی ہے چاہے ان کے امام کو غیر مبالغین کے نزدیک نہ دی ہو صرف حُوق دیا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا میرے حُوق سے بھی یہ جماعت اپنے فائدہ کے لئے خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں ضرور نکال لے گی۔ ویسے آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ عقل دینا اور فراست دینا تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی شخص اس سے یہ چیز چھین نہیں سکتا وہ عطا کرے تو ہم شکر یہ کہ ساتھ لے لیں گے جتنی دے گا جس حد تک دے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کا امام بناتا ہے اس کی کمزوریوں کے باوجود اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونے دیتا جو جماعت کو نقصان پہنچانے والی ہو اور اتنی فراست مل جائے تو اس سے زیادہ کی امام کو ضرورت بھی نہیں ہوتی تو جماعت کو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست اور عقل عطا کی ہے ایک طرف اور دوسری طرف بڑا جذبہ دیا ہے پچھلے سال جب میں نے تقریر کی متعدد دوستوں کے مجھے خط آئے اور نئی سے نئی تجاویز۔ انہوں نے سوچا غور کیا کہ جیسے اس کی ذمہ داری ویسی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہئے اور کام میں مدد کرنی چاہئے۔ مثلاً ایک دوست نے ایسی اچھی تجویز مجھے بھیجوائی بلکہ ایک سے زائد دوستوں نے کہ آپ نے کہا ہے ریٹائر ہو کر فارغ اپنی ملازمت کا زمانہ پورا کر کے وقف کرو۔ اس وقت اگر ہم آئے دینی علوم کے لحاظ سے بالکل خالی تو آپ کو سال دو سال تین سال ہمیں پڑھانے پر خرچ کرنا پڑے گا۔ ہم تو پہلے ہی موت کے قریب ہوں گے یہ سال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم میں سے جو وقف کرے پڑھانا شروع کر دیں۔ ہم میں سے کسی نے پانچ سال ملازمت کے بعد فارغ ہونا ہے کسی نے دس سال

تک اس وقت تک باقاعدہ نصاب مقرر کر کے خط و کتابت کے ذریعہ آپ ہمیں اتنا پڑھا دیں کہ جب ہم ریٹائر ہوں تو ایک دو مہینے کے اندر آپ ہمیں پالش کر کے جہاں آپ نے بھیجنا ہو کام لینے کے لئے وہاں آپ بھجوادیں اور میری طبیعت میں بڑی بشاشت پیدا ہوئی۔

ہر آدمی سوچتا ہے کئی دوستوں نے مجھے لکھا ہے کئی نے نہیں لکھا لیکن میں بڑا ہی ممنون ہوں ایسے دوستوں کا جو جرأت کے ساتھ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں چنانچہ میں نے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے جو نصاب کے متعلق غور کر رہی ہے اس سال یکم مئی سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ خط و کتابت کے ذریعہ سے اس تعلیم کو شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے پہلے دوست ہمت کر کے زیادہ سے زیادہ نام لکھوائیں تاکہ ہم ان کی تعلیم ان سے شروع کریں بعض لوگوں نے جو پہلے لکھ چکے ہیں بہتر ہے کہ وہ بھی دوبارہ لکھ دیں کیونکہ بعض کے نام مجھے یاد ہیں ہو سکتا ہے کہ بعض کے مجھے یاد نہ ہوں کوئی ایسا دفتر نہیں تھا جہاں ان کے نام محفوظ کئے جاتے۔ بہر حال کوئی پانچ سال کے بعد ریٹائر ہوتا ہے کوئی دس سال کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہم نے فوراً ہی ریٹائر ہونا ہے بلکہ خلوص نیت ایسے بھی دوست ہوتے ہیں۔ ایک نے مجھے لکھا کہ میں اپنی زندگی وقف کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے خط اسی دوست کا آیا کہ آپ نے میرے وقف کو قبول نہیں کیا اگر میں اس عرصہ میں مرجاتا تو خدا تعالیٰ کے نزدیک تو میں واقف نہیں تھا تو آپ مجھے فوراً اطلاع دیں کہ آپ نے میرا وقف قبول کر لیا ہے تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ اگر مر جاؤں تو میں واقفین زندگی میں خدا کی نگاہ میں شمار کیا جاؤں گا اس قسم کے جوش والے نوجوان بھی ہیں کوئی تین سال بعد کوئی پانچ سال بعد کوئی دس سال بعد کوئی پندرہ سال بعد اور کوئی بیس سال بعد بلکہ میرے خیال میں اگر نوجوان ابھی سے وقف کریں تو ایک لمبا عرصہ ان کو تربیت حاصل کرنے کا اور ایک لمبا عرصہ خدا تعالیٰ کا اجر پاتے رہنے کا زمانہ مل جائے گا تو اس زمانہ میں اس عرصہ میں وہ نیکی بھی کماتے رہیں گے دُنیا بھی کماتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ ہونے کے بعد ان کو یہ توفیق عطا کرے گا کہ وہ ایسے رنگ میں اس کے دین کی خدمت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجر عظیم یعنی ایسا اجر پاسکیں کہ پہلی اُمتوں میں سے کسی کو نہ ملا ہو اس کو وہ حاصل کر سکیں۔

دوست اس طرف جو ملازم پیشہ دوست ہیں یا دوسرے دوست مثلاً کئی دکاندار بھی ایک عمر

میں آ کر کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ”لومنڈیو سنبھالو سا ڈاکم ہن اسیں فارغ ہنے آں“ پیشہ ور دوکاندار بھی اس سکیم میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک وقت کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ لومنڈیو اپنا کام سنبھال لو ہم فارغ ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس سے کہ وہ یہ کہیں کہ اپنا کام سنبھالو اب ہم فارغ ہوتے ہیں وہ یہ کہیں کہ سنبھالو اپنا کام ہم دین کا جاکر کام کریں ایسے لوگ بھی ہیں خالی ملازمت پیشہ ہیں۔ پس ملازمت پیشہ احباب کے علاوہ پیشہ ور دوکاندار دوست بھی اس سکیم میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہم انشاء اللہ یکم مئی ۱۹۶۷ء تک باقاعدہ نصاب مقرر کر کے ان کو تعلیم دینا شروع کر دیں گے اور جو تربیت والا حصہ ہے اور تعلیم کے جو بعض مخصوص حصے بھی ہوتے ہیں وہ فارغ ہونے کے بعد دو ایک مہینے میں یہاں حاصل کر لیں گے اور فوراً میدان عمل میں ان کو بھیجا جاسکے گا۔

۷۔: فضل عمر فاؤنڈیشن

گزشتہ جلسہ سالانہ کے موقع پر مکرم و محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے میری اجازت سے اس اسٹیج سے اس تحریک کا اعلان کیا تھا۔ جنوری فروری ۱۹۶۶ء تک قواعد و ضوابط مرتب کرنے کا کام ہوا اور یہ رجسٹرڈ باڈی ہے اس کی رجسٹریشن وغیرہ کروائی گئی اور اس پر وقت لگا عملاً گزشتہ مشاورت کے موقع پر اس کا کام شروع کیا گیا اور اخبار الفضل میں اور دوسرے ذرائع سے جماعتوں کو اور افراد جماعت کو اس کی اطلاع دی گئی اسی طرح اس کے جو کارکن ہیں انہوں نے پاکستان کی بڑی جماعتوں کا دورہ کیا۔

قواعد کے مطابق فضل عمر فاؤنڈیشن کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر مقرر کیا گیا جس کے صدر مکرم محترم مخدومی چوہدری ظفر اللہ خان صاحب ہیں اس کے نائب صدر مکرم محترم کرنل عطاء اللہ صاحب اور جس کے سیکرٹری مکرم محترم مخدومی شیخ مبارک احمد صاحب ہیں۔ اس بورڈ کے ممبران تحریک جدید کی طرف سے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے صاحبزادہ سید داؤد احمد صاحب۔ وقف جدید کی طرف سے مکرم محترم مخدومی شیخ محمد احمد صاحب اور عام جماعتوں کی طرف سے مکرم محترم مخدومی شیخ محمد حنیف صاحب اور چوہدری احمد جان صاحب اور میر بخش صاحب اور چوہدری انور احمد صاحب کا ہلوں ممبر ہیں۔ کل نو ڈائریکٹر ہیں۔

اس وقت تک فضل عمر فاؤنڈیشن کے وعدوں کی مجموعی میزان اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونتیس لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اس میں سے سات لاکھ چھ ہزار بیرون پاکستان کے ممالک کے وعدے ہیں جہاں تک بیرونی ممالک کا تعلق ہے بعض ممالک سے ابھی وعدے آرہے ہیں۔ وہاں اس تحریک نے زور ابھی نہیں پکڑا لیکن اُمید ہے کہ وہاں بہت سے نئے وعدے آجائیں گے اس وقت تک کل وصولی سات لاکھ چھپن ہزار روپیہ کی ہو چکی ہے اپریل ۱۹۶۷ء کے آخر تک وعدہ کنندگان کو اپنے وعدوں کا ۱/۳ ادا کر دینا چاہئے یہ بھی ان کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم اس کا ۱/۳ حصہ پہلے سال میں ادا کر دیں گے اور ۱/۳ حصہ دوسرے سال میں ادا کر دیں گے اور ۱/۳ تیسرے سال میں ادا کر دیں گے جہاں جماعت اتنی قربانیاں مالی میدان میں پہلے ہی دے رہی تھی وہاں چند مہینوں کے اندر چونتیس لاکھ روپیہ سے اوپر کے وعدے کر چکی ہے اور سات لاکھ روپیہ سے اوپر قوم کی وصولی اس محبت کی نشان دہی کر رہی ہے جو محبت کہ جماعت کے دلوں میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور جو محبت حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کے دلوں میں اپنے خدا اور اس کے دین کے لئے پیدا کی ہے اتنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب تک آسمان سے نازل نہ ہوں اور دلوں میں تحریک نہ کریں ایسی قربانی کوئی جماعت یا کوئی فرد نہیں دے سکتا پس خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ جس نے محض اپنے احسان سے جماعت کو یہ توفیق اور یہ موقع عطا کیا ہے کہ وہ اپنے تقویٰ کے معیار کو ظاہری تقویٰ (دلوں کا تقویٰ تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے) اور اپنی قربانی اور اپنے ایثار کے معیار کو بلند تر کرتی چلی جا رہی ہے اور جو جماعت اور جو قوم اور جو سلسلہ قربانیوں کے میدان میں تیزی سے چل رہا ہو نہیں بلکہ دوڑ رہا ہو دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو ہلاک کر سکے اور تباہ کر سکے۔ کوئی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس جماعت پر ہوتا ہے اور فرشتے اس کی مدد کے لئے ہر وقت اس تعداد سے زیادہ تعداد میں اندر اس سے زیادہ مؤثر طریق پر آسمان پر منڈلا رہے ہوتے ہیں جس تعداد اور جس طریق پر امریکہ کے ہوائی جہاز اپنی فوجوں کی مدد کے لئے آج ویٹ نام میں ہوا میں منڈلا رہے ہیں۔

۸:- غذائی بحران اور جماعت احمدیہ کا فرض

۱۷ دسمبر ۱۹۶۵ء کو میں نے اپنے ایک خطبہ جمعہ (مطبوعہ الفضل ۱۰ مارچ ۱۹۶۶ء) میں یہ

تحریک کی تھی کہ جماعت احمدیہ کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھتی رہے کہ کوئی احمدی رات کو بھوکا نہیں سوتا اور میں نے دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ صرف توجہ کی بات ہے۔ ورنہ ایک احمدی کا پیٹ بھرنے کے لئے ہمیں ایک دھیلہ بھی اپنے خرچ میں زائد نہیں کرنا پڑتا۔ اگر ہم واقع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے اور آپ کے احکام کی قدر کرتے ہیں تو ہمیں ایک دھیلہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہ نسخہ بتایا تھا کہ اگر تم غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہو اور تمہارے گھر میں تین یا چار آدمی کا کھانا پکتا ہے تو تم ایک آدمی کا کھانا آسانی سے اس میں سے نکال سکتے ہو بغیر آٹے میں زیادتی کئے بغیر سالن میں زیادتی کئے تین آدمیوں کا کھانا چار کے لئے اور چار کا پانچ کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اگر تم متوسط طبقہ یا امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہو تو تم عام رواج کے مطابق اس طور پر کھانا پکا رہے ہوتے ہو کہ جو کھانا تمہارے گھروں میں دو آدمیوں کے لئے پکتا ہے وہ چار کے لئے کافی ہو سکتا ہے اور جہاں چار کے لئے کھانا پک رہا ہے وہاں آٹھ کے لئے کافی ہو سکتا ہے اور جہاں آٹھ کے لئے کھانا پکتا ہے وہ سولہ کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قول درست ہے اور خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ایک دھیلہ خرچ کئے بغیر ہر احمدی کا پیٹ بھرنے کا طریق ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ یہ مارچ کی بات ہے اس کے بعد حالات جو ہیں غذا کے نقطہ نگاہ سے کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اگر کسی شخص پہ اس کی ذمہ داری ہے تو وہ کون ہے نہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہ ہماری اس کے ساتھ دلچسپی کیونکہ ہم ایک مذہبی جماعت ہیں لیکن ہمیں اس بات سے دلچسپی ہے کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی فرد بشر بھوکا نہ رہے اور ہمیں اس بات میں دلچسپی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق بتایا ہے اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے تو خدا کے فضل سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پاکستان کا کوئی فرد بشر بھوکا نہیں رہے گا۔ قلتِ غذا کے وقت جماعتیں یا گروہ یا سیاسی تنظیمیں یا دوسری تنظیمیں یا افراد دو راستوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتے ہیں ایک راستہ تو ہے جس کو حزب مخالف کا راستہ کہنا چاہئے یہ لیبل اس پر آسانی سے لگ سکتا ہے وہ فتنہ اور فساد کا راستہ ہے۔ حزب مخالف کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ

کس کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں ان کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ حکومتِ وقت بدنام ہوتی ہے یا نہیں وہ فتنہ اور فساد کا راستہ اختیار کرتے ہیں سر توڑنے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا کرتا جس طرح کسی کے صلیب پر چڑھائے جانے سے کسی اور کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ پیٹ بھرنے کے لئے روٹی چاہئے اس کے لئے نعروں کی ضرورت نہیں، اس کے لئے سر پھٹول کی ضرورت نہیں، اس کے لئے فتنہ اور فساد کی ضرورت نہیں، اس کے لئے باہمی لڑائی اور جھگڑے کی ضرورت نہیں، اس کے لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم کا ہر فرد بشر حکومتِ وقت کے ساتھ تعاون کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پیار اور عشق کا مظاہرہ کرے اور کہے غریب آدمی ہم میں سے جس کو خدا تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہے کہ وہ بھوکا نہیں رہتا کہ میں تین کا کھانا پکاتا ہوں ایک کے کھانے کی میری ذمہ داری اور جو متوسط طبقہ اور امیر ہے وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں بیس آدمیوں کا کھانا پکتا ہے بیس آدمیوں کی ذمہ داری میری اسی کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزید بیس کا کھانا نکل آئے گا۔ اگر ہم اس طرح سوچیں اور حکومت سے تعاون کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریق کو استعمال کریں اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور جو ہم زائد کھانا کھا لیتے ہیں بے خیالی میں اپنے جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر ہم اس کھانے کو بچالیں اور اپنے جسموں کو بھی نقصان سے بچا کر اس کھانے کی بھی حفاظت کریں کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے جو رات کو بھوکا سوئے۔

پس آپ لوگ جو پاکستان کے اطراف سے اکٹھے ہو کر اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ یہ سن لیں کہ جماعت کی پالیسی یہ ہے کہ جس طرح ہر دوسرے معاملہ میں ہم نیک باتوں میں حکومتِ وقت کا ساتھ دیتے اور اس سے تعاون کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور اگر ہم نے حکومت سے تعاون کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلہ کے حل کرنے میں مدد نہ دی اور وہ پہلے اگر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے یا نہیں پڑتی مجھے کیا اس سے آپ پر ضرور ذمہ داری پڑ جاتی ہے پس آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو نبانہنے کی کوشش کریں جس علاقہ میں جس شہر میں جس گاؤں میں جس محلہ میں آپ رہتے ہیں اس محلہ کو سمجھائیں کہ تم دوسروں سے لڑنے کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرو آپ نے یہ فرمایا ہے بہت

سارے لوگوں کو پتہ نہیں آپ کہیں ہمارے پیارے رسول نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے۔ تم پہلے اس ہدایت پر عمل کرو پھر کسی سے جا کے جھگڑتے رہنا۔ اگر وہ اس ہدایت پر عمل کریں گے تو کسی اور سے جھگڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس وقت ہر جماعت پر بحیثیت جماعت اور ہر فرد پر بحیثیت فرد جماعت فرض ہے کہ وہ ایک طرف حکومت سے تعاون کرتے ہوئے ملک میں امن صلح اور آشتی کی فضا کو قائم رکھے اور دوسری طرف حکومت سے اس رنگ میں تعاون کرے کہ ہر پاکستانی کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کے ذائقہ کے مطابق میں نہیں کہہ رہا اس کی عادت کے مطابق بھی نہیں کیونکہ ہم عادتاً اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق اس کو کھانا ملتا رہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے ملک کے لئے یہ دعا کرتے رہنا چاہئے (اور اس مسئلے میں سوائے دعا کے ہم کسی اور ذریعہ سے اپنے ملک اور اپنی حکومت کی خدمت بجا نہیں لا سکتے) کہ اس وقت دُنیا کی بڑی بڑی اقوام اس کوشش میں ہیں کہ وہ کمزور اور چھوٹی اور غریب اقوام کی آزادی عملاً چھین کر ان پر کسی نہ کسی طرح اپنا سیاسی تسلط قائم کر لیں تو ہمیشہ دعا کرتے رہیں التزام کے ساتھ اور الحاح کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بین الاقوامی شر سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ہماری آزادی کو برقرار رکھے اور اس آزادی سے فائدہ اٹھانے کی ہمارے ملک اور قوم کو توفیق عطا کرے۔ اور ان کو سمجھ اور عقل اور فراست دے کہ وہ اپنے ذرائع کو بہتر سے بہتر رنگ میں استعمال کر کے اس قوم کا اقتصادی معیار بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا کرے کہ وہ مذہبی آزادی کو جو پہلے وقتوں میں اسلام کے تلوار کے زور سے قائم کی تھی کیونکہ تلوار ہی کے زور سے اس آزادی کو چھینا جا رہا تھا اس مذہبی آزادی کو قائم رکھنے کی توفیق ہمیشہ پاکستانی حکومتوں کو ملتی رہے اور اس آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے پاکستانی آزاد سانس لئے ان راہوں کو پالیں جو راہیں ان کے رب تک لے جانے والی ہیں تا زندگی کا مقصد پورا ہو اور پاکستان کے قیام کی جو غرض ہے وہ بھی پوری ہو۔

۹:- مزارعین احباب سے

ایک مختصر سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت کو اور بعض افراد جماعت کو ایسے سامان عطا کئے تھے کہ سندھ میں زرعی جائیداد بہت سی پیدا کر لی گئی تھی مثلاً

تحریک جدید کی زمینیں ہیں صدر انجمن احمدیہ کی زمینیں ہیں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے زمینیں خریدی تھیں وہ ہیں۔ بعض اور دوستوں نے زمینیں شروع میں خریدیں یا اور بعد میں خرید رہے ہیں ان کی زمینیں۔ اوروں کا تو مجھے علم نہیں لیکن اپنی زمینوں اور تحریک جدید اور صدر انجمن احمدیہ کی زمینوں پر شروع میں قریباً سارے ہی احمدی مزارع تھے لیکن اب بعض جگہ دس پندرہ فیصدی سے زیادہ نہیں اور بعض جگہ مجبوراً ہندوؤں کو بطور مزارع کے وہاں رکھا جا رہا ہے ویسے تو ٹھیک ہے ہم رکھتے ہیں ان کے رکھنے میں کوئی برائی نہیں لیکن ہم نے پہلی توجہ اس طرف دینی ہے کہ ہمارے اپنے دوست اس اقتصادی میدان میں اور زرعی میدان میں ترقی کریں یہ جو کمی اس نسبت میں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جو دوست وہاں گئے انہوں نے خوب کمایا اور اپنی زمینیں خرید لیں۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق عطا کی کہ وہ اپنی زمین خریدیں لیکن جب وہ ہماری زمینوں سے گئے اور اپنی زمینوں کو انہوں نے آباد کیا تو ان کی جگہ احمدی خاندان نہیں آتے اور اس سے اب ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ گجرات اور سیالکوٹ اور بعض دوسرے اضلاع میں زمینداروں کی ملکیتیں اتنی تھوڑی ہیں کہ جب وہ بچوں میں تقسیم ہوتی ہیں تو کسی ایک بچے کے گزارے کے لئے بھی وہ زمین کافی نہیں ہوتی اور ایسے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں ایسے دوست اگر مثلاً چار بھائی ہوں تو ان میں سے ایک بھائی یہاں کی زمین سنبھالے باقی بھائیوں کے لئے مشترکہ کام کرے اور باقی ہماری انجمن یا تحریک جدید کی زمینوں پر چلے جائیں تو پانچ سات آٹھ سال میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جتنی زمین وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں اس سے زیادہ زیادہ زمینیں وہ اپنے ایک ایک حصہ کی وہ وہاں خرید لیں اتنی آمد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ہوتی ہے تو ویسے دوست وکالت زراعت میں یا نظارت زراعت میں نام پیش کریں۔ اور امراء اپنی جماعتوں میں جا کر یہ تحریک بھی کریں دوست بڑی کثرت سے مجھے لکھتے رہتے ہیں گزارا نہیں ہو رہا ہمارے باپ کی مثلاً دس ایکڑ زمین تھی اور ہم چار بھائی ہیں ہمیں اڑھائی ایکڑ زمین ملی ہے اُس اڑھائی ایکڑ میں تو تمہارا گزارا نہیں ہوتا لیکن وہ بیس ایکڑ جو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھے ہوئے ہیں ان سے تم کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے جس کے نتیجے میں خدا تمہیں پھر پانچ سال بعد یا دس سال بعد یا آٹھ سال بعد یا چھ سال

بعد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آئندہ کی باتیں لیکن بڑی کثرت سے پہلے ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں ایسا ہی ہو گا۔ جو لوگ اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتے محنت سے کام لیتے ہیں دیانتداری سے کام کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں اور پھر ایک احمدی کی حیثیت سے اپنی زمین کے کناروں پر چکر لگاتے ہوئے اور ہل جوتتے ہوئے خدا سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اتنی برکت ڈالتا ہے اور ان کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ وہ فرانچی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بھی گزارتے ہیں اور کوئی پانچ سال بعد کوئی سات سال بعد کئی کئی مربع بھی بعض خاندانوں نے خرید لئے ہیں وہاں جو شروع میں گئے تھے اسٹیٹ سے قرض پیسے لے کر ہل بنایا اور مکان بنائے اور بعد میں تین چار پانچ سات دس مربع بھی خرید لئے اتنے پیسے انہوں نے جمع کر لئے مثلاً تین بھائی تھے۔ تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیوی برکتیں حاصل کرنے کے بھی ذرائع پیدا کر دیئے ہیں۔ آپ انہیں ضائع نہ کریں اور دفتر سے پتہ لے کر جواں ہمتی سے کام لیتے ہوئے یہ صحیح ہے کہ جذباتی قربانی کرنی پڑتی ہے اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑتا ہے بعض رشتہ داروں سے بھی علیحدہ ہونا پڑتا ہے ساری عمر یہاں اکٹھے تو نہیں رہنا یہ دعا کرتے رہنا چاہئے کہ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا رکھے وہاں خاندان نہ بکھریں بھائی بھائی بہنیں بہنیں۔ بہنیں بھائی بچے ماں باپ سارے وہاں اللہ تعالیٰ اکٹھا خاندانی ماحول قائم رکھے اس کے حصول کے لئے اگر یہاں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو کوئی قربانی نہیں ہے ہمیں خوشی سے بشارت سے دینی چاہئے خصوصاً جب اس دُنیا کا بھی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہو۔

۱۰۔ دورانِ سال وفات پا جانے والے دوست


بہت سے دوست دورانِ سال ہم سے جدا ہوئے ہیں ان میں سے بعض روحانی طور پر اور دینی لحاظ سے ہماری بڑی خدمت کرنے والے تھے مثلاً مکرم و محترم جلال الدین شمس صاحب چودھری محمد شریف صاحب ٹنگمری والے۔ شیخ عبدالقادر صاحب مربی قاضی محمد رشید صاحب وکیل المال مولوی عبدالمنغنی صاحب جہلم جو ۳۱۳ صحابہ میں سے آخری دو میں سے ایک تھے۔ ۳۱۳ صحابہ جن کے نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں ان کی وفات سے مثلاً چند ہفتہ پہلے دو دوست ۳۱۳ صحابیوں میں سے زندہ تھے ایک وہ اور ایک قاضی محمد عبداللہ صاحب

دوران سال ان کی وفات ہوگئی۔ اس صحابہ کے اس گروہ میں سے صرف قاضی محمد عبداللہ صاحب رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے ان موصی بھائیوں اور موصی بہنوں کی جو دوران سال ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ تو ہر دعا کے موقع پر نماز کے وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی جب اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اس وقت بھی آپ دوست اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنی دعائیں یاد رکھیں جنہوں نے ہماری خدمت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے بھی اور ہم عاجز بندوں کی طرف سے بھی بہترین جزاء دے اور اپنی رحمتوں سے انہیں نوازتا رہے اور اپنی رضا کی جنتوں میں انہیں رکھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قرب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان سب کو جگہ دے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جس طرح وہ وارث بنے خدا ایسے سامان پیدا کر دے کہ ہم بھی ہمیشہ اس کی رحمتوں کے وارث دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنیں۔

اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاء اللہ کل پھر ملیں گے۔ اگر اللہ نے زندگی دی۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)





انتہائی مظلومیت اور متضرعانہ دعا اللہ تعالیٰ کی معجزانہ نصرت کو جذب کرتی ہے

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۸ جنوری ۱۹۶۷ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

کل رات سے مجھے انفلونزا کی شکایت ہے جس کے نتیجے میں سر میں درد بھی ہے اور گلے پر اثر بھی۔ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں سے میری مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کروں جو اُسے پسند ہوں اور آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہوں۔ چند ہفتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں مبعوث ہو کر یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے کھڑا کیا ہے کہ میں تمام دنیا میں اسلام کو پھیلاؤں اور تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کروں۔ مجھے اس نے اس لئے مبعوث کیا کہ میں ہر دل میں خدا تعالیٰ کی خالص توحید کا پودا لگاؤں اور ہر سینہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے متور کر دوں آپ نے اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ اس کام میں کون میری مدد کرنے کو تیار ہے اُس آواز کو سن کر ہم نے جواب میں کہا نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ہم خدا تعالیٰ کے لئے اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لئے آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر دین اسلام کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور عہد بیعت باندھنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم بڑے ہی کمزور اور کم مایہ اور کم علم ہیں۔ ہم نے اپنے رب سے عہد تو باندھ لیا ہے مگر اس عہد کا پورا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں جب تک کہ وہی اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا نہ کرے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت کے بغیر ہم اپنے اس وعدہ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے کہ ”اے مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پھیلانے کے لئے ہم تیرے ساتھی بنتے ہیں اور خدا کے دین کے مددگار ہوتے ہیں“

اس پر مجھے خیال آیا کہ میں اس جلسہ کے موقع پر دوستوں کے سامنے وہ باتیں بیان کروں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں اور جنہیں قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے چنانچہ اس کے متعلق میں نے غور کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کی آیات جمع کرنی شروع کیں لیکن پھر یکدم مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اندھیرے نے مجھے گھیرا ہے اور مضمون کو آگے نکلنے کے لئے کوئی راستہ نہیں ملتا جس کی وجہ سے میری طبیعت میں بڑی پریشانی پیدا ہوئی اور طبیعت اپنے رب کی طرف مائل ہوئی اور اس کی مدد طلب کرنے کے لئے اس کی طرف جھکی اور دعا میں مشغول ہو گئی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توجہ اس طرف پھیری گئی کہ میں اس مضمون کو جلسہ کے موقع پر اس رنگ میں بیان نہ کروں بلکہ اس سلسلہ میں دو بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور اس کی تائیدیں ملیں اور جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول آپ پر ہوا اس کو اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں کہ یہ بھی اس مضمون کا ہی ایک حصہ ہے جسے میں نے آج بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب میں نے اس حصہ مضمون کے متعلق حوالہ جات اکٹھا کرنے اور کروانے شروع کئے تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا وہ تین بڑے حصوں میں منقسم ہو سکتا ہے ان میں سے بعض تائیدات اور نشانات جو مخصوص افراد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور وہ ایک زبردست تاریخی شہادت کے طور پر ایک مستقل حیثیت میں رہتی دنیا تک قائم رہیں گے لیکن بہت سی تائیدات اور نصرتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس رنگ میں بھی ملیں کہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ بند نہیں ہوا۔ اس میدان میں ہر احمدی آج بھی کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق حق کو حق ثابت کرنے کے لئے تیار ہے اور تیری بعض عام اور ہمہ گیر نوعیت کی تائیدات تھیں جن کے وعدے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیئے گئے تھے۔ یہ میرے آج کے مضمون کا خلاصہ ہے۔

قرآن کریم پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولی طور پر دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معجزانہ نصرت کو جذب کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی مظلومیت ہے کہ دشمن مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا بندہ اپنے رب کی راہ میں مرنے کے لئے تیار ہو

جاتا ہے اور دوسرے دعا میں اس قسم کا تضرع اور بہتال ہے کہ گویا انسان جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت اپنے پر ایک موت وارد کر لیتا ہے تو جب ایک انسان ان دو موتوں کو اپنے نفس پر قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کی معجزانہ نصرت ملتی ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ اس میدان میں کسی ماں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بچہ نہیں جنا۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ تکالیف برداشت کیں کہ جن کے تصور سے بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں نیز دنیا میں کوئی اور ایسا انسان نہیں جس کو خدا تعالیٰ کے نام پر اور مذہب کی وجہ سے اور عقائد کے نتیجے میں اس قدر دکھ پہنچایا گیا ہو اس قدر ایذا دی گئی ہو اور اس قدر تکالیف پہنچائی گئی ہوں اور دنیا میں آپ کے سوا کوئی انسان ایسا بھی پیدا نہیں ہوا جس نے آستانہ الوہیت پر اپنی روح کو اس طرح گداز کر دیا ہو اور بہا دیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنے رب کے حضور جھکی اور بالکل گداز ہو گئی اور پانی بن کر بہہ نکلی آپ کی تیرہ سالہ ملٹی زندگی کا ایک ایک لحظہ اس صداقت کا گواہ ہے۔ وہ کون سا ظلم تھا جس کا آپ نشانہ نہ بنے وہ کون سی بے عزتی تھی جو آپ کو دیکھنی نہ پڑی وہ کون سی تکلیف تھی جسمانی بھی اور جذباتی بھی جس میں سے آپ اس زمانہ میں نہ گزرے اس زمانہ کی ہر گھڑی میں نہ گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو ایک دفعہ منکر نے آگ جلائی تھی اور اپنی زندگی میں انہیں ایک دفعہ اس آگ میں پھینکا گیا تھا اور صرف ایک دفعہ خدا تعالیٰ کی تجلّی اس عظمت اور شان کے ساتھ ظاہر ہوئی تھی کہ اس آگ کو اس نے ٹھنڈک اور روح کا سکون بنا دیا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے قریباً تیرہ سو سال تک آپ کے لئے آگ جلائے رکھی اور خدا تعالیٰ نے ایک طرف اس آگ کو کہا کہ میرے محبوب بندے کے لئے تو تیرہ سال تک بھڑکتی رہے نیز منکروں کو کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تیرہ سال تک اس آگ کو تم مشتعل رکھو اور دوسری طرف اس آگ کو یہ بھی کہا کہ میرے اس پیارے بندے پہ تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سوائے اس کے کہ تو اس کے احساس میں برداور سلامتی پیدا کرنے والی ہو۔

غرض تیرہ سال تک دشمن کی جلائی ہوئی آگ میں بظاہر آپ جلائے گئے اور تیرہ سال تک خدا تعالیٰ نے آپ کی نصرت اور امداد اس رنگ میں کی کہ دنیا آپ کو آگ میں دیکھ رہی تھی اور آپ خود اپنے کو جنت میں محسوس کر رہے تھے۔ اس تیرہ سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد آپ اس

دروازہ پر کھڑے ہوئے جس کے اندر داخل ہو کر انسان خدا کی تائیدات اور نصرتوں کو حاصل کرتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیچھے آنے والوں کو یوں مخاطب کیا

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نَصَرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (البقرة: ۲۱۵)

کہ تم اگر اس دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کی دنیا ہے تو تم اس میں صرف اس صورت میں داخل ہو سکتے ہو کہ تم میری پیروی کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسوہ بنایا ہے تم سے پہلے جو لوگ مجھ پر ایمان لائے انہوں نے میری زندگی کو اپنے لئے اسوہ سمجھا اور قرار دیا۔ وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ مل کر وہ تمام دکھ اٹھائے اور برداشت کئے تھے جو میرے منکر اور مخالف مجھے دے رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو ان دکھوں کی وجہ سے یا کفار کے آخری حربہ کے نتیجے میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب تک تم انہی کی طرح مجھے اسوہ نہیں بناؤ گے جب تک تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکالیف برداشت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل نہیں ہو سکے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی میرے ساتھ مل کر یہ حالت تھی کہ جب دنیا کا ہر سلسلہ ٹوٹ جاتا تھا اور جب دنیا سے ناامیدی پیدا ہو جاتی تھی اس وقت میں (خدا کا رسول اور تمہارے لئے اسوہ حسنہ) اور میرے ساتھی اپنے رب کی طرف جھکتے تھے اور تضرع اور خشوع کے ساتھ اس کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے اور اپنے رب کو یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب نہ ہم میں کوئی طاقت ہے کہ ہم اس دشمن سے مقابلہ کر سکیں نہ ہمیں کسی بڑائی کا دعویٰ ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ تیری مدد کے بغیر ہم اپنے اور تیرے دشمنوں پر غالب آجائیں گے۔ سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں صرف تیرا سہارا باقی ہے پس اپنی مدد اور اپنی نصرت کو جلد بھیج مَتَى نَصَرَ اللَّهُ۔ اس فقرہ کے اندر انتہائی کرب اور اضطراب جو ایک مومن کے دل میں دعا کے وقت پیدا ہونا چاہیے۔ اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے اور کامل امید اور کامل توکل جو ایک مومن بندے کو اپنے رب پر ہوتا ہے اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ اسی پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے ایک مومن بندہ ایسے وقت میں اپنے رب سے کہتا ہے

کہ اے خدا ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمیں بغیر مدد اور بغیر سہارے کے نہیں چھوڑے گا پس آ اور ہماری مدد کر۔ تب اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں میری مدد تمہارے قریب ہی ہے۔ میں تو اس وقت تک اس لئے خاموش رہا کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ میرا یہ بندہ ایسا ہے۔ جو اس قسم کے مظالم اور ایذائیں اور تکالیف میری خاطر برداشت کر سکتا ہے اگر دنیا یہ نظارہ نہ دیکھتی تو میرے اس بندہ کی قدر بھی دنیا کو معلوم نہیں ہوتی پس یہ سب کچھ جو کیا گیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت کے قیام کے لئے اور آپ کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ پس ان لوگوں میں سے جو خدا تعالیٰ کی خاطر دمو توں کو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے قبول کر لیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور ارفع اور کامل اور مکمل نمونہ اور اُسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل ہیں اور آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں گم ہیں۔ جنہوں نے اپنے وجود کو کلیۃً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مٹا دیا اور آپ کے وجود میں خود کو غائب کر دیا اور اس محبت اور عشق کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی ہر نظر سے مرزا غلام احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام حقیقتاً پوشیدہ رہے کیونکہ وہ وجود ہی وہاں نہیں تھا بلکہ جس وجود پر دنیا کی نظر پڑتی تھی وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور آپ کی شبیہ تھی وہی محبت بنی نوع انسان کے لئے آپ کے دل میں وہی تڑپ اس بات کے لئے کہ دنیا اپنے رب کو اور اپنے محسن حقیقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے وہی اطاعت کا نمونہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حدیث بھی ہو جس کے متعلق تمہیں علم ہو کہ اس کے راوی ثقہ نہیں ہیں لیکن اگر وہ قرآنی تعلیم کے خلاف نہیں تو چونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی ہے اس لئے اسے قبول کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ انتہائی محبت اور انتہائی عشق جب تک جس کے دل میں نہ ہو اس کی ذہنیت یہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا کہ آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا نے اگر کسی کو انتہائی تکالیف پہنچائیں اور ایذائیں دیں اور بے عزتیاں کیں اور ہلاکت کے منصوبے باندھے اور اسے ہر طرح ذلیل اور ناکام کرنے کی کوشش کی تو وہ حضرت

مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی ذات ہے اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آقا اور مطاع کے رنگ میں رنگین ہو کر جس طور پر جس رنگ میں اپنے رب کے حضور دعائیں کیں۔ اس کا نقشہ اپنے ایک شعر میں یوں کھینچتے ہیں۔

بنالم بردرش ز اں ساں کہ نالد

بوقت وضع حملہ بار دارے

(حجۃ اللہ۔ روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۹)

آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے خدا کے حضور جھکتا ہوں دنیا کی حالت اور اپنی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اس سے اس کی مدد کا طالب ہوتا ہوں تو میری حالت ویسی ہی ہوئی ہے جیسی کہ بچہ کی پیدائش کے وقت ایک عورت کی ہوا کرتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ پر نازل ہوئیں اس سلسلہ میں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ دوستوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں:

”درحقیقت لوگوں نے اس خیال سے کہ کسی طرح لَوْنَقَوْلَ کے نیچے مجھے لے آئیں۔

منصوبہ بازی میں کچھ کمی نہیں کی۔ بعض مولویوں نے قتل کے فتوے دیئے بعض مولویوں نے جھوٹے قتل کے مقدمات بنانے کے لئے میرے پرگواہیاں دیں۔ بعض مولوی میری موت کی جھوٹی پیشگوئیاں کرتے رہے۔ بعض مسجدوں میں میرے مرنے کے لئے ناک رگڑتے رہے۔۔۔۔۔ یہ اس لئے ہوا کہ تا خدا تعالیٰ ہر طرح سے اپنے نشانوں کو مکمل کرے۔

میری نسبت جو کچھ ہمدردی قوم نے کی ہے۔ وہ ظاہر ہے اور غیر قوموں کا بغض ایک طبعی امر ہے ان لوگوں نے کون سا پہلو میرے تباہ کرنے کا اٹھا رکھا، کون سا ایذا کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچایا، کیا بد دعاؤں میں کچھ کسر رہی یا قتل کے فتوے نامکمل رہے یا ایذا اور توہین کے منصوبے کا محققہ ظہور میں نہ آئے پھر وہ کون سا ہاتھ ہے جو مجھے بچاتا ہے۔“

(اربعین نمبر ۳۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۷ صفحہ ۳۹۴، ۳۹۵)

اسی طرح حقیقۃ الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

”اس قدر شور اور میرے تباہ کرنے کے لئے اس قدر کوشش اور یہ پُر زور طوفان جو

میری مخالفت میں پیدا ہوا یہ اس لئے نہیں تھا کہ خدا نے میرے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا بلکہ اس لئے تھا کہ تا خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوں اور تا خدائے قادر جو کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے مقابل پر اپنی طاقت اور قوت دکھلاوے اور اپنی قدرت کا نشان ظاہر کرے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح شورِ بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا۔ پھر بھی میں ان صدمات سے بیج جاؤں گا۔ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا بلکہ بڑھا اور پھولا اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے تین لاکھ انسان آرام کر رہے ہیں یہ خدائی کام ہیں جن کے اِدراک سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔“ (حقیقۃ الوحی - روحانی خزائن جلد نمبر ۲۲ صفحہ ۲۶۲، ۲۶۳)

اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”نزول مسیح“ میں فرمایا:

”اب یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلہ کے برباد کرنے کے لئے کس قدر انہوں نے زور لگائے اور کیا کچھ ہزار جان کا ہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کئے یہاں تک کہ حکام تک جھوٹی خبریاں بھی کیں خون کے جھوٹے مقدموں کے گواہ بن کر عدالتوں میں گئے اور تمام مسلمانوں کو میرے پر ایک عام جوش دلایا اور ہزار ہا اشتہار اور رسالے لکھے اور کفر اور قتل کے فتوے میری نسبت دئے اور مخالفانہ منصوبوں کے لئے کمپنیاں کیں۔ مگر ان تمام کوششوں کا نتیجہ بجز نامرادی کے اور کیا ہوا۔ پس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ کیا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں اور پھر وہ تباہ نہ ہوا بلکہ پہلے سے ہزار چند ترقی کر گیا۔ پس کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دُور دُور چلی گئیں اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزار ہا پرند اس پر آرام کر رہے ہیں۔“ (نزول مسیح - روحانی خزائن جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۳۸۳، ۳۸۴)

اور بھی بہت سے حوالے ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لئے میں اب اصلی مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے اور جیسا کہ آپ کے صحابہ میں سے متعدد صحابہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعا کے وقت کا جو نقشہ کھنچا ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ لَعَلَّكَ بِاَخْبَعِ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (الشعراء: ۴۰) اور جب دعا کے وقت ایک انسان اپنے اوپر ایک موت وارد کر لیتا ہے تب وہ جس کی نگاہ میں دعا کرنے والا بندہ محبوب ہوتا ہے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اس کو بشارتیں دو۔ یہ مرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا یہ زندہ رہنے اور زندہ رکھنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعہ سے تو ہم نے تمام دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے۔ جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ جاؤ اس کے لئے ان راہوں کو کھولو جو نصرت کی راہیں ہیں۔ جاؤ اور اس کے لئے مقابلہ کے میدان کو تیار کرو جس میدان میں کھڑے ہو کر وہ صلح کے ساتھ اور امن کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ اپنے تمام مخالفوں کو فیصلہ کے لئے بلائے گا اور کوئی اس کے مقابلہ پر نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو ناکام و نامراد رہے گا اور اس طرح دنیا کو پتہ لگے گا کہ وہ بندہ جسے دنیا نے دھتکار دیا تھا اور ذلیل سمجھا تھا وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں دھتکارا ہوا نہیں بلکہ وہ اس کا محبوب ہے وہ ذلیل نہیں بلکہ خدا کا ایک عزت والا بندہ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے تین قسم کی نصرتیں حاصل ہوئیں بوجہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کے جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کیا اِذَا كُوْبِرْدَا شْت كُرْنِي كِي سَلْسَلِي فِي بِي وَدَعَاؤِي كُوَانْتِهَاتِكِ اُوْر اِنْبِيْنِي كَمَالِ كِي نَتِيْجِي فِي بِي۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی نصرتوں اور تائیدات کے ایک تو وہ عام وعدے ہیں جو آپ کے الہامات میں پائے جاتے ہیں اور قیامت تک کے لئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اور وہ قیامت تک پورے ہوتے رہیں گے اور جو آنکھیں بصیرت اور بصارت رکھتی ہوں گی وہ ان کو دیکھیں گی۔ وہ ان سے حظ اٹھائیں گی، ان سے برکت حاصل کریں گی اور وہ ان کے نتیجہ میں اپنے رب کی رضا کو پائیں گی۔ ان کے علاوہ بعض ایسے میدان نصرت کے آپ کے لئے پیدا کئے گئے جو اپنے زمانہ تک کے لئے مخصوص تھے مثلاً بعض معاملات میں آپ نے

صرف مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو کہا کہ لڑنے اور جھگڑنے اور فتنہ و فساد کی ضرورت نہیں ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں اور کذاب ہوں اور مفتزی ہوں اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچا ہوں اور صادق ہوں اور خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے نیز میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا پختہ تعلق خدا تعالیٰ سے ہے اب دنیا کا کوئی فلسفہ نہ اس دعویٰ کو غلط ثابت کر سکتا ہے اور نہ اسے صحیح ثابت کر سکتا ہے یعنی مدعی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا تعلق خدا سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جو میں کہتا ہوں کہتا ہوں اور اس کے ارشاد کے مطابق جو میں کرتا ہوں کرتا ہوں تو اس کا فیصلہ زید اور بکر نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ صرف خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے جس کی طرف میں اپنے دعویٰ کو منسوب کر رہا ہوں۔

پس ایک مامور من اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میرا دعویٰ خدا تعالیٰ سے ایک پختہ تعلق کا ہے اور اس کے حکم کے مطابق جو کام میں نے کرنے ہیں، کرنے ہیں اس لئے اس بات اور اس دعویٰ کا فیصلہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا اور جب خدا تعالیٰ نے ہی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لئے کسی بندوق کی ضرورت نہیں۔ کسی نیزے کی ضرورت نہیں۔ کسی تیرکمان کی ضرورت نہیں۔ کسی کفر کے فتویٰ کی ضرورت نہیں۔

اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ مثلاً یہ ہوتا کہ تمام علماء ہند مجھے ایک بڑا عالم اور متقی سمجھتے ہیں تو پھر مخالف کہتا آؤ ہم ان سے پوچھتے ہیں لیکن آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے ایک محبوب بندہ سمجھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہئے کہ آؤ خدا تعالیٰ سے پوچھیں اس طرح اگر آپ کو دعویٰ ہوتا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے تو مخالف آپ کے مقابلہ میں طاقت لے کے آتا اور کہتا تم کہتے ہو میرے پاس سولٹھ باز ہیں۔ ہم ایک سوا ایک لٹھ باز لے آئیں گے۔ آؤ مقابلہ کر لیں لیکن یہاں تو دعویٰ ہی لٹھیوں کی لڑائی کا نہیں یہاں تو دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کے حامل ہونے کا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ جسے اللہ تعالیٰ دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں امن کو قائم کرتا ہے، وہ صلح کو قائم کرتا ہے، محبت اور پیار سے محبت اور پیار کے فیصلوں کی طرف دنیا کو بلاتا ہے مگر دنیا گریز کرتی ہے۔ مخالف اس کی اسی بات کا جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہم تمہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ ہم تم پر کفر کے فتوے لگائیں گے لیکن اس سے مدعی کا دعویٰ غلط

ثابت نہیں ہوتا یعنی عقلاً بھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ چونکہ مدعی کا دعویٰ تعلق باللہ کا ہوتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ خدا تعالیٰ کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آیا واقعہ میں میں سچا اور صادق ہوں یا اگر کاذب ہوں تو وہ کوئی ایسا نشان ظاہر کرے جس سے دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میں جھوٹا ہوں اور مفتری ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوں اور دین اسلام سے برگزشتہ کرنے والا ہوں لیکن دشمن اس طرف آتا نہیں۔

پس ہمیشہ مدعی اور مرسل اور نبی کی جو کشمکش اپنے مخالف سے ہے وہ دنیاوی رنگ میں ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا اسے فتنہ اور فساد کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دنیا کو امن اور صلح کے ساتھ ہی فیصلہ کی دعوت دیتا ہے اور یہ صلح اور امن کے فیصلے کی جو دعوتیں ہیں یہ عام بشارتوں کو علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا دو حصوں میں منقسم ہیں ایک وہ جو بعض مخصوص افراد سے تعلق رکھتی ہیں یعنی بعض افراد۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے ماتحت کہا کہ آؤ ہم امن اور آشتی کی فضا میں بیٹھ کر باہم فیصلہ کریں مگر ان لوگوں نے حضور کی بات نہ مانی بلکہ انہوں نے انہی راہوں کو اختیار کیا جن راہوں کو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو بچوں کے مقابلہ میں آتے ہیں۔ اس وقت میں اس قسم کے طریق کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن بعض ایسی باتیں تھیں، بعض ایسے دعویٰ تھے جن کا تعلق صرف مخصوص مکان کے ساتھ یا مخصوص افراد کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان نصرتوں کے دروازے تمام جماعت احمدیہ پر کھولے تھے۔ وہ آج بھی کھلے ہیں اور آج بھی ہم ان میدانوں میں نہایت پیارا اور محبت کے ساتھ تہذیب کے ساتھ اپنے مخالفوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس بطل جلیل پر ہم ایمان لائے اور اس کا دعویٰ تھا کہ خدا سے اس کا تعلق ہے اور اس کے طفیل الہی نصرتوں کے یہ میدان ہم پر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آؤ اکٹھے ہوں اور دیکھیں کہ ہمارا خدا جو قادر و توانا ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت اور اس کے قبضہ تصرف میں ہے جو علام الغیوب ہے۔ انسان انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن کوئی انسان اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ حقیقت حال سے واقف ہے۔ ہم غلطی کر سکتے ہیں مگر کوئی غلطی ہمارے رب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی اس لئے آؤ ہم اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے مگر نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی مخالف اس امن کے میدان فیصلہ میں ہمارے مقابلہ پر آئے گا یا نہیں آئے گا۔

غرض تیسری قسم کی نصرتیں جن کا تعلق خاص معجزانہ نصرتوں اور تائیدات الہیہ کے ساتھ ہے اور جن کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ ان کی طرف ہم ان لوگوں کو بلا تے ہیں جو ہمارے ساتھ ان مسائل میں اتفاق نہیں رکھتے اور اس وقت میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دعوت ہائے فیصلہ بھی تیس اور چالیس کے درمیان ہیں اور ان میں سے ہر ایک فیصلہ کن ہے۔ اگر ہم سے اختلافات رکھنے والے خدائی فیصلہ کو ماننے کے لئے تیار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اس سے فیصلہ طلب کرنے کے لئے تیار ہوں اور یہ دعا کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اے خدا یہ بندہ خود کو تیری طرف منسوب کرتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ شخص جھوٹا ہے۔ ہم غلطی کھا سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن تو علامہ الغیوب ہے اور تیرے لئے غلطی کا کوئی امکان نہیں تجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس لئے آ اور ہماری مدد کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیری رحمتوں سے محروم ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے قہر اور غضب کا تازیانہ ہم پر پڑے اور ہمیں ہلاک کر دے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتاب ”سرمہ چشم آریہ“ میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن شریف سراسر حکمت اور معرفت اور سچائی سے بھرا ہے اور قرآن شریف میں حکمت اور معرفت اور صداقت کے بہت سے اصول بیان کئے گئے ہیں اور پھر ان کی بہت سی تفصیل بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر اصل اور ہر جزو کے متعلق بحث بڑی طویل ہو جائے گی اور اس کے لئے کئی زندگیاں درکار ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے اس لئے اگر تم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ میں ایک آسان طریق تمہیں بتاتا ہوں (اور اسی دعوت فیصلہ میں تمام غیر مذاہب مخاطب ہیں یعنی آپ نے تمام مذاہب کے پیرواؤں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے) کہ قرآن کریم کامل اور مکمل شریعت کی حیثیت میں اپنے اندر صدقتیں رکھتا ہے اصولی بھی، ضروری بھی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو لیں اور پرکھیں۔ میں تمہیں ایک آسان طریق بتاتا ہوں کہ تم دو یا تین اصول ایسے لے لو کہ ان اصولوں پر تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اعتراض ہو سکتا ہو۔ تم ان دو تین اصولوں کو منتخب کر لو اور پھر انہیں ہمارے سامنے پیش کرو۔ میں تمہارے ان اعتراضات کو غلط ثابت کر کے انہی اصولوں میں سے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل مواخذہ ہیں یہ ثابت کروں گا کہ حقیقی صدقتیں ان اصول میں ہی بیان ہوئی ہیں اور اس کے مقابلہ میں جو

موقف تمہاری کتب اختیار کرتی ہیں وہ صحیح اور درست نہیں جب میں ان اصولوں پر تمہارے اعتراضات کو توڑ دوں گا جو تمہارے نزدیک اتنے وزنی ہیں کہ ان سے زیادہ وزنی اور کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور اس کا فیصلہ قرآن کریم کے حق میں ہو جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دیگر اصول اور جزئیات میں بھی قرآن کریم ہی حق پر ہے کیونکہ جب ایسی باتیں جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتراض تھیں وہ بھی قابل اغراض نہ ٹھہریں تو پھر جو باتیں تمہارے نزدیک نسبتاً کم قابل اعتراض تھیں وہ خود ہی قابل اعتراض نہ رہیں گی چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ

”یہ اشتہار جاری کیا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس قدر اصول اور تعلیمیں قرآن شریف کی ہیں وہ سراسر حکمت اور معرفت اور سچائی سے بھری ہوئی ہیں اور کوئی بات ان میں ایک ذرہ مواخذہ کے لائق نہیں اور چونکہ ہر ایک مذہب کے اصولوں اور تعلیموں میں صد ہا جزئیات ہوتی ہیں اور ان سب کی کیفیت کا معرض بحث میں لانا ایک بڑی مہلت کو چاہتا ہے اس لئے ہم اس بارہ میں قرآن شریف کے اصولوں کے منکرین کو ایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگر ان کو اصول اور تعلیمات قرآنی پر اعتراض ہو تو مناسب ہے کہ وہ اول بطور خود خوب سوچ کر دو تین ایسے بڑے سے بڑے اعتراض بحوالہ آیات قرآنی پیش کریں جو ان کی دانست میں سب اعتراضات سے ایسی نسبت رکھتے ہوں جو ایک پہاڑ کو ذرہ سے نسبت ہوتی ہے یعنی ان کے سب اعتراضوں سے ان کی نظر میں اقویٰ و اشدّ اور انتہائی درجہ کے ہوں جن پر ان کی نکتہ چینی کی پر زور نگاہیں ختم ہو گئی ہوں اور نہایت شدت سے دوڑ دوڑ کر انہیں پر جا ٹھہری ہوں سو ایسے دو یا تین اعتراض بطور نمونہ پیش کر کے حقیقت حال کو آ ز مالینا چاہئے کہ اس سے تمام اعتراضات کا باآسانی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اگر بڑے اعتراض بعد تحقیق ناچیز نکلے تو پھر چھوٹے اعتراض ساتھ ہی نابود ہو جائیں گے اور اگر ہم ان کا کافی و شافی جواب دینے سے قاصر رہے اور کم سے کم یہ ثابت نہ کر دکھایا کہ جن اصولوں اور تعلیموں کو فریق مخالف نے بمقابلہ ان اصولوں اور تعلیموں کے اختیار کر رکھا ہے وہ ان کے مقابل پر نہایت درجہ رذیل اور ناقص اور دور از صداقت خیالات ہیں تو ایسی حالت میں فریق مخالف کو در

حالت مغلوب ہونے کے فی اعتراض پچاس روپیہ بطور تاوان دیا جائے گا“

(اشتہار مفید الاخبار ضمیمہ سرمہ چشم آریہ - روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)

یہ دعوت فیصلہ اب بھی قائم ہے اور میں اور ہماری جماعت اس کی ذمہ دار ہیں اور طریق فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ تین ثالث یا منصف فریقین (اگر ہندو مقابلہ پر آئیں تو وہ ایک فریق بن جائیں گے اور اگر عیسائی مقابلہ پر آئیں تو وہ ایک پارٹی بن جائیں گے یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور مذہب مقابلہ پر آئے تو وہ ایک فریق قرار پائے گا) کی رضامندی سے مقرر کئے جائیں جن کا منفقہ فیصلہ ہر دو فریق کے لئے ماننا ضروری ہو۔ اگر فیصلہ اسلام کے خلاف ہو تو فی اعتراض پچاس روپیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منشاء کے مطابق دوسرے فریق کو دے دیا جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ بات ناممکنات میں سے ہے لیکن میں ہر اس مذہب کو اور اس کے راہنماؤں کو جو اسلام کے اصولوں کو درست نہیں سمجھتے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آسان اور مہذب طریق فیصلہ ہے یا آپ جیتیں گے (جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں) اور قرآن کریم مغلوب ہوگا (جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں) یا قرآن کریم غالب ہوگا اور آپ مغلوب ہوں گے۔ قرآن کریم جیتے گا اور آپ شکست کھائیں گے۔ دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی اور قرآن کریم غالب ہو گیا اور اس پر اعتراضات کئے جائیں گے اگر وہ اعتراضات نہ رہے بلکہ وہ اس کی خوبصورتی کی نشانیاں ثابت ہوئے اور ان جگہوں سے صداقت کے خزانے نکلے جن پر اعتراضات کئے گئے ہیں تو تم خدا تعالیٰ کی خاطر خدا کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جانا اور خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی برکات سے فائدہ اٹھانا اور اگر جیسا کہ تمہارا یہ خیال ہے ہم مغلوب ہوں اور تم غالب آئے تو تمہاری تبلیغ اور پروپیگنڈا کو اس سے بہت مدد ملے گی۔ پس یہ سراسر تمہارے فائدہ کی بات ہے آؤ اور شرافت کے ساتھ اس میدان میں اسلام کے مقابلہ پر نکلو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری تائید کس طرح کرتا ہے اور اپنے فضل سے آسمانی نور کو نازل کر کے انہی جگہوں میں جن کو تم قابل اعتراض سمجھتے ہو اور اعتراض کی جگہ قرار دیتے ہو کس طرح معرفت اور حکمت کے خزانے نکالنے کی ہمیں توفیق عطا کرتا ہے۔

اس دعوت فیصلہ کے مخاطب تمام غیر مذاہب کے سربراہ ہیں خصوصاً عیسائیوں میں سے کیتھولک فرقہ کے سربراہ جو پوپ کہلاتے ہیں۔ پس اگر پوپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت حق

اور اسلام جھوٹ اور باطل ہے تو ان کو چاہئے کہ وہ فیصلہ کی اس آسان راہ کو قبول کریں اور اس میدان فیصلہ میں جو نہایت شرافت اور تہذیب اور امن کی فضا میں کیا جائے گا۔ آئیں اور اپنے مذہب کی صداقت کو ثابت کریں لیکن اگر وہ خاموشی اختیار کریں تو دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہوگی کہ ان کو اسلام کے مقابلہ میں آنے کی ہمت اور جرأت نہیں۔

(۲) دوسری دعوت فیصلہ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں
 ”خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا، جزا اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں۔ ہرگز ممکن نہیں“ (مجموعہ اشتہارات جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۶)

نیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں اگر وہ قرآن کریم کی اس تفسیر سے جو میں اپنے رب سے روشنی حاصل کر کے اپنے ماننے والوں تک پہنچا رہا ہوں اپنی روح کو منور رکھیں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے فضل و کرم کر رہا ہے اور اپنی برکتیں نازل کر رہا ہے۔ میرے ایسے ماننے والوں پر بھی وہ اپنے فضل و کرم کرتا رہے گا اور ان پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا چلا جائے گا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس دعویٰ نبوت کو ثابت کرنے کے لئے ہم تمام مذاہب کو یہ دعوت فیصلہ دیتے ہیں کہ تین ماہر ترین ڈاکٹروں کا انتخاب کریں اور پھر یہ منتخب ڈاکٹر جن میں مریضوں کا چاہیں انتخاب کر لیں اور ان کے متعلق یہ لکھ کر دے دیں (نام اور پتہ کے ساتھ) کہ ہم نے ان مریضوں کو اس لئے منتخب کیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لا علاج ہیں اور ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ ہمارے نزدیک اب ان کا علاج نہیں کیا جاسکتا۔ نہ ان کی زندگی بچائی جاسکتی ہے اور پھر ان میں سے دس مریض قرعہ اندازی کے ساتھ ہم لے لیں گے اور جو ہمارے مقابلہ پر آئے گا اور جو اسلام کو سچا نہیں سمجھتا اور صلح کی فضا میں ہم سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ دس مریض قرعہ اندازی کے ساتھ وہ لے لے اور پھر ہم بھی دعا کریں گے اور وہ بھی دعا کریں اور ہم پورے وثوق اور یقین کے ساتھ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ صرف ہمارا تعلق زندہ خدا سے ہے اور ان کا تعلق زندہ خدا سے نہیں اس لئے وہ مریض جو ہمارے حصہ میں آئیں گے ان

میں سے اکثریت خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا یاب ہو جائے گی اور باوجود اس فتویٰ کے شفا یاب ہو جائے گی جو ان کے اپنے ڈاکٹروں نے دیا ہوگا کہ یہ مریض لا علاج ہیں اور ان کی زندگی بچائی نہیں جاسکتی اور جو مریض ان کے حصہ میں آئیں گے ان کی اکثریت موت کا منہ دیکھے گی۔

اکثریت کی شرط میں اس لئے لگا رہا ہوں کہ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بعض معاملات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہوتی ہے یعنی ان کو بدلنا نہیں جاسکتا اور چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے اس لئے ہم سو فیصدی نہیں کہہ سکتے بلکہ اکثریت کہتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے مقابلہ ہی کرنا ہے کہ کسی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور جس کی دعا زیادہ قبول ہوگی اس کے حصہ کے مریض زیادہ تعداد میں شفا یاب ہوں گے اور اس سے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے کہ:

”بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے کبوتر جن کا دن رات زنا کاری کام تھا ان کو دیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں“ (حقیقۃ الوحی - روحانی خزائن جلد نمبر ۲۲ صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سب مخلوق پر جلوہ گر ہوتی ہیں اور اس کی صفت رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ تو اچھوں اور بُروں سب پر جلوہ گر ہوتی رہتی ہے لیکن ان رحمتوں کی کثرت اور ان کی قلت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کون اس کی نگاہ میں معزز اور محترم ہے اور کون اس نگاہ میں ایک عام انسان ہے کہ جس کے ساتھ وہ صرف رب ہونے کی حیثیت میں حسن سلوک کر رہا ہے۔ غرض یہ دعوت فیصلہ اب بھی قائم ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ آپ کی برکتوں کو جماعت میں جاری رکھا ہے اور اس دعوت فیصلہ کے بعد خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے اور یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت صداقت پر قائم ہے۔

تیسری دعوت فیصلہ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک کتاب ”براہین احمدیہ“ لکھی۔ اس کتاب کے لکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ پُر زور دلائل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے نشانات حاصل

کرے۔ اِتماماً للحجة۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے اِتماماً للحجة (یعنی دشمن پر حجت تمام کرنے کے لئے) اس کتاب میں وہ دلائل بھی لکھ دیئے جائیں۔ جن سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم ہی حق ہے اور کامل اور مکمل شریعت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ آخری شریعت کے حامل اور تمام نبوتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور آپ وہ دروازہ ہیں جس کے واسطے سے اور جس میں سے ہو کر ہر آسمانی نور حاصل کیا جاسکتا ہے اور جو شخص اس دروازہ کو چھوڑتا ہے اور کسی اور ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کتاب لکھنے کے بعد ایک دعوتِ فیصلہ بھی دی۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

”میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں۔ یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعہ انعام دس ہزار روپیہ بمقابلہ جمع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقانیت فرقان مجید اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں۔ اِتماماً للحجة شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے اُن سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اُسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کیں ہیں۔ اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے یا اگر بالکل پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے تو اُن سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ چاہئے تھا ظہور میں آگیا۔ میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذرے و حیلے اپنی جائیداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا مگر واضح رہے کہ اگر اپنی کتاب کی دلائل معقولہ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہیں یا برطبق شرط اشتہار کی خمس تک پیش نہ کر سکیں تو اس حالت میں بصراحت تمام تحریر کرنا ہوگا جو بوجہ نا کامل یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس شق کے پورا کرنے سے مجبور اور معذور رہے اور اگر دلائل مطلوبہ پیش کریں تو اس بات کو یاد رکھنا

چاہئے کہ جو ہم نے نمس دلائل تک پیش کرنے کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ اس سے ہماری یہ مراد نہیں ہے۔ جو اس تمام مجموعہ دلائل کا بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کر دیا جائے گا بلکہ یہ شرط ہر ایک صنف کی دلائل سے متعلق ہے اور ہر صنف کے براہین میں سے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنا ہوگا۔“

(براہین احمدیہ ہر چہار حصص۔ روحانی خزائن جلد اول صفحہ ۲۴ تا ۳۱)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پانچ عنوان بھی باندھے ہیں اور دعوتِ فیصلہ دی

ہے کہ منکر اپنی کتب میں سے ایسے دلائل پیش کرے جو ان کتب کو اپنی سلاست میں اپنے اثر میں اپنے دلائل کی پختگی میں اور اپنی قوتِ قدسیہ وغیرہ میں قرآن مجید جیسی ثابت کر سکیں اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑی نرمی سے کام لیا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ملک کا چیمپئن کسی کالج کے باکسر کو یہ کہہ رہا ہو کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کر لو اور پھر اُسے یہ خیال آئے کہ یہ میرے ساتھ کہاں مقابلہ کر سکتا ہے تو پھر وہ رعایت دینے لگ جائے اور کہے کہ میں تمہارے پانچ مکوں کے مقابلہ میں صرف ایک مکہ لگاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وثوق اور صداقت کے مقام پر قائم کیا ہے کہ سارے مذاہب کے سربراہوں کے ساتھ آپ کا یہی سلوک ہو۔ چنانچہ یہاں بھی دیکھ لو۔ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک عام چیلنج دیا ہے اور پھر اس کے بعد رعایتیں دینی شروع کر دی ہیں چنانچہ فرمایا ہے اگر تم میرے پیش کردہ دلائل کی تعداد کے برابر دلائل اپنی کتب سے پیش نہ کر سکو تو تم ان دلائل کا نصف پیش کر دو اور اگر ان کا نصف بھی پیش نہیں کر سکتے تو ان کا چوتھا حصہ پیش کر دو اور تم ان دلائل کا پچیس فیصدی بھی پیش نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں اور رعایت دے دیتے ہیں تم ان دلائل کا بیس فیصدی ہی پیش کر دو اور اگر تم اس بات سے بھی عاجز ہو تو چلو کچھ بھی نہ کرو۔ ہم تمہیں ایک اور رعایت دیتے ہی اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے دلائل دیئے ہیں۔ ان کو نمبر وار توڑ دو۔ اس کے لئے تم ان دلائل کو جو ہم نے دیئے ہیں۔ نمبر وار توڑ دو اور غلط ثابت کر دو۔ تو ان سب صورتوں میں ”بشرطیکہ تین منصف فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ چاہئے تھا ظہور میں آ گیا۔ میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذرے و حیلے

اپنی جائیداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔“

مگر واضح رہے کہ

”اگر اپنی کتاب کی دلائل معقولہ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہیں یا برطبق شرط اشتہار کی تحمس تک پیش نہ کر سکیں تو اس حالت میں بصراحت تمام تحریر کرنا ہوگا جو بوجہ ناکامل یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس شق کے پورا کرنے سے مجبور اور معذور رہے۔“

صرف ہم اتنا چاہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دینا کہ ہماری کتاب اس بات سے عاجز اور معذور ہے کہ قرآن کریم کے دلائل کے مقابلہ میں آپ کی بتائی ہوئی شرط کے مطابق ہم دلائل کو پیش کر سکیں۔

پھر آپ نے لکھا کہ میں نے پانچ شقیں بنائی ہیں۔ ان میں سے ہر شق کا نصف یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ مراد ہے۔ کسی ایک شق کو نہیں لینا۔ اب جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس دعوتِ مقابلہ میں جمیع ارباب مذہب اور ملت مخاطب ہیں اور تمام مذاہب کو جو اسلام کے مقابلہ میں آتے ہیں یا اپنے آپ کو اسلام کا مقابل سمجھتے ہیں۔ صرف اس خیال سے خوش نہیں ہو جانا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے رب کو پیارے ہوئے اور اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیابت میں تمام ان مذاہب کو جو اسلام کے مقابلہ میں آسکتے ہیں یہ کہتا ہوں کہ انہی شرائط کے مطابق جو براہین احمدیہ کے متعلق اس اشتہار میں بیان کی گئی ہیں۔ تم آؤ اور ہمارے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ خدا تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ عاجز بندوں سے بھی وہ میرے جیسے عاجز بندوں کو بھی اپنے منشاء کے مطابق اسلام کے حق میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں استعمال کر سکتا ہے۔

چوتھی دعوت فیصلہ

تمام مذاہب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اور طریق پر بھی دعوتِ مقابلہ دی ہے اور وہ دعوتِ مقابلہ ”مصلح موعود“ کی پیشگوئی اور اس کے ساتھ باقی اور جو پیشگوئیاں

ہیں۔ ان کو بریکٹ کر کے دی ہے۔ چنانچہ آپ ’’مصلح موعود‘‘ کی پیشگوئی کے بعد فرماتے ہیں۔

’’پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیسرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی (مثلاً مرزا مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے تو ان کی بجائے ایک اور لڑکا دینے کا بھی وعدہ تھا۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے ان خواتین مبارکہ میں سے ایک خاتون مبارک میری والدہ کی شکل میں آگئیں) اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے (اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ اس پر سے یونہی نہیں گزر جانا چاہئے۔ میرے علم میں ایسے بہت سے خاندان ہیں۔ جن کی کوئی اولاد فوت نہیں ہوئی۔ اگر ان کے ہاں چار بچے پیدا ہوئے ہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ چاروں بچے زندہ موجود ہیں اور خدا تعالیٰ انہیں زندہ رکھے۔ میرے پانچ بچے پیدا ہوئے ہیں اور پانچوں زندہ موجود ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بطور پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تیرے سارے بچے زندہ نہیں رہیں گے بلکہ بعض ان میں سے مر بھی جائیں گے۔ اور یہ ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ آدمی اپنے طور پر یہ ثابت نہیں کہہ سکتا) اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد اولاد رہ کر ختم ہو جائے گی اگر وہ توبہ نہ کریں گے۔ ان کے گھریواؤں سے بھر جائیں گے (جیسا کہ ہم نے دیکھا اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدارحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلانے کا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکت سے بھر دے گا تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی (یہ بڑی زبردست پیشگوئیاں ہیں۔ پچھلی صدی میں ہی لکھو کھا خاندان ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کی نسل کے متعلق بھی پتہ ہی نہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے۔ غرض بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی نسل اس طرح زندہ رہتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق) خدا

تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے۔ عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لئے آج یہ ذریعہ بھی استعمال کر رہا ہوں) میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا۔ پر تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپے اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں۔ وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی و نامرادی میں مریں گے لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور دلی محبوبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور میں ان میں کثرت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تا بروز قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا۔ (آپ بھی اپنے خدا کو نہ بھولیں) اور فراموش نہیں کرے گا اور وہ علیٰ حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے تو مجھ سے ایسا ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل تو مجھے ایسا ہے جیسی میری توحید۔ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور وہ وقت آتا ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دل میں تیری محبت ڈالے گا۔ یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے (جیسا کہ ابھی پچھلے سال ہی گیمبیا کے گورنر جنرل نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈی اور برکت پائی)۔ اے منکر و اور حق کے مخالفو! اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو۔ اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے۔ جو ہم نے اپنے بندے پر کیا تو اس نشانِ رحمت (یعنی مصلح موعود کی پیشگوئی اور یہ ساری پیشگوئیاں) کی مانند (جو ان تمام پیشگوئیوں پر مشتمل ہے) تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو اور اگر تم پیش نہ کر سکو (اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے) تو اس آگ سے ڈرو کہ جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لئے تیار ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۹۶، ۹۷)

کون ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ پر کھڑا ہوا اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آپ سے زیادہ خدا تعالیٰ کا مقرب ہوں اور پیارا ہوں اور میں آپ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی برکتوں کا حامل ہوں اور آپ کے مقابلہ میں میری یہ پیشگوئی ہے اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کو پورا بھی کیا ہو اور یہ ایک زبردست نشانِ رحمت ہے۔

یہ بھی بڑا عمدہ طریق فیصلہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مقرب ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں (نعوذ باللہ) شیطان ہوں اور شیطانِ لعین کا مقرب ہوں اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست نشان مجھے عطا کئے ہیں اور بڑی برکتوں کے وعدے مجھے دیئے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ اول تم اپنے رب سے کہو اور یہ برکتیں مجھے نہ ملیں یا اپنے رب سے یہ کہو اور ان سے بڑھ کر برکتیں تمہیں مل جائیں لیکن تم نے ایک رستہ کو اختیار نہیں کیا اور دوسرے رستہ کو قبول نہیں کیا اور اس طرح ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعاوی میں سچے ہیں کیونکہ کوئی شخص آپ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو ثابت نہیں کر سکا۔

شاید تمام مذاہب عالم کو جو دعوتِ فیصلہ دی گئی ہے۔ اس میں بعض اور باتیں بھی رہ گئی ہوں۔ میں نے بتایا ہے کہ میں نے قریباً تینوں قسموں میں سے سو ایسی باتیں لکھی تھیں اور اس خیال سے کہ وقت نہیں ہوگا۔ میں بہت سارے حوالے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے تمام حوالے نکالے ہوئے تھے اور اس خیال سے کہ جو حوالے میں ساتھ لایا ہوں۔ وہ بھی وقت کے اندر ختم نہیں ہو سکیں گے۔ میں گھر سے اس بات کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا کہ جب وقت ختم ہو جائے گا۔ میں یہ مضمون چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں خطبات کے ذریعہ سے یا مضامین کے ذریعہ سے شامل کی جاسکتی ہیں لیکن بہر حال ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقانیت پر ایک مضبوط اور زبردست اور زندہ اور قائم رہنے والی دلیل ہے اور ان میں سے ہر بات ایسی ہے۔ جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ اپنے اس مہربان رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے مائل نہیں ہو جانا اور جھک نہ جانا۔ ہمارا رب تم پر کتنا ہی احسان کرنے والا، کتنا ہی فضل کرنے والا ہے اور کتنی برکتیں اور

رحمتیں نازل کرنے والا ہے۔ تم اسے نہ چھوڑو۔ اس کے دامن سے ہمیشہ چمٹے رہو اور اس کے فضلوں کے ہمیشہ وارث بننے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ یہ دنیا تو عارضی چیز ہے اور ہر ایک نے یہاں سے گزر جانا ہے۔ اُخروی زندگی کے سامان پیدا کرو۔

اب یہ آخری بات ہے دعوتِ فیصلہ۔ جو میں اپنے انتخاب کے لحاظ سے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق تمام مذاہب عالم سے ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اسلام کو تمام ادیان عالم کے مقابلہ میں غالب کرے گا اور اگر سارے مذاہب کے سربراہ اور ان کے علماء اور ان میں متقی قرار دیئے جانے والے اور بزرگ اور نیک اکٹھے ہو جائیں تمام مذاہب کے۔ اور وہ میرے مقابلہ پر آ کر کھڑے ہوں۔ وہ ایک چیز کے مستحق دعا کریں اور میں بھی اس کے متعلق دعا کروں تو ان تمام بزرگوں کی دعائیں رد کر دی جائیں گی اور میری دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں:-

”خدا نے اس زمانہ میں ارادہ کیا ہے کہ اسلام جس نے دشمنوں کے ہاتھ سے بہت صدمات اٹھائے ہیں۔ وہ اب سر نو تازہ کیا جائے اور خدا کے نزدیک جو اُس کی عزت ہے۔ وہ آسمانی نشانوں کے ذریعہ سے ظاہر کی جائے۔ میں سچ کھتا ہوں کہ اسلام ایسے بدیہی طور پر سچا ہے کہ اگر تمام کفار روئے زمین دعا کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف صرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لئے رجوع کروں تو خدا میری ہی تائید کرے گا۔ مگر نہ اس لئے کہ سب سے میں ہی بہتر ہوں بلکہ اس لئے کہ میں اُس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں“

(چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۳۳۹، ۳۴۰)

اسی طرح آج میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک قیامت تک یہ دعوت مقابلہ جاری رہنی چاہئے اور جاری رہے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور میں آج کہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ دعوتِ فیصلہ قیامت تک جاری رہنے والی ہے اور انشاء اللہ جاری رہے گی کہ وہ تمام مذاہب جو اسلام کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر اپنے مذہب کو سچا قرار دیتے ہیں۔ ان کے لئے آسان طریق یہ صلح کا طریق ہے۔ یہ محبت اور پیار کا طریق ہے کہ وہ آئیں اور سب اکٹھے ہوں اور وہ دنیا کا کوئی

مسئلہ لے لیں تم اپنے زعم کے مطابق میں ایک رنگ میں اس کے لئے دعا کریں اور اس کے مقابلہ پہ میں جو ایک نہایت ہی ادنیٰ خادم ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہوں اور آپ کے آقا و مطاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اکیلا دعا کروں گا اور اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں بلکہ اس کے لئے کہ اسلام خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ایک بہت بڑی صداقت ہے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کے خلفاء کی مدد کے لئے آسمان سے اتر کرے گا۔ میں آج اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر آپ سب کے مقابلہ میں میں اکیلا دعا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبولیت بخشے گا اور آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا۔

عیسائیت

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو عیسائیت بڑے زوروں پہ تھی۔ اس مذہب نے تمام دنیا میں ایک جال بچھا دیا تھا۔ افریقہ میں بھی ہمارے ہندوستان میں بھی۔ جزائر میں اور دوسرے ممالک میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے ماتحت اور اپنی ان پیشگوئیوں کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں۔ اس قوم کو جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں دجال کی پیڑھ ٹھونکنے والی اور ان کی مدد کرنے والی تھی۔ یہ طاقت دی کہ وہ دنیا میں سیاسی اقتدار اور غلبہ حاصل کرے جہاں جہاں بھی وہ گئے انہوں نے اپنے پادریوں کی سیاسی میدانوں میں بھی مدد کی اور پیسہ سے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے جو روپیہ اس سلسلہ میں خرچ کیا۔ وہ آپ اپنے تصور میں بھی نہیں لاسکتے۔ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں اور عیسائیت کے حق میں دل کھول کر خرچ کیا اور ان کی کوششوں کے جو بڑے بڑے طریق ہمیں نظر آتے ہیں۔ (ویسے تو ہزاروں طریق تھے جو انہوں نے استعمال کئے لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ) کہ ایک طرف اسلام کے خلاف نہایت جھوٹا اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا ساری دنیا میں کرنا شروع کیا تمام ملکوں میں اور وہ اس حد تک کہ انسانیت کو شرم آجاتی ہوگی جب وہ اپنے اندر اس قسم کے انسان بھی دیکھتا ہوگا کہ اس میں اس قسم کے انسان موجود ہیں اور ہر بیان کی بنیاد جھوٹ اور باطل روایات کے اوپر تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی (اپنے زعم میں نعوذ باللہ) اتنی بھیانک شکل اور

اتنی بھیانک تصویر بنائی اور کہ جو بھی اسے دیکھے الفاظ کے جامہ میں۔ وہ اس تصویر سے نفرت کرنے لگے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے حالانکہ وہ تصویر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی نہ ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ آپ کی تصویر نہیں ہو سکتی تھی جن کو آپ کی سوانح سے کچھ تھوڑا بہت علم ہو جائے۔ جیسا کہ بعد میں اب خود عیسائی مفکرین اور مستشرقین میں سے بعض نے یہ کہنا شروع کیا۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے پہلوں نے کھینچی تھی وہ درست نہیں تھی اس میں جھوٹ سے کام لیا گیا تھا۔ اس میں بددیانتی سے کام لیا گیا تھا۔ اس میں تعصب سے کام لیا گیا تھا۔ غرض ان لوگوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، ہماری تاریخ کو بالکل بدل دیا۔ توڑ دیا اور اسے مسخ کر دیا۔ ہماری خوبصورتیوں کے اوپر اپنے گندے خیالات کے دھبے لگا کر ان کو بدصورت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر انہوں نے روپیہ کالا لچ بھی دیا۔ جہاں غریب دیکھا۔ وہاں اس کی مدد کے لئے آگے جہاں کوئی جاہل لیکن علم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا بچہ دیکھا۔ اس کو لے آئے اس کو علم دیا اور اس کے مذہب کو بگاڑ دیا۔ افریقہ میں اور ہمارے ملکوں میں بڑی کثرت سے۔ اور انگو اتک سے یہ باز نہیں آئے۔ میں اس بات کا خود عینی شاہد ہوں۔ بٹالہ میں ایک بیرنگ سکول تھا۔ اس میں خود ان سرحدی لڑکوں سے ملا ہوں۔ جن کو ان کے ماں باپ کی اجازت اور ان کے علم کے بغیر عیسائی وہاں سے اس علاقہ میں لے آئے تھے اور بیرنگ سکول جیسی ایک الگ جگہ میں انہیں رکھا ہوا تھا۔ شروع میں جب ہمارے سکول کے ان کے اس سکول سے مختلف میچ ہوئے اور قادیان کی ٹیموں نے وہاں جانا شروع کیا تو انہوں نے کچھ خیال نہ کیا لیکن بعد میں انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارے راز انہیں معلوم ہو رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر ہر وقت ایک دو استاد رکھنے شروع کر دیئے تا ان کے اس قسم کے نوجوانوں کے ساتھ ہماری کوئی گفتگو نہ ہو سکے۔ انہوں نے انگو کے طریق کو بھی استعمال کیا۔ پھر بے حیائی اور بداخلاقی کا بھی ایک طریق ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ بھی کمزوری پائی جاتی ہے اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا مثلاً ناچ اور گانے کی عادت ڈال دینا مثلاً بے پردگی کے نتیجے میں جو گندے معاشقے ہوتے ہیں۔ ان کی عادت ڈال دینا نوجوانوں میں اور ان کو مجبور کر دینا اور انہیں بداخلاقی

اور بے حیائی کے راستوں پر چلنے کیلئے مجبور کر دیا۔ چنانچہ یہ سراج الدین جس کے اوپر سراج الدین کے چار سوالوں کا جواب ہے سنا جاتا ہے کہ یہ اسی قسم کا قصہ تھا۔ واللہ اعلم لیکن بہر حال باہر کے ملکوں میں بہت سارے اس قسم کے قصے بھی نظر آتے ہیں تو ہر قسم کا دجل عیسائیت نے استعمال کیا۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کی یہ حالت تھی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی عیسائیت کے رعب میں آگئے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ قرآن کریم میں کوئی علوم نہیں ہیں۔ سب علم انجیل میں اور بائبل میں پائے جاتے ہیں۔ اس ماحول میں اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس لئے مبعوث کیا تھا کہ آپ کسر صلیب کریں اور صلیب کو اس قدر زبردست دلائل اور نشانات آسمانی کے ساتھ توڑ دیں کہ پھر کسی کو صلیب کے حق میں کوئی دلیل دینے کی جرأت ہی نہ کرنی پڑے اور ان دلائل کے مقابلہ میں وہ آنے کی۔ ہمت نہ رکھتا ہو۔ جرأت نہ رکھے۔ اس مقصد کا یہ دوسرا حصہ تو اب بھی پورا ہو چکا ہے۔ کوئی عیسائی پادری چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔ اگر ہمارا کالج میں پڑھنے والا ایک نوجوان اس کے پاس جائے اور اس سے گفتگو کرے اور پہلے ہی فقرہ میں یہ بتا دے کہ میں احمدی ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ اتنا رعب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دلائل نے ان کے دماغوں پر قائم کر دیا ہے۔ بہر حال اس وقت اور اس پس منظر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے اور آپ نے دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ یہ دلائل دیئے ہیں اور عملاً ثابت کیا کہ وہ دلائل دیئے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دعوت فیصلہ بھی دی ہے اور اس میں ایک لطیفہ بھی ہو چکا ہے۔

سراج الدین عیسائی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جو چار سوال بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ بائبل ایک الہامی کتاب ہے اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر الہامی کتاب تو حید خالص کی تعلیم دیتی ہے تو بائبل کے بعد قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے؟ جب بائبل مذہبی ضروریات کو پورا کرنے والی ہے اور وہ مذہبی مسائل کا حل الہام کے ذریعہ کرتی ہے تو بائبل کے بعد قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بائبل کا ذکر نہ کرو۔ وہ بھلا قرآن کریم کا کیا

مقابلہ کرے گی۔ تم اگر مقابلہ ہی کرنا چاہو تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی اور مختصر سی سورت ہے یعنی سورت فاتحہ

”اس سورۃ میں صد ہا حقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں۔ ان کو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں تو گوساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی اور یہ بات لاف و گزاف نہیں بلکہ واقعی اور حقیقی یہی بات ہے کہ تورات اور انجیل کو علوم حکمیہ میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ہم کیا کریں اور کیونکر فیصلہ ہو پادری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتے۔ بھلا اگر وہ اپنی تورت یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے اور خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام پانسور و پینقدا ان کو دینے کے لئے طیار ہیں۔ اگر وہ اپنی کل ضخیم کتابوں میں سے جو ستر کے قریب ہوں گی وہ حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منتظم در حکمت و جواہر معرفت و خواص کلام الوہیت دکھلا سکیں جو سورۃ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں اور اگر یہ روپیہ تھوڑا ہو تو جس قدر ہمارے لئے ممکن ہوگا۔ ہم ان کی درخواست پر بڑھادیں گے۔“ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب روحانی خزائن جلد نمبر ۱۲ صفحہ ۳۶۰)

اور چونکہ اب تک عیسائی خاموش رہے تھے اور انہوں نے انعام کی رقم میں زیادتی کی کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اس لئے میں نے خود ہی اس رقم کو پانچ سو روپیہ سے بڑھا کر پچاس ہزار روپیہ کر دیا تھا۔ میرے اس چیلنج کو ایک پادری صاحب نے قبول کرتے ہوئے اپنے رسالہ میں غالباً تین فسطوں میں اس کا جواب دیا جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ہمارے ان پڑھ زمیندار بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سمجھ اور فراست عطا کی ہے) سمجھ جائیں گے کہ چیلنج یہ تھا کہ سورۃ فاتحہ میں صد ہا حقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر عیسائی انہی کتابوں میں سے (جن کی تعداد ستر کے قریب ہے) وہ حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منتظم در حکمت و جواہر معرفت و خواص کلام الوہیت دکھلا سکیں۔ جو سورۃ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں تو ہم انہیں مبلغ پانسور و پینقدا انعام دیں گے اور اگر تم اس دعوت فیصلہ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ تو ہم پہلے

”سورۃ فاتحہ کی ایک تفسیر تیار کر کے اور چھاپ کر پیش کریں گے اور اس میں وہ تمام حقائق و

معارف و خواص کلام الوہیت بہ تفصیل بیان کریں گے۔“

یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرا یہ چیلنج قبول کر لو۔ تو ہم ایک کتاب شائع کریں گے۔ جس میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہوگی تم اس کتاب کو پڑھو اور ان دلائل کو سمجھو جو اس میں دیئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرو اور خدا تعالیٰ کے جو نشان اس چھوٹی سی سورت میں جمع کر دیئے گئے ہیں وہ نشان اپنی بصیرت اور بصارت کے سامنے لاؤ۔ اور پھر اگر تمہیں ہمت ہو تو تم اپنی ساری کتب میں سے اس قسم کے دلائل اور حکمتیں اور معرفت کی باتیں اور نشانات آسمانی نکال کر ہمیں دکھاؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم مقابلہ کر سکتے ہو اور انعام لے لو۔ ہم جو باتیں اس تفسیر میں بیان کریں گے۔ ان میں سے بہت ساری ایسی ہوں گی جو انسان کے ہاتھ کی ہو ہی نہیں سکتیں۔ بلا ہوں گی لیکن اس پادری نے میرا اعلان پڑھتے ہی جواب دیا کہ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اس آیت میں جو حمد کا لفظ اس آیت میں ہے۔ وہ ہمارے ایک ترجمہ کرنے والے نے اردو کی بائبل میں فلاں جگہ استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بائبل میں بھی وہ معارف پائے جاتے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نے سورۃ فاتحہ کے سارے لفظوں کو لے کر اسی طرح حوالے دیئے تھے۔ کس نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے اثر اور اس کی قوت سے مرعوب ہو کر تم لوگ قرآن کریم کے الفاظ اور محاوروں کو استعمال نہیں کرو گے تم تو قرآن کریم سے مرعوب ہو جہاں بھی تمہیں موقع ملتا ہے تم قرآن کریم کا لفظ اور اس کی اصطلاح ترجمہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھ جاتے ہو۔ اصل میں وہ نہیں ہوتی۔ اس لفظ کے معنی میں جو اصل میں ہے۔ جہاں سے ترجمہ کیا گیا ہے اور اس لفظ کے معنی ہیں جو ترجمہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہاں کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے لیکن قرآن کریم کے رعب میں آ کر انہوں نے حمد کا لفظ بھی استعمال کر لیا، رب العالمین کا بھی کر لیا۔ تو بجائے اس کے کہ معارف اور حکمت کی باتیں اور نشانات کا ہم سے مطالبہ کرتے اور کہتے کہ ہم اس چیلنج کو یا دعوت فیصلہ کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی تفسیر اور اگر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھیں اور شائع کریں۔ اور ہم اس کا جواب دیں گے پھر آپس میں فیصلہ ہو۔ تو اس طرف آئے ہی نہیں کہہ دیا کہ

حمد کا لفظ ہمارے ترجمہ کرنے والے نے چونکہ استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کے معارف ہماری بائبل میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ہمارے لئے یہ ضروری ہوا کہ ہم اس قسم کی دعوتِ فیصلہ میں ایسے لوگوں کو مخاطب نہ کریں۔ جو ہماری دعوتِ فیصلہ کو سمجھنے کے بھی قابل نہیں۔ اس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس دعوتِ مقابلہ کے مخاطب تین ایسے پادری۔ جو بَشپ یا بَشپ سے اوپر کا عہدہ رکھتے ہوں۔ وہ لے کر اس دعوتِ فیصلہ کو منظور کریں اور ہمیں اس کی اطلاع دیں۔ ہم انہیں سورۃ فاتحہ کے معانی اور اس کی تفسیر اور اس کی خوبی اور اس کی خوبصورتی اور اس میں آسمانی نشان اور تائیدات پائی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق ایک کتاب میں شائع کر کے بھجوادیں گے۔ پھر وہ اپنی ساری عمر اور اپنی نسلوں کی ساری عمر بھی اس پر خرچ کر دیں اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکیں گے۔ اور اگر تین بَشپ سر جوڑ کر اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم اس سردردی کو کیوں مُول لیں تو پھر پوپ اکیلے یا لی گراہم (اس لئے کہ وہ آج کل عیسائیت کی تبلیغ میں بڑے تیز ہیں اور اپنی طرف سے بھی کنورشن (Conversion) کر رہے ہیں اور ان کا علمی رعب ایک دنیا پر ہے اور انہیں عیسائی دنیا میں اتنا مقام حاصل ہے کہ وہ اگر امریکہ کے پریذیڈینٹ کو بھی ملنے جائیں تو اسے ان سے ملنا پڑتا ہے اور کافی لمبی گفتگو ان سے کرنی پڑتی ہے اگر یہ چاہیں اور پسند کریں اور ان کے دل میں ہمت ہو تو وہ پھر اکیلے مقابلہ پر آئیں اور اپنے تمام آسمانی صحیفوں کا مقابلہ ہمارے صحیفہ آسمانی کی پہلی اور مختصر سی سورت فاتحہ سے کر کے دیکھ لیں تب انہیں معلوم ہوگا کہ خدا کا ابدی اور نہ بدلنے والا کلام قرآن کریم ہی ہے۔ تمام صدائیں اس میں پائی جاتی ہیں اور ہر قسم کے حملہ سے یہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اس میں کوئی لفظی تبدیلی لفظاً واقع نہیں ہوئی اور عملاً بعض تبدیلیاں تفسیر میں واقع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً نویں صدی ہجری میں بعض مخصوص مسائل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے قرآن کریم کے بعض علوم اس وقت کے بزرگوں کو سکھائے۔ اب ان مسائل کا وجود باقی نہیں رہا۔ اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں لیکن جو ابدی صدائیں ہیں۔ وہ اس میں موجود ہیں اور قائم ہیں اور جو وقت کا تقاضا ہے اسے یہ پورا کرتی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے اور اس کی لفظی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح خدا کے نیک بندے اس کی تفسیر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس معنی میں کہ اگر

کوئی شخص آج کھڑا ہو اور کہے کہ آج زمانہ کی یہ ضرورت ہے۔ بتاؤ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا کیا حل پیش کیا ہے تو میرے جیسے کئی بندے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آؤ ہمارے پاس۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے مقابلہ میں سارے صحف آسمانی جو عیسائیوں کے نزدیک ہیں جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کم و بیش ستر ہیں۔ ان میں سے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ان شرائط کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کے لئے آج بھی تیار ہیں۔ لیکن جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید ہی کسی عیسائی کو اس میدان مقابلہ میں آنے کی جرأت ہو۔

۲۔ ایک موقع پر عیسائیت کے لاہور کے بشپ صاحب نے آپ ہی ایک دن مقرر کر دیا اور کہا کہ اس دن مسلمانوں کا کوئی عالم اگر وہ واقعہ میں عالم ہے اور جرأت اور دلیری اس کے دل میں ہے تو وہ آجائے اور مقابلہ اس بات میں ہوگا کہ معصوم نبی کون ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب علم ہوا تو آپ نے ان کو لکھا کہ اول تو یہ طریق ہی غلط ہے۔ جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ تم ہم سے آکر مقابلہ کر لو۔ پھر جب شرائط ہوئیں جو وقت جو دن جو جگہ مقرر ہوتی۔ وہاں مقابلہ ہوتا آپ ہی جگہ مقرر کر دی ہے۔ آپ ہی دن مقرر کر دیا اور آپ ہی وقت مقرر کر دیا اعلان کر دیا اور یہ آواز سب تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ جو تم نے اٹھائی ہے اور بعد میں آپ کہہ دیں گے کہ کوئی میرے مقابلہ میں نہیں آیا۔ اس لئے عیسائیت جیت گئی ہے اور اسلام ہار گیا۔ یہ غلط طریق ہے۔ اور جو موضوع تم نے لیا ہے۔ بھی غلط ہے۔ اول تو یہ ثابت کر دینا کہ فلاں شخص سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اس کی بزرگی کو ثابت نہیں کرتا۔ دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں۔ جنہوں نے کبھی چوری نہیں کی کبھی اور اس قسم کی بدیاں نہیں کیں۔ اس سے ان کی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے جو عنوان آپ نے انتخاب کیا ہے۔ وہ بھی غلط ہے لیکن اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں اگر واقعہ میں تم اسلام سے عیسائیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ تو ہم اس کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے بشپ آف لاہور کی دعوت فیصلہ کو منظور کرتے ہوئے ایک بہت زیادہ معقول اور موثر ذریعہ فیصلہ ان کے سامنے رکھا اور وہ یہ ہے۔

”اگر بشپ صاحب تحقیق حق کے درحقیقت شائق ہیں۔ تو وہ اس مضمون کا اشتہار دے

دیں کہ ہم مسلمانوں سے اسی طریق سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نبیوں (حضرت مسیح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) میں سے کمالات ایمانی و اخلاقی و برکاتی و تاثیراتی و قوی و فعلی و ایمانی و عرفانی و علمی و تقدسی اور طریق معاشرت کے رُو سے کون نبی افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر وہ ایسا کریں اور کوئی تاریخ مقررہ پر ضرور جلسہ قرار دادہ پر حاضر ہو جائے گا۔ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص تاریخ مقررہ پر ضرور جلسہ قرار دادہ پر حاضر ہو جائے گا۔ ورنہ یہ طریق محض ایک دھوکہ دینے کی راہ ہے۔ جس کا یہی جواب کافی ہے اور اگر وہ قبول کر لیں تو یہ شرط ضروری ہوگی کہ ہمیں پانچ گھنٹہ سے کم وقت نہ دیا جائے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ ۳۸۳)

اس طریق پر عمل کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ کامل نبی وہ ہے جس نے کامل زندگی اس دنیا میں گزاری اور ایک مفلوج جس کا آدھا جسم مارا ہوا ہو۔ اس کے متعلق کوئی عقلمند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فالج کی حالت میں ایک کامل زندگی گزار رہا ہے۔ وہ شخص یقیناً ایک کامل زندگی نہیں گزار رہا۔ اسی طرح اگر ایک شخص نابینا ہے تو وہ بھی کامل زندگی نہیں گزار رہا۔ ایک شخص پاگل ہے تو وہ بھی کامل زندگی نہیں گزار رہا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے مقابلہ یہ ہونا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامل نبی اور زندہ نبی ہیں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی اور زندہ نبی ہیں۔ آپ نے کمالات تاثیراتی اور تقدسی کا اس لئے ذکر فرمایا ہے اور اگر عیسائی مقابلہ کے لئے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کوئی تاریخ مقررہ کر کے ہمیں اطلاع دیں تا ان کی دعوت فیصلہ کچھ تبدیلی کے ساتھ یا بہتر رنگ اور بہتر شکل میں ہم منظور کر لیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تاریخ مقررہ پر اور جلسہ قرار دادہ پر ضرور کوئی نہ کوئی شخص حاضر ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارا بیان کردہ طریق مقابلہ منظور ہو تو یہ شرط ضروری ہوگی کہ ہمیں پانچ گھنٹہ کے لئے تقریر کا وقفہ دیا جائے یہ نہیں کہ دونوں فریق نے پانچ پانچ منٹ تقریر کی اور چلے گئے یا آپ نے دو گھنٹہ تقریر کر لی اور ہم نے اپنی باری پر ابھی بیس منٹ ہی تقریر کی اور آپ نے دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو گڑ بڑ کی اور اٹھ کر چلے گئے۔ بلکہ نہایت شرافت کے ساتھ (چونکہ بحث مفصل ہونی تھی) حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تقریر فرمایا کہ ہم پانچ گھنٹے ضرور بولیں گے لیکن تمہارے لئے یہ شرط نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ بھی

بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے تم ضرور پانچ گھنٹہ تو بولو۔ جب کہ وہ خود اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ ان تمام عنوانات کے متعلق وہ اپنی کتاب کی رو سے صرف بیس منٹ گفتگو کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کتاب میں دلائل ہیں ہی نہیں۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ میری شرط یہ ہے کہ میں پانچ گھنٹہ تک بولوں گا۔ تمہیں اجازت ہے کہ جتنا چاہو۔ بولو۔ تم چاہے پانچ منٹ بولو یا بیس منٹ بولو۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن مقابلہ مجموعی طور پر ہوگا تا یہ دیکھا جائے کہ کامل نبی کون ہے اور زندہ نبی کون ہے اور کس نبی کی قوتِ قدسیہ اب بھی جاری ہے۔

یہ دعوتِ فیصلہ بشپ آف لاہور کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ بشپ آف لاہور کے تمام بشپ بھائیوں کو ہماری طرف سے یہ دعوتِ فیصلہ ہے کہ جو بشپ بھی۔ جس ملک میں بھی، جس جگہ بھی ہو۔ وہ ان شرائط کے ساتھ اس دعوتِ فیصلہ کو قبول کر لے اور امن اور شرافت کی مجلس میں تبادلہ خیالات ہو تو اس کا نتیجہ خود ہی نکل آئے گا کہ کامل اور زندہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور زندہ نبی ہیں۔

ہندوؤں سے کچھ باتیں

اب میں ہندوؤں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اسلام کو تمام دنیا میں پھیلانا ہے اور تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنا ہے۔ ہمارے مخاطب تمام مذاہب کے پیرو ہیں۔ اس وقت پاکستان میں گو ہندو کم تعداد میں ہیں اور شاید وہ اس چیز سے گھبرائیں بھی لیکن ہندوستان میں تو ان کو سیاسی اقتدار بھی حاصل ہے اور ہم وہاں آنے کے لئے تیار ہیں اسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لئے اور اگر وہ چاہیں ان کو یہاں بلانے کے لئے تیار ہیں اور جیسا کہ ہم امن پسند ہیں۔ ہماری حکومت بھی خدا تعالیٰ بخشی ہوئی توفیق اور اس کے فضل سے امن پسند ہے اور اگر وہ یہاں آئیں گے تو وہ خود ایسا انتظام کر دے گی مجھے یقین ہے کہ ہم نہایت امن اور سکون کے ساتھ اور نہایت اچھی اور شریفانہ اور مہذب فضا میں تبادلہ خیالات کر سکیں یعنی اگر وہ چاہیں تو ”سرمہ چشمہ آریہ“ کتاب کا جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ رد لکھیں

اور یہاں آ کے وہ مجمع میں سنائیں بھی۔ اگر کوئی آریہ صاحب تمام ویدوں کے اصولوں اور اعتقادوں کو جو اس کتاب میں رد کئے گئے ہیں۔ سچ سمجھتا ہے اور اب بھی وید اور اس کے اصولوں کو ایشور کرت سمجھتا ہے تو اس کو اس ایشور کی ہی قسم ہے کہ وہ اس کتاب کا رد لکھ کر دکھادے اور پانچ سو روپیہ انعام پاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو تحریر فرمایا تھا کہ

”یہ کتاب۔۔۔۔۔ اس دعویٰ اور یقین سے لکھی گئی ہے کہ کوئی آریہ اس کتاب کا رد نہیں کر سکتا کیونکہ سچ کے مقابل پر جھوٹ کی کچھ پیش نہیں جاتی اور اگر کوئی آریہ صاحب ان تمام وید کے اصولوں اور اعتقادوں کو جو اس کتاب میں رد کئے گئے ہیں۔ سچ سمجھتا ہے اور اب بھی وید اور اس کے ایسے اصولوں کو ایشور کرت ہی خیال کرتا ہے تو اس کو اسی ایشور کی قسم ہے کہ اس کتاب کا رد لکھ کر دکھلاوے اور پانچ سو روپیہ انعام پاوے یہ پانچ سو روپیہ بعد تصدیق کسی ثالث کے جو کوئی پادری یا برہمن صاحب ہوں گے دیا جائے گا۔“

(اشتہار انعامی پانچ سو روپیہ مشمولہ کتاب سرمہ چشمہ آریہ روحانی خزائن جلد نمبر ۲ صفحہ ۳۲۱)

یہ دعوت فیصلہ اب بھی قائم ہے اگر آریوں میں سے کوئی ان اصول اور ان شرائط کے مطابق جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے پر راضی ہو کہ قرآن کریم صدائتوں کا مجموعہ ہے یا وید تو ہم ہر وقت اس مقابلہ کے لئے تیار ہیں اور یہ انعام دینے کے لئے بھی تیار ہیں۔

۲۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی کتاب ”چشمہ معرفت“ میں لکھتے ہیں۔

”خدا کی ہستی اور توحید کے دلائل جو قرآن شریف میں لکھے ہیں۔ جو مخالف فرقے اس کے قائل ہیں۔ یہ سب آریہ صاحبان وید میں سے نکال کر ہم کو دکھلا دیں تو ہم ہزار روپے نقد ان کو دینے کو تیار ہیں۔ افسوس! کہ یہ کس قدر جھوٹ ہے کہ وید کی طرف وہ کمال منسوب کیا جاتا ہے۔ جو اس میں پایا نہیں جاتا۔“

(چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر ۲۳ صفحہ نمبر ۱۴۳، ۱۴۴)

ہم بھی ہزار روپے نقد ایسے صاحب کو دینے کو تیار ہیں جو وید میں سے خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی ہستی کے وہ دلائل نکال کر دکھادے جو ہم قرآن کریم سے نکال کر اُسے دکھائیں۔

ہمارے مسلمان بھائی

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں کو بھی دعوتِ فیصلہ دی ہے مثلاً آپ فرماتے ہیں۔

”اگر پوچھا جائے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسمِ عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے تھے؟ تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں۔ صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسمان کا لفظ ملا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یاد رہے کہ کسی حدیث مرفوع متصل میں آسمان کا لفظ پایا نہیں جاتا اور نزول کا لفظ محاوراتِ عرب میں مسافر کے لئے آتا ہے اور نزول مسافر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی وارد شہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ شخص آسمان سے اتر رہا ہے اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے۔ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسمِ عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے کہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو بیس ہزار روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں اور تو بہ کرنا اور تمام اپنی کتابوں کا جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔“

(کتاب البریہ۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۲۲۵، ۲۲۶ ح)

اب دیکھیں یہ ایک دعوتِ فیصلہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہایت صلح اور امن کی فضا میں اپنے زمانہ کے مسلمانوں کو دی ہے اور اس کی موجودگی میں ان تمام کفر کے فتوؤں کی ضرورت نہیں تھی۔ جو آپ پر لگائے گئے۔ اس تمام شور و شر کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کیا گیا فتنہ و فساد کی ضرورت نہیں تھی۔ جو اٹھایا گیا۔ بلکہ ایک بڑا آسان کام تھا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان تمام علماء کو جو ظاہری اور کتابی علوم میں واقعہ میں دسترس رکھتے تھے۔ اپنے وقت میں کہا تھا کہ تم کوئی حدیث تلاش کر کے لے آؤ۔ جس میں یہ

لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے پھر میں یہ شرط بھی نہیں لگا تا کہ وہ حدیث صحیح اور سچی ہو تم کوئی وضعی حدیث ہی میرے سامنے لے آؤ۔ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے تھے اور اگر تم ایسی کوئی حدیث میرے سامنے لے آؤ تو میں تمہیں بیس ہزار روپیہ بطور تاوان دوں گا۔ پھر یہ تو ایک معمولی چیز ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عقائد سے بھی توبہ کر لوں گا اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دوں گا۔ اب دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے لیکن وہ بڑے بڑے عالم جو ظاہری علوم میں ایک حد تک دسترس بھی رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کوئی وضعی حدیث بھی، جھوٹی حدیث بھی اس دعوتِ فیصلہ کو قبول کر کے پیش نہ کرے گا اور ان کی اس خاموشی نے اس بات پر ایک مضبوط گواہی دی کہ کوئی ایسی حدیث دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اب آج میں ان تمام دوستوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قابل حل مسئلہ ہے۔ جو ابھی تک باقی ہے۔ یہ کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے ان لوگوں کو جو تمہاری نگاہ میں بڑے ہی عالم اور برگزیدہ اور خدا رسیدہ سمجھے جاتے تھے۔ ایک آسان طریق فیصلہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم کوئی وضعی حدیث ہی میرے سامنے رکھ دو گے۔ جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تو میں تمہیں بیس ہزار روپیہ انعام دینے کے علاوہ اپنے عقائد سے توبہ کر لوں گا اور اپنی تمام کتابیں بھی جلا دوں گا۔ احمدیت کو مٹانے کی کسی اور کوشش کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں وہ حدیث ڈھونڈنی چاہئے تھی اور انہوں نے ضرور ڈھونڈی ہوگی۔ آپ کو یا ہمیں ان پر یہ بدظنی نہیں کرنی چاہئے۔ وہ دن اور رات اس بات میں لگے رہے ہوں گے کہ ایسی کوئی حدیث ڈھونڈیں اور پیش کریں لیکن ان کو یہ حدیث نہیں ملی اور نہ ملنی تھی اور پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ کھڑے ہو کر حق کا اقرار کرتے خاموشی اختیار کر لی اور ہماری عقل آج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی خاموشی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی جاسکتی اور اگر کوئی شخص آج کسی کے متعلق یہ ثابت کر دے کہ کسی نے اس دعوتِ فیصلہ کے بعد کوئی ایسی وضعی حدیث حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی تھی تو میں اُسے تیس ہزار روپیہ انعام دوں گا۔

۲۔ ایک اور دعوتِ فیصلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ دی ہے کہ

”کہتے ہیں کہ توفقی کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے۔ اس کے معنی وفات دینا نہیں بلکہ پورا لینا ہے۔ یعنی یہ کہ روح کے ساتھ جسم کو بھی لے لینا مگر ایسے معنی کرنا ان کا سراسر افتراء ہے۔ قرآن کریم کا عموماً التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارہ میں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دے دینے کے معنوں پر ہر ایک جگہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی محاورہ تمام حدیثوں اور جمیع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا ہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے۔ کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفقی کا لفظ کبھی قبض جسم کی نسبت استعمال کیا گیا ہو۔ بلکہ جہاں کہیں توفقی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے۔ وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پر آیا ہے۔ قبض جسم کے معنوں میں کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں۔ کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغاثر نہیں۔ غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کے گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذوی الروح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو۔ وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاع پایا گیا ہے یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ ہزار روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کے کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔“

(مجموعہ اشتہارات۔ جلد نمبر ۱ صفحہ ۲۰۵، ۲۰۶)

آج بھی میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے یا اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی توفیق دے تو بغیر کوئی حصہ ملکیت فروخت کئے ایک ہزار روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کے کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ یہ آسان راہ ہے۔ امن کی راہ ہے۔ صلح کی راہ ہے۔ شرافت کی راہ ہے۔ تہذیب کی راہ ہے۔ آئیں اور اس راہ سے صداقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔

۳۔ پھر ایک حدیث نبوی ہے۔ جس میں سورج اور چاند کے گرہن کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”حدیث میں یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ سچا مہدی دعویٰ کرے گا تو اس زمانہ میں قمر رمضان کے مہینہ میں ایسے خسوف کی پہلی رات میں منحسف ہوگا اور ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہ آیا ہوگا اور کسی جھوٹے مہدی کے وقت رمضان کے مہینہ میں اور ان تاریخوں میں کبھی خسوف کسوف نہیں ہوا اور اگر ہوا ہے تو اس کو پیش کرو۔ ورنہ جب کہ یہ صورت اپنی ہیئت مجموعی کے لحاظ سے خود خارق عادت ہے تو کیا حاجت کہ سنت اللہ کے برخلاف کوئی اور معنی کئے جائیں۔ غرض تو ایک علامت کا بتلانا تھا۔ سو وہ متحقق ہوگئی اگر متحقق نہیں تو اس واقعہ کی صفحہ تاریخ میں کوئی نظیر تو پیش کرو اور یاد رہے کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے۔“

(اعجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲)

ایک صاحب ذوق اور صاحب تقویٰ کے لئے یہ ایسی عجیب چیز تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بات کافی تھی کہ چودہ سو سال پہلے ایک راوی نے بیان کیا ہے اور اگر راوی کا بھی پتہ نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کسی یہ جگہ بیان ہوا ہے کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو چاند کو خسوف کی راتوں، گرہن کی راتوں میں فلاں رات کو اور سورج کو گرہن لگنے کے دنوں میں فلاں دن کو گرہن لگے گا۔ اس کے علاوہ اس نشان کو ”آپتین“ کہا گیا ہے۔ یعنی یہ نشان درحقیقت دو نشان ہوں گے۔ بچپن میں مجھے یہ دیکھ کر بہت گھبراہٹ ہوتی تھی کہ گو یہ ٹھیک ہے کہ چاند کا گرہن بھی ہے اور سورج کا گرہن بھی ہے اور اس طرح یہ ”آپتین“ یعنی دو نشان ہیں لیکن حدیث میں اس سارے واقعہ کو ملا کر اسے ایک نشان بتایا گیا ہے تو پھر اس کو دو نشان کیوں کہا گیا ہے اور یہ گھبراہٹ مجھے اس لئے تھی کہ ابھی تک مجھے اس کا علم نہیں تھا میرا مطالعہ اتنا نہیں تھا لیکن جب اسی طریق پر اگلے سال پھر لگا گرہن اور وہ امریکہ میں لگا ہے دوسری دنیا میں۔ گرہن ساری دنیا کو نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا اس بات پر گواہ ہو کہ اس حدیث کے مطابق چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا اس واسطے دنیا کے دنوں حصوں دو سالوں میں یہ گرہن لگا انہی شرائط کے مطابق۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام واقعہ کو صفحہ ہستی سے

ثابت کرو کہ کسی مدعی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے دعویٰ کی حقانیت پر یہ دلیل ہے کہ اس طرح چاند اور سورج کو گرہن لگے گا تو میں جھوٹا ہوں لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اور واقعہ ہو گیا۔ جب واقعہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ حدیث جھوٹی ہے۔

لیکن اگرچہ حدیث جھوٹی ہوتی ہے تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تاریسے ہل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ہوتا، ہوتا رہتا۔ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث جھوٹی اور جس کے حق میں ہے وہ جھوٹا یہ اتفاق جھوٹا کہ دونوں واقعات ایک زمانہ میں اکٹھے ہو گئے تو سارے واقعات جھوٹے اور سچ وہ ہے جو واقعہ ہی نہیں۔ انسانی عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت بڑا زبردست نشان ہے اور دو نشان ہیں دو سالوں میں یکے بعد دیگرے دنیا کے دو حصوں میں ساری دنیا پر یہ نشان ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک سال ہماری دنیا میں اور ایک سال دوسری دنیا میں وہ نشان بعینہ ان تاریخوں میں اور اس شکل میں ظاہر ہوا اور اس کے مطابق ظاہر ہوا جو حدیث تھی۔

بہر حال جب یہ نشان ظاہر ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

اگر معقولی رنگ میں تم بحث نہیں کرنا چاہتے اور تم منقولات کی طرف ہی آگئے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ کون سے بزرگ حدیث دان اور حدیث کے عالم تھے۔ جنہوں نے آج سے پہلے اس حدیث کو جھوٹا قرار دیا ہو اگر تم کوئی ایسا عالم نکال دو۔ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ حدیث جھوٹ ہے۔ تب میں سمجھوں گا کہ میری سچائی پر یہ دلیل نہیں بنتی لیکن وہ کوئی ایسا عالم پیش نہیں کر سکے۔ یہ حدیث دارقطنی میں آتی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ کہ

”اس (دارقطنی) کی تالیف کو ہزار سال سے زیادہ گزر گیا مگر اب تک کسی عالم نے اس حدیث کو زیر بحث لا کر اس کو موضوع قرار نہیں دیا۔ نہ یہ کہا کہ اس کے ثبوت کی تائید میں کسی دوسرے طریق سے مدد نہیں ملی بلکہ اس وقت سے جو یہ کتاب ممالک اسلامیہ میں شائع ہوئی تمام علماء و فضلاء و متقدمین و متاخرین میں سے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے۔ بھلا اگر کسی نے اکابر محدثین میں سے اس کو موضوع ٹھہرایا ہے تو ان میں سے

کسی محدث کا فعل یا قول پیش تو کرو۔ جس میں لکھا ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اگر کسی جلیل الشان محدث کی کتاب سے اس حدیث کا موضوع ہونا ثابت کر سکو۔ تو ہم فی الفور ایک سو روپیہ بطور انعام تمہاری نذر کریں گے۔ جس جگہ چاہو امانتاً پہلے جمع کرالو۔“
(تحفہ گولڈویہ۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۷ صفحہ ۱۳۳، ۱۳۴)

عقلاً تو ویسے ہی یہ موقف درست نہیں کہ ہزار سال پہلے کی ایک کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوا ایک بات لکھی گئی ہو اور وہ حدیث ہو غلط اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ انتظام کرے کہ وہ حدیث سچی ہو اس وقت۔ جس وقت ایک مدعی مہدویت بھی پیدا ہو چکا ہو۔ جس وقت ایک شخص مہدی ہونے کو دعویدار ہو۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی تقدیر کی تاریخیں ہلیں اور عین اس حدیث کے مطابق چاند اور سورج کو گرہن لگ جائے اور عین اس حدیث کے اشارہ کے مطابق ایک سال میں اس دنیا میں اور دوسرے سال دوسری دنیا میں گرہن لگے اور اس کو آیتین (دو نشان) بنا دے اور اس کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں یہ نہ ملے کوئی ایسی خبر نہ ملے کہ کبھی کسی شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے زمانہ میں چاند اور سورج کو اس شکل میں گرہن لگا ہو۔ عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ بات جھوٹی ہو لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان لوگوں پر تمام حجت قائم کرنے کے لئے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم عقل سے کام نہیں لینا چاہتے کسی وجہ سے۔ اور تمہاری طبیعتیں نقل کی طرف مائل ہیں تو ہم تمہارے سامنے یہ طریق فیصلہ رکھتے ہیں کہ تم کسی پایہ کے عالم اور حدیث دان کا یہ قول نکال دو کہ اس نے اس حدیث کو موضوع اور ناقابل قبول قرار دیا ہو۔ آخر جس حدیث کی کتاب میں یہ روایت درج ہے۔ اس کی تالیف پر ہزار سال گذر چکے ہیں اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں عالم امت مسلمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جن کی نظر سے یہ حدیث ضرور نکل چکی ہے اور ان میں سے بہتوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا یا اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ناقابل قبول ہے اور اس کے راوی ثقہ نہیں ہیں۔ اس لئے اس کو رد کر دینا چاہئے اور اگر تم یہ ثابت کر دو کہ کسی عالم نے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حدیث ہمارے لئے دلیل نہیں لیکن ابھی تک اس حدیث کو کوئی عالم بھی رد نہیں کر سکا۔ اب اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ کسی شخص نے

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں کسی عالم حدیث کا یہ قول پیش کیا ہو یا کسی کتاب کا یہ حوالہ پیش کیا ہو کہ اس کے نزدیک یہ حدیث وضعی ہے اور ناقابل قبول ہے تو اس شخص کے لئے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورہ پبیہ انعام کے طور پر دینا منظور کیا تھا اور اس کا اعلان کیا تھا۔ میں ایسے شخص کو جواب یہ ثابت کر دے کہ اس زمانہ میں کسی شخص نے یہ حوالہ نکال کر پیش کیا تھا۔ ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔

۴۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ میں نے بہت سی فیصلہ کی دعوتیں جمع کی تھیں اور ان میں سے میں نے بعض دعوتوں کا انتخاب کیا تھا لیکن ان میں سے بھی مجھے یہاں آ کر بہت سی دعوتوں کو چھوڑنا پڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاء اللہ آئندہ کسی وقت انہیں مضمون کی شکل میں یا اپنے خطبات میں بیان کر دوں گا۔ آخری بات جو میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک موقع پر علماء کے سامنے جو آپ کے مقابلہ میں آئے تھے۔ بہت سے فیصلہ کے طریق رکھے۔ ان میں ایک طریق جو آپ نے ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ اُسے میں آج پھر امت مسلمہ کے سب فرقوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کو وہ قوت اور شوکت حاصل نہیں ہو رہی۔ جو ان کے نزدیک اگر یہ جماعت دنیا میں موجود نہ ہوتی تو ان کی تدبیروں اور ان کے منصوبوں کے نتیجے میں اسلام کو قوت و شوکت حاصل ہو سکتی تھی یا ہو جاتی۔ ان لوگوں کو مخاطب کر کے میں نہایت احترام کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے مقابلہ میں آنے والوں کے سامنے چھ طریق فیصلہ پیش کئے تھے۔ ان میں سے پانچ کو تو میں اس وقت چھوڑتا ہوں۔ چھٹا طریق جو آپ نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ وہ میں اس وقت امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ

”اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ کریں تو مجھ سے اور میری جماعت سے سات سال تک اس طور سے صلح کر لیں کہ تکفیر اور تکذیب اور بدزبانی سے منہ بند رکھیں اور ہر ایک کو محبت اور اخلاق سے ملیں اور قبر الہی سے ڈر کر ملاقاتوں میں مسلمانوں کی عادت کے طور پر

پیش آویں۔ ہر ایک قسم کی شرارت اور خباثت کو چھوڑ دیں۔ پس اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے۔ یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے۔ جن سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئیں کاذب خیال کر لوں گا اور خدا جانتا ہے کہ میں ہرگز کاذب نہیں۔ یہ سات برس کچھ زیادہ سال نہیں ہیں اور اس قدر انقلاب اس تھوڑی مدت میں ہو جانا انسان کے اختیار میں ہرگز نہیں۔ پس جب کہ میں سچے دل سے اور خدا تعالیٰ کی قسم کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہوں اور تم سب کو اللہ کے نام پر صلح کی طرف بلاتا ہوں تو اب تم خدا سے ڈرو۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ ورنہ خدا کے مامور کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔

(انجام آتھم۔ روحانی خزائن صفحہ جلد نمبر ۱۱، ۳۱۱ تا ۳۱۹)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسلام کے تمام فرقوں سے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ الجھیں اور جو طاقت اور قوت یا پیسہ وہ ہمارے خلاف اور ہمیں بُرا بھلا کہنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے نیکی کے کاموں پر خرچ کریں اور اس کی بجائے ہمیں پیار سے ملیں اور شرافت کے ساتھ زندگی کے دن گزاریں۔ یہ دعوتِ فیصلہ اسلام کے کسی ایک فرقہ کو نہیں بلکہ تمام فرقہ ہائے اسلام کو جو تمام دنیا کے ممالک میں ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس لئے کہ اس وقت ہماری جماعت بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اس کے بغیر اس کا وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ جو دوسری صورت میں ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ نکلے گا۔ میں مامور تو نہیں۔ میں تو خدا تعالیٰ کے ایک مامور کا خلیفہ ہوں۔ اس لئے میں اس دعوتِ فیصلہ میں کچھ تبدیلی کر کے ہی دنیا کو مخاطب کر سکتا ہوں۔ میں تمام دنیائے اسلام کو یہ کہتا ہوں کہ اے ہمارے پیارے بھائیو! جو ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہو! آؤ سات سال

کے لئے ہم سے صلح کر لو۔ ان سات سالوں میں تم ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ کرو۔ ہمیں گالیاں نہ دو۔ ہمیں بُرا بھلا نہ کہو۔ ہمیں تم اپنی کوششوں میں الجھاؤ نہیں تاہم یکسوئی کے ساتھ اپنی تمام طاقت کو ان قوتوں کے خلاف خرچ کر سکیں جو آج اسلام کے مقابلہ میں برسرِ پیکار ہیں۔ اگر آپ سات سال تک کے لئے ہم سے صلح کر لیں گے۔ تو آپ یہ نظارہ دیکھیں گے کہ جو شوکت اسلام کو آج حاصل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ شوکت اسلام کو اس سات سالہ زمانہ میں حاصل ہو چکی ہوگی اور میں یہ تو نہیں کہتا (کیونکہ ایسا کہنے کا مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے) کہ اس سات سالہ عرصہ میں تمام ادیان باطلہ کلیئہً دنیا سے مٹ جائیں گے لیکن میں آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل پر امید رکھتے ہوئے یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سات سالہ عرصہ میں جو صلح کا عرصہ ہوگا۔ ایسے حالات ظاہر ہو جائیں گے کہ آپ خود آپ کی آنکھیں یہ دیکھنے لگیں گے کہ دنیا میں ایک ایسا انقلابِ عظیم پھا ہو چکا ہوگا جو ہمیں اس فیصلہ پر اس سچائی پر اور اس صداقت پر پہنچاتا ہے کہ اسلام کی ہی آخری فتح ہوگی اور دوسرے ادیان ہی اسلام کے مقابلہ میں مٹنے والے اور ہلاک ہونے والے اور تباہ ہونے والے ہیں۔

اب دعا سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کاموں کا حرج کر کے دین کی باتیں سننے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت جو ہر احمدی کے دل میں ہے۔ اس کو اور تیز کرنے کے لئے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اور زیادہ سمجھنے کے لئے۔ اپنے ارادوں میں اور زیادہ پختگی اور عزم پیدا کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اس لئے اکٹھے ہوئے تھے کہ تاہم سب مل کر تدبیر اور دعا کے ساتھ اسلام کے غلبہ کے سامان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہماری کوششوں اور دعاؤں کو خواہ وہ کتنی ہی حقیر اور کتنی ہی پستہ کیوں نہ ہوں۔ قبول کرتے ہوئے اور ہماری کمزوریوں پر مغفرت کی چادر ڈالتے ہوئے ہمیں وہ دے گا۔ جو وہ ہمیں اسلام کے غلبہ کے لئے وہ دینا چاہتا ہے اور جس تک ہماری نظر نہیں پہنچی یا جس تک ہمارا تخیل نہیں پہنچا یا جس تک ہماری زبان نہیں پہنچی یا جس تک ہمارا خیال نہیں پہنچا۔ اب آپ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے بعد اور اس کی رحمت کے سایہ میں اپنے گھروں کو جلسہ کے بعد ہمارے دلوں کو اداس کر کے واپس لوٹیں گے ہم ربوہ والے باوجود اس کے کہ ہم اپنے کاموں میں

ان دنوں میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ کئی دن تک اداسی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے پیچھے کوئی چیز اداسی محسوس کرتی ہے ہمیں اس کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں اکٹھے ہوئے اور ان کی وجہ سے محبت اور پیار کی فضا اور دعاؤں کی قبولیت کی فضا پیدا ہوئی اور اب ان میں سے ایک بھاری اکثریت یہاں سے واپس جا چکی ہے اور صرف ربوہ کے مکین ربوہ کی اداسیاں دیکھنے کے لئے یہاں باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر طرح حافظ و ناصر ہو اور اپنے مکانوں میں جب آپ واپس لوٹیں تو پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کے نشان وہاں آپ کو نظر آئیں اور خدا تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید آپ کو حاصل ہو۔ اگر آپ کبھی ابتلاء میں ڈالے جائیں یا اپ امتحان میں ڈالے جائیں تو آپ کا دل اس سکون اور اس راحت کو محسوس کرے جو ایسے ابتلاؤں کے وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے محسوس کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی اور ایثار کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی محض اپنے فضل سے آپ کی ان قربانیوں اور آپ کے ایثار کے ان نمونوں کو قبول کرتا چلا جائے اور اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں بھی جنت کا وارث کرے اور یہ جنت اس معنی میں ابدی بن جائے کہ جب آپ اس جنت کو جو دنیوی جنت ہے۔ چھوڑیں تو آپ کو سیدھے اخروی جنت میں لے جایا جائے اور ان دو جنتوں کے درمیان کوئی حد فاصل نہ ہو۔

پھر ہمارے بہت سے بھائی (احمدی اور مسلمان) کشمیر میں بستے ہیں۔ وہ جو جسمانی احساس اور جذباتی تکالیف وہاں اٹھا رہے ہیں۔ ان کو سمجھنا بھی ہم میں سے بہتوں کے لئے مشکل ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لئے اگر ہم چاہیں ان کے لئے دعا کرنا آسان ہے۔ پس انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہتری کے سامان پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کے سامان پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آزادی کے سامان پیدا کرے کہ وہ بے فکری کے ساتھ دین اسلام کے احکام کی پیروی کر سکیں اور جرأت اور دلیری کے ساتھ اور امن اور صلح کی فضا میں وہ اعلائے کلمہ حق کر سکیں اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا کرے کہ وہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکیں اور جس طرح چاہیں کوشش کر سکیں اور جو کچھ وہ خدا تعالیٰ سے چاہ رہے ہوں گے اور جو کچھ ہم ان کے لئے چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سب ان کو عطا کرے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا بھی حافظ و ناصر ہو اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو اس طرف توجہ دلائی تھی وہ ہر قسم کی غلامی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم کسی قسم کا سیاسی یا اقتصادی یا کسی اور قسم کا دباؤ چاہے وہ کسی طرف سے بھی ہو قبول نہ کریں۔ صرف ایک ہی دباؤ ہمارے اوپر ہو اور وہی ہماری مسرت کا باعث ہو اور وہ دباؤ وہ ہے جو ہمارا رب ہمیں اپنی گود میں لیتے ہوئے اپنے سینہ سے لگا کر دباتا ہے اپنے جسم کے ساتھ اس کے علاوہ ہم ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہوں۔

ہمیں بارش کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا کرے کہ ہماری فصلیں زیادہ ہوں۔ ہماری پیداوار زیادہ ہو۔ وہ اپنے مصالح کو زیادہ جانتا ہے۔ اس لئے ہم یہ کیوں کہیں کہ اے خدا تو ہمیں بارش دے بلکہ ہم خدا تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں عزت کی روٹی دے۔ ہمیں کسی سے بھیک نہ منگوانا۔ ہمیں اپنے ہی در کے بھکاری بنائے رکھنا۔ آمین


اس کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

اب دوست دعا کر لیں۔

اور اس کے بعد حضور نے حاضرین سمیت ایک لمبی اور پرسوز دعا فرمائی اور اس کے بعد جلسہ کے اختتام کا اعلان فرماتے ہوئے حضور انور نے دوستوں کو واپس جانے کی اجازت عطا فرمائی۔

(از رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)





میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ تم پاک دل اور مطہر نفس بن جاؤ

﴿ افتتاحی تقریب جلسہ سالانہ فرمودہ ۱۱ جنوری ۱۹۶۸ء بمقام ربوہ ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

اے میرے عزیزو! میرے پیارو اور حضرت مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام کے درختِ وجود کی سرسبز شاخو! السلامُ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور بے شمار رحمتیں تم پر ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری ہی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں، خصوصاً اس جلسہ میں شامل ہونے والوں یا شمولیت کی نیت رکھنے والوں کے حق میں حضور علیہ السلام کی یہ دعائیں کہ

”ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لئے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجرِ عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دُور فرماوے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روزِ آخرت میں اپنے اُن بندوں کے ساتھ اُن کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتامِ سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا اے ذوالجود و العطاء اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر ایک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۲۸۲)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ دعائیں فرمائی ہیں جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لئے یا پھر آپ کے لئے دوسرے مقامات پر بہت سی دعائیں کی ہیں اُن کا وارث بننے کے لئے ہم یہ بھی بہت سی ذمہ داریاں عاید ہوتی ہیں خصوصاً جلسہ کے ان ایام میں۔

اڈل یہ کہ ہم جو خود کو اس موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بتایا کہ **أَنْتَ الشَّيْخُ الْمَسِيحُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقْتُهُ** (تذکرہ ایڈیشن چہارم: صفحہ ۵۵۰) ہمارے اوقات دُعاؤں سے معمور ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر وہ لحظہ جو خدا کی بھول اور اس سے غفلت میں صرف ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہر وہ منٹ ہماری زندگی کا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہو وہی وہ وقت ہے جس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوا بلکہ صحیح مصرف پر اس کا خرچ ہوا۔ پس ان ایام میں خصوصاً اور ساری ہی زندگی میں عموماً اپنے اوقات کو دُعاؤں سے معمور رکھیں۔ دعاؤں میں اپنے نفسوں کو، اپنی عاقبت کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ہمسایہ کو اپنے ہم وطنوں کو دُنیا کے سب مکینوں کو یاد رکھیں اور دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرتا چلا جائے اور ہمارے اس مُلک کے استحکام کو غلبہٴ اسلام میں مد بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہم وطنوں کے سینوں کو قرآن کریم کے حقیقی انوار قبول کرنے کے لئے تیار کر دے اور ان کی بصارت کو تیز کر دے اور ان پر حقیقت آشکار کرے کہ غلبہٴ اسلام کے لئے جو ہم آسمانوں سے جاری کی گئی ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ برابر کی شریک بن جائیں۔

میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ تم پاک دل اور مطہر نفس بن جاؤ اور نفسِ اتارہ کے سب گند اور پلیدیاں تم سے دُور ہو جائیں۔ تکبر اور خود بینی اور خود نمائی اور خود ستائی کا شیطان تمہارے دل اور تمہارے سینہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور تذلل اور فروتنی اور انکسار اور بے نفسی کے نقوش تمہارے اس سینہ کو اپنے رب کے استقبال کے لئے سجائیں اور پھر میرا اللہ اس میں نزول فرمائے اور اسے تمام برکتوں سے بھر دے اور تمہارے دل اور تمہاری رُوح کو ہر نُور سے منور کر دے اور خدا کرے کہ بنی نوع کی ہمدردی اور غم خواری کا چشمہ تمہارے اس سینہ صافی سے پھوٹے اور ایک دُنیا تمہارے بے نفس خدمت سے فائدہ اٹھائے۔

خدا کرے کہ عاجزانہ دُعاؤں کے تم عادی رہو اور تمہاری رُوح ہمیشہ اللہ ربِّ العالمین کے آستانہ پر گری رہے اور اللہ، اس کی رضا اور اس کے احکام کی اتباع ہر ایک پہلو سے تمہاری دُنیا پر تمہیں مقدم ہو جائے۔

تم خدا کی وہ جماعت ہو جسے اسلام کے عالمگیر غلبہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس مہم کو کامیاب انجام تک پہنچانے کی راہ میں تمہیں ہزار دُکھ اور اذیتیں سہنی ہوں گی اور ہر قسم کے ابتلا اور آزمائشوں میں تم کو ڈالا جائے گا۔

دُعا ہے کہ ہر امتحان میں تم کامیاب رہو اور ہر آزمائش کے وقت ربِّ کریم سے ثابت قدم کی تم توفیق پاؤ۔ بس اسی کے ہو جاؤ۔ وہ مہربان آقا تمہیں پاک اور صاف کر دے اور پیارے بچے کی طرح تمہیں اپنی گود میں لے لے اور ہر نعمت کے دروازے تم پر کھولے اور تمام حسنات کا تم کو وارث بنائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں میں تمہیں کہتا ہوں کہ

”اگر تم اپنے نفس سے درحقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہو گے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لئے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے..... پس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو۔ اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشاء کے مطابق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے.....“

تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اُس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے موقعہ ہے کہ اپنے جو ہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔“

(رسالہ الوصیت - روحانی خزائن جلد نمبر ۲۰ صفحہ ۳۰۸، ۳۰۹)

خدا کرے کہ آسمان کے فرشتے تمہیں یہ مژدہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عاجزانہ

دعاؤں کو سنا اور تمہاری حقیر کوششوں کو قبول کیا اور اپنے قرب اور اپنی رضا کی جنتوں کے دروازے تمہارے لئے کھول دیئے ہیں۔ پس آؤ اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔

رب العظیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم روحانی فرزند کو اس زمانہ کا حصنِ حصین بنایا ہے۔ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے آج اسی کی جان محفوظ ہے جو اس قلعہ میں پناہ لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ تم بدی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ اختیار کر کے اور کجی کو چھوڑ کر راستی پر قدم مار کر اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے رب عظیم کے بندہ مطیع بن کر اس حصنِ حصین اس مضبوط روحانی قلعہ کی چار دیواری میں پناہ اور امان پاؤ۔

خدا کرے کہ تمہارے نفس کی دوزخ کُلی طور پر ٹھنڈی ہو جائے اور اس لعنتی زندگی سے تم بچائے جاؤ جس کا تمام ہم و غم محض دُنیا کے لئے ہوتا ہے۔ تم اور تمہاری نسلیں شرک اور دہریت کے زہریلے اثر سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ خدائے واحد یگانہ کی رُوح تم میں سکونت کرے اور اس کی رضا کی خاص نِجلی تم پر جلوہ گر ہو۔ پُرانی انسانیت پر ایک موت وارد ہو کر ایک نئی اور پاک زیست تمہیں عطا ہو اور لیلۃ القدر کا حسین جلوہ اسی عالم میں بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان تمہارے لئے پیدا کر دے۔

اے ہمارے رب! تو ہمیں مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام کے انصار میں سے بنا اور اس قیامت خیز ہلاکت اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ جس سے تو نے اُن لوگوں کو ڈرایا ہے جو اپنا تعلق تجھ سے توڑ چکے ہیں۔ پس اپنی طرف تبتّل اور انقطاع اور رجوع کی توفیق ہمیں بخش اور ہم پر رجوع برحمت ہو۔


اے ہمارے رب! اے ہمارے رحمان خدا! ہمارے ان بھائیوں کو جو قرآنِ عظیم کی اشاعت کے لئے دُنیا کے مُلک مُلک اور کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے نواز، ان کے ایثار اور ان کے تقویٰ میں برکت ڈال، ان کی قلموں کو تائید دے، ان کی زبانوں پر انوار نازل کر اور ان کی سعی اور کوشش کو دجّال کے ہر دجل اور دہریت کے ہر شر سے محفوظ رکھ۔ اور اے ہمارے اللہ! ہمارے پیارے رب تو ایسا کر کہ تیرے یہ کمزور اور بے مایہ بندے تیرے لئے بنی نوع کے دل جیت لیں اور تیرے قدموں میں انہیں لا ڈالیں۔ ایسا کر کہ تا ابد دُنیا کے ہر گھر

اور ان گھروں میں بسنے والے ہر دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی صدا اور دُنیا کی ہرزبان سے اللَّهُ أَكْبَرُ کا نعرہ بلند ہوتا رہے۔ امین یا رب العلمین۔

اب میں دُعا کرواؤں گا آپ بھی دُعا میں شامل ہوں۔ آج سب سے اہم دُعا جو ہم اپنے رب سے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دُنیا کی ہدایت کے سامان پیدا کر دے دُنیا تباہی کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت اور بصارت عطا کرے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہنچانے لگیں اور اس کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو وہ اپنے کئے پر نادم ہوں اور اپنے رب کی طرف وہ رجوع کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دُنیا کے لئے ایک محسن اعظم ہیں آپ کے ٹھنڈے سایہ تلے جمع ہو جائیں اور نارِ جہنم سے محفوظ کر لئے جائیں۔ خاص طور پر یہ دُعا میں کریں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ دُنیا اس وقت کس قدر نازک دَور سے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے۔

(روزنامہ الفضل ربوہ ۲۵ فروری ۱۹۶۸ء صفحہ ۲ تا ۴)





جس قوم نے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اس کو ہر قسم کی عادت سے آزاد رہنا چاہئے

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۱۲ جنوری ۱۹۶۸ء بمقام ربوہ﴾

تشہد، تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل ہے کہ وہ ہماری آمدنیوں اور ہمارے رویہ کو ناجائز مصارف سے بچاتا ہے اور پھر اس کے فرشتے اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اپنے اموال کو کہاں خرچ کریں گے۔ ان کے لئے مواقع مہیا کرنے چاہئیں۔ ایک موقع ایک جائز اور ثواب کمانے والے خرچ کا یہ ہو جاتا ہے کہ ہر سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کی اشاعت ہو جاتی ہے یا نئی کتابیں شائع ہو کر دوستوں کے سامنے آتی ہیں اور اس وقت میں ان نئی طبع شدہ (نئی ہوں یا پرانی) کی طرف اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو دوران سال شائع ہوئیں اور جن سے ہمارے احمدی بھائیوں اور بہنوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے۔

احمدی نوجوانوں اور احمدی بچوں کے لئے خالد، تشحید اور لاہور کا سووینیر مفید ہیں۔ خالد اور تشحید تو رسالے ہیں اور سارا سال شائع ہوتے رہتے ہیں اور سارا سال ہی ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے سووینیر لاہور میں سفر یورپ کی بہت سی تصاویر ہیں یہ کارکن بڑے ہی نا تجربہ کار تھے کچھ مجھے بھی ان کی طرف توجہ دینی پڑی اگرچہ معیار بہت اچھا نہیں اتنا اچھا بھی نہیں، جتنا کراچی کے سووینیر کا ہوتا ہے لیکن بہر حال ایک کوشش ہے اگر ہم اسی سے فائدہ اٹھائیں تو بہت سے پہلوؤں سے ہمارے لئے (تربیت و اصلاح ہر دو میدانوں میں) یہ مفید ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ماہنامہ ”تحریک جدید“ تحریک جدید کے کاموں کو جماعت کے سامنے اور دوسرے بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انصار اللہ تربیتی رسالہ ہے لیکن اس سے وہ لوگ جو

ابھی احمدیت میں داخل نہیں ہوئے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تربیت کس رنگ میں اور کس طور پر کی جا رہی ہے آیا یہ جماعت اپنے بزرگوں کو اور اپنے بچوں کو خدا اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جا رہی ہے یا ان کے عشق میں اور بھی زیادہ شدت اور تیزی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

پھر تفسیر صغیر ہے یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی کی ہوئی قرآن کریم کی تفسیر ہے جو علوم کا سرچشمہ اور تمام انوار کا سورج ہے مجھ پر یہ اثر ہے کہ بہت سے نوجوان اس تفسیر کی یا اس ترجمہ کی جس کے ساتھ تفسیری نوٹ ہیں (ترجمہ بھی تفسیری ہے) اہمیت نہیں سمجھتے۔ میں بہت سے پڑھے لکھے دوستوں کو جو جماعت میں شامل نہیں یہ بھجواتا رہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں بھی یہ تفسیری نوٹ گئے ہیں جو تفسیر صغیر کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اس نے اتنا اثر لیا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن رمضان کے درس کے موقع پر مسجد میں جو قرآن ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں ان کی اکثریت تفسیر صغیر نہیں ہوتی بلکہ دوسرے مطبوعوں کے شائع شدہ قرآن کریم ہوتے ہیں۔ جماعت کو خاص طور پر اس طرف توجہ کرنی چاہئے اگر ہم قرآن کریم کے علوم صحیح طور پر سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے بچے اور نوجوان اس سے محبت کرنے لگیں اور ان کے دل کا شدید تعلق قرآن کریم کے نور سے ہو جائے تو ہر نوجوان بچے کے باپ یا گارڈین کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں تفسیر صغیر کو دیکھے اور اگر نہ دیکھے تو اس کا انتظام کرے۔

تاریخ احمدیت جلد ہشتم طبع ہو چکی ہے اس میں ۱۹۳۴ء سے ۱۹۳۹ء تک کے واقعات یعنی تحریک جدید کا اجراء اور خدام الاحمدیہ کا قیام اور خلافت ثانیہ کی سلور جوبلی کے واقعات کی تاریخ مختصر طور پر محفوظ کی گئی ہے اپنی تاریخ سے واقفیت رکھنا اور ماضی حال اور مستقبل کا باہم شدید تعلق قائم رکھنا زندہ اور بیدار قوموں کے لئے ضروری ہوتا ہے اس لئے تاریخ احمدیت جلد ہشتم کی طرف بھی احباب کو توجہ دینی چاہئے۔ روحانی خزائن جلد ۲۱ جو براہین احمدیہ حصہ پنجم پر مشتمل ہے الشکرۃ الاسلامیہ نے شائع کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب قرآن کریم کی تفاسیر ہیں بہترین تفسیر جو آج دنیا کے ہاتھ میں دی جاسکتی ہے یا اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھی جاسکتی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب ہیں۔

لجنہ اماء اللہ نے بہت سی کتب شائع کی ہیں۔ ۱۔ الازہار لذوات الخمار (مجموعہ تقاریر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ جو حضور مستورات کے جلسہ میں فرماتے رہے) اسی طرح ۲۔ المصاحح (مجموعہ تقاریر) چند تقاریر جو اس وقت تک خلافت ثالثہ میں ہو چکی ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے ۳۔ یاد محمود۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی یاد میں احباب جماعت کی نظموں کا مجموعہ ۴۔ مختصر تاریخ احمدیت یعنی لجنہ اماء اللہ کی طرف سے شائع کی گئی ہے بچوں کے لئے تاریخ احمدیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ ۵۔ راہ ایمان لجنہ اماء اللہ نے شائع کی ہے یہ بچوں کے لئے دینی مسائل پر مشتمل آسان زبان میں کتاب ہے۔

نظارت اصلاح و ارشاد نے ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ اور ”کشتی نوح“ بڑی دیدہ زیب شائع کی ہیں ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ ہر مسلمان اور غیر مسلم کو بہت فائدہ دیتی ہے میرے پاس غیر ملکوں سے لوگوں کے خطوط بڑی تعداد میں آتے رہتے ہیں جن کے پاس ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ گئی ہے۔ انہوں نے بڑے حیران ہو کر اس کو پڑھا کہ اسلام یہ ہے اور اسلام کی نمائندگی میں کوئی شخص خدا تعالیٰ کی توفیق سے اس قسم کا مضمون لکھ سکتا ہے۔ وہ جو حیرت ہو جاتے ہیں اور بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے بڑے مخلص احمدی جن کا مطالعہ کم ہے وہ بھی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ بھی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ کا انگریزی میں ترجمہ تحریک جدید والوں نے غالباً ایک لاکھ کی تعداد میں شائع کیا ہے اور وہ مختلف ممالک میں گیا ہے۔ ہمارے گورنر جنرل گیمبیا الحاج ایف ایم سنگھ ٹاٹے تک جب یہ پہنچا۔ (ان کی نظر سے یہ کتاب پہلی دفعہ گزری تھی) تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے اور کاپیاں دو تا میں پرائم منسٹر اور بعض دوسرے لوگوں کو دوں جو ابھی اسلام میں پختہ نہیں۔ وہاں کے پرائم منسٹر بھی ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ابھی احمدی نہیں ہوئے انہیں ابھی اسلام کا مطالعہ نہیں۔ بہر حال گورنر جنرل صاحب نے کہا میں یہ کتاب بعض لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تا انہیں پتہ لگے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔

کشتی نوح تربیت کے لئے اور دوسرے لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ ہم کیا ہیں اور کس رنگ میں ہماری تربیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی ہے اور کرنا چاہتے ہیں بڑی مفید کتاب ہے جتنی زیادہ دفعہ اسے پڑھیں اتنی ہی زیادہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ دونوں کتابیں دس دس ہزار کی تعداد میں چھپی ہیں۔ مجھے تو دس ہزار کی تعداد بہت تھوڑی

معلوم ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ بھی یہ ثابت کریں کہ واقعی یہ تعداد تھوڑی ہے یہ تو چند ہفتوں میں اپنے ہاتھوں میں اور اپنوں کے ہاتھوں میں پہنچ جانی چاہئے۔

کچھ میرے خطبات بھی نظارت اصلاح و ارشاد نے شائع کئے ہیں

۱- تین اہم امور، ۲- قرآنی انوار، ۳- تعمیر بیت اللہ کے تیس عظیم الشان مقاصد۔

”تعمیر بیت اللہ کے تیس عظیم الشان مقاصد“ یہ دس خطبات ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پتہ نہیں ایک سیکنڈ کے کتنے حصہ میں دماغ میں ایسی لہر پیدا کی کہ یہ سارا مضمون دماغ میں آ گیا۔

جوں جوں خطبات دیتا گیا آہستہ آہستہ مضمون میرے سامنے آتا چلا گیا۔ دراصل اس مضمون کا تعلق اس منصوبہ کے ساتھ ہے جس کے متعلق میں کچھ بیان کروں گا شاید کل کی تقریر بھی اسی سلسلہ میں ہو جو ایک درمیانی کڑی کے طور پر ہوگی۔ اس مجموعہ کا بار بار پڑھنا ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ اس مضمون سے عیاں ہے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر بہت سے مقاصد کے لئے کروائی تھی جن میں سے تیس کا ذکر ان آیات میں ہے جن پر میں نے یہ خطبات دیئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہوا اور تین سو سال تک یہ اغراض پوری ہوتی رہیں پھر تنزل کا ایک زمانہ آیا اور اب اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پھر سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرے گا اور وہ تمام مقاصد اسلام کے ذریعہ نوع انسان کو حاصل ہوں گے جن مقاصد کے لئے بیت اللہ کی تعمیر از سر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ کرائی گئی تھی۔

میرا ایک چھوٹا سا مضمون ہے جو میں نے انگلستان میں سفر کے دوران پڑھا تھا وہ ”امن کا پیغام“ کے نام سے شائع ہوا ہے اس وقت تک یہ مضمون ڈینش زبان میں جرمن زبان میں اور اردو زبان میں اور سواحیلی زبان میں شائع ہو چکا ہے اور سویڈش اور ٹرکش زبانوں میں ترجمے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور عنقریب شائع ہو جائیں گے افریقہ سے بھی امریکہ سے بھی اور دوسرے ممالک سے بھی۔ جہاں یہ مضمون پہنچا ہے دوستوں کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا ہے اس نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اس کو آپ کثرت سے شائع کریں اس ضمن میں ایک عظیم نشان اللہ تعالیٰ نے ڈنمارک میں دکھایا ہے جس کے متعلق دوستوں کے سامنے بعد میں تفصیل رکھوں گا۔

اس طرح نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے قرآن مجید پارہ اول کا لفظی ترجمہ اور ”چالیس

جواہر پارے، شائع ہوئے ہیں۔ پھر لجنہ اماء اللہ کا رسالہ ’مصباح‘ ’ریویو آف ریلیجنز‘ ہے جو انگریزی میں ہمارا پایہ کا اخبار ہے۔ دوست اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نہ فائدہ اٹھاتے ہیں آخر یہ اخبار اور رسالے اس لئے شائع نہیں کئے جاتے کہ کچھ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ ان کے وقت کو ضیاع سے بچانے کے لئے انہیں کسی کام پر لگا دیا جائے۔ ہر ایک رسالہ یا کتاب جو شائع ہوتی ہے اس پر وقت خرچ کیا جاتا ہے تو اس لئے کہ ہم اسلام کو غالب کرنے کی کوئی مہم سر کریں یا بعض لوگوں کو اس مہم کے سر کرنے کے لئے تربیت دیں۔ ہر احمدی کے کان وہ آواز روزانہ پڑنی چاہئے جو تربیت کے لئے یا دنیا کی اصلاح کے لئے مرکز احمدیت سے اٹھتی ہے اس طرف جماعت جواب توجہ دے رہی ہے اس سے زیادہ توجہ دینی چاہئے اور توجہ دینی پڑے گی۔

آج کی تقریر مختلف عنوانوں پر یا مختلف جماعتی تنظیموں کے متعلق مختلف امور پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں بعض باتیں مختلف تحریکوں کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ جن میں پہلی وقف عارضی کی تحریک ہے۔ قریباً بیس ماہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے منشاء کے مطابق میں نے وقف عارضی کی تحریک کا اجراء کیا تھا اور دسمبر کے آخر تک ۵۵۲۲ دوستوں سے اس وقف میں خود کو پیش کیا لیکن ان میں سے بعض دوست جائزہ مجبوریوں کی وجہ سے اس میں عملاً حصہ نہیں لے سکے ان کی معین تعداد کے متعلق دفتر نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن ان کا اندازہ ہے کہ وہ سوا دو سو کے درمیان ہے میں نے زیادہ احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے پانچ ہزار کی تعداد کو لے لیا کہ اتنے دوستوں نے اس عرصہ میں وقف عارضی کے منصوبہ کے ماتحت دو ہفتے کم از کم جماعتوں کی تربیت میں گزارے ہیں۔ جب ہم مجموعی وقت کا شمار کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقفین نے مجموعی طور پر قریباً دو صدیاں کام کیا ہے یعنی اتنے ہفتے انہوں نے وقف عارضی کے کام میں گزارے ہیں جتنے ہفتے دو سو سال میں ہوتے ہیں۔ ایک سال میں باون ہفتے ہوتے ہیں۔ اب باون کو دو سو کے ساتھ ضرب دیں تو جو ہفتوں کی تعداد بنتی ہے اتنے ہفتے واقفین عارضی نے اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے گزارے ہیں۔ بہر حال یہ مدت قریباً دو سو سال بنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو سو مبلغ جنہیں ہم معاوضہ دیں سال بھر کام کریں تو اتنا کام اس تحریک کے ذریعہ ہو چکا ہے اور اگر روپیہ کی شکل میں اس کام کا اندازہ لگایا جائے اور مزدور کی مزدوری شمار کی جائے یعنی جس شخص نے وقف عارضی میں کام کیا ہے اس کی یومیہ مزدوری ایک مزدور کی اجرت کے مطابق تین

روپے رکھی جائے تو یہ دو لاکھ دس ہزار روپیہ کا کام بنتا ہے۔ اگر ان کی مزدوری (ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز مزدور ہی۔ دنیا کے مزدور نہیں جیسے دنیا کے ٹھیکیداروں کے مزدور ہوتے ہیں) چھ روپیہ روزانہ سمجھی جائے تو یہ کام چار لاکھ بیس ہزار روپیہ کا بنتا ہے۔ پھر یہ لوگ اپنی جگہوں پر تو مقرر نہیں کئے جاتے دوسری جگہوں پر بھجوائے جاتے ہیں اس لئے انہوں نے آنے جانے کا کرایہ بھی اپنے پاس سے خرچ کیا ہے اگر کرایہ کی اوسط میں روپیہ فی واقف رکھی جائے تو ایک لاکھ روپیہ کا یہ خرچ ہے گویا آپ یہ کہہ لیں کہ پانچ لاکھ بیس ہزار روپیہ کا خرچ ہے یا یوں کہہ دیں کہ پانچ لاکھ بیس ہزار روپیہ کی آمد واقفین کے ذریعہ جماعت کو ہوئی یا اتنے روپے کا کام کم از کم انہوں نے کیا۔ یہ جو رضا کارانہ خدمت ہے اس کے متعلق بھی میں کل انشاء اللہ بعض اصولی باتیں بیان کروں گا۔

اس کے علاوہ اس وقت بارہ سو چھتر (۱۲۷۶) واقفین عارضی ایسے ہیں جنہوں نے آئندہ سال میں کسی وقت اپنے دو ہفتے دیئے ہیں لیکن پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ کم از کم پانچ ہزار واقفین کی ضرورت ہے لیکن سال کے دوران جو نئی ضرورتیں سامنے آئی ہیں یا جماعتوں کے جو نئے مطالبات ہم تک پہنچے ہیں ان کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ ہزار نہیں دس ہزار واقفین عارضی کی ضرورت ہے اگر دس ہزار واقفین کی تعداد فرض کی جائے تو اس تعداد تک پہنچنے میں دوست سال دو سال لیں گے۔ اس لئے آئندہ سال کم از کم سات ہزار واقف چاہئیں۔ بارہ سو کے نام بھجوائے گئے ہیں اور باقی پانچ ہزار آٹھ سو (۵۸۰۰) اور دوست آگے آنے چاہئیں جو وقف عارضی میں اپنے نام دیں۔

واقفین عارضی نے بڑی کثرت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ وقف عارضی میں کم از کم دو ہفتے وقف کرنے کی جو سکیم ہے وہ ان کی اپنی تربیت اور اپنی اخلاقی ترقی میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے اور اس سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے پر نازل ہوتے دیکھا ہے اس بارے میں ہمیں بڑی کثرت سے خطوط پہنچے ہیں۔

اس سکیم کے ماتحت ایک تو قرآن کریم کے پڑھانے کی سکیم کو چلایا جاتا ہے اور زندہ رکھا جاتا ہے قرآن کریم نے کہا ہے ذِکْرٌ لِّعِبَادٍ لِّعِزِّ اَوْقَاتٍ یاد دہانی کراتے رہا کرو اور یاد دہانی کرانے کے لئے ذرائع کی ضرورت ہے اور واقفین عارضی یاد دہانی کرانے کا ایک ذریعہ ہیں اور

سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قاعدہ یسرنا القرآن، قرآن کریم ناظرہ یا ترجمہ کے ساتھ یا مختصر سی تفسیر کے ساتھ ان واقفین نے پڑھایا ہے۔ اگر ہم اس کام کو تنخواہ یا معاوضہ حاصل کرنے والے لوگوں سے لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ عملاً دوسو نہیں بلکہ چار سو آدمی چاہئے تھے کیونکہ جو شخص مستقل ملازمت پر ہو یا کام پر ہو اس کا کام اور قسم کا ہوتا ہے اور جو پندرہ دن کے لئے وقف کر کے جائے وہ چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو اعینکاف میں یعنی بندھا ہوا اس کام میں سمجھتا ہے اور دن رات ایک کر دیتا ہے اور بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اکثر واقفین نے اسی رنگ میں کام کیا ہے۔ ہاں بعض لوگ نا تجربہ کاری کی وجہ سے سستی بھی دکھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثریت ایسوں کی ہے جنہوں نے سمجھا کہ چوبیس گھنٹے ہمارے وقف ہیں ایک دو دن میں کیا فرق پڑتا ہے مزدوری ہم کوئی نہیں لیتے آرام نہیں کرتے کھانا اپنا آپ پکاتے ہیں اور پھر وہ بھی سادہ اور مختصر سا کئی دوستوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بازار سے دودھ لے آئے اور اس میں رس ڈبو کر کھائے۔ پندرہ دن میں کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔

کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہئے جس قوم نے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اس کو ہر قسم کی عادت سے آزاد رہنا چاہئے اور روٹی کی بھی عادت ہوتی ہے دیکھو ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ اگر کسی کو تین دن برابر چاول کھلائیں تو وہ شور مچا دے گا۔ بنگال میں چاول کھانے کی عادت ہے وہاں کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اسے پرہیزی کھانا دو یعنی روٹی پکا کر دو اور ہم بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاول پکا کر دو۔ غرض روٹی کھانے کی بھی عادت نہیں ہونی چاہئے اور پھر روٹی کے ساتھ کسی خاص قسم کے سالن کی عادت بھی نہیں ہونی چاہئے۔ صرف ضرورت پوری کرنے کی عادت ہونی چاہئے۔ اسے آپ عادت کہہ لیں یا جو مرضی ہے کہہ لیں۔ بہر حال جسم کی ضرورت پوری ہونی چاہئے وہ ضرورت روٹی سے پوری ہو یا چاول سے ہو یا دال سے ہو، فاختہ کے گوشت سے ہو یا بکرے کے گوشت سے ہو یا اونٹ کے گوشت سے ہو یا آلو سے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت لگائی ہے اور وہ ہم نے پوری کرنی ہے اور جسم کو اتنا کھالینے کو دے دینا چاہئے کہ وہ اپنے پر چربی نہ چڑھائے اور صحت قائم رہے اور یہ بڑا ضروری امر ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جسم جسم میں بھی فرق ہے میں

نے ایسے آدمی دیکھے ہیں جو بارہ روٹیاں بھی کھا جائیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور ان کے معدے پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں لگتا کہ وہ کھانا جاتا کہاں ہے میرا جسم اس قسم کا ہے کہ کل صبح ایک چھوٹی سی چپاتی کھائی تھی اور عام طور پر گھر میں پکے ہوئے دوپتے پھلکے کھا لیتا ہوں کل چونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ صرف ایک روٹی کھانی ہے اس لئے میں نے بھی ایک ہی چپاتی کھائی۔ تھا تو وہ پراٹھا لیکن بالکل پھلکے کی طرح کا۔ میں کتنا کم کھاؤں میرا جسم اتنا ہی موٹا رہے گا لیکن بعض لوگ کم کھائیں تو وہ دبلے ہو جاتے ہیں اور زیادہ کھائیں تو موٹے ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ زیادہ بھی کھائیں تو موٹے نہیں ہوتے بلکہ دبلے ہی رہتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن جسم کی صحت کے لئے جتنی ضرورت غذا کی ہے وہ ضرورت پوری کر لینی چاہئے کیونکہ ہمیں صحت مند جسم چاہئیں تا ان صحت مند جسموں میں صحت مند دماغ اور ہمت والی روح قائم رہ سکے۔

بڑا ہی اور بڑا ہی مشکل کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر آپ سوچیں تو یہ کام آسان نہیں جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ بات کہنے کو تو آسان ہے کہ ہم نے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے لیکن جب ساری دنیا اور ساری دنیا کی مخالفتیں سامنے ہوں تو انسانی دماغ اسے سوچ کر بھی گھبرا جاتا ہے۔ پھر جب انسان سوچتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم بے طاقت ہیں ہم میں کوئی علم نہیں اس دنیا کے مقابلہ پر ہم کچھ بھی نہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا اس لئے یہ کام ضرور ہوگا وہ خود ہی اس کام کو کرے گا۔ ہم پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم میں جتنی طاقت ہے وہ صرف کریں گو ہم جانتے ہیں کہ ہماری طاقتوں کا مجموعہ ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ہمیں یہ علم ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا۔ اگر ہم اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق قربانیاں دے دیں گے تو آسمان سے وہ طاقت نازل ہوگی جو دنیا کے دلوں کو بدل دے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں گاڑ دے گی۔

غرض تربیت کے لحاظ سے وقف عارضی کا منصوبہ بڑا ہی اہم ہے اور اس کی طرف جماعت کو توجہ دینی چاہئے اور خیال رکھنا چاہئے کہ آئندہ سال کے لئے کم از کم سات ہزار واقفین اس نے مجھے دینے ہیں۔ ہمارا مرکزی دفتر بھی رضا کارانہ طور پر چل رہا ہے سوائے ایک مددگار کارکن کے

جو پچاس روپے ماہوار لیتا ہے۔ باقی سارا کام رضا کار کرتے ہیں۔ جو سائر کا خرچ ہے وہ بھی رضا کارانہ طور پر حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے وہ یہ خرچ ادا کر دیتا ہے تین چار ہزار روپیہ سالانہ کا خرچ ہے اور یہ خرچ رضا کارانہ طور پر چل رہا ہے صدر انجمن احمدیہ کے عام اخراجات میں یہ خرچ شامل نہیں اور عام آمد پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گو اگر اسے بوجھ کہا جاسکتا ہے تو جماعت پر یہ بوجھ ضرور پڑتا ہے بہر حال سارا کام رضا کارانہ طور پر چل رہا ہے۔ نظارت بیت المال پر اس کے ایک پیسہ کا بھی بوجھ نہیں۔

اس کے بعد میں فضل عمر فاؤنڈیشن کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جماعت نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے احسانوں کی یاد میں ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی اور بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی سے اس میں وعدے لکھوائے تھے۔ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۷ء تک پاکستان کے وعدے ستائیس لاکھ ستاسٹھ ہزار ایک سو ستتر روپے کے تھے اور غیر ممالک یعنی بیرون پاکستان کے وعدے آٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو تراسی (۸۸۸۱۸۳) روپے کے تھے ان کی میزان چھتیس لاکھ پچپن ہزار تین سو ساٹھ (۳۶۵۵۳۶۰) بنتی ہے۔ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۷ء تک گیارہ لاکھ چوالیس ہزار نو سو پچاسی (۱۱۴۴۹۸۵) کی وصولی تھی اور غیر ممالک کی وصولی تین لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو دس (۳۵۰۸۱۰) تھی۔ کل وصولی چودہ لاکھ پچانوے ہزار سات سو پچانوے (۱۴۹۵۷۹۵) کی تھی بیرون پاکستان کی جماعتوں کی جو مالی قربانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کی شکل یہ بنتی ہے۔

یورپ میں بسنے والے احمدیوں کے وعدے دو لاکھ چھیانوے ہزار چار سو اکتیس (۲۹۶۴۳۱) روپے کے تھے اور اس کے مقابلہ میں وصولی ایک لاکھ نوے ہزار آٹھ سو اٹھاون (۱۹۰۸۵۸) روپے کی تھی۔ یعنی قریباً دو تہائی وصولی ہو چکی ہے۔

امریکہ کے وعدے اٹھاسی ہزار تین سو اٹھائیس (۸۸۳۲۸) روپے کے تھے اور وصولی اکتیس ہزار ایک سو تہتر (۲۹۱۷۳) روپے ہے۔

افریقہ کی جماعتوں کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے چندے دینے کا طریق اور ہے جب وہ چندے دیتے ہیں تو کہتے ہیں ساری خدمتوں میں تم خود ہی تقسیم کر لو۔ تعلیم میں بھی

وہ لوگ بڑے پیچھے ہیں اور تربیت میں بھی پیچھے ہیں۔ بعض دفعہ ایک شخص پانچ ہزار روپیہ بھی دے گا لیکن کہے گا کہ آگے تقسیم کا مجھے علم نہیں تم خود تقسیم کر لو۔ اب انہیں آہستہ آہستہ عادت ڈال رہے ہیں۔ بہر حال فضل عمر فاؤنڈیشن کے لئے ان کے وعدے ایک لاکھ سترہ ہزار چھ سو تہتر (۱۱۷۶۷۳) روپے کے ہیں لیکن وصولی ابھی بہت کم ہے یعنی ابھی تک صرف سات ہزار روپے وصول ہوئے ہیں۔

مشرق وسطیٰ کی جماعتوں کے وعدے تریپن ہزار دو سو پینسٹھ (۵۳۲۶۵) روپے کے تھے اور سولہ ہزار نو سو (۱۶۹۰۰) روپے وصول ہوئے ہیں۔ یعنی قریباً ایک تہائی وصول ہو چکا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے وعدے تین لاکھ چونتیس ہزار چار سو ستاسی (۳۳۴۴۸۷) روپے کے تھے جن میں سے ایک لاکھ ستر ہزار آٹھ سو باون (۱۷۷۸۵۲) روپے کی وصولی ہوئی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کے فضل سے وعدے بھی توقع کے برابر ہی چل رہے ہیں اور وصولی بھی اس حساب سے ہو رہی ہے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن (جو ایک رجسٹرڈ باڈی ہے) نے کمری مخدومی چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ جو مختلف امور پر غور کرتی اور کام کو سنبھالتی ہے انہوں نے کچھ رقوم بعض ایسی لمیٹڈ کمپنیوں کے حصے خریدنے میں لگائی ہیں جو منافع دیتی ہیں کسی سال کم منافع دیتی ہیں اور کسی سال زیادہ اور ۱۹۶۷ء میں انہیں مختلف مدت میں سینتالیس ہزار ایک سو ستر (۲۷۱۷۷) روپے کی آمد ہوئی ہے اور سارے خرچ نکالنے کے بعد قریباً ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ بچ گیا ہے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن کا کام روپیہ اکٹھا کرنا نہیں بلکہ بعض خاص کام ہیں ان کاموں کے سرانجام دینے کے لئے اس فاؤنڈیشن کا اجراء کیا گیا ہے لیکن چونکہ ان کاموں کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی اس لئے روپیہ حاصل کیا گیا اور یہ مفید ہوا کہ اس روپیہ کی آمد سے وہ مقاصد حاصل کرنے لگے جن مقاصد کے لئے فضل عمر فاؤنڈیشن کو جاری کیا گیا ہے۔

جو منصوبے ابھی تک انہوں نے تیار کئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک قلیل المیعاد اور ایک طویل المیعاد۔ قلیل المیعاد منصوبے آگے کئی قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک منصوبہ یہ ہے کہ

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تقاریر اور خطبات وغیرہ اکٹھے کر کے دیدہ زیب شائع کئے جائیں اور منصوبے میں عید کے خطبات کو ترجیح دی گئی ہے اور ایک حصہ کا مواد جو ۱۹۵۳ء تک کے خطبات پر مشتمل ہے جمع ہو چکا ہے اور عنقریب شائع ہو جائے گا انشاء اللہ۔ دوسرے نمبر پر نکاح کے خطبات کو رکھا گیا ہے تیسرے نمبر پر خطبات جمعہ اور چوتھے نمبر پر دیگر ملفوظات و تقاریر ہیں۔ عیدین کے خطبات کی ایک جلد بڑی جلد آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔

قلیل المیعاد منصوبہ نمبر ۲ یہ ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے جامع سوانح حیات مرتب کر کے شائع کئے جائیں۔ یہ کام محترم ملک سیف الرحمان صاحب کے سپرد ہے۔ وہ اس وقت ایک ایڈیٹوریل بورڈ کی راہنمائی میں کام کر رہے ہیں اس ایڈیٹوریل بورڈ کے اراکین یہ ہیں۔

۱۔ محترمی مخدومی چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب

۲۔ محترمی مخدومی قاضی محمد اسلم صاحب

۳۔ محترمی مخدومی شیخ محمد احمد صاحب مظہر

۴۔ محترمی مخدومی ابوالعطاء صاحب

۵۔ محترمی مخدومی میر محمود احمد صاحب

۶۔ محترمہ مخدومہ حضرت سیدہ ام متین صاحبہ

یہ کام شرع ہو چکا ہے اور ایک منصوبہ کے مطابق ہو رہا ہے اس پر وقت تو لگے گا لیکن جو کام شروع ہو جائے وہ بہر حال اپنے نیک انجام تک پہنچ جاتا ہے۔

قلیل المیعاد منصوبہ نمبر ۳ اہل علم اصحاب سے دینی مسائل پر تحقیقاتی تصنیفات تیار کرانا۔ اس کے لئے فضل عمر فاؤنڈیشن نے ایک ایک ہزار روپیہ کے پانچ انعامات مقرر کئے ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے سال کے لئے باون احباب کی طرف سے نام آچکے ہیں یہ تعداد بڑی خوش کن ہے کہ جنہیں اہل قلم بننا چاہئے وہ اہل قلم بننے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔

ایک قلیل المیعاد منصوبہ یہ ہے کہ ایک لائبریری کی بلڈنگ فضل عمر فاؤنڈیشن کی طرف سے بنا کر صدر انجمن احمدیہ کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی بلڈنگ کے جو اخراجات ہیں وہ فضل عمر فاؤنڈیشن

برداشت کرے اور سٹاف کی تنخواہیں اور سائر وغیرہ کے اخراجات صدر انجمن احمدیہ ادا کرے۔ اس کے لئے زمین انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ صدر انجمن احمدیہ سے ہی لے لی ہے خدا کرے یہ عمارت بھی جلد بن جائے۔

بلڈنگ کے متعلق اندازہ ہے کہ اس پر اڑھائی لاکھ روپیہ خرچ آئے گا اور اس میں پچاس ہزار کتب رکھی جاسکیں اور تجویز ہے کہ اس کے ساتھ ایک مناسب ریڈنگ روم ہو اور تحقیق کرنے والے مصنفین کے لئے دس علیحدہ علیحدہ کمرے ہوں جہاں وہ بیٹھ کر سکون اور آرام اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ غرض یہ کام یا یہ منصوبے ہیں یا مجھے یوں کہنا چاہئے کہ یہ کام اور منصوبے ہیں فضل عمر فاؤنڈیشن کے جن کا ذکر اختصار کے ساتھ دوستوں کے سامنے میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ ان سے ساری جماعت کو مطلع رکھنا بڑا ضروری ہے۔

صدر انجمن احمدیہ نے کام تو بہت پھیلانے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان میں سے بعض چیزیں نوٹ کی ہیں یکم مئی سے ۳۱ دسمبر تک صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے جو کتب اور پمفلٹ شائع ہوئے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد ۲۸۷۰۰۰ ہے جو پمفلٹ اور کتب ان کی طرف سے شائع ہوئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں۔

۱۔ اسلامی اصول کی فلاسفی ۲۔ کشتی نوح ۳۔ ہمارے عقائد ۴۔ سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ۵۔ ہماری تعلیم ۶۔ ایک غلطی کا ازالہ ۷۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقتباسات کی روشنی میں (بہت سے اقتباسات جمع کئے گئے ہیں) ۸۔ مقام خلافت (حضرت خلیفہ اولؑ کے ارشادات کی روشنی میں) ۹۔ احمدیت کا پیغام ۱۰۔ تین اہم امور ۱۱۔ قرآنی انوار ۱۲۔ تعمیر بیت اللہ کے تین عظیم الشان مقاصد ۱۳۔ امن کا پیغام ۱۴۔ تبلیغ ہدایت ۱۵۔ اچھی تربیت ۱۶۔ چالیس جواہر پارے ۱۷۔ الحجۃ البالغة ۱۸۔ اسلام میں پردہ کی اہمیت (از حضرت ام متین صاحبہ)

غرض اتنی کتب شائع ہوئی ہیں یعنی اتنے طریق لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے آپ کو بتائے گئے ہیں آپ ہر طریق کو استعمال کریں۔

صدر انجمن احمدیہ تعلیمی امداد بھی اور ضرورت مند دوستوں کی امداد بھی اپنی استعداد کے مطابق

کرتی ہے۔ متفرق امداد جو مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے گذشتہ سال دی گئی ہے اس کی رقم اسی ہزار (۸۰,۰۰۰) روپے بنتی ہے اور جو تعلیمی امداد ہے جو طلبہ کو پڑھائی جاری رکھنے کے لئے دی جاتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے اور اس کی رقم اٹھائیس ہزار دو سو پینتالیس ۲۸۲۳۵ روپے بنتی ہے۔

تحریک جدید

نئے مشن۔ اپروولڈ فرنچ مغربی افریقہ میں ایک نیا مشن کھولا جا رہا ہے اس کے اخراجات مغربی افریقہ کے مشن برداشت کریں گے۔ فی الحال آئیوری کوسٹ سے ایک لوکل مبلغ وہاں بھیجا جا رہا ہے۔

۲۔ ڈمعموی فرانسیسی مغربی افریقہ میں ایک جماعت قائم ہو چکی ہے نائیجیریا سے ایک لوکل مبلغ وہاں بھجوایا جا رہا ہے۔ آئیوری کوسٹ جہاں پہلے سے مشن قائم ہے تعمیر مرکز کے لئے زمین خرید لی گئی ہے۔

سکول۔ گھانا میں تین نئے مڈل سکول کھولے گئے ہیں اب پرائمری اور مڈل سکولوں کی تعداد گھانا میں انتیس ہو گئی ہے۔ سیرالیون میں ایک سینڈری سکول کھولا گیا ہے اس طرح سیرالیون کے سینڈری سکولوں کی تعداد چار ہو گئی ہے اس چوتھے سکول کے اساتذہ بھی پاکستان سے بھجوائے گئے ہیں مشرقی افریقہ میں بشیر ہائی سکول کمپالہ جس کی عمارت کی تعمیر پر ایک لاکھ پچتر ہزار شننگ خرچ ہوا ہے پہلے ایک احمدی دوست کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ (understanding) پر کھولا گیا تھا۔ اب اس دوست نے وہ سکول جماعت کو دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ایک پرائمری سکول کھولا گیا ہے۔

تراجم قرآن۔ تفسیر القرآن انگریزی جو تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے اس کا ایک خلاصہ تیار کیا گیا ہے جو اب طبع ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرانسیسی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ پر نظر ثانی کا کام مکمل ہو چکا ہے تفسیری نوٹ تیار ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ اسی سال چھپ جائے گا۔ انڈونیشین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ تیار ہو چکا ہے۔ پہلے دس پاروں کے تفسیری نوٹ تیار ہو چکے ہیں۔ باقی زیر تیار ہیں۔ ڈینش زبان میں ترجمہ مع تفسیری نوٹ شائع ہو چکا ہے اور

ہزاروں کی تعداد میں فروخت بھی ہو چکا ہے۔

کتا ہیں۔ اسی طرح تحریک جدید نے اسلامی اصول کی فلاسفی شائع کی ہے ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ ”دعوت الامیر“ اور ”لائف آف محمد“ کا ترکی زبان میں ترجمہ تیار ہو چکا ہے انشاء اللہ جلد چھپ جائے گا۔ جرمن زبان میں ”لائف آف محمد“ کا ترجمہ تیار ہو چکا ہے۔ عربی زبان میں ”اسلام کا اقتصادی نظام“ کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے ”مسح ہندوستان میں“ اور ”دعوت الامیر“ عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے اٹالین زبان میں ”Why I believe in Islam“ کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب ایک نعمت کو قبول کرتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اس میں حصہ ڈال دیتا ہے اس میں ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اٹالین جو زبانوں کا ماہر ہے اور بڑا امیر آدمی ہے جرمنی میں ایک انٹرنیشنل کمپنی کا ڈائریکٹر ہے۔ وہ کمپنی اتنی بڑی ہے کہ چار پانچ دفاتر تحریک جدید وہاں سما جائیں۔ لیکن وہ بڑا بے نفس انسان ہے۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک سیریز آف لیکچرز یا سلسلہ تقاریر سننے کا اتفاق ہوا جو فرینکلنٹ یونیورسٹی میں ہو رہا تھا ہمارے نواحی احمدی نو مسلم بھائی محمود اسمعیل ٹھلس بڑے ہی مخلص اور علم دوست انسان ہیں وہ ہر سال ایک سلسلہ تقاریر کا اسلام پر یونیورسٹی میں منظم کرتے ہیں۔ اس اٹالین دوست نے کہا کہ مجھے وہ سلسلہ تقاریر سننے کا اتفاق ہوا اور اس کے بعد میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اسلام سیکھوں چنانچہ میری توجہ اسلام کی طرف پھر گئی۔

اب یہ دوست دل سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک ان کی بعض الجھنیں ہیں۔ اس لئے انہوں نے ظاہری بیعت نہیں کی۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ زبانوں کے بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے اسپرنتو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا۔ اس ترجمہ کے وقت انہوں نے کئی اور تراجم بھی دیکھے ہوں گے لیکن ہماری طرف سے جو تراجم جرمن اور انگریزی زبانوں میں ہو چکے ہیں انہوں نے زیادہ تر انہیں سامنے رکھا جب وہ مجھ سے ملے اس وقت تک میں سپارے مکمل ہو چکے تھے دس پارے باقی تھے۔ اب انہوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اسپرنتو زبان ساری زبانوں کا مجموعہ ہے اور یہ زبان ہر ایک انسان کی سمجھی جاتی

ہے۔ یہ خیال ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ بہر حال یہ ایک نئی زبان ہے اور اس میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو گیا ہے اور وہ دوست خود بھی اسلام کے اتنے قریب آگئے ہیں کہ کہتے ہیں میں دل سے مسلمان ہو چکا ہوں ویسے ابھی میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تراجم میں ایک اور کا اضافہ کر دیا ہے۔

اس طرح سراج الدین کے چار سوالوں کا جواب، انگریزی زبان میں زیر طباعت ہے انگریزی زبان میں ”دعوة الامیر“ کا خلاصہ تیار کیا گیا ہے جو شائع کیا جا رہا ہے۔

جلسہ سالانہ کے موقع پر باہر سے دوست یہاں آتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ خصوصیت کے ساتھ تین ملکوں سے دوست تشریف لائے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعویٰ کیا اور اس کی تبلیغ شروع کی تو قادیان کے رہنے والے اور عزیز ترین رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تیری تبلیغ سنیں گے بھی نہیں اور کسی کو بھی سننے نہیں دیں گے۔ اسی زمانہ میں دنیا کے پیدا کرنے والے خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اپنی قوت اور اپنی بدیتوں پر بھروسہ کرنے والے ناکام ہو گئے ہیں اور جیسا کہ وعدہ دیا گیا تھا وہ آواز ساری دنیا میں پھیلی اور دنیا کے کناروں تک وہ تبلیغ پہنچ گئی۔ اس وقت دنیا کے تین ایسے ملکوں کے نمائندے یہاں موجود ہیں جن ملکوں کے درمیان ہزار ہا میل کا فاصلہ ہے اور ان میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت میں اس لئے سرشار ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین اور احسان کرنے والا وجود دیکھا اور پایا۔ وہ دنیا جہاں کا مالک ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور پورا کرتا چلا جا رہا ہے کام تو اس کے ہیں اور وہ کر رہا ہے اس کی مہربانی ہے ہم پر کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ انگی کٹوا کر شہیدوں میں داخل ہو جاؤ۔ تم تھوڑی سی قربانیاں دو اور ساری کامیابی کا سہرا میں تمہارے سر پر باندھ دوں گا۔ اس کامیابی میں سینکڑوں ہزاروں حصہ بھی ہمارا نہیں ہوتا مگر وہ پیار کرنے والا رب جب کامیابی اپنے فضل سے دیتا ہے تو اس کا کریڈٹ اور اس کا سہرا وہ ہمارے سر باندھ دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے کہ وہ قربانیوں کے لئے ہمیں آگے بلاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مارشس میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ ہمارے مبلغ اسماعیل منیر صاحب (جو بڑے مخلص کارکن ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور ہیں چوبیس گھنٹے کام کرنے والے ہیں اور صحیح وقف کی روح ان کے اندر ہے دوست ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں) ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے رؤیا میں ایک نظارہ دکھایا گیا اور اس کی صحیح تعبیر اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی تھی میرے ذہن میں اس وقت دو تعبیریں آئیں کہ یا یوں ہوگا اور یا یہ دوسری شکل اختیار کرے گا۔ اگر پہلی تعبیر ہوتی تو اس میں انداز کا پہلو بڑا نمایاں تھا اور دوسری تعبیر میں تبشیر کا پہلو نمایاں تھا اور اس بات کا پتہ لگتا تھا۔ ان کے وہاں پہنچنے پر کہ اس کی اصل تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دنوں میں بہت دعائیں کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس رؤیا کے اندازہ پہلو سے ہمیں محفوظ رکھے جس وقت وہ وہاں پہنچ گئے۔ تو اندازہ پہلو کا واقع ہونا ناممکن بن گیا تب مجھے سمجھ آئی کہ اس رؤیا کی وہی تعبیر صحیح تھی جو تبشیری رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ میں نے انہیں اسی وقت لکھ دیا تھا کہ میں نے یہ رؤیا دیکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق وہاں کچھ تبدیلیاں کرنی شروع کی ہیں۔ وہ جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی فعال ہے بڑے پیسے خرچ کرتی ہے۔ خود کفیل ہے ان کے اخلاص اور مستعدی کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ (شاید یہاں بھی لوگ اس کی جرأت نہ کر سکیں) کنکریٹ یعنی سینٹ اور لوہے کی چھت جو ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے نیچے ایک عارضی چھت بنائی جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر سلیپ ڈالا جاتا ہے۔ وہاں کے مشن ہاؤس پر اس قسم کا چھت وہاں کے احمدیوں نے وقار عمل کے ذریعہ سے ڈالا ہے اور مزدوری پر ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا۔ پھر وہ اپنا ایک سکول کھول رہے ہیں۔ بڑی ہمت والی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو قائم رکھے اور بہترین جزا ان کے اعمال کی انہیں دے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ مارشس والوں کو ایک اور نشان بھی دکھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ۲۲ نومبر کو امام اسماعیل منیر نے مجھے خط لکھا ان کے الفاظ یہ ہیں۔

”ہمارے ہاں فرانس سے ایک پادری آیا ہے۔ جو دو تین ہفتوں سے عیسائیت کا پرچار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مسیح نے حکم دیا ہے کہ جا کر ساری دنیا کو انجیل کا پیغام دوں اور بیماروں کو

چنگا کروں پر چار کے دوران میں ہی بیماریوں کو دور کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور شاید دو چار فیصدی کو مسمریزم کی وجہ سے فائدہ بھی ہو جاتا ہوگا۔ یہاں کے لوگ اس کا شکار آسانی ہو رہے ہیں عیسائی ہندو اور مسلمان بھی۔ ہم نے اس پادری کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چیلنج پیش کیا ہے کہ ہم چالیس مریض لے لیں دس یورپین، دس انڈین، دس چینی اور دس کریول (Creole) جو وہاں کے مقامی ہیں اور نصف نصف بانٹ کر دعا کریں پھر دیکھیں گے کہ کیا اسلام کا خدا ہماری مدد کرتا ہے یا مسیح ناصری تمہاری سنتا ہے آج پمفلٹ کا پروف دیکھ چکا ہوں اور دوپہر تک پانچ ہزار چھاپ کر آج ہی تقسیم کر دیں گے“

اور اس کے بعد انہوں نے یہ فقرہ کہہ دیا کہ اس معاملہ میں مزید راہنمائی کے بھی محتاج ہیں۔ پہلے تو میں بڑا خوش تھا کہ وہ دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ فقرہ پڑھا تو میری طبیعت میں یہ احساس پیدا ہوا کہ کہیں ڈرنے جائیں اور کمزوری نہ دکھا جائیں۔ میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا کہ آپ دلیری سے اور بے دھڑک ہو کر یہ چیلنج دیں۔ آپ جیتیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا یہ خط ملا ہے۔ جو ۱۲ دسمبر کا لکھا ہوا ہے۔ کہ

”حضور کا حوصلہ افزائی کا خط ملا ہم نے اس پادری کو بے دھڑک چیلنج دیا ہے۔

پمفلٹ ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا۔ مگر وہ مقابلہ پر آنے سے بھاگ گیا بلکہ ہمارا شہر روز ہل چھوڑ کر دوسری ایک جگہ چلا گیا ہے۔“

زندہ خدا کی زندہ محبت کے یہ نظارے آج دنیا میں اسلام کو غالب کر رہے ہیں۔ مغربی اور مشرقی افریقہ میں جب وہ لوگ جن کو ہزاروں سال سے دنیا حقارت سے دیکھتی چلی آرہی ہے۔ احمدیت اور اسلام کے ذریعہ یہ تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ ان کا خدا ان سے پیار کرنے والا ہے اور وہ اپنے پیار کو اپنے زندہ نشانوں سے ظاہر کرنے والا ہے تو ان کے دلوں میں اتنی پختہ محبت اسلام سے اور اسلام کے خدا سے پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہزار ہا نشانات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجہ میں افریقہ میں پیدا ہونے والے اور دنیا کی ذلتیں برداشت کرنے والے حبشیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی

اور اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہوئی۔

غرض تین ممالک کے نمائندے اس وقت ہمارے سامنے آئے انہوں نے اپنے بعض جذبات اور خیالات کا اظہار کیا اور ہماری توجہ اور ہمارے خیالات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کی طرف لوٹے اور اس طرف رجوع کیا اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آواز جس کو یہ کہا گیا تھا کہ قادیان کی گلیوں میں بھی بلند ہونے نہیں دی جائے گی وہ دنیا کی فضاؤں میں گونجی اور گونج رہی ہے اور گونجی چلی جائے گی۔ بس جن محبت کے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان تمام جماعتوں کو جن کی محبت کا اظہار یہاں کیا گیا ہے اور جن کا سلام ہمیں پہنچایا گیا ہے۔ السلام علیکم پہنچاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارا خدا جس طرح ہم پر صبح و شام اپنی رحمتوں کا نزول کرتا چلا آیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے اسی طرح وہ ان تمام جماعتوں پر بلکہ جہاں جہاں احمدی ہیں ان پر رحمتوں کو نازل کرتا چلا جائے اور ہر طرح ان کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے۔

دوران سال اکیس مبلغ پاکستان سے باہر گئے اور سترہ مبلغ اپنے کام کا زمانہ پورا کر کے واپس آئے انشاء اللہ پھر جلدی واپس چلے جائیں گے۔

مساجد - نائیجیریا میں پانچ نئی مساجد زیر تعمیر ہیں سیرالیون میں جماعت کے ایک سینڈری سکول میں ایک مسجد بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ کوپن ہیگن (ڈنمارک) میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہماری احمدی مستورات نے اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے ایک مسجد تعمیر کی ہے جو اس سال مکمل ہوئی اور جس کے افتتاح کے لئے علاوہ اور مقاصد کے مجھے کوپن ہیگن اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔

اب اس کے ساتھ ہی میں اپنے سفر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بعض نشانوں کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نشان ظاہر کیا ہے اس کا بھی ذکر کروں گا۔

سفر سے پہلے میرے دو جذبات تھے۔ ان کا اظہار میں نے اسی وقت کر دیا تھا اور وہ اخبار کے ذریعے دوستوں کے سامنے آچکے ہیں۔ ایک طرف تو میرے دل میں شدید تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ میں یورپ کے ملکوں میں بسنے والوں کو اپنے پیدا کرنے والے رب کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ

وہ اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عافیت بخش سایہ کے نیچے آجائیں ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور دوسری طرف یہ احساس بھی اپنی شدت پر تھا کہ میں ایک بڑا ہی نالائق اور کم مایہ انسان ہوں اور یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو میرے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تب میں نے بے حد دعائیں کیں اور آپ بھائیوں سے بھی کہا کہ آپ بڑی کثرت سے یہ دعائیں کریں کہ جس مقصد کے لئے میں وہاں جانا چاہتا ہوں وہ مقصد پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری زبان میں تاثیر پیدا کرے اور میری ہر حرکت اور سکون سے وہ متاثر ہوں اس رنگ میں کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کرنے کے لئے تیار ہو جائیں وہ میری طرف متوجہ ہوں اور میری باتوں کو غور سے سنیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں کی دعاؤں کو سنا اور سفر اختیار کرنے سے قبل ہی اس نے ہم میں سے بیسیوں کو مبشر رویا کے ذریعہ تسلی دی کہ بندہ عاجز اور کم مایہ ضرور ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جائے تو اسے کسی وجہ سے کسی ملک سے کسی طاقت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جو سب طاقتوں کا مالک ہے اور سب قوتوں کا سرچشمہ ہے وہ اس کی پیٹھ کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے پہلو میں ہوتا ہے اور کہتا ہے گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔

میں نے ایک نہایت ہی حسین رویا دیکھی تھی جو چھپ بھی چکی ہے اس کی تعبیر کا ایک پہلو جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ میں نے ابھی تک نہیں بتایا کیونکہ اس میں ان قوموں کے لئے انذار کا پہلو ہے۔ (ہمارے لئے نہیں ان قوموں کے لئے انذار کا پہلو ہے) اور میں دعا کر رہا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاکت سے محفوظ رکھے اپنی نعمتوں سے نوازے اور اپنے اس پیار اور رضا کا انہیں وارث بنائے جو اس وقت تک انہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اسلام پر ایمان لا کر اپنی گردنوں کو قرآن کریم کے جوئے نیچے نہیں رکھ دیتے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور عقل عطا کرے اور وہ اپنی فلاح اور بہبود کو سمجھنے لگیں اور اللہ کو پہچاننے لگیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر عاشق ہو جائیں اس مبشر رویا کے ذریعہ جس ہستی نے ہمیں تسلی دلائی ہے وہ تمام قدرتوں کی مالک ہے۔

میں نے اپنے سفر کو اپنی اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا

اور اتنے رحمت کے نشان دکھائے کہ میری عقل تو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ کجا ہم عاجز بندے اور کجا اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور جب میں نے کہا کہ اثر ڈالے اور میرے وجود میں اور میری ہر حرکت اور سکون میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دے کہ وہ اس سے متاثر ہوں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ قریباً ہر ملک کے اخباروں نے نوٹ لکھنے سے پہلے بڑے ہی تعریفی کلمات میرے متعلق بھی لکھ دیئے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے پادریوں نے اور بڑے بڑے ماہرین علوم اور مستشرقین نے جو مجھ سے ملے، بڑے تعریفی کلمات انہوں نے کہے اور مجھے اونٹوں پر موتیں یاد آ گئیں اور میں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ دیکھا ہے جو خدا تعالیٰ انہیں دکھانا چاہتا تھا جیسا کہ اونٹوں پر موتیں دکھائی گئی تھیں اور وہ واقعہ یوں ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فوج یا مجاہد ایک طرف تھے اور کفار کا لشکر دوسری طرف۔ کفار نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ اندازہ لگائے کہ مسلمانوں کا کتنا بڑا لشکر ہے اور ان کے پیچھے کوئی ملک تو نہیں چھپی ہوئی چنانچہ وہ آیا اور اندازہ لگایا۔

واپس جا کر کفار کو اس نے یہ بتایا کہ میرے اندازے کے مطابق مسلمان تین سو کے لگ بھگ ہیں اور ملک بھی کوئی نہیں لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اونٹوں پر انسان نہیں موتوں کو سوار دیکھا ہے۔ اس لئے میرا مشورہ ہے کہ تم اس قوم سے جو موتیں ہیں انسان نہیں جنگ نہ کرو بلکہ واپس لوٹ جاؤ ورنہ شکست کھاؤ گے پس جس خدا نے اس شخص کو اونٹوں پر موتوں کا نظارہ دکھایا تھا۔ اس خدا نے ان لوگوں کو جو شخص دکھایا وہ میں نہیں تھا بلکہ وہ تھا جو خدا انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ غرض وہ تعریفی کلمات کہتے تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ مجھے اونٹوں پر موتیں یاد آ گئیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور تصرف تھا کہ میرے جیسے انسان کے متعلق جو نہایت ہی حقیر اور نالائق اور کم مایہ ہے اور عاجز ہے انہوں نے یہ کلمات کہے لیکن میں خوش تھا اس لئے نہیں کہ میری تعریف کی جا رہی ہے بلکہ اس رنگ میں وہ مجھے نہ دیکھتے تو میری باتوں کی طرف توجہ نہ کرتے اور ان کے اخبارات اس تعلیم کو شائع نہ کرتے جو میں چاہتا تھا کہ وہ شائع کریں اور ہمارا مقصد حاصل نہ ہوتا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ سامان پیدا کر دیئے کہ وہ اپنے اخباروں میں وہ کچھ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ دوسری صورت میں وہ ہرگز نہ لکھتے جو میں نے کہا اور انہوں نے لکھا اس کے چند نمونے میں دوستوں کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔

ہمارے اس سفر کے متعلق جو باتیں میں نے کہیں ان کے متعلق صرف اخباروں نے نہیں لکھا بلکہ ریڈیو نے بھی انٹرویو نشر کئے اور خبریں دیں اور ٹیلی ویژن والوں نے بھی ہم سے بڑا تعاون کیا بلکہ ان کے نمائندے وہ جو اب اچکتے تھے جو ہمارے لئے سب سے اچھے اور عیسائیت کے لئے سب سے خراب تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک نمائندہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس طرح اسلام کو پھیلانے گے؟ میں نے کہا تمہارے دلوں کو جیت کر۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ جواب ضرور لینا ہے حالانکہ یہ جواب ان کو نہیں لینا چاہئے تھا انہیں تو کوئی ایسی بات لینی چاہئے تھی جو غلطی سے میرے منہ سے نکل جاتی یا ایسے رنگ میں نکلتی کہ وہ اس کو غلط جامہ پہنا دیتے۔ بہر حال الہی تصرف تھا جو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔

ریڈیو والوں کے متعلق میں صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ لنڈن میں بغیر اطلاع کے بی بی سی کا نمائندہ آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھ سے تبادلہ خیالات کرو۔ پتہ نہیں تم کیا سوال لکھ لائے ہو۔ مجھے تو ان کا پہلے پتہ لگنا چاہئے تھا کہنے لگا نہیں نہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کاغذ پڑا ہوا ہے۔ اس پر میں نے بعض سوالات لکھے ہوئے ہیں میں بولتا جاؤں گا اور آپ جواب دیتے جائیں۔ ایک سینکڑ کے لئے میں ضرور گھبرا یا لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب پہلے مجھ سے سوال کئے گئے تھے تو میں نے کون سے جواب دیئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ جواب سکھاتا تھا اور میں دے دیتا تھا اب بھی وہ خدا اپنے کامل علم اور کامل قدرت کے ساتھ میری مدد کرے گا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا اچھی بات ہے تم سوال کرتے جاؤ اور میں جواب دیتا جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے کیا سوال کئے اور میں نے کیا جواب دیئے۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تین ہفتے متواتر بی بی سی نے اپنے ویلکی (ہفتہ وار) پروگرام آؤٹ لک (out look) میں براڈ کاسٹ کیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ بی بی سی ایک پروگرام کو ایک ہفتہ کے بعد دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ براڈ کاسٹ کرے اور ساری دنیا میں وہ آواز گونجی وہ آواز میری نہیں تھی بلکہ وہ آواز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تھی۔ پہلی دفعہ جب یہ انٹرویو براڈ کاسٹ ہوا تو ہم لنڈن ہی میں تھے۔ ۱۰ اور ۱۱ اگست کی درمیانی رات دو مختلف فری کوئیسز اور مختلف وقتوں میں وہ براڈ کاسٹ کیا گیا لیکن وہ ایک دن کا پروگرام تھا۔ پھر اگلے ہفتہ ہوا۔ پھر تیسرے ہفتہ یا ۲۳ اگست کو (غالباً ۲۳ تاریخ تھی) مولوی نذیر احمد صاحب علی کے لڑکے نے جو مغربی افریقہ

میں ہمارے ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ مجھے لکھا کہ ہمارے پاس فرقان آیا ہوا تھا اور میں اور میری بیوی سفر یورپ کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ کر ہمارے دل اس کی حمد سے معمور تھے۔ بے خیالی میں میں نے سوچا اون on کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ پروگرام سننے کے عادی تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ پروگرام کیا ہے لیکن عین اس وقت انا و نسر کہہ رہا تھا کہ ہیڈ آف دی احمدیہ کمیونٹی کا انٹرویو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کو شوق سے سنا اور دماغ میں خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے خود بخود اپنی طرف سے یہ سامان پیدا کر دیئے کہ آج جی بی سی کا پروگرام ساری دنیا کی فضاؤں میں اسی آواز کو پھیلا رہا ہے اور اس کی اشاعت کر رہا ہے اور ہمارے دل خدا تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہو گئے۔ بڑے جوش میں انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں کہ اگر ہم وہ خریدنا چاہتے تو پتہ نہیں اتنے وقت کے لئے وہ کتنے ہزار پاؤنڈ مانگتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تصرف ایسا کیا کہ جی بی سی کا نمائندہ آیا اپنی مرضی سے تھا بلکہ پہلے تو میں نے انکار ہی کر دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ وقت مقرر نہیں کیا تھا اس لئے میں تم سے نہیں ملتا لیکن بعد میں خیال آیا کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک موقع پیدا کر دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ چنانچہ نہ کرنے کے بعد (امام رفیق میری ”نہ“ لے کر کمرہ سے باہر چلے گئے تھے) میں نے ان کو پھر بلایا اور امام رفیق کو کہا کہ اس وقت میں ایک ملاقات کر رہا ہوں اس کے بعد وہ آجائیں غرض اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سامان پیدا کر رہا تھا۔

پہلے سوئٹزرلینڈ میں ٹیلی ویژن والوں نے انٹرویو لیا اور وہ اس ملک میں دکھایا گیا۔ پھر جرمنی میں فرینکفرٹ والوں نے انٹرویو لیا اور وہ اس ملک میں دکھایا گیا اور وہاں جو واقف لوگ تھے ان سے پوچھ کر یہ اندازہ لگایا کہ ٹیلی ویژن کی اس خبر کو فرینکفرٹ اور اس صوبہ کے ساٹھ لاکھ آدمیوں نے دیکھا ہے جہاں وہ ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے۔

ساٹھ لاکھ آدمیوں کا ہمارا کم سے کم اندازہ ہے اس علاقہ میں جہاں وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن خبریں دیتا ہے اندازاً ایک کروڑ اور سو کروڑ کے درمیان ٹیلی ویژن سیٹ ہیں ہم نے خیال کیا کہ شاید چالیس فیصدی نے یہ پروگرام نہ دیکھا ہو گا و جکل تو ویسے ہی ٹیلی ویژن کا جنون ہے لیکن کوئی شخص باہر گیا ہوتا

ہے یا کوئی اور عذر ہوتا ہے مگر ساٹھ فیصدی لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔

اس طرح ہمارا اندازہ ہے کہ ساٹھ لاکھ آدمیوں نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا پھر ہم کو پن ہیگن گئے تو وہاں دو ایجنسیز یعنی دو کمپنیوں نے تصویریں لیں۔ ایک انٹرنیشنل ٹی وی تھی اور ایک ڈینش ٹی وی تھی۔ یہ تصویریں پہلے ڈنمارک کے ملک میں دکھائی گئیں وہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے انہیں دیکھا لیکن انٹرنیشنل ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ کو پن ہیگن کی مسجد کی ٹی وی ہم سے باہر کے ملکوں نے بھی لی ہے۔ جن میں سے صرف چند ایک کا ہمیں پتہ لگ سکا ہے مثلاً وہ ڈنمارک میں دکھائی گئی ہے۔ نائیجیریا میں دکھائی گئی ہے گھانا میں دکھائی گئی ہے۔ کویت میں دکھائی گئی ہے مراکش میں دکھائی گئی ہے۔ مصر میں دکھائی گئی ہے اور جرمن کے سارے ٹی وی اسٹیشنوں نے اسے دکھایا ہے۔ سیرالیون میں بھی یہ دکھائی گئی ہے اور سعودی عرب نے اس کو دو دفعہ دکھایا ہے اور مشرق وسطیٰ کے اور بہت سارے ملکوں نے بھی دکھایا ہے گو یہ ہمارا قیاس ہے معین ناموں کا مجھے پتہ نہیں اس لئے میں وہ نام نہیں لیتا۔ مصر کا نام امام کمال یوسف کے خط میں ہے کہ وہاں بھی یہ دکھائی گئی ہے اور مراکش کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ تصویریں نہیں دکھائی گئی لیکن جو الفاظ ریل کے تھے۔ مثلاً میری تلاوت تھی اور بہت سارے دوسرے فقرے تھے وہ اس کے اوپر آگئے ہیں۔ اس طرح وہ مراکش میں بھی دکھائی گئی ہے ہمارے بعض آدمیوں نے جو نائیجیریا سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی کروڑ آدمیوں نے نائیجیریا میں یہ ٹی وی دیکھی ہے۔ جرمنی کے اسٹیشن پر دکھائی گئی تو وہاں بھی کئی کروڑ آدمیوں نے اسے دیکھا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کر دیا کہ جو مختصر ہی سہی لیکن ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچے اور انہوں نے ایک شکل دیکھ لی جو اپنے ملک سے سفر کر کے صرف اس مقصد سے ان ملکوں میں گیا تھا کہ اسلام کے ساتھ ان کا تعارف کرائے اور انہیں پوری وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی مداہنت کے یہ بات پہنچا دے کہ آج ہلاکت سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے اور وہ راہ اسلام کا بتایا ہوا صراط مستقیم ہے۔ غرض کروڑ ہا آدمیوں نے اس شکل کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔

ضمناً اس ٹی وی کے نتیجے میں پاکستان کی عزت بھی بہت بڑھی کیونکہ سعودی عرب اور کویت اور مصر اور دوسرے مشرق وسطیٰ کے ملکوں نے افتتاح مسجد ڈنمارک کی یہ تصویریں ٹی وی پر اس اعلان کے ساتھ دکھائیں کہ پاکستان یورپ میں بڑی تبلیغ کر رہا ہے اور مساجد بنا رہا ہے اور ایک

مسجد یہ بھی ہے جو ڈنمارک میں انہوں نے بنائی ہے۔ غرض اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی خدمت کی بھی توفیق دے دی۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک اور انگلستان کے اخبارات نے بڑی کثرت سے نوٹ لکھے اور بڑی کثرت سے تصاویر شائع کیں اور اخباروں نے میری وہ بات جو میں انہیں پہنچانا چاہتا تھا میرے الفاظ میں شائع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تلے آ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ خدا کی شان ہے کہ جو تراشے اس وقت تک ہمارے پاس آچکے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ ۱۱۳۶ اخبارات نے ہماری تصاویر اور خبروں کو بڑی نمایاں جگہ دی ہے بعض اخباروں نے پورا ایک صفحہ دیا ہے۔ اس طرح ڈنمارک سے ۱۸۲ تراشے آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سو کے قریب ایسے ہیں جنہوں نے نصف صفحہ پوناصفحہ یا پورا صفحہ کے نوٹ دیئے ہیں۔ ایڈیٹوریل لکھے ہیں۔

وہاں ایک چرچ لیٹن شائع ہوئی۔ اس میں ایک پادری نے مسجد کے افتتاح کی تقریب کے متعلق اپنے مطلب کا ایک نوٹ دیا ہے اور اس نے اس کو شروع اس طرح کیا ہے کہ وہ ڈنمارک کے ایک باشندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ آریو اے مسلم وڈ آؤٹ نوٹنگ اٹ (Are you a muslim without knowing it) یعنی تم مسلمان ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ تم مسلمان ہو اور آگے لکھا ہے کہ ڈنمارک کے رہنے والوں کے عقائد بالکل مسلمانوں والے ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جیسے پانی کے دو قطروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا (وہ اتنے آئی ڈنٹی کل (Identical) ہیں کہ لائیک ٹو ڈراپس آف واٹر (like two drops of water) اور پھر آگے رونا رویا ہے کہ یہ کوئی عیسائیت نہیں اور پھر اس نے یہ فرق بتایا ہے کہ یہ مسیح کو رسول کہتے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا تھا اس کو خدا نہیں مانتے اور یہ کہ وہ مر گیا تھا اور اس کے بعد اور رسول بھی آئے ہیں۔ اور یہ تو عیسائیت نہیں، عیسائیت تو یہ ہے کہ خدا خود نازل ہوا اور ایک انسانی جسم میں اس نے حلول کیا۔ غرض اس نے اپنے سب پرانے عقائد کا ذکر کیا ہے جن کو وہ خود چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بہر حال وہاں کے اخبارات نے بڑی بڑی تصاویر بھی دی ہیں اور نوٹ بھی لکھے ہیں پھر میں نے سوچا جس طرح میں نے کہا میں نے ایک تقریر میں بیان بھی کیا تھا کہ اگر ۱۱۳۶ نہیں ایک کروڑ چھتیس لاکھ اخبار بھی لکھتا لیکن لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو ان کا

لکھنا نہ لکھنا برابر ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ دلوں اور آنکھوں پر ایسا تصرف کیا کہ جو یہ اخبارات لکھ رہے تھے۔ پڑھنے والے اس کو پڑھ رہے تھے اور اس کا ہمیں اس طرح پتہ لگتا تھا کہ جب کبھی تھوڑا بہت وقت ملتا تھا اور ہم بازار جاتے تو کوئی شخص بھی ہمیں ایسا نظر نہ آتا تھا جو ہمیں پہچانتا نہ ہو۔ سوئزر لینڈ میں باہر جانے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا۔ ہالینڈ میں بھی نہیں ہوا۔ لیکن جہاں ہم باہر گئے ہیں وہاں جو لوگ ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہماری طرف دیکھنے لگ جاتے تھے وہ ہمیں پہچانتے تھے۔ دکانوں پر جاتے تو وہ سودا بعد میں دکھاتے تھے پہلے ہماری وہ تصویر ہمارے سامنے رکھ دیتے جو اخبار میں چھپی ہوئی ہوتی تھی اور اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔

ڈنمارک میں جب کہ میں نے ایک دن عورتوں کی تقریر میں بتایا تھا۔ ایک دن میں نے سب کی دعوت کی اور میں ان سب کو پکنک پر لے گیا۔ تاہم کچھ دیر تک اکٹھے بیٹھ سکیں اور باتیں کر سکیں۔ کیونکہ وہ سب لوگ (یعنی مقامی احمدی اور باہر سے آئے ہوئے احمدی بھی) بہت مصروف رہے تھے۔ وہاں خلیفہ کو خلیفین کہتے ہیں۔ جو آدمی بھی بلا استثناء ہمارے پاس سے گذرتا تھا اور چند قدم آگے جا کر وہ اپنے ساتھی سے بات کرتا تھا تو یہ خلیفین کا لفظ ضرور بولتا تھا۔ ہمارے دوستوں کو ان کی زبان تو آتی نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ لفظ سن کر کہتے کہ ہم نے اس سے یہ لفظ سنا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ جو خبریں اخبارات میں شائع ہوں وہ لوگ پڑھیں اور پھر ان خبروں کا ان پر اثر بھی ہو۔ دیر بہت ہو گئی ہے مختصراً میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام کمال یوسف نے لکھا ہے کہ

”اب دورے کے بعد حکومت کے تمام ان اداروں میں جہاں وہ سکول کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں جماعت احمدیہ ایک ضروری مضمون قرار دے دیا گیا ہے۔“

یعنی اب وہاں ہر ایک کو یہ مضمون پڑھنا پڑے گا۔ جانے سے پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی۔ جس میں بعض فقرے یہ بھی تھے کہ میرے دل میں درد ہے کہ دنیا کے لئے ایک ہولناک تباہی مقدر ہے اور دنیا کی قومیں اس سے بے خبر ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ ان کے لئے ایک عظیم تباہی مقدر ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ اس راستہ کو اختیار کریں جس پر چل کر وہ اس تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اور وہ راستہ یہی ہے کہ وہ اسلام کی عافیت بخش آغوش میں آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں

داخل ہوں اور پاک دل اور پاک ارادہ ہو کر آستانہ الوہیت پر گریں اور خدا کی امان کے نیچے جمع ہوں۔ وہاں جا کر جو باتیں میں نے ان کو کہیں اور جن پر اخباروں نے نوٹ لکھے۔ وہ اخباروں ہی کی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں۔

سوئٹزر لینڈ کے ایک اخبار نے لکھا کہ میں نے ان کو بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ پیشگوئی ہے کہ روس جس کا یہ اعلان ہے کہ وہ خدا کا نام صفحہ زمین سے مٹا دے گا بلا خر حق کی طرف رجوع کرے گا اور وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی اور دنیا کے محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگے گی۔ گو آج یہ بات ناممکن نظر آتی ہے لیکن میرا دل اسے سچا سمجھنے پر مجبور ہے کیونکہ ایسی ہی ناممکن نظر آنے والی باتیں پہلے بھی بتائی گئی تھیں اور وہ پوری ہو گئیں۔

ایک اخبار ہٹ فادر لائنڈ (Het vader land) نے جو نوٹ دیا ہے اس میں ایک فقرہ یہ بھی لکھا کہ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ

”میرے نزدیک دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہی ہوگا“

اسی طرح سوئٹزر لینڈ کا ایک بہت بڑا اخبار ہے اور وہ بڑا ہی متعصب اخبار ہے اور وہ کبھی بھی اسلام کے حق میں نہیں لکھتا تھا بلکہ ہمیشہ اسلام کے خلاف لکھتا تھا۔ اور جب کبھی ہمارے امام مشتاق احمد ان کو جو باطل لکھتے تو وہ اسے شائع نہیں کرتا تھا۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو ان کا خیال تھا کہ غالباً وہ ہماری پریس کانفرنس میں نہیں آئے گا اور کوئی نوٹ بھی نہیں لکھے گا۔ لیکن پریس کانفرنس میں ان کا ایک نمائندہ آیا اس نے مجھ سے پریس کانفرنس میں بھی باتیں کیں اور بعد میں مجھ سے قریباً پندرہ بیس منٹ باتیں کرتا رہا۔ وہ اپنے ساتھ ایک سٹیوگرافر (شارٹ ہینڈ کی ماہر) جو سوئٹزر لینڈ کی رہنے والی ایک نوجوان عورت تھی لے کر آیا تھا۔ بعد میں جب اخبار آئی تو پتہ لگا کہ وہ ایک ایک لفظ نوٹ کرتی چلی جاتی تھی بات نہیں کرتی تھی۔ بات مرد نمائندہ ہی کرتا تھا۔ بیس منٹ کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب ایک سوال باقی ہے۔ اس کا جواب مجھے چاہئے میں نے کہا پوچھو کہنے لگا کہ بانی سلسلہ احمدیہ کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ میں تمہیں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے الفاظ میں ہی بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غرض سے مبعوث کیا ہے کہ میں

دلائل کے ساتھ اس صلیب کو توڑ دوں جس نے مسیح کی ہڈیوں کو توڑا اور آپ کے جسم کو زخمی کیا تھا۔ اس بات کا اس کی طبیعت پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگا مجھے حوالہ دکھاؤ۔ یہ بھی ان کی عادت ہے کہ کسی اور کی طرف بات منسوب کرنی ہو تو آپ کے پاس حوالہ ہونا چاہئے۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ واقعی اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصرف ایسا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کچھ حوالے لے گئے تھے ان میں یہ حوالہ بھی تھا اور اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کو وہ حوالہ دکھایا۔ کہنے لگا میں اسے نقل کرتا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور نقل کرو۔ بعد میں اس اخبار نے جو اسلام کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں لکھتا تھا اس نے اپنا ایک پورا کالم اس اثر ویو پر لکھا اور اس کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ اقتباس نقل کیا جو وہ لکھ کر لے گیا تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس غرض کے لئے مبعوث کیا ہے۔ اور میں گو اس کے اتنا لمبا لکھنے پر بھی خوش تھا لیکن خوشی مجھے اس بات سے ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک فقرہ اس اخبار نے نقل کر دیا ہے۔

اس اخبار نے جو نوٹ دیا اس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ احمدیت اسلام کی ایک اصلاحی تحریک ہے اور اس کا نصب العین دنیا کو قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کی طرف واپس لانا ہے اور دنیا کو گذشتہ صدیوں کی بدعات اور غیر یقینی روایات سے پاک کرنا ہے۔ اور اس جماعت کے بانی نے خدا کی وحی کے مطابق مسیحیت کا مقابلہ جاری رکھا اور اس برصغیر (اس ملک) میں جہاں مسیحی ممالک کی فوجوں اور پادریوں کی مدد سے نوآبادیاں قائم کی گئیں اور مسیحیت کا پرچار کیا گیا۔ آپ کی طرف سے مسیحیت کا یہ مقابلہ کیا تعجب انگیز نہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف میں اپنے آپ کو مسیح قرار دیا ہے جسے خدا نے اس لئے مبعوث کیا تاکہ وہ دلائل اور روحانی اصلاح کے ذریعہ اس صلیب کو توڑے جس نے مسیح کی ہڈیوں کو توڑا تھا۔

ہیگ کے ایک دوسرے اخبار نے لکھا کہ ایک سوال کے جواب میں میں نے ان کو یہ بتایا کہ ”احمدیت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ لوگ اپنے خالق سے زندہ تعلق پیدا کریں کیونکہ اس کے بغیر زندگی بالکل بے ثمر ہے۔ اس تعلق کے بغیر ایک انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے ایک حیوان یا کیڑے کی۔ جس کی زندگی کوئی زندگی نہیں کہلا سکتی۔“

پھر ہیگ کے ایک اور کثیر الاشاعت اخبار نے یہ لکھا کہ میں نے مغربی ممالک کو یہ بتایا ہے کہ ”میرا ایمان ہے کہ اسلام ہی مغربی ممالک کے لئے مستقبل کا مذہب ہے اگر اہل مغرب نے اپنے خالق حقیقی کو نہ پہچانا تو وہ تباہ ہو جائیں گے۔“

اس قسم کے بیسیوں حوالے ہیں اور میں نے بتایا ہے کہ ۱۱۳۶ اخباروں نے بڑے نمایاں طور پر ہماری باتوں کو شائع کیا ہے اور سرخیاں بھی نمایاں دیں۔ بعض نے تو پورے صفحہ کی سرخی دے کر نوٹ دیئے اور تصویریں بھی بڑی نمایاں دیں۔ ایڈیٹوریل لکھے (درجنوں کی تعداد میں ایڈیٹوریل لکھے گئے) ڈنمارک جہاں مسجد کا افتتاح ہوا ہے وہاں سب سے زیادہ عیسائی گھبرائے ہیں جب کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک پادری نے چرچ بلیٹن میں ہی لکھ دیا کہ تم بغیر جانتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہو۔ اصل میں تمہارے خیالات بدل گئے ہیں۔ تمہارے خیالات عیسائیوں والے نہیں رہے۔ ہمارے خلاف بھی جو لکھا جاتا ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ ایک اخبار نے لکھا۔

”اس موجودہ وقت میں اللہ اور اس کے رسول کو یہاں پیرو حاصل کرنے میں بہت وقت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔“

ایک اخبار کہتا ہے کہ لوگوں کے خیالات مسلمانوں والے ہو گئے ہیں اور دوسرا اخبار کہتا ہے کہ ان کو پیر نہیں ملیں گے۔ اب آؤ سنو تیسرا کیا کہتا ہے۔ تیسرا اخبار کہتا ہے کہ۔

”یہ امر محتاج بیان نہیں کہ ڈنمارک میں بڑی تیزی سے مسلمانوں کی ایک جماعت معرض وجود میں آ چکی ہے اور جس رفتار سے مسجد کی تعمیر عمل میں آئی ہے وہ اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ڈنمارک کی مسلم تحریک کے پیچھے پر عزم اور فعال دماغ کار فرما ہے۔“

آگے جا کر وہ لکھتا ہے کہ جو کچھ واقع ہو گیا ہے۔ یعنی مسجد کی تعمیر اور وہاں سے اذان کا بلند ہونا اور تبلیغ ہونا اور لوگوں کا مسلمان ہوتے چلے جانا یہ واقعہ اس نوعیت کا ہے کہ

”کلیسا اس موقف کا سہارا نہیں لے سکتا کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں“

پھر ایک اخبار نے لکھا ہے کہ میں نے مغربی ممالک کو بتایا کہ

اگر کسی کو اسلام کے پھیلنے کے ضمن میں یہ فکر ہے کہ اس غرض کے لئے گولیاں چلیں گی اور تلوار استعمال ہوگی تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ سب ہتھیار اور اٹیم بم وغیرہ کسی شخص کے خیال کو بدلنے کیلئے

بالکل بیکار ہیں۔ اگر ایک شخص میں کوئی حقیقی تبدیلی آسکتی ہے تو وہ صرف دل ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔

سوئٹزرلینڈ کے دوسرے اخبار نے لکھا کہ میں نے انہیں بتایا کہ

اسلام دنیا میں جنگ جاری کرنے کے لئے نہیں بلکہ جنگوں کو روکنے کے لئے آیا ہے۔ اسلام کو طاقت کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اسلام کو دو غیر مادی ہتھیار ایسے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں کہ ان کا مقابلہ مادی طاقت نہیں کر سکتی۔ ایک دلائل کا ہتھیار اور ایک آسمانی نشانوں کا ہتھیار۔ جماعت کے بانی کے ذریعہ دنیا نے ہزاروں نشان دیکھے ہیں اور ہزاروں نشانوں کی پیشگوئی کی گئی ہے جو ابھی پورے نہیں ہوئے۔

ہمبرگ کے ایک اخبار نے لکھا کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام کو کیسے پھیلائیں گے تو میں نے جواب دیا۔

”جرمن قوم کے قلوب کو فتح کرنے سے اور یہ حقیقت ہے کہ دلوں کو تبھی فتح کیا جاسکتا ہے جب انہیں اسلام کی خوبیوں سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے۔“

زیورک کے ایک اخبار نے میری باتوں سے متاثر ہو کر لکھا کہ ہم دنیا کی بہتری کے خیال سے امید رکھتے ہیں کہ ایسی امن پسند قوتوں کی آواز جہاں بھی بلند ہوگی سنی جائے گی۔

فرینکفرٹ میں میں نے ان سے جو باتیں کیں وہ یہ تھیں کہ صرف اور صرف اسلام ہی کا خدا زندہ خدا ہے اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے زندہ رسول ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ خدا کے مظہر اور زندہ نشان ہیں اور میں ان کا نمائندے اور جانشین کی حیثیت سے دعوت مقابلہ دیتا ہوں۔ اگر کسی عیسائی کو بھی دعویٰ ہے کہ اس کا خدا زندہ خدا ہے تو وہ میرے ساتھ قبولیت دعا میں مقابلہ کرے اگر وہ جیت جائے گا تو ایک گراں قدر انعام حاصل کرے۔

اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو چیلنج میں نے ان بارہ پادریوں اور مستشرقین کی جماعت کو دیئے جو ڈنمارک میں مجھے ملنے کے لئے آئے تھے اور ڈیڑھ گھنٹے تک ان کی مجھ سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مذہب کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور مذہب کے معاملہ میں جو دل سے تعلق رکھتا ہے۔ مادی طاقت کا استعمال اتنی بڑی حماقت ہے کہ

اس سے زیادہ اور کوئی حماقت نہیں ہو سکتی پس ہمیں آپس میں سر جوڑ کر تبادلہ خیالات کرنا چاہئے اور امن کی فضا میں معلوم کرنا چاہئے اور ثابت کرنا چاہئے کہ عیسائیت سچا مذہب ہے یا اسلام۔ اور اس کے لئے میں بانی سلسلہ احمدیہ کے یہ دو دعوت ہائے مقابلہ تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہوں اور میں ان کے نمائندہ اور خلیفہ ہونے کی حیثیت میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

ایک یہ کہ سورۃ فاتحہ کے مضامین کے ساتھ اپنی تمام الہامی کتابوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ اپنے مضامین روحانی کے لحاظ سے کون بلند اور اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ایک تفصیل ہے وہ تفصیلی چیلنج میں نے ان کو دیا۔ اور دوسرے یہ کہ ہر روز صبح جب تم اٹھتے ہو کوئی نہ کوئی بیہودہ اعتراض اسلام پر کر دیتے ہو۔ اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہو تو مشکل پیش آئے گی۔ کیونکہ تم اتنی کثرت سے اعتراض کرتے ہو کہ ایک زندگی میں ان کا جواب ہی نہیں دیا جاسکتا کئی زندگیاں ہوں تب جواب ممکن ہے۔ پھر فیصلہ کیسے ہوگا کس کی زندگی میں ہوگا۔ ایک آسان طریق میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے نزدیک جو سب سے اہم دو یا تین اعتراض اسلام پر ہوں کہ باقی اعتراضوں کے مقابلہ میں ایسے ہوں کہ ان کی وہ حیثیت ہو جو ایک پہاڑ کی ہوتی ہے ایک ذرہ کے مقابلہ میں۔ تم وہ میرے سامنے پیش کرو اور اگر میں ان اعتراضات کو غلط ثابت کر دوں اور ان جگہوں سے جن پر تم نے اعتراض کیا ہے روحانی مضامین نکال کے پیش کر دوں اور اس کے مقابلہ میں وہ تعلیم جو تم پیش کر رہے ہو اس کا نقص ثابت کر دوں تو باقی اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ جن اعتراضوں کو خود تمہارے نزدیک اتنی اہمیت حاصل ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اور اس طرح کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ ان پادریوں اور مستشرقین میں سے ایک بولنے لگا تو میں نے کہا ابھی نہیں تم مجھ سے ملنے سے قبل کئی گھنٹے اور کئی دن آپس میں ملتے رہے ہو۔ تم نے بڑے مشورے کرنے کے بعد وہ سوالات تیار کئے ہیں جو مجھ پر کرنے تھے۔ تم پورے تیار ہو کر آئے ہو مجھے ان کے لیڈر نے بتایا کہ ہم نے کئی دن میٹنگیں کیں، کئی گھنٹے سر جوڑا اور فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے یہ سوالات کریں گے۔ اس نے ایک کا پی کھول کر دکھائی۔ وہ سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ گویا جہاں تک سوالات کی بات ہے وہ روشنی میں تھے لیکن میں اندھیرے میں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تب میرا وہ خدا جس پر ایک انسان کو کامل توکل کرنا چاہئے میری مدد کو آیا اور اس نے ایسے جواب مجھے سکھائے کہ وہ ساکت ہو جاتے تھے

اور اپنے سوالوں کو آگے نہیں چلا سکتے تھے۔

جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ ایک ترکیب سوچی کہ جماعت احمدیہ سے ڈنمارک کے عوام کو متنفر کرنے کا یہ طریق ہے کہ ڈنمارک کے عوام پوپ سے نفرت کرتے ہیں اور ایک آدمی کی قیادت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم کسی طرح اس شخص کے منہ سے نکلوا دیں کہ اس کی حیثیت پوپ کی حیثیت سے ملتی جلتی ہے۔ تو وہ خود بخود اپنی عادت اور فطرت کے مطابق احمدیت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ مقصد سامنے رکھ کر انہوں نے سوالات تیار کئے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ ان میں سے ایک آتے ہی مجھے پوچھنے لگا کہ جماعت احمدیہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا، کہ یہ سوال نہ کبھی سامنے آیا اور نہ کبھی اس کا جواب سوچا اسی وقت خدا نے کہا کہ انہیں جواب دو کہ تمہارا سوال غلط ہے اس لئے کہ میرے نزدیک جماعت احمدیہ اور میں ایک ہی وجود کا نام ہے اور جب وجود ہی ایک ہے تو اس وجود میں میرے مقام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا جواب مل گیا ہے۔ کہنے لگا (انہوں نے پرسسٹ persist کیا) اصرار کیا کہ کسی طرح میرے منہ سے کوئی بات نکلوائیں۔ چنانچہ دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا یہ صحیح نہیں کہ جماعت احمدیہ پر یہ فرض ہے کہ وہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ میں نے کہا بالکل فرض نہیں جماعت احمدیہ پر یہ فرض ہے کہ وہ میرے معروف احکام کی اطاعت کرے ہر حکم کی اطاعت ان پر فرض نہیں (آپ سے ان الفاظ میں بیعت لی جاتی ہے کہ جو نیک کام آپ بتائیں گے میں آپ کی اس میں کامل فرماں برداری کروں گا۔ غرض میں نے کہا تم نے جو فقرہ کہا ہے وہ درست نہیں۔ جو نیک کام میں بتانا ہوں اس کی اطاعت ان پر فرض ہے پھر اس نے غلط نتیجہ نکالا اور تیسرا سوال یہ کر دیا کہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جو مقام پوپ کا ہے وہی آپ کا ہے۔ اس سے مجھے پتہ لگا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں میں پابند ہوں قرآن کریم کے احکام کا میں پابند ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اور پوپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لئے ہم دونوں کے مقام مختلف ہیں تب اس کو سمجھ آئی کہ یہاں دال گلتی نہیں۔ میں نے کیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے جواب بتا دیا مجھے اس بات سے لطف آ رہا تھا کہ میرے دماغ میں جواب آ جاتا تھا اور میں جواب

دے دیتا تھا یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ حوالے نکالے ہوئے ہیں یا پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے۔ وہاں اس بات کا سوال ہی نہیں تھا۔ غرض وہ سوال کرتے چلے گئے اور خاموش ہوتے گئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ ہمارے دورہ سے پہلے تین بیعتیں ہوئی تھیں دورہ کے بعد اس وقت تک تیرہ چودہ بیعتیں ہو چکی ہیں اور ان میں ایک کیتھولک بھی ہے جو اپنے مذہب میں بڑے متعصب ہوتے ہیں اور ان میں وہ ہماری نوجوان مخلص طالبہ بھی ہے جو سویڈن کی رہنے والی ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی۔ ایک دن ہم کو پن ہیگن سے باہر گئے۔ (میں وہاں کے احمدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا) اس دن جب ہم واپس آئے تو مجھے پتہ لگا کہ مشن ہاؤس میں ہمارے امام کے گھر میں (ہم بھی وہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے) یونیورسٹی کی ایک نوجوان طالبہ دوسرے ملک (سویڈن) سے آئی ہوئی ہے اور دو چار گھنٹے سے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ (اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم وہاں نہیں باہر گئے ہوئے ہیں) اور کہتی ہے کہ میں نے آج ہی واپس چلی جانا ہے اور جانا بھی مسلمان ہو کر ہے۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور کیا اسے کسی نے تبلیغ کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا پتہ تو کرو یہ کون ہے۔ میں اس سے نہیں ملا چنانچہ ناروے کے رہنے والے ہمارے آنریری مبلغ اس کے پاس گئے اور ایک گھنٹہ تک اس سے باتیں کرتے رہے اور آخر اس کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ تم نے ابھی اسلام کے متعلق کچھ پڑھا نہیں اس لئے ابھی بیعت نہ کرو، اسلام میں داخل نہ ہو، یہاں سے کتابیں ساتھ لے جاؤ ان کو پڑھو پھر اسلام میں داخل ہونا۔ وہ گھنٹہ بھر کی گفتگو سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی مجھے ان سے ملاؤ۔ خیر میں نے اسے اندر بلا لیا دوسرے دوست اور مبلغ بھی اس کے ساتھ آ گئے مجھ سے آتے ہی وہ کہنے لگی کہ کیا اسلام میں اور احمدیت میں کوئی فرق ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ کہنے لگی پھر میری بیعت لے لو۔ میں نے اسی وقت بیعت فارم منگوا یا اور اس کی بیعت لی اور اس کا نام قانتہ رکھا۔ اس کے بعد وہ چند کتابیں لے کر چلی گئی۔ ابھی چند دن ہوئے امام کمال یوسف کا خط آیا کہ وہ قانتہ جس نے آپ کے سفر کے دوران بیعت کی تھی وہ کرسس کی چھٹیوں میں گھر نہیں گئی بلکہ وہ دوسرے ملک میں ہمارے مشن ہاؤس میں آ گئی ہے اور روزے پورے رکھ رہی ہے اور سارا وقت دعا میں منہمک رہتی ہے۔ اس کو اس حد تک انہماک ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی ڈاکٹر نے ایک دن سارے احمدیوں کی

دعوت کی (روزہ کھولنے کے بعد یا روزہ کی افطاری کے وقت) امام کمال یوسف لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تم بھی وہاں جانا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی کچھ دن دعوت میں باقی تھے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن جس دن جانا تھا میں نے اس سے جانے کے لئے اصرار کیا اور کہا اس شخص نے دعوت کی ہے اور تمہیں دعوت قبول کرنی چاہئے وہ کہنے لگی یہ دن کب کسی شخص کو نصیب ہوئے ہیں۔ مسجد میں دعائیں کرنے کے مجھے اس کا موقع ملا ہے اس لئے میں تو اپنا ایک منٹ بھی مسجد سے باہر خرچ کرنا نہیں چاہتی۔ اب دیکھ لو وہ چند مہینوں کی ایک نو مسلمہ تھی اور پھر نوجوان تھی اور گندے ماحول میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں اس نے پرورش پائی تھی۔ پھر یونیورسٹی کی طالبہ تھی یہاں کی بچیاں باہر جا کر مغربی تہذیب کا اثر لے لیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان قوموں میں ایسے آدمی پیدا کر رہے ہیں کہ جن کے دلوں کو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان کا پرانا خون نچوڑ دیتے ہیں اور اسلام کا نیا خون ان میں بھر دیتے ہیں۔

باتیں اور بھی بہت سی تھیں لیکن وقت بہت ہو گیا۔ ایک عظیم معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے اوپر ہی میں آج کی تقریر ختم کروں گا۔ ہم وہاں گئے اور اس ملک اور دوسرے بعض ممالک کا دورہ کیا اور واپس آ گئے۔ میں ۲۱ اگست کو کراچی پہنچا ہوں۔ اکتوبر میں عبدالسلام صاحب میڈیسن نے جوڈنمارک میں ہمارے آنریری مبلغ ہیں مجھے خط لکھا کہ آپ ایک انداز ان کے سامنے پیش کر گئے تھے۔ اب ایک چین ری ایکشن (Chain reaction) ایک سلسلہ اندازوں کا شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک شخص جس کا نام رچرڈ گریو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمان کے خدا نے مجھے وحی کے ذریعہ یہ بتایا ہے کہ کرمس کے دن تک دنیا تھر مونو کلیٹر جنگ میں کلیئ تباہ ہو جائے گی اور وہی لوگ بچیں گے جو میرے گرد جمع ہو جائیں گے اور آسمان کے خدا کی اس آواز پر لبیک کہیں گے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اس نے یونیورسل لنک کے نام سے یہ تحریک شروع کی ہے اور یہاں ڈنمارک میں بھی اشتہاروں کے ذریعہ اس یونیورسل لنک کا پروپیگنڈا اور تبلیغ کی گئی ہے۔ اور جس وقت انہوں نے یہ بات لکھی تھی اس وقت ان کے علم کے مطابق چالیس آدمی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور وہاں غالباً ایک سکول ٹیچر اس کا نمائندہ تھا۔ اس نے لوگوں سے پیسے بھی لئے اور تھر مونو کلیٹر جنگ سے بچنے کے لئے ایک تہ خانہ بھی پولیس کی اجازت کے بغیر بنایا بلکہ ان کے

منع کرنے کے باوجود بنایا۔ اس تہہ خانہ کی جو چھت تھی وہ سکہ کی بنائی تاکہ اس پر کوئی اثر نہ ہو اور ان کو یقین تھا کہ اگر کرسس سے پہلے نہیں تو کرسس کے دن ضرور دنیا تباہ ہو جائے گی اور ڈنمارک میں وہی لوگ بچیں گے جو اس تہہ خانے میں آ کر جمع ہو جائیں گے۔ جب میرے پاس ان کا خط آیا تو ۱۹ اکتوبر کو میں نے انہیں جو خط لکھا اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو یہ ہے۔

”آپ کے خط محررہ ۳۰ ستمبر کا شکریہ۔ مسٹر چرڈ گریو آف بلیک پول کا دعویٰ بے معنی ہے البتہ دلچسپ ضرور ہے اور ان یورپیوں کے لئے جو روحانی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں آنکھیں کھولنے کا موجب ہوگا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا تین مہینے کے اندر اندر جو ہری جنگ کے ذریعہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی اس سے ہمیں اتنا موقع تو ضرور ملا ہے کہ ہم اہل یورپ تک بالخصوص اور ساری دنیا تک بالعموم اسلام کے پیغام اور ان اسلامی پیش گوئیوں کو جو موجودہ زمانہ سے متعلق ہیں پہنچانے کی کوشش کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ پیشگوئیاں من و عن پوری ہو کر رہیں گی۔ یہ تین مہینے کی میعاد (جو کرسس کے دن ختم ہونی تھی جو مسٹر چرڈ گریو نے مقرر کی ہے) ۲۵ دسمبر کو ختم ہو جائے گی۔ آپ ہر ممکن ذریعہ سے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچادیں کہ مسٹر گریو اور اس کے ساتھی انتظار ہی کرتے رہیں گے اور ان کی پیش گوئی جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ آج دنیا کے مختلف مقامات میں جنگ کا امکانی خطرہ ضرور موجود ہے عین ممکن ہے کہ مقامی اور محدود قسم کے انقلابات یا حادثات رونما ہوں لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا کہ دنیا ان تین مہینوں میں جو ہری جنگ کے ذریعہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ جو بنیادی طور پر امن اور آشتی کا زمانہ ہے۔ دراصل مسٹر گریو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اس نے نہیں کہی۔ یہ دعویٰ بیہودہ اور بے معنی ہے۔“

اس کے بعد میں نے انہیں لکھا کہ ”اب میری تقریر (لنڈن والی) پیغام امن کا ترجمہ ہو چکا ہے ضروری ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ دنیا کی نجات اور بقاء کا کلی دار و مدار اس پیغام میں مضمر ہے۔ مسٹر گریو کا دعویٰ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ باطل ہے اور اپنی میعاد تک باطل ہی رہے گا۔ ان کے جھوٹے اور خود ساختہ معبودان کی ہرگز مدد کو نہیں آئیں گے نہ ہی یونیورسل لنک انہیں بچا سکے گا۔ ان کے لئے اب ایک ہی امید اور جائے پناہ رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے خدا کے آستانہ پر آ کر سر بسجود ہو جائیں۔ یہ خدا ایسا خدا ہے کہ جس کے حسن، عظمت اور قدرت کا اعلان تمام

نبیوں کے سر تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال قبل فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے۔“
امام کمال یوسف ۲۱ رمضان کو لکھتے ہیں۔

”چند دنوں سے اس شہر میں (بروک شاید اس کا نام ہے جہاں ان لوگوں نے تہ خانہ بنوایا تھا) ایک استاد جنہوں نے آسمان کے خدا سے وحی پا کر کرمس کی شام کو ساری دنیا کی ایٹمی جنگ کی تباہی کی زد میں آنے کی پیشگوئی کی تھی کا بعض اخبارات میں خوب چرچا رہا (اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیئے کہ ان کی پیش گوئی کا چرچا عین اس وقت ہو گیا جب وہ باطل ہونی تھی) ایٹمی جنگ سے بچاؤ کے لئے انہوں نے پولیس سے اجازت کے بغیر حفاظتی تہ خانے بھی تیار کروائے۔ تہ خانوں کی تصاویر بھی اخبارات میں آئیں اخبارات میں یہ تذکرہ ہو ہی رہا تھا کہ ان تمام اخبارات کو اس پیش گوئی کے خلاف حضور کے مکتوب گرامی کا ترجمہ جس میں حضور نے واضح الفاظ میں اس عرصہ کو امن کا زمانہ اور عالمی جنگ کے نہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے پہنچا دیا گیا۔ اس پر ڈینٹیل و بیٹرن والوں نے انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا کہ کیا واقعی ۲۵ دسمبر ۱۹۶۷ء کو ایٹمی جنگ کی معین تاریخ سے آپ کو خلا کے خدا نے اطلاع دی ہے تو استاد صاحب صاف انکار کر گئے کہ مجھے معین تاریخ سے اطلاع نہیں دی گئی“

اگر معین تاریخ سے اطلاع نہیں دی گئی تھی تو ایٹم بم سے بچاؤ کے لئے اتنی عجلت میں پولیس کے منع کرنے کے باوجود تہ خانے بنوانے کی کیا وجہ تھی۔ اس پر پوچھا گیا کہ پھر تاریخ کا اعلان کیوں کیا گیا (اس کا اعلان کیا گیا تھا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا) تو کہنے لگے کہ
”رچرڈ گرہو جو اس تنظیم کے رئیس ہیں ان کو غلطی لگی ہے“

امام کمال یوسف لکھتے ہیں۔

کمال یوسف کا اندازہ یہی ہے کہ حضور کے مکتوب گرامی جو خاکسار نے ان کو بھیجا تھا کو پڑھ کر متاثر ہوئے ہیں آج اس سلسلہ میں اخبار کا پہلا تراشہ ملا ہے کہ جو ۱۹ دسمبر کا شائع شدہ ہے اخبار کی دو کالمی سرخی کا ترجمہ یہ ہے

”آسمانوں کے خدا کی پیش گوئی جو اس کے نام سے کی گئی تھی کے خلاف مسلمانوں کا انتباہ“

اس سرخی کے بعد نامہ نگار اپنا نوٹ لکھتا ہے

”ڈنمارک کے مسلمانوں نے جماعت احمدیہ کے روحانی سربراہ کی خدمت میں آسمانوں کے خدا..... کی پیشگوئی کہ تمام مخلوق کرمس کی شام کو ایٹم کی جنگ کے نتیجے میں زمین زد ہو جائے گی کی اطلاع عرض کی تھی تو آپ نے بڑے زبردست الفاظ میں اس پیشگوئی کے غلط ہونے کا اشارہ کیا تھا۔“

”اس کے بعد اس نے حضور کے تمام الفاظ من و عن نقل کئے ہیں اپنے اخبار میں اور کہیں کہیں مناسب رنگ میں اپنی طرف سے ایک سطر کے نوٹ بڑھا دیئے ہیں“

اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”عجب کی بات یہ ہے کہ انفارمیشن (یہ اخبار ہے جس کے خط لکھا ہے) ڈنمارک کا واحد اخبار ہے جس نے حضور کی آمد اور مسجد کے افتتاح کا کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ خاکسار کے علم کے مطابق عمداً ذکر سے اجتناب کیا ہے اب بھی یہ واحد اخبار ہے جس نے حضور کے مکتوب کے اعلان کو من و عن شائع کر دیا ہے“

ایک اور خط میں تیسریں رمضان کو لکھتے ہیں۔

”ہمارے پڑوس کے پادری نے یہاں کے لوکل اخبار میں لکھا ہے اس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی یہاں ڈنمارک میں کوئی جگہ نہیں۔ اس شخص کے ساتھی نے دو مضامین مسجد کے متعلق لکھے تھے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمسخر سے ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی کہ اخبارات نے لکھا کہ ان جیسوں کے لئے ڈنمارک میں کوئی جگہ نہیں۔ ۴ جنوری کو عبدالسلام صاحب میڈیسن (اصل میں تو میرے وہی مخاطب تھے انہوں نے ہی مجھے اطلاع دی تھی) نے بڑی خوشی اور مسرت سے جو خط لکھا ہے اس کے چند فقرے یہ ہیں۔

”یونیورسل لنک کے نام سے دنیا میں جو ایک پیشگوئی کی گئی تھی اور ایک سلسلہ قائم کیا گیا تھا وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے جس شخص نے پیشگوئی کر کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ بھاگ گیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا اور عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یونیورسل لنک کی تحریک کو کورٹ میں پرسیو (Persue) کیا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے کیونکہ یہ لوگوں کا روپیہ کھا گئے ہیں۔“


یہ ایک عظیم الشان نشان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص نے دھڑلے سے ایک پیشگوئی کی اس نے کچھ لوگوں کو اپنے گرد جمع بھی کر لیا اور ان سے پیسے بھی وصول کئے اور اعلان کیا کہ جو یونیورسل لنک کے ساتھ لنک کرے گا اور تعلق قائم کرے گا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا اور لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور جب اس کی پیشگوئی کے غلط ہونے کا وقت آیا اس وقت چونکہ پھر لوگ بھول جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے کہ پہلے اخباروں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ بلکہ کرسمس کے قریب میں آ کر اس کی طرف توجہ دی اور ساتھ ہی انہوں نے میرے خط کی طرف بھی توجہ دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب کہ میں نے خط پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس دھڑلے اور زور کے ساتھ کیسے لکھ دیں میں نے یہ ساری باتیں اور میرے لئے بھی یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ اللہ نے ہی لکھوائی ہیں کہ اعلان کرو اور ہر ممکن ذریعہ سے لوگوں تک یہ آواز پہنچا دو کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس کی پیشگوئی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ذلت اور ان لوگوں کی ذلت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمسخر کرتے تھے کس طرح سامان پیدا کر دیئے اور ڈنمارک اور باقی دنیا کے لئے ان ہزاروں نشانوں میں سے جو احمدیت کو دکھاتا چلا آ رہا ہے ایک اور نشان دکھایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی اپنے نشانوں سے اور اپنی تائیدات سے تقویت پہنچاتا رہے۔ اور ہم ناچیز بندے ہیں۔ ہمارے سارے کام وہ کرے اور جہاں تک ہمارے دل کا تعلق ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا کریڈٹ (Credit) نہ دے ہمارے سر اس کا سہرا نہ باندھے۔ صرف اپنی رضا ہمیں دے دے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہئے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(از رجسٹر خطابات ناصریہ مطبوعہ)





ہر فرد جماعت کو چاہئے کہ اپنے اندر صحابہ رسولؐ والی بنیادی خوبیاں پیدا کرے

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۱۳ جنوری ۱۹۶۸ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

گذشتہ سال میں نے چند خطبات میں ان مقاصد پر روشنی ڈالی تھی جن کا تعلق خانہ کعبہ کی ازسرنو تعمیر سے تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تمام مقاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں بنی نوع انسان کو حاصل ہونے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس جلسہ پر آج کے دن اس تمہید کے بعد وہ عملی منصوبہ جماعت کے سامنے رکھوں جو میں الہی منشاء کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں لیکن ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے میری توجہ اس طرف پھری کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے قوم میں بہت سی بنیادی صفات کا پایا جانا ضروری ہے اور قبل اس کے کہ میں وہ عملی منصوبہ جماعت کے سامنے رکھوں مجھے احباب جماعت کو ان بنیادی صفات، اخلاق یا خواص کی طرف متوجہ کرنا چاہئے، جو خدا کی ایک برگزیدہ جماعت میں پائے جاتے ہیں، پائے جانے چاہئیں اور ان سے یہ توقع رکھوں کہ وہ تدبیر اور دعا کے ساتھ اپنے ان اخلاق کو اور اپنی ان صفات کو اور بھی پختہ کر لیں گے۔ تاکہ جس وقت عملی منصوبہ ان کے سامنے رکھا جائے تو عمل کرنے کے لئے وہ پوری طرح تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جب دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیئے کہ آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں نسللاً بعد نسل مسلمان ان قربانیوں کو دیتے چلے گئے جن کے نتیجے میں مقاصد تعمیر بیت اللہ بنی نوع انسان کو حاصل ہوئے اور ایک دنیا نے امت مسلمہ سے ہر قسم کا دینی اور دنیوی، مادی اور روحانی فائدہ اٹھایا لیکن غفلت اور زوال کا ایک زمانہ بھی مقدر تھا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے دے رکھی تھی اس لئے پھر وہ زمانہ آیا کہ اگرچہ بیت اللہ کی عمارت اس طرح قائم اور خدا تعالیٰ

کے وعدہ کے مطابق محفوظ ہے۔ جس طرح کہ آج سے چودہ سو سال پہلے تھی لیکن برکات بیت اللہ سے اسی وقت دنیا نے ایک لمبے عرصہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اور بعد کی صدیوں میں فائدہ اٹھایا۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر سے اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرے اور تمام اقوام عالم کے دل اس کے بعض بندے خدا اور اس کے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے جیتیں اور اس طرح پر بیت اللہ کی ان تمام برکات سے بنی نوع انسان فائدہ اٹھائیں جن برکات سے آج سے چودہ سو سال قبل اس دنیا نے فائدہ اٹھایا تھا ان برکات کے انتشار کے لئے، ان کو دنیا میں پھیلانے کے لئے بنی نوع انسان کو ان برکات سے روشناس کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو قائم کیا ہے۔ اس لئے جماعت احمدیہ کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اندر ان بنیادی خوبیوں کو پیدا کرے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ہمیں نظر آتی ہیں جب تک ہمارا سوچنا اور ہمارا غور کرنا اور ہمارا کہنا اور عمل کرنا بالکل ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ اس وقت تک ہم اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ نہیں نباہ سکتے کہ بیت اللہ کی برکات سے ساری دنیا کو مستفیض کریں اور وہ تمام مقاصد جن میں سے تیسس مقاصد کا ذکر میں نے اپنے خطبات میں کیا ہے وہ حاصل ہوں۔

ان اغراض کو پورا کرنے اور ان مقاصد کے حصول کے لئے بنیادی طور پر نوباتوں کا ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے ہم میں نو صفات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے کمزور رنگ میں یا پختہ طور پر یا بعض کے اندر چھپی ہوئی اور بعض میں نمایاں پائی جاتی ہیں ان صفات کو اور پختہ کرنا اور ان صفات اور اخلاق کے رنگ کو اور گہرا کرنا ہے اور سوچ کے اور عمل کر کے ہم نے یہ نیت کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں یا وہاں سے اڑا دئے جائیں ہم اپنی ذمہ داری کو انشاء اللہ اسی کی توفیق سے ضرور نبھائیں گے۔

یہ نو صفات جن کے متعلق میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا ہوں ان میں سے بعض کے متعلق تو شاید آپ پہلے بھی اور اکثریت سے سنتے رہے ہوں گے لیکن یہ اس قسم کی بنیادی چیزیں ہیں کہ مجموعی طور پر ان کا آپ کے سامنے رکھا جانا ضروری ہے اور وہ یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت (محبت ذاتی اپنے رب کے لئے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اس عقل کا پیدا کرنا اور اس عقل کو منور، روشن اور پختہ کرنا جس کو عربی زبان میں ٹہیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ عقل جو برائیوں سے روکتی ہے اور پانچویں یہ خلق اور یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہئے کہ ہم اپنی تدبیر کو اس کے کمال تک پہنچائیں گے۔ اس سے ورے ورے کسی احمدی کو تسلی نہیں ہونی چاہئے یعنی ادھورے کام ایک احمدی کو زیب نہیں دیتے۔ یہ ایک خلق ہے ایک اصولی صفت ہے بعض لوگ بے پرواہی سے آدھا کام کرتے ہیں پھر غیر ذمہ داری سے چھوڑ دیتے ہیں توجہ نہیں کرتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے پڑے رہتے ہیں اور جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے اس طرف سے توجہ نہیں ہٹاتے اسے اسلامی زبان میں جہاد یا مجاہدہ کہتے ہیں۔ چھٹے روح مسابقت یعنی یہ روح ہمارے اندر ہونی چاہئے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے والا ہو اور ساتویں سفرہ ہونے کی صفت۔ یعنی یہ جذبہ جنون تک پہنچا ہوا ہو کہ ہم نے نامساعد حالات میں بھی اور تھوڑے ہونے کے باوجود ساری دنیا میں پھیل جانا ہے اور قرآن کریم کے علوم کی اشاعت کرنا ہے اور آٹھویں جذبہ خدمت جو رضا کارانہ کی جاتی ہے یعنی ایسی خدمت جس کے مقابلہ میں نہ بدلہ لیا جاتا ہے اور نہ بدلہ کی خواہش کی جاتی ہے اور نویں توکل۔

اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی

محبت کا تعلق کسی چیز سے دو طرح پیدا ہوتا ہے ایک اس کے حُسن کی وجہ سے اور ایک اس کے احسان کی وجہ سے۔ احسان کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ آگے دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ تعلق محبت جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ہستی سے مجھے اتنا انعام مل چکا ہے کہ اگر اور انعام نہ بھی ملے تب بھی میں اس سے پیار کرتا چلا جاؤں گا اور ایک تعلق محبت احسان کے نتیجہ میں اس قسم کا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے تعلق رکھنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے فیض حاصل کروں گا اور اگر کسی وقت اس کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ فیض بند ہو گیا تو اس تعلق کو وہ قطع کرتا ہے۔ حسن اور احسان کے نتیجہ میں احسان کے جو پہلے معنے میں نے بتائے ہیں کہ اتنا

احسان ہو چکا اتنے انعامات کا نزول ہو چکا اتنا فضل اور رحمتیں ہو چکیں کہ آگے اگر فضل اور رحمتیں نہ بھی ہوں تب بھی اگر ہم اس محبت کو قائم رکھیں اور اس تعلق کو پختہ رکھیں تو شکر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حُسن کا بار بار ذکر کیا ہے اور اس طرح پر توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حُسن اس قدر عظیم ہے کہ اگر تم اس کی معرفت اور عرفان حاصل کرو تو اس سے محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے کسی قسم کے بدلہ کی خواہش نہیں کسی قسم کے فیض کے حصول کی نیت نہیں صرف اس لئے کہ حُسن ہے ہی ایسا کہ انسان کی فطرت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے مثلاً یہ گلاب کا پھول ہے جو بھی شخص اس کو دیکھے گا کہے گا بڑا خوبصورت ہے اس کے حُسن سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے حالانکہ یہ گلاب کا پھول زبانِ حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی فیض نہیں پہنچاؤں گا لیکن حُسن خود اپنی طرف مائل کرتا ہے گلاب کے پھول کا یہ حُسن اللہ تعالیٰ کے حسین جلوں کی ایک ہلکی اور خفیف سی جھلک ہے۔ خدا کے حسین جلوے اس کثرت کے ساتھ اور اس شدت کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر ہو رہے ہیں اور اس کی حسین صفات اس طرح انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے بصارت حاصل ہو تو اس حسین ہستی سے محبت کئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ ہر احمدی کے دل میں اپنے رب کے لئے محبت پیدا ہونی چاہئے تو میری مراد یہ ہے کہ ہر احمدی کے دل میں اپنے رب کے لئے ذاتی محبت پیدا ہونی چاہئے اس حُسن کے نتیجے میں جس کی وہ معرفت حاصل کرے اسی حسین صفات کے نتیجے میں جس کا وہ عرفان حاصل کرے خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہو قطع نظر اس کے کہ اس نے ہم پر کتنے احسان کئے یا آئندہ ہم اس کے احسانوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے قطع نظر اس کے ذاتی محبت ہمارے دل میں اپنے رب کے لئے پیدا ہونی چاہئے۔

دوسرے احسان کی پہلی قسم سے بھی اس قسم کی محبت ذاتی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے تم پر اتنے احسان کئے ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے جلوے جو میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لئے آج سے قبل دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں وہ اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم اپنا ہر سانس اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں لیں تو ہماری زندگی کے سانس ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں

تو اس کا کروڑواں حصہ ابھی پورا نہیں ہوگا یعنی جتنے احسان اللہ تعالیٰ آپ پر کر چکا ہے اگر آپ اپنی زندگی کے ہر سانس میں ان کا شکر یہ ادا کرنا چاہیں تو آپ کی زندگی کے سانس ختم ہو جائیں گے اور ان نعمتوں میں سے کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوگا جس کا آپ شکر یہ ادا کر چکے ہوں گے باقی ایسی ہی رہ جائیں گی بغیر شکر یہ کے۔ تو ایسی ہستی جو اپنے حُسن میں کمال رکھتی ہے حُسن تام رکھتی ہے اور وہ ہستی جس کے احسانوں کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ (اگر اس کا عرفان حاصل ہو جائے) محبت ذاتی کا پیدا ہونا ضروری ہے اگر وہ محبت ذاتی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں۔ پس یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی صفات اور اس کی ذات کی معرفت حاصل کریں اور محبت ذاتی کو اگر انتہا تک پہنچادیں جس انتہا تک پہنچانا ہماری طاقت اور استعداد میں ہو اور اس محبت ذاتی کے بعد (محبت کا یہ تقاضا ہے کہ) انسان خود کو کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ محبت میں اپنے محبوب کے مقابلہ میں کامل نیستی کا جامہ پہننا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی محبتیں عارضی اور بعض دفعہ بیہودہ سی ہوئی ہیں۔ ان میں لوگ بغیر کسی فیض کے حصول کے یا فیض کے حصول کے امکان پر ہر قسم کی قربانی کرتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا حسن اور احسان کے جلوے دیکھنے کے بعد پھر انسان اپنا نہیں رہتا بلکہ سب کچھ رب کے لئے ہو جاتا ہے اور اس پر فدا ہو رہا ہوتا ہے تو پہلی صفت یا خاصیت یا خلق جو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہئے اور مضبوط ہونا چاہئے اور بیدار ہونا چاہئے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی ہے۔

دوسری صفت جو ہم احمدیوں میں نمایاں ہونی چاہئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا تمہیں یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار و محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کا اس محبت سے کس قسم کی محبت کا منشاء ہوتا ہے تو سنو۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(التوبة: ۲۴)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگ اپنے باپوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنی بیویوں سے انتہائی محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے قرابت داروں سے محبت رکھتے ہیں، بعض لوگ اپنے اموال کی محبت میں اپنے بچوں تک کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کی پروا نہیں کرتے۔ بعض لوگ تجارت میں اتنے منہمک اور اس سے اتنا دلی تعلق رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قربانی دے دیتے ہیں لیکن اپنی تجارت کو نقصان پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہوتے فرض کرو کہ اگر کسی کا باپ سخت بیمار ہے اور تجارتی لحاظ سے کام کے دن ہیں تو وہ اپنے اس باپ کے پاس نہیں جائے گا کہ کہیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کو اپنی کوٹھیوں اور محلوں سے بڑی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس چیز سے تمہیں ہو اس محبت سے زیادہ اگر خدا اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں قربانی دینے کے ساتھ تمہیں محبت نہیں تو تم فاسق ہو اور فاسقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فیصلہ کرے گا اور فوری فیصلہ نہیں کرے گا "فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" وہ چونکہ بڑا رحم کرنے والا خدا ہے اس لئے اصلاح کا ایک موقع دے گا۔ وہ تمہیں موقع دے گا کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اپنی ساری محبتوں کو خدا اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دو لیکن اگر تم اس نہایت خطرناک غلطی کے مرتکب ہونے کے باوجود اصلاح کے موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو "يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس دنیا میں تم پر صادر ہو جائے گا اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تم فاسق قرار دیئے جاؤ گے اور ان انعامات سے محروم کر دیئے جاؤ گے جو ہدایت یافتہ قوم کو ملتے ہیں خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا سے تم محروم کر دیئے جاؤ گے تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہے جس قسم کی محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام مطالبہ کرتا ہے اور جو ہر احمدی کے دل میں ہونی چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑا لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہئے کہ روحانی طور پر کوئی فیض آپ کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مختلف قسم کی ریاضتیں جو بعد میں مسلمانوں نے بھی بنالیں وہ ان میں نہیں پڑے گا اور اس محبت کے تقاضا سے مجبور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تعلق قائم رکھے۔

کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے اس کی مثال صحابہؓ کی زندگی میں ہمیں بہت جگہ نظر آتی ہے۔ میں ایک دو مثالیں یہاں دے دیتا ہوں۔

ایک مثال توکل میں نے مستورات کی تقریر میں دی تھی۔ وہ اس آیت سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ اس محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیں۔ جو بیویاں اپنے خاوند سے انتہائی محبت رکھتی ہیں وہ اس انتہائی دنیوی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جنگ کے لئے مدینہ سے باہر جا چکے تھے۔ ایک صحابی جو کسی اور طرف باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر جانے کا علم نہیں تھا لیکن ان کی بیوی کو علم تھا۔ وہ اپنے گھر میں بڑے خوش خوش پہنچے کہ ایک لمبے فراق کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس آ رہا ہوں۔ وہ ابھی اسی محبت سے آگے بڑھے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور ان کو پیچھے ہٹا دیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے گئے ہوئے ہیں اور تم اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو رہے ہو اور اسی وقت ان کو گھر سے نکال کر باہر بھیج دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کرو۔

(دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ ۲۲۶)

ایک اور مثال جنگ تبوک کے لئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور جب حضورؐ کو مدینہ سے گئے ہوئے کئی روز گزر گئے تو ابوخیثمہؓ ایک دن اپنے گھر میں آئے۔ وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ وقت سخت گرمی کا تھا اور ان کی دو بیویاں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے اس خیال سے کہ ان کا خاوند باہر سفر سے واپس آیا ہے ان کے لئے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ان کی مہمان نوازی کے لئے بڑا اچھا کھانا پکایا۔ جب وہ گھر میں آئے تو ان کو پتہ لگا کہ حضورؐ جنگ تبوک کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اور گھر میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیویاں بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھنڈا پانی ہے اور اچھا کھانا ہے۔ جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گرمی میں دور کے سفر میں ہوں اور ابوخیثمہ یہ ٹھنڈا پانی اور یہ عمدہ کھانا خوبصورت عورتوں کے پاس بیٹھ کر کھائے۔ یہ ہرگز انصاف نہیں۔ ابوخیثمہ نے اسی وقت اپنی بیویوں سے کہا کہ کھانا پرے ہٹا دو۔ سامان سفر تیار کرو تا کہ میں

حضور کے پاس پہنچوں چنانچہ بیویوں نے سامان درست کیا اور ابوخیثمہ اونٹ پر سوار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے (راستہ میں ایک دو اور صحابہ بھی آپ کو ملے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی گزری ہوگی) یہاں تک کہ وہ تین منزل پر حضور سے جا ملے۔

(سیرۃ ابن ہشام جلد نمبر ۴ صفحہ ۱۶۳، ۱۶۴)

جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی جن کا نام حظلہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ ہم صحبت تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی کہ اے مسلمانو جہاد کے لئے باہر نکلو وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی تلاش میں یہ بھول گئے کہ انہیں نہانا بھی چاہئے اور وہ اسی طرح چلے گئے اور جنگ احد میں وہ مارے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھایا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے ویسے جو شہید ہوتے ہیں ان کو تو غسل نہیں دیا جاتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا چونکہ یہ بات معمول کے مطابق نہ تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیوی سے جا کر پوچھو شاید کسی ایسی بات کا پتہ لگے کہ کیوں ان کو فرشتے غسل دے رہے تھے چنانچہ صحابہ ان کی بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنبی حالت میں ہی جہاد کے لئے روانہ ہو گئے تھے محبت میں انہیں خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انہیں نہانا بھی چاہئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہی وجہ تھی کہ اس وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ (غزوہ احد سیرۃ ابن ہشام جلد نمبر ۳ صفحہ ۸۹)

یہ محبت ہے اس قسم کی جو ایک احمدی کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیدا ہونی چاہئے کہ اس کے بغیر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نباہ نہیں سکتے۔

بعض دفعہ محبت کا زبانی دعویٰ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس قسم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہئے وہ محض زبان کا دعویٰ نہیں ہونا چاہئے۔ بعض دفعہ محبت حقیقی ہوتی ہے لیکن انسان اپنی عادت سے مجبور ہو کر یا بعض اپنی اخلاقی کمزوریوں سے مجبور ہو کر (اخلاقی کمزوری سے مراد میری بد اخلاقی نہیں) ایسی جرات نہیں رکھتا کہ وہ میدان جنگ میں بھی لڑ سکے۔ اس قسم کی کمزوریوں کے نتیجے میں محبت کا عملی اظہار نہیں کر سکتا۔ یعنی گو محبت حقیقی ہوتی ہے لیکن عملاً اس کا اظہار نہیں ہوتا لیکن خدا تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع

کے نتیجے میں آپ کی محبت کا عملی دنیا میں اظہار کریں قرآن کریم بار بار ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور میں بھی اب جماعت کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ (الانعام: ۱۵۳) کہ یہ راستہ جس پر میں گامزن ہوں۔

صِرَاطٌ۔ یہ راستہ سیدھا خدا کی طرف لے جاتا ہے اور اس پر چل کر انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب اور

اس کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ۔ اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری محبت میں میری اتباع

بھی کرو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ قیادت کا بہترین عملی نمونہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنی زندگی میں دکھایا چنانچہ آپ نے دنیا کو یہ نہیں کہا کہ میں دنیوی آرام حاصل کرتا ہوں۔ تم

جا کے لڑو بلکہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر اور بطور قائد کے آگے ہوئے اور امت کو یہ

کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ یہ بہترین قائد جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں امت کو یہ آواز دیتا ہے کہ

میرے پیچھے آؤ بہت ہی عظیم ہے وہ قائد اور بہت ہی عظیم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ نہیں

کہا کہ خدا کی راہ میں قربانیاں دو بلکہ یہ کہا کہ جس طرح میں قربانیاں دیتا ہوں اس طرح میری

سنت پر عمل کرتے ہوئے تم بھی خدا کی راہ میں قربانیاں دو۔ غرض آپ نے یہ فرمایا کہ یہ راستہ جس

پر میں گامزن ہوں تم اس پر چلو۔ یہ راستہ خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اس لئے تم میرے پیچھے

آؤ۔ میری اتباع کرو اور اگر تم ایسا کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے۔

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الاعراف: ۱۵۹) تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع

کرو گے تو تمہارا انجام بخیر ہو جائے گا۔ تم ان خوشیوں کو حاصل کر لو گے جن کا حاصل کرنا انسان

کے لئے ممکن ہے اور سب سے بڑی خوشی تو خدا تعالیٰ کی رضا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضائل جائے گی

پس اسلام نے یہاں بھی زور دے کر فرمایا کہ تمہارا ہدایت پانا تمہارا نیک انجام ہونا بہترین جزا کا

تمہیں ملنا اس بات پر منحصر ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک

دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲)

کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی کا نتیجہ بھی یہ ہونا چاہئے کہ جو خدا کہتا ہے وہ تم کرو اور خدا تعالیٰ تمہیں کہتا

ہے۔ اِتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الاعراف: ۱۵۹) اس لئے اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ

تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اس وجہ سے بھی کہ تم نے میری پیروی کی اور اس راستہ کو اختیار کیا

کہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے جانے والا تھا اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی کا یہ تقاضا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کرو یہ اتباع جس رنگ میں ہونی چاہئے وہ دنیا کا عام رنگ نہیں اور یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ دنیا میں مختلف رنگوں میں اتباع کی جاتی ہے کسی جگہ ڈر کے، کسی جگہ اپنے فائدہ کے لئے، کسی جگہ چھپ کر اور کسی جگہ ظاہر ہو کر، کسی جگہ تھوڑی کسی جگہ بہت لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا تو صحابہ نے کس رنگ میں اس کو لیا اور کس رنگ میں اطاعت کی اس کا نظارہ ہمیں جنگ حنین کے موقع پر نظر آتا ہے اس وقت بعض نئے اسلام لانے والے اور بعض وہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اور جنگ کے دوران ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ بھاگے اور ساتھ ہی ان کے مسلمانوں کی سواریاں بھی بھاگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریباً تنہا رہ گئے صرف چند آدمی آپ کے ساتھ تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے کہا کہ ان کو میری طرف سے آواز دو آپ نے فرمایا کہ عباسؓ بلند آواز میں پکار کر کہو کہ اے وہ صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور اے وہ لوگو جو سورۃ بقرہ کے زمانہ سے مسلمان ہو خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے حضرت عباسؓ نے نہایت ہی بلند آواز سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا تو اس وقت صحابہ کی جو حالت تھی اس کا اندازہ صرف انہی کی زبان سے حالات سن کر لگایا جاسکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹوں اور گھوڑوں کو واپس لانے کی کش مکش میں تھے۔ سواریاں بدک گئی تھیں اور واپس نہیں جاتی تھیں لگام کھینچتے تھے ادھر منہ نہیں کرتی تھیں کہ حضرت عباسؓ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ اس وقت ہمیں یوں معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور اس کے فرشتے ہم کو حساب دینے کے لئے بلا رہے ہیں۔ تب ہم میں سے بعض نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور دوڑتے ہوئے اونٹوں سے کود پڑے اور ڈرے ہوئے اونٹوں کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا کہ جدھر چاہیں چلے جائیں اور بعض نے اپنی تلواروں سے اپنے اونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ وہ بڑی تیزی سے جا رہے تھے اور ان پر سے وہ چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی ادھر آؤ تو انہوں نے تلوار نکالی اور اونٹ کی گردن کاٹ دی پھر اونٹ گرا تو وہ اتر کر دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور خود پیدل

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ اس دن انصار اس طرح دوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے جس طرح اونٹنیاں اور گائیں اپنے بچوں کی آواز سن کر ان کی طرف دوڑ پڑتی ہیں اور تھوڑی دیر میں صحابہؓ (خصوصاً انصار) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور دشمن کو شکست ہو گئی۔

(دیباچہ تفسیر القرآن صفحہ ۲۲۱، ۲۲۲)

تو اتباع کا یہ مفہوم صحابہؓ نے سمجھا تھا۔ اتباع کا یہ مفہوم ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر نفس کو اونٹوں کی طرح قربان کرنا پڑے یا رشتہ داروں کو اونٹوں کی طرح قربان کرنا پڑا یا بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑا۔ اس دنیا کے اموال اور اس کے آرام اور لذتوں اور مسرتوں کو قربان کرنا پڑا تو ہم نے خدا تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہر چیز پر چھری پھیر دینی ہے اور خدا کی آواز جدھر بھی اور جس طرف بھی ہمیں پکارے ہم نے اس کی اتباع کرتے ہوئے اس طرف چلے جانا ہے۔ اس رنگ میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین میں سے ہیں اور عمل یہ ہو کہ معمولی معمولی رسموں اور بدعتوں کو بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں اور حالت یہ ہو کہ مغربی تہذیب کے گندے اور بد اثرات سے نجات پانے میں بھی تکلیف محسوس کریں۔ یہ نہیں ہوگا۔

تیسری صفت جو ہم میں پیدا ہونی چاہئے وہ ٹہیہ کی ہے یعنی ایسی سختی ہمارے اندر ہونی چاہئے کہ جس چیز سے ہمیں روکا جائے ہم فوراً رک جائیں نہ سوچیں نہ دلائل کا انتظار کریں۔ بس کان میں حکم آئے یعنی جب بھی خدا اور اس کے رسول کے نام پر بری باتوں سے روکا جائے۔ ہمارے اندر یہ قوت اور استعداد اور صفت اور یہ خلق چاہئے کہ ہم فوراً باز آ جائیں اس کے بغیر ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے اور دنیا ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ عَنْهُ فَأْتَهُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ (الحشر: ۸)

جس چیز سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں رک جاؤ کہ تقویٰ اسی میں ہے اسی

طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (النزعت: ۴۱)

کہ جو شخص نفس کی شہوات اور ان لذتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ شہوات کو قطع کرتا اور اپنے سے ان میلانوں کو دور کرتا ہے جو نفس امارہ کی آواز ہوتے ہیں اور ان سب برائیوں اور بدیوں سے نجات حاصل کر کے اپنی عقل (اپنی نہیہ) کے نتیجے میں اپنے رب کے مقام اور اس کی صفات کے جو جلوے ہیں ان سے وہ لرزتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لئے بھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت ملتی ہے۔

سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْ نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ۹۷) اور دوسری آیت میں ساتھ ہی فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا (النحل: ۹۸) پھر اس کے آخر میں فرمایا لَنْجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو دوسری آیت۔ ان میں سے دوسری آیت میں عمل صالح کے نتیجے میں احسن عمل کے مطابق جنت کے مقام کا انحصار رکھا کہ جنت میں ہر شخص کو وہ مقام عطا ہوگا جو ان بہترین اعمال کے نتیجے میں جو اس نے کئے ہیں ملنا چاہئے یعنی اوسط نہیں لگائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جو تھوڑا اچھا ہے کوئی ایسا کرتے ہیں جو اچھا ہے کوئی ایسا کرتے ہیں جو بہت اچھا ہے اور کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جو خدا کی نگاہ میں سب سے اچھا ہوتا ہے مثلاً فرض کرو ایک شخص ہے اس نے صرف چار عمل کئے ہیں اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حساب لینے لگا۔ حساب تو وہ لے گا بغیر وقت کے ہی قرآن کریم کہتا ہے لیکن ہم تو اپنی زبان اور اپنی دنیا کے حالات کے مطابق ہی بات کر سکتے ہیں ورنہ ہم سمجھ نہیں سکتے اسے۔ اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے تو وہ شخص جو خدا پر ایمان لایا لیکن اعمال صالحہ میں سے صرف چار عمل کر سکا تو اس دنیا سے وہ واپس بلا لیا گیا ان کاموں میں سے ایک کے نمبر ملے کچھ اچھا، دوسرے کے نمبر ملے، اچھا، تیسرے کے نمبر ملے، بہت اچھا، چوتھے کے نمبر ملے، سب سے اچھا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اُسے اس جگہ رکھے گا جو سب سے اچھے عمل کے نتیجے میں وہاں اُسے رکھا جانا چاہئے اور جو نسبتاً خامیاں اور نقص ہیں باقی اعمال میں ان کو اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپنے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں سے دوسری آیت میں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے یعنی وہ کرنے والے کام جو اچھی طرح کئے جاتے ہیں اور پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مَا عِنْدَكُمْ

يُنْفِقُوا مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
تو یہاں صبر کے معنی نہیں کے آتے ہیں ویسے صبر کے معنی رک جانے کے بھی آتے ہیں لیکن اس
کے معنی اور بھی ہیں اس کے معنی مصائب پر دوایا نہ کرنے کے بھی ہیں۔ اس کے معنی نیکیوں پر
ثبات قدم دکھانے کے بھی ہیں۔ اس کے معنی بدی سے رُک جانے کے بھی ہیں چونکہ دوسری آیت
میں اوامر کا ذکر ہے یعنی جو کرنے والی باتیں ہیں اس واسطے پہلی آیت میں ہم مجبور ہیں کہ اس کے
یہ معنی کریں کہ یہاں نواہی کا ذکر ہے۔ تَوْصَبُوا کے معنی ہیں کہ وہ فوراً رُک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ بدیوں سے تم رُک گے تب بھی تمہیں جزا ملے گی اور نیکیوں کو کرو گے تب بھی تم کو جزا ملے
گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنی اس صفت کو مضبوط
کرو اور اس خُلق پر مضبوطی سے قائم رہو کہ جب بھی تمہیں کسی بُری چیز سے روکا جائے تو فوراً رُک
جاؤ صحابہؓ کی زندگی میں اس کی ایک مثال ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔
اس سے روکا نہیں گیا تھا اس لئے بڑے بڑے بزرگ صحابہؓ میں سے بھی بعض (سارے نہیں)
شراب پیا کرتے تھے اور انہیں اس کی عادت تھی لیکن اس عادت کے باوجود ایک دن ہوا کہ یوں
ابو عبیدہ بن الجراح اور ابو طلحہ اور ابی بن کعب شراب پی رہے تھے اور حضرت انسؓ انہیں شراب پلا
رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ شراب پی کر عقل بہک جاتی ہے۔ شراب سے عقل پر پردے پڑ
جاتے ہیں لیکن اس حالت میں کہ وہ شراب کی مد ہوشی میں تھے ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب ممنوع قرار دے دی گئی اس وقت گو عقل نیم مردہ
تھی لیکن اسلام کی روح اور زندگی بیدار تھی۔ اس لئے انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ پہلے جا
کر پیتے کر لیں کہ یہ حکم نازل بھی ہوا ہے یا نہیں بلکہ انہوں نے اس شخص کو جو شراب کے پیمانے ہاتھ
میں لئے ان کی طرف آ رہا تھا کہا کہ انس جاؤ اور ان منکوں کو توڑ دو۔ خدا نے شراب حرام کر دی
ہے (بخاری کتاب الاشریۃ بابنزم تحویم الخمر) غرض اس قسم کی اطاعت ہے جس کا اسلام ہم
سے مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس واقعہ کے متعلق یوں یہ تحریر فرمایا ہے کہ
”صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار اور مطیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں
میں ایسی نظیر نہیں ملتی ہے اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں

سے بھرا پڑا ہے لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی اور کہتے ہیں اس قدر شراب بھی کہ نالیاں بہہ نکلیں اور پھر کسی سے ایسا فعل شنیع سرزد نہ ہوا اور وہ شراب کے پکے دشمن ہو گئے، (ملفوظات جلد نمبر ۲ صفحہ ۴۶۱)

اور پکے دشمن اس وقت ہوئے جب وہ شراب کے نشہ میں مدہوش تھے اور شراب کے نشہ کی مدہوشی میں بھی وہ دشمن اسلام کی روح کی بیداری کے نتیجہ میں بڑی شدت اختیار کر گئی۔ مٹکے توڑ دیئے گئے اور کبھی خیال نہیں آیا ان کو ان عادتوں کے باوجود کہ ہم اس بُری چیز کے قریب جائیں گے۔ اس لئے کہ ہمیں خدا کے رسول نے اس سے منع کر دیا ہے جب ابو عبیدہ اور ابو طلحہ اور ابی بن کعب نے کہا کہ مٹکے اسی وقت توڑ دو اس وقت قرآن کریم کتاب حکیم ہے۔ حکمت یہ بھی بتاتی ہے لیکن اس وقت ان کے پاس اس حکم کی کوئی حکمت نہ تھی ان کے پاس تو صرف آواز ہی پہنچی تھی نا کہ شراب حرام ہو گئی۔ کیوں حرام ہوئی اس کا بھی پتہ نہیں لگا تھا لیکن اطاعت کا جذبہ اور اطاعت کی روح اس قدر پختہ اور بیدار تھی کہ نشہ کی حالت میں بھی اطاعت کر گئے اور دنیا میں اپنا اور امت مسلمہ کا ایک حسین نام چھوڑ گئے۔ اس قسم کی اطاعت خدا اور اس کے رسول کی اگر ہم کریں تو خانہ کعبہ کے مقاصد ہم حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہؓ سے پہلے کسی نے وہ مقاصد حاصل نہیں کئے اور بعد میں بھی جو ان کا ہم شکل نہیں بنا۔ اس نے یہ مقاصد حاصل نہیں کئے تو نفسِ امّارہ کو کئی طور پر ذبح کر دینا اور اطاعت اور فرماں برداری اور اتباع کے اعلیٰ مقام پر کھڑا ہونا یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”وہ عبادت جو آخرت کے خسارہ سے نجات دیتی ہے وہ اس نفسِ امّارہ کا ذبح کرنا ہے کہ جو بُرے کاموں کے لئے زیادہ سے زیادہ جوش رکھتا ہے اور ایسا حاکم ہے کہ ہر وقت بدی کا حکم دیتا رہتا ہے پس نجات اس میں ہے کہ اس بُرے حکم دینے والے کو انقطاع الی اللہ کی کارروائی سے ذبح کر دیا جائے اور خلقت سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ کو اپنا منوس اور آرامِ جان قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ انواع و اقسام کی تلخیوں کی برداشت بھی کی جائے۔ تانفسِ غفلت کی موت سے نجات پاوے اور یہی اسلام کے معنی ہیں اور یہی کامل

اطاعت کی حقیقت ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لئے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اس کے لئے قربان کر دیا ہو اور ذبح کے لئے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو اور موت سے یک دم غافل نہ ہو۔“

(خطبہ الہامیہ۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۶ صفحہ ۳۵، ۳۶)

ایک صفت جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمیں عادت ہو کام کو انجام تک پہنچانے کی یعنی جو کام بھی ہم کریں ہم انتہائی کوشش کر کے اس کو انتہا تک پہنچاویں کامیاب انتہا تک۔ راستے میں روکیں آئیں، ہمیں لوگ ہر قسم کا ڈکھ دیں کہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے یا ہماری آزمائش کے لئے آفات آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جائیں یا شیطان ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرے یا ہمارا نفس امارہ ہمیں یہ کہے کہ کس کام میں تم لگے ہو۔ چند دن کی زندگی ہے عیش کر لو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ نفس امارہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن کچھ ہو جائے ہم میں یہ عادت ہو ہماری یہ صفت ہو کہ ساری دنیا سے جانیں کہ احمدی وہ ہیں کہ جب وہ کام شروع کرتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں جب تک وہ اسے کامیاب انجام تک نہ پہنچائیں۔ بات یہ کہ ہمیں اس زندگی میں چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ساری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے ہم نے ہر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا ہے ہم نے ہر شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنانا ہے۔ یہ کام آسان نہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس بات کے عادی نہ ہوں کہ جو کام ہم شروع کریں اس کو انجام تک پہنچائیں تو اتنے اہم کام میں ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کی راہ میں ہزار ہا بلکہ میں کہوں گا کہ بے شمار روکیں ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ آرام سے اسلام کو ساری دنیا میں غالب کر دیں گے شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا طاغوتی قوتیں آپ کو مٹانے اور ناکام بنانے کے لئے ہر کوشش کریں گی لیکن آپ کے اندر روح مجاہدہ ہونی چاہئے صفت جہاد آپ کے اندر ہونی چاہئے تلوار کا جہاد نہیں گو ضرورت پڑے تو جان بھی دینی ہے شرائط اگر پوری ہوں تو تلوار یا ایٹم بم کا استعمال بھی ٹھیک ہے لیکن روح یہ ہونی چاہئے جو اصل معنی کے لحاظ سے اور اسلام جو مطالبہ کرتا ہے ہر احمدی کے اندر روح مجاہدہ، صفت جہاد ہونی چاہئے۔ جہاد کے معنی ہوتے

ہیں کسی کام کو کرنے میں پوری طاقت خرچ کر دینا (یہ معنی ہیں اس کے) اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق پورا زور لگا دینا اور یہ مجاہدہ ہے تو جس کام کو بھی کریں جتنی طاقت اور قوت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہم خرچ کریں پھر اپنے خدا سے کہیں کہ اے خدا ہم نے ایک عہد تو تجھ سے کیا تھا اور یہ کہ تیرے اسلام کو پھیلانے کے لئے ہم اپنی طاقت خرچ کر دیں گے۔ ہم نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے جو تو نے بھی ہم سے عہد کیا تھا کہ جب تم اپنی استعداد کے مطابق اپنی ساری قوتوں کو خرچ کرو گے تو میں اپنے فضل سے تمہیں کامیاب کروں گا۔ اب تو اپنے عہد کو پورا کرو اور ہمیں کامیابی عطا کر لیکن اگر ہم اپنے عہد کو پورا نہ کریں اور ہمارے اندر روح مجاہدہ نہ ہو اور رصفت جہاد نہ پائی جائے تو ہم کس طرح اپنے خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ یہ تو غیر معقول بات ہے تو ہمیں اپنا عہد بہر حال پورا کرنا ہے۔

ہمارے اندر اس مجاہدہ اور اس جہاد کی صفت ہونی چاہئے کہ جو کام کرنا ہے اس کو جہاں تک ہماری طاقت اور استعداد کا تعلق ہے انتہا تک پہنچا دینا ہے راستہ میں نہیں چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ (الحج: ۷۸، ۷۹) اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرماتا ہے کہ الہی احکام کی تعمیل میں اپنی گردنیں جھکا دو وَاَعْبُدُوا اور کمال ادب اور کمال نیستی اور تذلل اختیار کر کے عبادت میں لگ جاؤ وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ قرآن کریم کے بتائے ہوئے سارے ہی احکام پر عمل کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عام معمولی کام نہیں کرنے بلکہ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں امت مسلمہ بنا کر ایک برگزیدہ مقام عطا کیا ہے اس لئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تمہیں مجتبیٰ بنایا ہے۔ برگزیدہ جماعت بنایا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو ورنہ یہ بزرگی تم سے واپس لے لی جائے گی اور ایک وہ قوم کھڑی کی جائے گی جو اسلام کو دنیا میں غالب کرے گی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان اپنا یاد دلایا اور پھر ایک یہ مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دلایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور

بعد میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ جماعت قرار دیا تھا اور حقیقی معنی میں امت مسلمہ انہیں ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس پیار کے نتیجے میں اس کی راہ میں اپنی ساری کوششوں اور طاقتوں کو خرچ کر دیا اور جہاد کا حق ادا کر دیا پھر بعض لوگوں کی غفلت اور کوتاہیوں کے نتیجے میں لیکن امت مسلمہ شروع سے لے کر قیامت تک جو ہے اس میں سے بعض کے الفاظ میں بول سکتا ہوں۔ ویسے تو نہیں بہر حال انہوں نے اس احسان کو یاد نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ بنایا ہے اور اس اجتناب کے نتیجے میں جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے وہ انہیں ادا کرنی چاہئے پس ان سے وہ بزرگی چھین لی گئی۔

تو دیکھو کتنا تذلل کا زمانہ آیا بعض دفعہ اپنی تاریخ کو پڑھ کر رونا آتا ہے کہ کوئی ایسی ذلت نہیں جو ہمارے تصور میں آسکے اور وہ مسلمانوں کو سہنی نہ پڑی ہو سب کچھ چھین گیا۔ دنیا کی عزت چھین گئی اور روحانی نعمتیں بھی چھینی گئیں اللہ تعالیٰ اب آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے آسمان پر اسلام کے غلبہ کا فیصلہ کیا اور اس غلبہ کے لئے تمہیں اے جماعت احمدیہ ایک برگزیدہ مقام عطا کیا ہے کہ تمہیں اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا ہوئی۔ یہ بزرگی جو تمہیں دی گئی ہے یہ تم پر ایک فرض عائد کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم خدا اور اس کے دین کی راہ میں اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں اور اموال اور عزتوں کو خرچ کر دو۔ پس **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ** پر عمل کرو تا کہ تمہاری یہ بزرگی قائم رہے۔

اس وقت تین چیزوں کے خلاف ہمیں جہاد کا حق ادا کرنا چاہئے ایک تو دنیاوی فتنہ شرک ہے اور دوسرا دہریت کا فتنہ ہے اور ہر دو فتنے اسلام پر حملہ آور ہیں اور ہر دو طاقتوں کے پاس اس قدر مادی سامان ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت نہ ہو تو ان کا مقابلہ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی عیسائیوں کا (کہ جو اس وقت پیسے اور زور سے شرک پھیلا رہے ہیں) ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارے پاس ان جیسی طاقت ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ پھر دہریت ہے، کمیونزم ہے، اشتراکیت بھی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے انکار کا علم بلند کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم زمین سے خدا کے نام اور آسمانوں سے خدا کے وجود کو ختم کر دیں گے (نعوذ باللہ) اس کے مقابلہ میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ یہ بشارت دی گئی ہے کہ بے شک یہ دعویٰ

کرتے ہیں کہ خدا کے نام کو دنیا سے مٹا دیں گے لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ روس میں احمدی اتنی کثرت سے پھیل جائیں گے جتنی کثرت سے دریا کے کنارے پر ریت کے ڈرے ہوتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کشف کے ذریعہ یہ نظارہ دکھایا گیا اور اس ملک میں احمدیت کے پھیلنے کی بشارت آپ کو دی گئی **هُوَ اجْتَبَاكُمْ** اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدگی دی ہے۔ تمہیں برگزیدہ بنایا ہے تمہیں عزت دی ہے کہ تم روس کو خدا تعالیٰ کے لئے فتح کرو۔ اگر اس وعدہ اور اس بشارت کے ہوتے ہوئے ہم جہاد نہ کریں تو ہمارے حق میں یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا اتنی بڑی عزت کو اتنی بڑی طاقت کو جو اس وقت ایک قسم کی خدا تعالیٰ سے بغاوت اختیار کر رہی ہے اور دنیوی طاقت کے بل بوتے پر ان کو خدا کے لئے جیتنا اور ان کو خدا کے آستانہ پر واپس لے کر آنا کوئی معمولی کام نہیں اور جو یہ کام کرے گا اس کی بڑی عزت ہے۔ دنیوی معیار کے مطابق بھی اس کی بڑی عزت ہے اتنا بڑا انعام اور فخر کا سامان تمہارے لئے پیدا کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم جہاد کا حق ادا نہیں کرو گے۔

جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ ہم نے شرک کے خلاف، ہم نے دہریت کے خلاف اپنا پورا زور لگانا ہے۔ ہمارے اندر ہر وقت روح مجاہدہ زندہ رہنی چاہئے۔ یہ وہ تو میں نہیں جن سے ہم شکست کھا جائیں یا شکست کا خیال بھی ہمارے دماغوں میں آئے۔ اس لئے نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیں کہ جو چیز میرے پاس نہیں وہ تو میں قربان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اگر میری جیب میں سو روپیہ ہے اور میں یہ نیت کروں کہ میں یہ سو روپیہ خدا کو دے دوں گا تو مجھ میں اس کی طاقت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہی مانگا ہے جو میرے پاس ہے۔ زیادہ نہیں مانگا کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جتنا تمہارے پاس ہے مال ہو یا طاقت ہو یا عقل ہو یا سمجھ ہو یا علم ہو یا ذہانت ہو یا وقت ہو۔ یہ سارا تم خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ جہاد کا حق ادا کر دو۔ کامیابی میں تمہیں دے دوں گا۔ چاہے تمہارا اقتدار، تمہارے احوال، ان قوموں کے مقابلہ میں صفر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر تم جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو گے تو میں تمہیں کامیابی دے دوں گا اور دنیا میں یہ ثابت کروں گا کہ تم ہی میرے مجتبیٰ بندے ہو تمہیں ہی میں نے برگزیدہ بنایا ہے۔

دوسرا محاذ شیطانی وسوسوں کا ہے جس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے یورپ کا فلسفہ اور یورپ کا تمدن ہر دو شیطانی وسوسے پیدا کرتے ہیں مسلمان کے دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں - ہم ان کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں - یہ ایک میدان ہے جس میں ہم نے جہاد کرنا ہے - ہمارے آباء اور بڑوں نے بھی جہاد کے یہی معنی کئے ہیں کہ شیطان کے خلاف جو جنگ کی جاتی ہے وہ بھی مجاہدہ ہوتا ہے بہر حال یہ ایک محاذ ہے جو ہمارے لئے قائم ہے - پہلوں نے بھی اسے محسوس کیا اور وہاں حملہ آور ہوئے اور کامیاب ہوئے اور ہم نے بھی اس محاذ پر حملہ کرنا اور کامیاب ہونا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حسین معاشرہ عطا کیا ہے کہ اس سے زیادہ حسین معاشرہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا پھر ہم مغربی معاشرہ سے کس طرح متاثر ہوں -

میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ہیمبرگ (جرمنی) میں ایک احمدی جرمن کی بیوی اسلام کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتی تھی اور اپنے خاوند کی بات ہی نہیں سنتی تھی انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو کچھ باتیں میں نے غالباً اپنی تقریر میں بیان کیں - بعد میں جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بڑی لمبی لڑائی، عورت نے اپنے حقوق کو لینے کے لئے لڑی صدیاں بلکہ کہنا چاہئے شاید ڈیڑھ دو ہزار سال کی لڑائی جو لڑی گئی ہے اس میں مرد بھی عورتوں کے ساتھ شامل ہوئے اور ساری دنیا کے محاذ پر ایک ہنگامہ بپا ہوا کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہئیں اور صدیوں یہ جنگ لڑی جاتی رہی اتنے لمبے عرصہ کی جدوجہد کے بعد تم جو حقوق حاصل کر سکی ہو اس سے زیادہ حقوق اسلام تمہیں قرآن کریم میں دیتا ہے اس لئے اپنے فائدہ کے لئے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو تمہیں پتا لگے کہ قرآن کریم نے تمہارے کیا حقوق مقرر کئے ہیں تاکہ تم اپنے خاوند سے ان حقوق کا مطالبہ کر سکو تو انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ اب اس حد تک وہ میری باتیں سننے لگ گئی ہے غرض میرے بتانے پر اسے خیال پیدا ہوا کہ مجھے پتہ لگانا چاہئے کہ میرے خاوند پر میرا کیا حق ہے جو میں اس سے مانگوں اس قدر حسین معاشرے کے بعد ہم ان کی نقل کیوں کریں جو اس وقت اندر سے کھوکھلے ہوئے ہوئے ہیں - اگر آپ آج لنڈن کے بازاروں میں اس گند کا مشاہدہ کریں جو ہر پھرنے والے کو وہاں نظر آتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک لحظہ کے لئے بھی ان کے کاموں (ہم کسی آدمی کے دشمن نہیں) کو اور ان کے اخلاق اور ان کے افعال کو اچھا سمجھتے

ہوئے کبھی ان کی نقل نہ کریں۔ پس شیطان کے وسوسوں اور شیطانی دباؤ کے محاذ پر ہم نے مجاہدہ کرنا ہے اور اپنی کوشش کو انتہاء تک پہنچانا ہے۔

تیسرا محاذ نفسِ امارہ کا ہے یعنی انسان دوسرے کی تو نقل نہیں کرتا لیکن خود انسان کا نفس اس کو بُری باتوں یا غفلتوں یا کوتاہیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ایک محاذ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدار رکھنے کے لئے ہمارے اندر ہی ایک اندرونی جنگِ سول (Civil War) کا نقشہ کھینچ دیا ہے تاکہ ہم اس وقت تک نہ سوئیں جب تک کہ ہمارا شیطان مسلمان ہو جائے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے اس سے پہلے ایک عظیم جنگ لڑی جاتی ہے اور لڑی جانی چاہئے۔

تو یہ تین محاذ ہیں جن پر ہم نے کامیاب مجاہدہ کرنا ہے شرک اور دہریت کے خلاف غلط قسم کے اثرات کے خلاف اور نفسِ امارہ کی خواہشات کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی بزرگی عطا کی ہے اس لئے تمہارے اوپر میں یہ فرض عائد کرتا ہوں کہ اگر تم اس کی بزرگی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو جہاد کا حق ادا کرو۔ اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا دو یہ صفت جماعت احمدیہ میں نمایاں طور پر پیدا ہونی چاہئے اور اُسے قائم رکھنا چاہئے اگلی نسل میں بھی اس کو پیدا کرنا چاہئے اور ان کو غافل نہیں ہونے دینا چاہئے۔

ایک اور صفت جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہئے وہ روحِ مسابقت ہے اور اللہ تعالیٰ سورۃ الحديد میں فرماتا ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الحديد: ۲۲)

اس آیت کریمہ میں بڑے ہی لطیف پیرایہ میں روحِ مسابقت پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے انعامات یاد کراتا ہے اور ان کی عظمت ہماری آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو جنت تمہارے لئے تیار کی ہے اس کی قیمت زمین اور آسمانوں کی قیمت سے زیادہ ہے۔ یہ زمین اس کے سارے ہیرے اور

جو اہرات اور سونا اور دوسری معدنیات اور یہ درخت اور یہ کھیتیاں جب سے یہ پیدا ہوئی ہے زمین اس وقت تک کہ جب یہ ختم ہو، اور پھر ستارے۔ ان سب کی تم اپنے تصور میں قیمت لگاؤ اس قیمت سے زیادہ قیمت ہے اس جنت کی جو میں نے تمہارے لئے تیار کی ہیں۔ ان انعامات کے حصول کے لئے سَابِقُوْا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کون زیادہ انعام حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک کو کم از کم جو انعام ملے گا جس کی قیمت اس عالمین کی قیمت ہے یعنی یہ زمین اور آسمان اور اس کے ستارے جہاں تک ہمارے وہم بھی ابھی تک نہیں پہنچے وہ موجودات جو ہیں ان کی جو بھی قیمت ہے اس سے زیادہ کم سے کم اس جنت کی قیمت ہے اور اس سے زیادہ بھی انعام ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کم سے کم انعام جب اتنا بڑا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہئے کہ دوسروں سے آگے بڑھے اور دوسرے بھائیوں سے زیادہ انعام حاصل کرے۔ دوسروں سے زیادہ قربانیاں دے خدا کی راہ میں دوسروں کی نسبت زیادہ تکالیف اور اذیتیں برداشت کرنے والا ہو راتوں کو زیادہ جاگنے والا ہو۔ دنوں کو زیادہ اپنے اوقات کو خدا کے لئے خرچ کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَابِقُوْا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ تمہاری کوششیں کافی نہیں اس لئے ہم نے ان جنتوں کے حصول تمہارے لئے ممکن بنانے کے لئے اس جنت کے ایک طرف اپنی مغفرت کو رکھا ہے اور جنت کے دوسری طرف اپنے فضل کو رکھا ہے سَابِقُوْا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور آخر میں کہا ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ اور درمیان میں کہا جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ تو ہمیں یہ بتایا کہ اتنا بڑا انعام ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی کوششوں کو اگر انتہا تک بھی پہنچا دو تو تم صرف اپنے عمل کی وجہ سے اس انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ انعام ملے۔ اس لئے ہم نے اس انعام کو تمہارے لئے ممکن بنانے کے لئے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ جنت کے ایک طرف اپنی مغفرت رکھ دی ہے اور دوسری طرف اپنے فضل کو رکھ دیا ہے۔ اس لئے تمہیں مل جائے گا لیکن ایک شرط ہے کہ تم سَابِقُوْا کا نمونہ دکھاؤ۔ ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کرو اور یہ ذمہ داری ہم تم پر ڈالتے ہیں۔ پھر جو خامی رہ جائے گی اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہئے تمہیں غم نہیں کرنا چاہئے یہ جنت تمہیں مل جائے گی یہ عظیم انعام تمہیں مل جائے گا۔

تو ہماری جماعت میں روح مسابقت قائم رہنی چاہئے یعنی یہ نہیں کہ بعض جماعتیں کہیں کہ کراچی

چندہ دے دے گا۔ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یا یہ کہ بعض جماعتیں یہ کہیں کہ مرکز سے لوگ آ کر اصلاح و ارشاد کا کام کریں گے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں بلکہ ہر ایک یہ کہے کہ مرکز کے پورا وقت کام کرنے والے مرہی جتنا کام کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ کام کریں گے۔ ان سے آگے بڑھ جائیں گے یہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ سے بہتر انعامات پانے کا۔ ہم پائیں گے۔ ان سے آگے بڑھیں گے یہ نہیں کہ وہ یہ انعامات نہ پائیں وہ بھی پائیں لیکن ہم ان سے زیادہ پائیں گے ہر ایک کے اندر یہ روح ہونی چاہئے اور صرف اس نسل میں نہیں کیونکہ ہمارا کام اس نسل کے کام پر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہی روح مسابقت انگلی نسل کے اندر پیدا کرنی چاہئے اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے جس کے لئے خدام الاحمدیہ۔ انصار اللہ۔ اطفال الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ اور ناصرات الاحمدیہ کو قائم کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا۔ میں جو کہتا ہوں کہ جنت کی طرف روح مسابقت کے ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے چلے جاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْتِبُهَا فَاسْتَبِقُوا الذِّخْرَاتِ (البقرة: ۱۴۹) کہ ہر ایک شخص یا قوم کا ایک مطمح نظر ہوتا ہے تم خیرات کے تعلق میں روح مسابقت کو اپنا مطمح نظر بناؤ اور یہاں الذِّخْرَاتِ کے ایک معنی احکام قرآن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا (النحل: ۳۱) کہ قرآن کریم کے احکام خیر ہیں یہ ایک لفظ میں قرآن کریم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یعنی ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ تُوَاسِ جنت سے مراد قرآنی احکام کی تعمیل ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنا بھی جنت ہے جو اس دنیا میں ہمیں عمل کرتے ہوئے ملتی ہے اور آخری دنیا میں وہ ایک اور شکل کو اختیار کر جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں ہم قرآن شریف کے مطابق اعتقادات صحیحہ رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں۔ وہاں ہمارے صحیح اعتقادات درختوں کا روپ دھار لیں گے اور ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ نہروں کی شکل میں ظاہر ہوں گے تو عمل صالح ان درختوں کو ملے گا اور اس سے ہمیں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس جنت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں وہ جنت تمہیں اس دنیا میں مل سکتی ہے اور جنت اُخروی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں وہاں پہنچا دے تو

وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا کی جنت سے اُخروی جنت کے باغات کے درخت ہیں۔ وہ یہاں اعتقادات کی شکل میں نظر آتے ہیں اور جو نہریں وہاں چل رہی ہیں وہ اس دنیا والوں کو اعمالِ صالحہ کی شکل میں نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں تمہیں جنت مل جائے گی قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے روحِ مسابقت کا مظاہرہ کرو تو تم جنت پا لو گے اور سچی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے احکام پر ساری دنیا عمل کرنا شروع کر دے تو یہ دنیا حقیقتاً جنت بن جائے یہاں رہنے والوں کے لئے۔ ہاں سَابِقُوْا میں ایک تو روحِ مسابقت دکھانا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی اس دوڑ میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے کیونکہ صرف ایک گروہ ہو تو وہ کس سے مقابلہ میں آگے بڑھیں گے۔ اگر ایک شخص ہو دوسرے افراد نہ ہوں تو مسابقت کیا رہ جائے گی تو اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ جماعت احمدیہ کی اس رنگ میں اسی طرح تربیت کی جائے جس طرح صحابہ کی کی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی شخص دوسرے سے پیچھے رہنا گوارا ہی نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کو ایک دفعہ خیال نہیں آیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا کہ مردوں کو آپ وعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ اس کے مطابق وہ عمل بجالاتے ہیں۔ ہم وہ وعظ سننے سے محروم رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک ثواب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا اور آپ کی برکت سے حصہ لینا۔ تو آپ نے ان کے لئے وقت مقرر کر دیا۔

اس وقت طاغوتی طاقتوں نے اسلام کو تلوار کے زور سے مٹانا چاہا تھا تو نہتے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر یہ تلوار کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلو ان کو یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ تم ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر میدان میں آ جاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میدانِ جنگ میں پہنچ کر میرے حضور پیش کر دینا۔ میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ یہ جان دینے کی قربانی جو عارضی طور پر اس وقت لی گئی تو اس وقت بعض قبائل کو یہ خیال پیدا ہوا کہ سارے قبائل کے جو لوگ جاسکتے ہیں وہ جاتے ہیں اور ایک جیسا ثواب لیتے ہیں ہمیں باقیوں سے آگے نکلنا چاہئے تو اس روحِ مسابقت کے نتیجہ میں بعض قبائل نے سارے مردوں کو میدانِ جنگ میں شہید کروا دیا یعنی اتنی عظیم قربانی دی اور صرف اس روحِ مسابقت کی وجہ سے کہ ہمیں ان کے پہلو بہ پہلو چلنا بھی پسند نہیں۔ ہمیں ان سے آگے نکلنا چاہئے۔ غرض صحابہ کی زندگیاں اس روحِ مسابقت

کی حسین مناظر سے بھری پڑی ہیں۔ وہی چیز اب ہم نے اپنے رب کے حضور پیش کرنی ہے۔ تو ہمارے اوپر اس روح مسابقت کے نتیجے میں یہ فرض بھی ہے کہ ہر شخص مقابلہ کے میدان میں آنے کے لئے تیار ہو، چھٹی تو پتہ لگے گا کہ کون آگے نکلتا ہے کسی کو ہم نے پیچھے نہیں رہنے دینا۔ ایک کم سے کم معیار پر ہر احمدی فرد اور ہر احمدی جماعت اور ہر احمدی ملک کو لے کر آنا ہے اور پھر ان کا آپس میں مقابلہ کروانا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قدر عظیم صفات پیدا کرنے کی تعلیم ہم تمہیں دے رہے ہیں تو قرآن کریم کو تم صرف اپنا حصہ نہ سمجھنا بلکہ قرآن کریم تمام عالمین کے لئے ذکر۔ ان کی بزرگی کے قائم کرنے اور بزرگی کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور اس خصوصیت کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کی طرف یہ بھیجا گیا ہے۔ اس لئے تم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر ساری دنیا میں پھیل جاؤ۔ جماعت احمدیہ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے یہ صفت ہونی چاہئے قرآن پکڑ لیا اور کہا کہ اس کی جو نواہی ہیں۔ تم اس سے بچتے رہو۔

قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنایا ہے۔ اس کے ماننے والوں کے دلوں میں لمبے اور دور دراز کے سفروں کا شوق پیدا کیا۔ اس جذبہ کے ماتحت کہ ہم نے قرآن کریم کی حسین تعلیم کو ساری دنیا میں پھیلا کے دم لینا ہے اور اس مہم میں کامیاب ہونے کے ہمیں طریق بتائے اور وہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ (النحل: ۱۶)

کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کی طرف اس صراط کی طرف جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا گیا کہ یہ صراطی مستقیمًا ہے۔ اس صراط مستقیم کی طرف جس کے حاصل کرنے اور جس پر قائم رہنے کی ہمیں دعا سکھائی گئی۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس راستہ کی طرف تم ساری دنیا کو بلاؤ قرآن کریم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور دنیا کے ملک ملک میں پھیل جاؤ اور وہاں تبلیغ قرآن کرو اور تبلیغ اسلام کرو۔ دو دلائل تمہیں دئے گئے ہیں یا دو طاقتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ ایک حکمت اور موعظہ حسنہ کی یعنی اعلیٰ ترین دلائل اور ان دلائل کو

بہترین طریق پر پیش کرنے کا ملکہ۔ یہ تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں اور دوسرے ہم نے تمہیں عمل کی توفیق دی اور تمہیں یہ کہا کہ اپنا عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کو قرآن کریم کی طرف بلانا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ اس میں عملی نمونہ پیش کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم (جدال میں غالب آنے کے معنی بھی، کوئی ایسی کوشش جس میں انسان غالب آتا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے) صرف دلائل لے کے ان کے پاس گئے تو وہ دلائل سے خاموش تو ہو جائیں گے لیکن فوراً وہ مطالبہ کریں گے کہ اس پاک تعلیم کا عملی نمونہ ہمیں دکھایا جائے۔ کیونکہ کوئی تعلیم خود کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اگر اس پر دنیا عمل نہ کرے تو دنیا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تعلیم ایسی چیز تو نہیں کہ وہ ہو ایسے چکر لگاتی رہے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھالے۔ تعلیم تو کہتے ہی اُسے ہیں جس پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری چیز ہم نے یہ دی ہے۔ بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ۔ بِالَّتِيِّ سے مراد عمل ہے وہ عمل جو احسن عمل ہو۔ صرف عمل صالح نہیں، صرف نیک نمونہ نہیں بلکہ جب بہترین نمونہ ہو گے۔ تب دنیا تمہاری طرف جھکے گی اور مائل ہوگی۔ بعض اپنے ماحول میں بعض لوگوں کا احسن عمل نہ بھی ہو۔ صرف عمل صالح ہو تب بھی گزارہ ہو جائے گا لیکن جب آپ منکر اسلام کے سامنے جاتے ہیں۔ اس وقت محض عمل صالح آپ کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ عمل صالح میں سے جو احسن عمل ہے بہترین عمل ہے اس سے وہ اثر قبول کرتا ہے ورنہ وہ اثر قبول نہیں کرتا۔

میں نے بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ سے جو استدلال کیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں لیکن اس خیال سے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے ان آیات کو لیا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑی وضاحت سے قرآن کریم نے احسن کا لفظ اعمال کے متعلق استعمال کیا ہے جہاد کے سلسلہ میں أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا (النور: ۳۹) کہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ ”اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو۔ عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو۔ خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے“ (ملفوظات جلد اول صفحہ ۴۲)

تَوَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ تَوَالَّتِي تَعَالَى نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کے وہ

افراد جو دونوں ہاتھوں میں قرآن کریم کے انوار تھامے دنیا کے ملک ملک میں پہنچیں گے۔ وہ ان کو صرف قرآنی دلائل ہی نہیں پہنچائیں گے بلکہ اپنے بہترین نمونہ سے ان کو متاثر کریں گے اور اسلام کی طرف انہیں کھینچیں گے۔

آٹھویں صفت جو جماعت کے اندر پختہ طور پر پیدا ہو جانی چاہئے وہ رضا کارانہ خدمت کی روح ہے۔ قرآن کریم اپنے پہلے غلبہ کے دور میں تو شاید ایک نمونہ تک (کچھ عرصہ تک) سو فیصدی رضا کارانہ خدمت سے کام لے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قربانی لی۔ مثلاً مکہ سے ہجرت ہوئی۔ صحابہ اپنے سارے اموال اور ساری غیر منقولہ جائیدادیں مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ مدینہ آ کر انہوں نے ایک دھیلہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد مہاجرین کو کہا کہ ہم اپنے اموال کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ آدھے آپ لے لیں گے آدھے ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے ان اموال کو لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا وہ ثواب جو ہماری قربانی کا ہمارے رب کی طرف سے ملے گا۔ وہ تمہارے نصف مال سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے ہم تمہارے اموال نہیں لیتے پھر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور ان کو اس دنیا میں بھی دیا لیکن یہ سب رضا کارانہ قربانی تھی نا اموال کو قربان کر دیا۔ جہاد میں جاتے تھے نہ کھانے کا خرچ۔ نہ وردی کا خرچ۔ نہ ہتھیار کا خرچ اور نہ سواری کا خرچ۔ اونٹ تھا تو اونٹ پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا تھا تو گھوڑے پر سوار ہو گئے ورنہ اپنی لاتوں کو استعمال کیا پیدل چاہنچے۔ یہ سارا کام رضا کارانہ تھا آپ کو اس قسم کی رضا کارانہ خدمت کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ صحابہ تو ایک لمبے عرصہ تک اپنے قریباً سارے اموال کو، اپنے اوقات کو، اپنی جانوں کو، اپنی عزتوں کو قربان کرتے رہے اور اس کے بدلہ میں انہوں نے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے اور خوش رہے اور اپنے آپ کو کامیاب اور امیر اور باعزت اور صاحب اقتدار سمجھتے رہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں انہوں نے اپنے لئے پیار دیکھا تھا اور اس پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت اسلام دنیا میں رضا کارانہ خدمت سے پھیلا اور بعد میں بھی جو ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو کون سے پیڈ (Paid) مربی وہاں بھیجے گئے تھے۔ کوئی نہیں۔ اپنے خرچ پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ

فصل کر دیتا تھا اور انہیں دنیا بھی دے دیتا تھا لیکن وہ بیت المال سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی چین جا رہا ہے۔ کوئی فنجی کے جزائر میں جا رہے ہیں کوئی انڈونیشیا جا رہا ہے۔ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں جا رہا ہے۔ اور خلیفۃ المسلمین (گو وہ اس وقت بادشاہ تھے۔ برسر اقتدار حکومت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی شان اور بڑے اموال عطا کئے تھے) لیکن خلیفۃ المسلمین خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت کو وہ یہ نہیں لکھا کرتے تھے کہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا وظیفہ مقرر کیا جائے اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا تھا۔ ایک بزرگ افریقہ کے جنگلوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے عام رنگ میں اسلام کی تبلیغ کی تو کوئی شخص یا کوئی قبیلہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ خدا کی شان نزالی ہے **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (الرَّحْمٰن: ۳۰) وہ ان حبشی اقوام سے مایوس ہو گئے اور کہا کہ میں اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ میں سینی گال (نقشہ تو غالباً تھا لیکن اس نام سے مشہور تھا) میں جا کر عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ وہاں ایک بہت بڑا دریا بھی تھا اور اس دریا میں بہت جزیرے بھی تھے۔ ان جزیروں میں سے ایک بہت بڑا جزیرہ تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا وقت ضائع کیا ان لوگوں میں تبلیغ کر کے، سنتے نہیں اور میں وہاں جا کر بیٹھتا ہوں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ وہ بڑے بزرگ تھے۔ وہ اس جزیرہ میں ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں دو طرف پانی بہتا تھا تا لوگ انہیں تنگ نہ کریں اور وہاں انہوں نے اپنی کٹیابنائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تب خدا نے کہا کہ تو میرے ان بندوں سے مایوس ہو گیا ہے لیکن میں تو ان سے مایوس نہیں ہوں چنانچہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا اور ان کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے ان کے کچھ آدمی اپنے قبائل کے نمائندہ کی حیثیت سے ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں کہا کہ ہمیں قرآن سکھائیں یا خدا تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان کو قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کلاس لینی شروع کی اور قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ جب سارا قرآن پڑھا دیا تو ان سے کہا کہ تم اپنے قبیلہ میں جاؤ اور اپنے قبیلہ والوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ جب وہ لوگ اپنے قبیلہ میں گئے اور تبلیغ کی تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے یا ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی اور سب قبائل نے مل کر ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے بادشاہ بن جائیں چنانچہ تمام قبائل نے انہیں اپنا بادشاہ بنا

لیا اور کئی نسلوں تک ان کی وہاں حکومت رہی اور وہ دور حکومت سالکین بادشاہوں کے دور حکومت کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے اب دیکھو انہوں نے ایک دھیلہ بھی بیت المال سے نہیں مانگا تبلیغ رضا کارانہ تھی۔ گو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہیں بادشاہت بھی دے دی لیکن وہ بادشاہت کے متمنی نہیں تھے وہ تو جس چیز کی خواہش رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملی اخروی جنتیں بھی ملیں اور خدا کے فضل سے۔ اور اس دنیا میں جنتیں بھی مل گئیں۔

ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک حد تک یہ روح پائی جاتی ہے اسی جلسہ سالانہ پر جو اس وقت ہو رہا ہے اور بہت سی پریشائیاں بھی نان بائیوں کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے اور مجھے ذاتی طور پر آپ کی تکلیف کی وجہ سے ان دنوں بڑا دکھ بھی سہنا پڑا ہے کہ میرے بھائیوں کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ نان بائی تو خیر ہیں ہی۔ اس تکلیف کو آپ اگر علیحدہ رکھیں تو اس جلسہ کا انتظام اتنی خوش اسلوبی سے انجام پاتا ہے کہ دنیا محو حیرت ہے اور یہاں رضا کارانہ کام کرنے والے سینکڑوں ہیں ان رضا کارانہ کام کرنے والوں میں ۱۲۴ وہ ہیں جو بی اے یا اس سے اوپر کی تعلیم رکھتے ہیں ماشاء اللہ اور ۸۱۱ وہ ہیں جو میٹرک پاس ہیں۔ تو ہزار کے قریب تعلیم یافتہ آدمی ہیں ان میں سے کوئی روٹیاں ڈھور رہا ہے اور کوئی لکڑیاں سنبھال رہا ہے کوئی نان بائیوں کے گرد لگا ہوا ہے۔ غرض ہر ایک رضا کارانہ خدمت بجالا رہا ہے ورنہ یہ جلسہ اور اس کا انتظام ہونہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح اور جذبہ پیدا کیا ہوا ہے۔

پھر وقف عارضی ہے کل اس سلسلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقت کے لحاظ سے تقریباً دو سو سال کا کام ہمارے واقفین عارضی کر چکے ہیں یعنی ایک آدمی دو سو سال میں جتنا کام کر سکتا ہے اتنا کام ہو چکا ہے گویا ایک آدمی اگر چوبیس گھنٹے روزانہ دو سو سال تک کام کرتا رہے تو جتنا کام وہ کر چکا اتنا کام انہوں نے کر دیا ہے اور پھر سب کام مفت کیا ہے اپنے خرچ پر جاتے ہیں ہاتھ سے روٹی پکاتے ہیں بعض جگہ بعض نے کمزوری بھی دکھائی لیکن ان کا وہ اثر نہیں ہوا اور جنہوں نے ہمت سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ ان کی صحت خراب نہیں ہوئی بلکہ جو خراب صحتیں لے کر گئے تھے ان کی صحتیں اچھی ہو گئیں۔ اپنوں پر اور غیروں پر اتنا اثر ہوا کہ جس غرض کے لیے وہ گئے تھے کہ جماعت کی وہ تربیت کریں اور وہ مطالبات جماعت سے پورے کر انیں جو پچھلے دنوں میں نے کئے

تھے کہ قرآن کریم پڑھوائیں یا دوسری قربانیاں (اطفال کے وقف جدید کے چندے وغیرہ) دو۔ بہر حال انہوں نے تربیت کا بہت اچھا کام کیا ہے جماعت کے دوستوں کو قرآن کریم پڑھایا جو سست تھے ان کی سستی دور کی وغیرہ وغیرہ سب خرچ اپنا کیا آنے جانے کا کرایہ بھی خود دیا لیکن میری طبیعت پر یہ اثر ہے کہ جماعت کے ایک طبقہ میں (چاہے وہ ہزار میں سے ایک ہی کیوں نہ ہو) یہ روح کمزور ہوتی ہے اور ہمیں فوری طور پر سمجھ جانا چاہئے ہم اس وقت تک اپنے مقصد حیات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر نہ پایا جائے کہ ہم نے رضا کارانہ خدمت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آئندہ ان سے کس قسم کی قربانیاں لے رہ وقت تیار رہنا چاہئے۔

تو رضا کارانہ خدمت کا جذبہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہئے کیونکہ اگر جیسا کہ میری طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہے کہ آئندہ تیس سال دنیا کے لئے نہایت نازک ہیں اور اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں (جو اس وقت زندہ ہیں یا جب تک دنیا میں ہیں یا جو ہم سے جوان ہوں یا جوانی کی حالت میں بعد میں آ کر ہم سے ملیں) اور ان کو انتہائی قربانی دینا پڑے گی اور ان قربانیوں کی بنیاد رضا کارانہ خدمت پر ہونی چاہئے اور ہوگی کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اموال بھی اس کثرت سے نہیں دیئے کہ ہم دین اسلام کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں لیکن ہمیں یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ دیا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔

تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا وعدہ معجزانہ رنگ میں پورا ہو جائے اور دنیا ایک عظیم انقلاب کی کروٹ بدلے اور وہ جو آج اس چیز کو نامکمل سمجھتے ہیں کم سے کم یہ سمجھنے لگیں کہ واقعہ میں دنیا میں اسلام کے حق میں ایک انقلاب عظیم پھا ہو رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رضا کارانہ خدمت کے جذبہ کو پختہ اور مضبوط کریں اور بیدار رکھیں جس وقت بھی آواز ہمارے کانوں میں پہنچے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے دل اور ہمارے دماغ اور ہماری روح نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے ہم رضا کارانہ طور پر ہر قربانی خدا تعالیٰ کی اس بزرگزدہ جماعت کے نظام کے سامنے ہم پیش کر دیں گے۔

نویں صفت توکل ہے توکل کے لغوی لحاظ سے معنی یہ ہیں کہ انسان خود کو عاجز پائے اور کسی اور پر

بھروسہ رکھے لفظی معنی تو کسی اور کے ہیں بعض دفعہ انسان انسان پر بھروسہ رکھتا ہے بعض دفعہ کسی جماعت پر کرتا ہے بعض دفعہ اموال پر کرتا ہے اور بعض دفعہ اپنے طبقہ اور برادری پر بھی کرتا ہے۔ بہر حال اس کے لغوی معنی ہیں خود کو عاجز پا کر کسی غیر پر بھروسہ کرنا اور اسے یہ سمجھنا کہ وہ میرا کام کر دے گا میرا متولی بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَ عَلَيَّ اللَّهُ فُلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ** (آل عمران: ۱۶۱)

کہ جو مومن ہیں وہ جب بھی خود کو عاجز پائیں اور اور پر توکل کا موقعہ سمجھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر توکل نہیں کیا کرتے۔

وَ عَلَيَّ اللَّهُ فُلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ غیر اللہ پر توکل نہیں کرنا یعنی اپنے علم پر بھروسہ نہیں رکھنا۔ اپنے اموال پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اپنے جتنے اور برادری پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرنا۔ رشوت پر بھروسہ نہیں کرنا۔ جھوٹ پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دھوکہ دہی پر بھروسہ نہیں کرنا کہ اس سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ تو نہیں کرنے والا ایک حصہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے اور اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے سارے کام کر سکتا ہے۔ ہم عاجز ہیں لیکن خدا عاجز نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا دار جب دنیا والوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ایک عاجز پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا عاجز ایک انسان ہے اتنا ہی عاجز دوسرا انسان ہے لیکن جب خدا کا بندہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر یا اپنی سمجھ اور عقل اور ایمان کے تقاضا سے ہر چیز میں خود کو عاجز سمجھتا اور پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہ ایک ایسی ذات پر توکل کرتا ہے جس میں کام کرنے کی ساری طاقتیں ہیں۔

تو توکل کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیر اللہ کو اس قابل نہیں سمجھنا کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھنا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی قادر سمجھنا اور واقعی اس بات کا اہل سمجھنا اسے صفات کا مالک سمجھنا کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اگر ہمیں مال کی ضرورت ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا والے ہمیں رزق دے دیں گے لیکن یہ ضرور سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا رازق ہے اور ایسے رستوں سے بھی رزق دے دیتا ہے کہ انسان کی عقل میں بھی وہ نہیں ہوتا۔ **يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ** (البقرة: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے شروع خلافت ہی میں اس عاجز اور بالکل کم مایہ بندے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ

”تینوں میں ایسا دیواں گا کہ توج جائیں گا۔“ اس کے بعد کئی دفعہ (پتہ نہیں کہ اس میں بھی کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے) میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کہا اور ایک دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ بعض دوستوں کے گھروں میں ایسی تقریبات اکٹھی ہو گئیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر دوست کو بطور تحفہ کم از کم سو روپیہ دوں۔ میری جیب میں دو سو روپے تھے اور ضرورت مجھے چھ سات سو روپیہ کی۔ مجھے اس وقت خیال آیا بعد میں بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی مغفرت چاہی اور اب بھی چاہتا ہوں بہر حال یہ ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں میرا رب جس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا وہ اسے کس طرح پورا کرتا ہے۔ چنانچہ آگے پیچھے موقعے تھے میں نے ایک کو دیا اور پھر دوسرے کو دیا اور دو سو روپیہ میری جیب میں موجود تھا جو ختم ہو جانا چاہئے تھا لیکن قبل اس کے کہ دوسرے دوست کے پاس میری طرف سے وہ روپیہ پہنچتا۔ سو یا دو سو روپیہ اور میری جیب میں آ گیا اور جب میں اس طرح سات سو روپیہ اپنے بعض دوستوں کو دے کر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں ان کی خوشی میں شریک ہوں تو اس وقت بھی میری جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔

تو ہزاروں قسم کے نظارے بھی انسان دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا اور اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ ہم ہی اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس کے فضلوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو دوسرا پہلو جو بنیادی ہے جو علم اور عقل ہمارے اندر ہونی چاہئے جس طرح بدیوں سے رکنے کی عقل ہمارے اندر ہونی چاہئے ویسے ہی یہ عقل بھی ہمارے اندر ہونی چاہئے کہ ہمارا اللہ (جس رنگ میں کہ قرآن کریم نے اسے ہمارے سامنے پیش کیا ہے) تمام صفاتِ حسنہ سے متصف ہے۔ تمام قدرتوں کا مالک ہے اور وہ ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور عاجزی کے وقت وہی ایک ذات ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہو تو ہم بڑی دلیری کے ساتھ دنیا میں اسلام کے مخالفوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو کل کے بغیر ہم اسلام کے مخالفوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔

جب میں نے اسماعیل صاحب منیر کو یہ لکھا کہ کمزوری نہ دکھاؤ۔ دھڑلے سے اس پادری کو خود چیلنج دو۔ جب میں نے عبدالسلام میڈیسن تو یہ کہا کہ جھوٹے خدا ان مدعیان پر افسی (Prophecy) کے کام نہیں آئیں گے۔ (بعض پیشگوئیوں اعلانہوں نے کئے تھے) اور جو زندہ خدا ہے۔ اس کا یہ منشاء نہیں کہ ان کی بات پوری ہو کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے دو باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ عالمگیر تباہی موسم بہار میں ہوگی اور اس مدعی کا تباہی کا زمانہ نہیں وہ جس کی پیشگوئی ان جھوٹے مدعیان کی تھی۔ ۲۵ دسمبر کو ختم ہوتا تھا۔ جو موسم بہار سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ دوسرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تیرے مقابل پر آ کر جو پیشگوئی کرے گا۔ وہ ناکام ہوگا۔ تو ان دو چیزوں سے میں نے استدلال کر کے اور اپنے رب کامل پر توکل رکھتے ہوئے کہا کہ یہ ہونہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو۔ آپ نے کل وہ خط میرا سنا عبد السلام میڈیسن کو خط لکھتے ہوئے میں نے بڑے زور سے کہا کہ تم ان سے کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور جس ہستی کو تم خدا سمجھتے ہو۔ وہ خدا نہیں۔ وہ بھی جھوٹ کہتا ہے۔ تم بھی جھوٹے ہو اور اگر کوئی خدا تمہارے کان میں پھونکیں مارنے والا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ چنانچہ ان کو شرمندہ ہونا پڑا۔ ہمارے کم عمر اور ناتجربہ کار مبلغ (جنہوں نے باہر کے ملکوں میں کام کیا ہے) جب بھی توکل کے اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے لئے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔

پس ہم تو مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے اموال نہیں۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہمیں سیاسی اقتدار حاصل نہیں۔ ہمیں یہ کہنے میں بھی باک نہیں کہ دنیا والے اگر چاہیں تو دنیوی لحاظ سے ہر قسم کی ذلتیں ہمیں پہنچا سکتے ہیں اور دکھ دے سکتے ہیں لیکن ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر توکل ہے اور دنیا کی کوئی طاقت احمدیت کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ (نعروں کی گونج) اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ضرور پورا ہوگا۔ لیکن اس کی راہ میں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی اور وہ قربانیاں دینے کے لئے وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے اور جن میں سے نوکاذکر میں نے اس وقت آپ کے سامنے کیا ہے۔ ہم نے انتہائی قربانی دینی ہے اور ہم اپنے اللہ پر یہ امید رکھتے ہیں اور اس پر یہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح عظیم انعاموں سے نوازے گا اور جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ وہ ہمیں توفیق دے گا کہ دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے کہ ہم ہی خدا کی ایک جماعت ہیں محبتی جس کو اس نے بزرگی عطا کی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل ہے۔ ہم کمزور ہیں۔ ہم عاجز ہیں۔ ہم محض نیستی ہیں۔ ہم لاشے محض ہیں لیکن ہمارا رب تمام طاقتوں والا ہے۔ اسی پر ہم توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اس سے ہر خیر کی امید رکھتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جس طرح آج سے قبل ہر سورج جو ہم پر چڑھا اس نے ہمیں خدا کے فضل سے تعداد اور تقویٰ میں زیادہ پایا۔ آئندہ بھی ہر سورج جو اس دنیا پر چڑھے گا وہ جماعت احمدیہ کی ترقی پر ایک گواہ بن کے چڑھے گا۔ انشاء اللہ اور ہم کامل وثوق اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخصوں کی (جن کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں اور ابھی یہ تار آئی ہے) کبھی امیدیں بر نہیں آئیں گی۔ وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے۔ امام کمال یوسف نے لکھا ہے کہ ایک مقامی پادری نے ایک اخبار میں یہ لکھا ہے۔

”میرے لئے اور میرے جیسے بہتوں کے لئے مسجد کے افتتاح کا دن بہت افسوس ناک تھا۔ اس دن ایک بیرونی اور دشمن عیسائیت مذہب نے ہماری عیسائی دنیا میں مداخلت کی۔ اور اپنے لئے گھر بنا لیا۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عالم عیسائیت میں اس مذہب کے لئے کوئی مقام نہ ہوگا (بارہ تیرہ دوست اس وقت سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ جن میں سے ایک کیتھولک بھی ہے۔ جو بڑے کٹر ہوتے ہیں) اور اس مذہب کو کبھی خوش آمدید نہیں کہنا چاہئے۔ اس پادری کو اور اس جیسے دوسرے پادریوں کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہم اس یقین کامل پر کھڑے ہیں کہ تمہاری خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ہم تمہارے دشمن نہیں۔ ہم تمہارے دوست ہیں اور دوست ہونے کی حیثیت میں اپنے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے تمہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارا سر توڑنے کے لئے وہاں نہیں آئے لیکن ہم تمہارے دلوں کو اور تمہاری قوم کے دلوں کو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضرور جیتیں گے۔ انشاء اللہ

اب دعا پر اس سالانہ اجتماع کو میں ختم کروں گا۔ آپ دعائیں کریں۔ ہر قسم کی برکت اور خیر چھوٹی اور بڑی اپنے رب سے مانگیں۔ اسی پر بھروسہ اور توکل رکھیں اور اپنے رب سے یہ کہیں کہ اے خدا تو نے ہمیں کمزور و نحیف اور غریب بنایا ہے۔ ہم پر بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ تیرے فضل کے بغیر ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانہیں سکتے۔ پس تو اپنا فضل ہم پر نازل کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال بجا لائیں جو تیری نگاہ میں پسندیدہ ہوں اور تیرہ رضا کو جذب کرنے والے ہوں۔ تیری برکتوں کا ہمیں

وارث بنانے والے ہوں۔ ہر لحاظ سے ہمیں اسلام کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانیاں دینے کی توفیق عطا کر اور وہ دن جلد لاکہ دنیا تجھے پہچاننے لگے اور تیری طاقتوں اور قدرتوں سے واقف ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حُسن اور آپ کے احسان کے نظارے دیکھنے لگے۔ اپنے وعدوں کو جو اسلام کے غلبہ سے تعلق رکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں پورا کر اور اس دنیا میں جو سب سے بڑی جنت اور جنت ہمیں مل سکتی ہے کہ اسلام کے غلبہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ نعمت ہمیں عطا کر اور اس دنیا میں بھی ہم پر اپنا فضل ہی فرما اور نارِ جہنم سے ہمیں اتنا ہی دور رکھ جتنا شرک سے توحید کو تونے دور رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی آزادی عطا کرے اور انہیں طاقت بخشے۔ چاہے وہ دنیا کے کسی حصہ میں رہتے ہوں اور وہ تمام ملک جہاں اسلام پر ایمان لانے والوں کی اکثریت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو طاقت عطا کرے اور ان کو وقار نصیب کرے اور ان کو ہمت عطا کرے اور ان کو قرآن کریم کے انوار سے روشنی لینے کی توفیق عطا کرے اور اسلام کے غلبہ کی مہم میں ان کو حصہ دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے خواہ ہم وہ سوچ سکتے ہوں یا نہیں سوچ سکتے۔ ہمیں اپنی برکتوں سے نوازے اور خیر کے سارے سامان ہمارے لئے پیدا کرے اور شر کے ہر پہلو سے ہمیں بچائے رکھے۔

جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا۔ ان دنوں میں جہاں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لئے تیار تھے اور تھوڑا کھانے کو معمولی تکلیف سمجھتے تھے۔ کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ قربانی (تکلیف) لی۔ وہاں میں نظام کی طرف سے جو ایک خرابی پیدا ہوئی۔ اس کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ میرے بھائیوں کو اس مقدس اور مبارک جلسہ میں اس قسم کی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بڑا ہی دکھا اٹھا تا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور مجھے معاف کرے۔

اس کے بعد حضور انور نے حاضرین سمیت لمبی دعا فرمائی۔

دعا کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

آپ دوست واپس اپنے گھروں کو تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر آن آپ کے محافظ ہوں اور آسمانی برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)

جلسہ کے یہ بابرکت ایام کوئی دنیاوی میلہ یا اکٹھ نہیں

﴿افتتاحی تقریب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۸ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

عزیز بھائیو اور بہنو! السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اس وقت پہلے تو میں مختصراً اپنے بھائیوں کو ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو جلسہ کے یہ بابرکت ایام ہم پر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی دنیاوی میلہ یا اکٹھ نہیں ہے نہ ہم دنیا کے کسی لالچ کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، نہ دنیا کا کوئی خوف ہمیں یہاں آنے سے روک سکا ہے۔ ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھاتے ہوئے بھی یہاں اس لئے آئے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسی دعائیں کروالے یا دوسروں کی دعائیں ہمارے حق میں کچھ اس طرح قبول کر لے کہ ہماری کمزوریاں اس کی مغفرت کی چادر میں ڈھانپی جائیں اور ہماری حقیر کوششوں کے بہترین نتائج نکلیں اور احسن ثواب اس کی طرف سے ہمیں ملے۔ ان ایام کا خصوصاً (ویسے تو ساری زندگی کا ہی عموماً) ہر لحظہ اور ہر لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے میری مراد ایک مومن کی زندگی سے ہے جو اپنے رب پر ایمان لاتا اور اس یقین پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جو بھی مخلصانہ سانس میں اس دنیا میں لوں گا وہ مجھے ابدی زندگی کا وارث اس دنیا میں بنائے گا۔ پس ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا ہو اور ہمارا کوئی لمحہ بھی شیطان چھین کے لے جانے میں کامیاب نہ ہو۔ دعاؤں میں ہمہ وقت مشغول رہیں پیارا اور محبت کو، باہمی اخوت کو بڑھائیں آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے حالات پوچھیں اور سب سے زیادہ اپنے رب سے ملنے کی کوشش کریں اور

اُسے اپنے حالات اور اپنی تکلیفیں بتائیں اور عاجزانہ اس کے حضور جھک کے اس سے کہیں کہ اے ہمارے رب! ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ ایک اہم ذمہ داری غلبہ اسلام کی اور توحید کے قیام کی تو نے ہم پر ڈالی ہے، ہم اپنی طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں اور وسائل اور ذرائع کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے لیکن ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود جب ہم تیری بشارتیں سنتے اور تیری قدرتوں اور طاقتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ باوجود محض نیستی ہونے کے وہ جس سے ہر ہست نمودار ہوا، اور وجود پذیر ہوا وہی ہمیں کامیاب کرے گا۔ پس تُو ہمیں کامیاب کر، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن سے تُو ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے افکار اور ایسے منصوبے اور ان منصوبوں پہ ایسے عمل کی توفیق دے جو کام تو نے ہمارے سپرد کیا ہے کہ دنیا کے دل میں تیری توحید کو گاڑ دیں اور ہر سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور کر دیں ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم یہاں اللہ کے ارشادات اور احکام اور ہدایتیں سننے کے لئے اور جو حسین تھا ہر رنگ میں، جس کی زبان بھی میٹھی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شیریں بول سننے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پس جہاں بھی یہ شیریں آواز اُٹھے، وہاں آپ پہنچ جائیں اور غلط قسم کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے خدا اور رسول کی باتیں سننے میں اپنا وقت خرچ کریں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ سمجھ بھی دے اور عمل کی طاقت بھی عطا کرے اور پھر اپنے فضل سے وہ نتیجہ بھی نکالے جو ہمارے دلوں کو بھی مسرور کرے اور وہ بھی خوش ہو کہ اس، بندے کے اسی کے بندے بنے شیطان کے بندے نہ بنے۔

اب میں کچھ دعائیں جو قرآن کریم ہی کی ہیں اونچی آواز سے پڑھوں گا، آپ آمین کہتے رہیں۔ غور سے سنیں، اس کے مطابق خدا کے حضور جھکتے رہیں۔ پھر ہم اجتماعی دعا کے ساتھ اپنے اس جلسہ کو جس میں ہم محض اللہ کی رضا کے لئے شامل ہوئے اور جسے محض خدا کی رضا کے لئے منعقد کیا جاتا ہے۔ افتتاح کریں گے۔ اللہ کی برکتیں، اس کے فضل اور اس کی رحمتیں ہر آن اور ہر لمحہ خصوصاً ان دنوں میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہم پر برستی رہیں کہ اس کی رحمت اور

اس کے فضل اور اس کی برکت کی وسعتوں کا تصور بھی ہمارے دماغ نہیں کر سکتے۔

اے ہمارے رب! تو ہر نقص سے پاک ہے۔ پیدائشِ عالم بے فائدہ اور بے مقصد نہیں۔ اے ہمارے رب! ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچالے اور اپنے غضب کی آگ سے تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے ہمارے رب! تیرے نام پر ایک پکارنے والے نے ہمیں پکارا اور تیری رضا کے حصول کے لئے ہم نے اس کو قبول کیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تیرے نام کی عظمت اور کبریائی کے لئے ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہی کس حد تک ہم نے اس عہد بیعت کو نباہا۔ تو یہی بہتر جانتا ہے ہم کمزوریوں کے پتلے ہیں، ہماری عاجزانہ پکار کو سن اور ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹادے اور ہمیں اس گروہ میں شامل کر جو تیری نگاہ میں نیک اور پاک ہے اور اے ہمارے رب! اے سرچشمہ عنایات بے پایاں!! تیری طرف سے آنے والی ہر خیر کے ہم بھوکے اور فقیر ہیں۔ اے ہمارے رب! ہمیں وہ سب کچھ دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہے اور جب جزا کا دن آئے تو ہم تیری نظروں میں ذلیل نہ ٹھہریں۔ دیکھنے والے دیکھیں اور سمجھنے والے کہ جو تیری راہ میں دکھ اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور جن کو ذلیل کرنے اور ہلاک کرنے میں دنیا کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتی وہی تیرے پیار کو پاتے ہیں اور عباد اللہ المکرون میں شامل کئے جاتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم تیرے لئے اپنے نفسوں کی خواہشات اور ماحول کی کشش اور دنیا کی زینت سے کنارہ کش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں ستائے گئے اور ذلیل کئے گئے اور ہم نے تیری راہ میں رسوائیاں اٹھائیں اور ماریں کھائیں اور جائیدادیں لٹوائیں۔ لیکن ہلاکت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے محبت کے اُس شعلہ کو اور بھی روشن کیا جو تیرے لئے ہمارے دلوں میں موجزن ہے لیکن یہ تو ہماری سمجھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ کا قصور ہو۔ ہم تیرے خوف سے لرزاں ہیں ہماری روح تیرے جلال سے کانپ رہی ہے، تیری عظمت اور کبریائی نے ہمارے درخت وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اے ہمارے رب! ہماری کمزوریوں سستیوں، غفلتوں کو تا ہیوں، خطاؤں اور گناہوں نے ہماری نیکیوں کو دبا دیا ہے۔ مغفرت! مغفرت!! اے رب غفور! مغفرت کی چادر تلے ہمیں چھپالے، ہمارے ہاتھ نیکیوں کے پھول اور اعمال صالحہ کے ہار تیرے قدموں پر نچھاور کرنے کے لئے نہیں لاسکے۔ تہی دست تیرے

قدموں پر گرتے ہیں اور تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رحمان! ان تہی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے پید بیضا کر دے۔ تیرا جمال اور محمدؐ کا حُسن دُنیا پر چمکے اور اسے روشن کرے۔ ان تہی ہاتھوں کو اپنے دستِ قدرت میں پکڑ تیرا جلال اور محمدؐ کی عظمت دُنیا پر ظاہر ہو۔ اسلام اور محمدؐ کے مغرور دشمن کا سرنگوں اور شرمندہ کر دے۔

اے ہمارے رب! ہماری بھُول چوک پر ہمیں گرفت نہ کرنا اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں مگر ہیں تو تیرے ہی بندے۔ اے ہمارے رب! کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم عہد شکن ہو کر ثواب کے کاموں سے محروم ہو جائیں اور عہد شکنی کی سزا تیری طرف سے ہمیں ملے۔ اے ہمارے محبوب! ہم ہمیشہ اپنے عہد پر قائم رہنے کی تجھ سے توفیق حاصل کرتے رہیں اور ہمیشہ تیری ہی رضا ہمارے شامل حال رہے اور تیرے انعامات بے پایاں کا جو سلسلہ اسلام میں جاری ہوا ہے اس کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے۔

اے ہمارے رب! اپنے قہر کی گرفت سے ہمیں محفوظ رکھو۔ تیرے غصہ کی ہمیں برداشت نہیں۔ تیری گرفت شدید ہے کچل کر رکھ دیتی اور ہلاک کر دیتی ہے۔ ہم عاصی ہیں ہمیں معاف فرما۔ ہم سے گناہ پر گناہ ہوا۔ کوتاہی پر کوتاہی، اپنی رحمت کی وسیع چادر ہماری سب کمزوریوں کو چھپا لے ہمیں اپنی رحمتوں سے ہمیشہ نوازتا رہ تو ہمارا محبوب آقا تیرے دامن کو ہم نے پکڑا۔ دامن جھٹک کے ہمیں پرے نہ پھینک دینا ہماری پکار کو سُن اور اسلام کے ناشکرے منکروں کے خلاف ہماری مدد کو آ اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب! تیری راہ میں جو بھی سختیاں اور آزمائشیں ہم پر آئیں ان کے برداشت کی قوت اور طاقت ہمیں بخش اور سختیوں اور آزمائشوں کے میدان میں ہمیں ثباتِ قدم عطا کر، ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آئے اور اپنے اور اسلام کے دشمن کے خلاف ہماری مدد کر اور ہماری کامیابیوں کے سامان تو خود اپنے فضل سے پیدا کر دے۔

اب ہم دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے ساتھ اس جلسہ کا افتتاح ہو جائے گا۔

(روزنامہ الفضل ربوہ ۱۲ جنوری ۱۹۶۹ء صفحہ ۲، ۳)

اللہ تعالیٰ عزّت کا سرچشمہ ہے جو خدا سے دور ہو گیا وہ تو ذلیل ہو گیا

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۶۸ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائی:-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدَّٰ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ ۖ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۲﴾
الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِبَادُونَ الْحَمْدُونَ السَّاجِدُونَ الرُّكُوعُونَ
السُّجُودَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۳﴾

(التوبة: ۱۱۲، ۱۱۳)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

ایک عید تو وہ ہوتی ہے جو ہم رمضان کے مہینہ کے بعد مناتے ہیں یا حج کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ یہ دو عیدیں سال میں آتی ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں لیکن ایک اور عید ہے اور وہ وہ ہے جو کسی نبی کی بعثت کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کا زمانہ اس نبی کی کامیابیوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس قوم پر اس کی قیامت آجاتی ہے تو وہ عید بھی گزر جاتی ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے اس لئے وہ عید جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے وہ ایک دن یا دو دن کی عید نہیں بلکہ جب وہ عید شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ عید جاری رہے گی۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دنیا میں یہ اعلان کیا کہ میں خاتم النبیین کی حیثیت سے دنیا کی طرف مبعوث ہوا ہوں اس وقت جس عید کا وعدہ دیا گیا وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے عہد بیعت باندھتے ہیں انہیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو اس عہد بیعت کے ذریعہ خرید لیا ہے اور اس وعدہ پر خریدنا ہے کہ انہیں جنت ملے گی۔

قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس جنت کا وعدہ ہمیں اسلام دیتا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور اخروی زندگی سے بھی ہے۔ پس یہاں اس آیت میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ اس سودے کے نتیجے میں جو تم نے اپنے رب سے کیا ہے تمہیں دنیوی جنت بھی ملے گی اور اخروی جنت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اس نے اپنے پر لازم کر لیا ہے اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ انسان جو شریف الطبع ہوتا ہے وہ جو زبان سے کہتا ہے اگر اس کے امکان میں ہو تو وہ اسے پورا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو سرچشمہ ہے تمام شرافتوں اور تمام عزتوں کا اور منبع ہے تمام قدرتوں کا۔ اس لئے کوئی چیز انہونی نہیں اس کے لئے۔ فرمایا کہ جو وعدہ خدا نے دیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اور اس وجہ سے اے مومنو ہم تمہیں ایک ابدی عید کی بشارت دیتے ہیں۔ پس تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ اور یہی وہ عید ہے جو انتہائی کامیابی اور سب سے بڑی عید ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عید تصور میں نہیں آسکتی۔ عید کے معنی خوشی اور مسرت کے وقت کے ہیں جو بار بار آتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ عید جو آج شروع ہوئی ہے۔ یہ تم پر بار بار آئے گی تمہارے لئے ہر روز ہی روز عید ہوگا اور ہر لمحہ تمہاری زندگی کا عید کا لمحہ ہوگا تم غلطی کرو گے لیکن تم پر مایوسی نہیں چھائے گی۔ غلطی کرنے کے بعد اگر تم ندامت کے احساس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف لوٹو گے تو وہ تمہیں اس طرح گلے سے لگالے گا جس طرح عید کے موقع پر ایک مسلمان اپنے دوست کو گلے لگاتا ہے اور جب تم عبادت کی راہیں اختیار کرو گے عبودیت کا جامہ تم پہنو گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات تمہارے وجود میں جلوہ گر ہوں گی تو چونکہ خدا اور اس کی صفات غیر محدود ہیں اس لئے جب اللہ تعالیٰ کی

صفات تمہارے وجود میں جلوہ گر ہوں گی تو یہ ایک ایسی عید ہوگی جو ختم نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے جلوے محدود اور ختم ہونے والے نہیں۔ تم خدائے واحد و یگانہ کی حمد اور تعریف میں مشغول ہو گے اور خدا تعالیٰ تمہاری اس حمد کو دیکھ کر آسمان سے تمہارے لئے رحمتوں کے نزول کا سامان پیدا کرے گا اور تمہارے لئے عید، خوشی اور مسرت کے دن آ جائیں گے۔ تم اللہ کے قرب کی راہوں کو تلاش کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے قریب آ جائے گا اور تمہارے کان میں کہے گا کہ دنیا کی ہر چیز تم سے دور ہے بلکہ تمہارا نفس بھی تم سے دور ہے لیکن میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم میری تعریف میں میں لگے ہوئے ہو اور میں تمہاری خوشیوں کے سامان پیدا کر رہا ہوں، تمہاری حفاظت کے سامان پیدا کر رہا ہوں تمہاری مسرتوں کے سامان پیدا کر رہا ہوں۔ تم عاجزی اور تضرع کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریز ہو گے تو وہ محبت اور پیار کے ساتھ تمہیں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھالے گا اور تمہاری عید کے سامان پیدا کر دے گا

تم اس عید کے دیکھنے کے بعد یہ جذبات اپنے اندر محسوس کرو گے کہ وہ جو اس کی خوشیوں سے محروم ہیں انہیں بھی خوشیوں سے حصہ ملے تم نیک باتوں کا حکم دینے لگو گے اور بُری باتوں سے روکنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت میں لگ جاؤ گے۔

لیکن وہ نادان اور جاہل جو تمہاری عید اور اس عید کی خوشیوں اور مسرتوں سے ناواقف ہیں وہ حقیقت کو نہ پائیں گے اور وہ تمہارے مقابلہ پر کھڑے ہو جائیں گے وہ تمہیں دکھ دینے لگیں گے وہ تمہیں ایذا پہنچانے لگیں گے وہ تمہاری کوششوں کو ناکارہ کرنے کی ہر تدبیر کریں گے۔ لیکن ان کی ہر تدبیر خدا اور رسول کے مقابلہ میں اور تمہاری ہر اس تدبیر کے مقابلہ میں جو تم نے اس انتہائی محبت اور پیار کے نتیجے میں جو تم اپنے رب کے لئے اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے کی تھی ناکام کر دی جائے گی اور ان کی ہر تدبیر کی ناکامی تمہارے لئے خوشی کا ایک دن لائے گی اور عید کے سامان پیدا کرے گی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بشارت کا اعلان کیا تو ایک عظیم عید کا دن دنیا پر چڑھا۔ جب ہم آپ کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انتہائی خطرناک مواقع پر بھی وہ دن جو دنیوی لحاظ سے نہایت سخت تھے آپ پر بھی اور آپ کے ماننے والوں پر بھی وہ دن آپ کے لئے اور

آپ کے ماننے والوں کے لئے عید ہی کا دن تھے۔

میں آپ کی مدنی زندگی کے دو واقعات لیتا ہوں جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ مدنی زندگی کے سب سے زیادہ کٹھن دن تھے اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن بھی مسلمانوں کے لئے عید ہی کے دن تھے۔

ایک تو اُحد کا واقعہ ہے جو مسلمانوں کے لئے ایک لحاظ سے بڑا ہی دکھ دہ بھی تھا۔ اس دن ان پر مصائب کے بادل چھا گئے تھے کیونکہ بعض مسلمانوں کی غلطی کے نتیجے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے جیت بظاہر ہار کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پانسہ پلٹ گیا تھا اور تو جو ہوا سو ہوا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا اور دشمنوں نے پورے زور کے ساتھ آپ پر حملہ کیا آپ دشمن کی زد میں آ گئے۔ آپ کے چار دانت شہید ہوئے۔ ہونٹ زخمی ہوا۔ رخسار پھٹا۔ خون نکلا گڑھے میں آپ گرے اور کفار نے خوش ہو کر یہ نعرہ لگایا کہ آج ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا ہے اور اس طرح ہم نے اسلام کو مٹا دیا ہے۔ لیکن الہی تدبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اس نے اسلام کی حفاظت کی اور جب اس میدان میں کفار نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور ان کے جواب سے انہیں معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ سے اکثر زندہ ہیں۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دن بھی ان کافروں کے لئے ناکامی اور شکست کا دن ہے اور مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ دن بھی ان کے لئے عید کا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص معجزہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور جب اپنے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس طرح دشمن کا کوئی وار آپ کو شہید کرنے میں کامیاب نہ ہوا حالانکہ کثرت سے تیر پڑے۔ تلواریں چلائی گئیں۔ پتھر اڑا کیا گیا ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے اور چونکہ دشمن اپنے اصل مقصد میں ناکام ہوا اس کے باوجود اس لئے کہ مسلمانوں کو کافی ذہنی اور جسمانی تکالیف برداشت کرنی پڑیں انہوں نے یہی محسوس کیا کہ وہ دن بھی الہی وعدہ کے مطابق عید کا دن ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جنگ اُحد کے متعلق فرماتے ہیں۔

”اب اگر غور سے دیکھا جاوے تو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں فتح تھی،“ اور یہ ایک حقیقت ہے محض ایک فلسفیانہ دعویٰ نہیں کیونکہ وہ لوگ جو اس جنگ میں شامل تھے یا وہ لوگ جو مدینہ (مدنیہ قریب ہی تھا) میں تھے ان کو جب اطلاع ملی تو ان کے دل میں یہی بات تھی کہ دشمن ناکام ہو اور اسلام کامیاب ہوا ہے اور فتح اسی کو نصیب ہوئی ہے جیسا کہ ان دو واقعات سے پتہ لگتا ہے۔

پہلا واقعہ۔ جب مدینہ میں یہ اطلاع ملی کہ احد میں بعض مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس دن کافروں کے مقابلہ میں نسبتاً زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے اور اسلام کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن احد کا دن اس لحاظ سے بھی بہت سخت تھا پھر یہ دن اس لحاظ سے بھی سخت تھا کہ ایک گروہ نے اپنی نادانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا دیا انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی گو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے لیکن یہ امر جماعت مؤمنین کے لئے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو سخت گھبراہٹ کی حالت میں ایک انصاری عورت گھر سے نکل کر احد کے راستہ پر ہوئی۔ وہ احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی کہ اس کو بعض ایسے صحابی ملے جو احد کے میدان سے واپس آ رہے تھے اور یہ وہ گروہ تھا جس میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ بعض صحابہ نے آگے بڑھ کر اس انصاری عورت کو یہ اطلاع دی کہ تمہارا باپ اور تمہارا بھائی اور تمہارا خاوند تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ جب اس عورت کو یہ اطلاع ملی تو چونکہ اس کی گھبراہٹ اور بے چینی اپنے باپ بھائی یا خاوند کے لئے نہیں تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی اس لئے اس نے کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب صحابہ نے اس سے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بخیریت ہیں اور یہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ ہی تشریف لارہے ہیں تب اس نے نظر اٹھائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جب اس کی نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے کہا اگر آپ زندہ ہیں تو دنیا کی کوئی مصیبت مجھ سے عید کی خوشی چھین نہیں سکتی۔

غرض گواحد کا دن بڑا سخت تھا لیکن یہ دن بھی جماعت مسلمین کے لئے عید کا دن ہی تھا اور یہی جذبات ان کے دل میں تھے کہ ہم ناکام نہیں ہوئے بلکہ یہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے اور اس عید کے دن کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دشمن اپنے اس مقصد میں ناکام ہوا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو قتل کر دے اور دوسرے یہ دن عید کا دن اس لئے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اس قسم کے حالات آئندہ مسلمانوں پر نہیں آئیں گے غرض عظیم بشارت لے کر یہ دن آیا، عظیم حفاظت لے کر یہ دن آیا اور ایک نہایت عظیم معجزہ اس دن اللہ تعالیٰ کی جماعت نے دیکھا۔ پس یہ دن بھی باوجود انتہائی سخت ہونے کے اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے عید کا دن تھا۔

اُحد کے موقع پر ہی ایک اور بڑھیا عورت گھبراہٹ میں مدینہ سے نکلی۔ رستہ میں صحابہؓ کا ایک گروہ اسے ملا جس میں اس کے بیٹے حضرت سعد بن معاذ رئیس مدینہ بھی تھے۔ اس بڑھیا یعنی حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کی نظر بھی کمزور تھی۔ جنگ اُحد میں اس کا بیٹا عمرو بن معاذ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب اپنی والدہ کو آتے دیکھا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم میری والدہ آرہی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی برکتوں کے ساتھ آئے۔ بڑھیا آگے بڑھی اور اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آجائیں۔ آخر جب اس کی نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور اس نے آپ کو پہچان لیا تو وہ خوش ہو گئی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی شہادت پر آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے ساری مصیبتوں کو بھون کر کھالیا۔ مجھے اور کسی کی پروا نہیں۔

ان دو واقعات کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن جو بظاہر سخت تھا مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہی تھا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت واپس آتے دیکھ لیا حالانکہ آپ کے لئے انتہائی خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے۔

دوسری جنگ احزاب ہے جس میں بڑے خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے سارا عرب اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا اور مدینہ گھیرے میں آ گیا تھا۔ علاوہ اور مصیبتوں کے کھانے کی بھی کمی

تھی۔ ان دنوں خوراک کی کمی تھی۔ مسلمان بڑی تکلیف میں تھے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر پھر ا کرتے تھے۔ اس حالت میں ان سختی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے عید کے سامان پیدا کئے تھے۔ ایک تو یہ کہ الہی بشارت کے مطابق کفارنا کامی سے واپس لوٹے اور دوسرے یہ کہ عین ان تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دوز بردست طاقتوں کے مغلوب ہونے کی خبر مسلمانوں کو دی اور بتایا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے ہاتھوں مغلوب ہوں گی اور اسلام پھیل جائے گا۔ گویا اس تنگی کے زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے خوشی اور مسرت کے زمانہ میں بدل دیا۔

پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عید ہمارے لئے لے کر آئے وہ عید قیامت تک چلنے والی ہے۔ دنیا کی تکالیف اور دنیا کی آزمائشیں اس عید کی ماہیت اور حقیقت کو بدل نہیں سکتیں۔ ایک مسلمان پر بظاہر دنیوی لحاظ سے مصائب کا پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے اس کے دل میں عید کی خوشی اور مسرت کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے لئے خوشیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔

عید کے یہ معنی نہیں ہیں۔ ہماری جو عام عید ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اس دن کوئی گھر میں تکلیف نہیں اٹھاتا بلکہ اس دن ماں کو تو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ کھانوں کا انتظام کر رہی ہوتی ہے عام حالت کی نسبت اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی گھر میں نوکر ہیں تو اس دن نوکروں کو بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کو عید کیوں کہتے ہیں دنیوی آنکھ تو اس دن عید کی خوشی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں ایک متقی اور پرہیزگار مسلمان کی بات نہیں کر رہا۔ عام دنیا دار اس دن عید کی خوشی ہی دیکھتا ہے کہ کھانا پینا ہے، ہنسی مذاق ہے (اس کی ساری خوشیاں ان چیزوں میں ہیں) لیکن اس دن گھر والوں کو ہزار کام کرنے پڑتے ہیں غیر معمولی طور پر وہ کام کا دن ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے پکانے ہوتے ہیں۔ زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس حقیقتاً عید کے معنی یہ ہوئے کہ خوشی اور مسرت کے لمحات تکالیف سے زیادہ ہیں اور تکلیف خوشیوں کے اندر دبی ہوئی ہے اور ان خوشیوں پر معمولی معمولی تکلیفیں قربان ہو رہی ہیں۔ ماں اپنے وقت کی قربانی دے رہی ہوتی ہے۔ اپنے جسم کی طاقت خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ تھوڑے سے وقت کے لئے جس میں گھر والے باہم بیٹھیں۔ مل

کر کھائیں پیئیں۔ ہنسی اور خوشی سے کچھ وقت گزریں اپنی توجہ اور اپنی ہر چیز قربان کر رہی ہوتی ہے۔ پس عید میں خوشی زیادہ ہے اور تکلیف کم ہے عید کے ساتھ تکلیف بہر حال لازم لگی ہوئی ہے۔ پھر جب دنیا کی عیدوں کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے تو وہ عید جس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جس کی قیمت دنیا کے اموال ادا نہیں کر سکتے۔ اس عید کے ساتھ بھی تکالیف لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے موقع پر معجزانہ طور پر مسرت کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح پر وہ دن جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے ساتھ شروع ہوا کہ جنہوں نے آج میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے وہ خوش ہو جائیں کہ ایک ابدی عید کی بشارت اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے۔ عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کام سکھائے گئے ہیں۔ ایسی عبادتیں بتائی گئی ہیں کہ جب مسلمان انہیں بجالائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے سامان پیدا ہو کر ان کے لئے عید کی خوشیاں آجائیں گی۔

کچھ عرصہ سے امت مسلمہ نے اس عید سے لاپرواہی برتنی شروع کی اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی کمزوریوں اور غفلتوں کے نتیجے میں امت مسلمہ تنزل کے ایک دور سے گزری اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اب عید کا دن ان پر غروب ہو چکا ہے لیکن ان دنوں میں بھی گو کمزور حصہ بادلوں کے اندھیرے میں تھا مخلصین کی ایک بڑی جماعت خدا تعالیٰ کے حسن اور اس کے احسان کے جلوے دیکھ رہی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی خوشیوں میں شریک تھی۔ لیکن سارے جہان کو اس عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے اور آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ آپ اس لئے آئے ہیں کہ تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمائیں۔

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

کہ اے ازلی ابدی ساقی تو خوش ہو کہ تیری اس عید کا دن جو دنیا کی آنکھ میں مشتبہ ہو گئی تھی طلوع ہو رہا ہے۔ اب دیکھو عید آگئی نا۔ پھر جماعت احمدیہ کو اور مسلمانوں کی اس جماعت کو جو اس آخری جد و جہد اور اس آخری مہم میں شریک ہونا چاہتی تھی جس جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں اسلام سب دنیا پر غالب آئے گا مخاطب کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آباء گزر گئے اور بیشمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں۔ وہ وقت تم نے پایا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ (جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہاماً بتایا گیا تھا کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، وہی مضمون آپ نے یہاں بھی بیان کیا ہے) ”میں اس کو بار بار بیان کر دوں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لئے بھیجا گیا تادین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے..... سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لئے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لئے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟۔ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے۔“

(فتح اسلام۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۳ صفحہ ۷، ۸، ۱۰، ۱۱)

یعنی یہی موت ہے جس پر ہماری عید موقوف ہے جب انسان اپنے خدا کے لئے اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے خدا کے حضور اپنے آرام کو پیش کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے خدا کے حضور ایسے جذبات کو پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ہر چیز تیرے ہی لئے ہے اور تیری ہی راہ میں فدا ہے تب وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کے سلوک کو پاتا ہے اس کا نام عید ہے اور حقیقتاً یہی عید ہے۔ جو کھانا پینا ہے وہ تو کوئی عید نہیں اس کے نتیجے میں پیٹ خراب ہوتے ہیں بیماریاں آجاتی ہیں۔ ڈکار آنے لگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی۔ عید بڑی منائی بہت کھایا (نتائج کیا نکلے اس کھانے اور پینے کے) لیکن جب اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں ایک روحانی سرور پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا سرور ہے کہ جس کا تصور بھی دنیا

دار نہیں کر سکتا۔ صاحب تجربہ اسے جانتے ہیں۔ الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔

بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوشی اور مسرت اور سرور نے سارے جسم کو۔ جسم کے ذرہ ذرہ کو اور روح کے ہر زاویہ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور گھنٹوں وہ حالت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حسن کا کوئی جلوہ ایسا آ جاتا ہے تجربہ رکھنے والے اس کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے عید اور یہ ہے عید کی خوشی دنیا کی خوشیاں تو عارضی ہوتی ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وعدہ دیا گیا تو آپ کے زمانہ میں بھی مسلمان پر بڑی سختی کے دن آئے لیکن ان سختی کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عید کے سامان پیدا کئے تھے۔ میں نے دو مختلف جنگوں کی مثالیں دی ہیں اور ایک جنگ کی آگے دو مثالیں دی ہیں۔ لیکن اسلام کی ساری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کیونکہ عید اسی طرح ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے جس طرح دنیا کی عید گھر کی مالکہ اور اس کے خادموں سے اس قربانی کا مطالبہ کرتی ہے کہ گھر کی صفائی کی جائے اور پہلے سے زیادہ وقت لگا کر پہلے سے زیادہ محنت کر کے پہلے سے زیادہ پیسے خرچ کر کے کھانے کے سامان پیدا کئے جائیں۔ جب ہم خدا کے لئے ان سختیوں کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سختیاں کوئی سختیاں نہیں وہ سختیاں غائب ہو جاتی ہیں اور دب جاتی ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ جو عید کا دن اسلام پر چڑھا اور جو قیامت تک جائے گا غروب نہیں ہوگا یہ دن ہم سے کئی قربانیاں چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا سلوک ہمیں دیتا ہے جو عید کی خوشیاں ہمارے لئے مہیا کرتا ہے۔

ہماری جماعت پر مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں اور مختلف زمانوں میں قربانیوں کے ایام آتے ہیں اور یہ ایام خوشیوں کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جس طرح سینڈوچ بنتی ہے اور روٹی کے دو ٹکڑے اس چیز کو چھپا لیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوتی ہے اسی طرح ہماری خوشیاں ان تکلیفوں اور ایذاؤں کو جو ہمیں دی جاتی ہیں سینڈوچ (sandwich) کر لیتی ہیں۔ وہ نظر ہی نہیں آتیں کیونکہ اس طرف بھی خوشی ہوتی ہے اور اس طرف بھی خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو یہ دن بھی ہم نے پریشانی میں گزارے ہیں۔ فضا ہمارے خلاف رہی اور سال بھر

یہی حال رہا۔ گویا جو سال گذرا وہ ہمارے لئے پریشانیوں کا سال تھا۔ وہ ہمارے لئے دکھوں کا سال تھا وہ ہمارے لئے دکھ وہ الفاظ سننے کا سال تھا ہمارے لئے یہ سارا عرصہ دیواروں پر دکھ وہ الفاظ پڑھنے کا عرصہ تھا۔ یہ سب صحیح ہے لیکن یہ وہ سال ہے جس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یورپین ممالک میں پہلے سے زیادہ بیعتیں ہوئی ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں رکھی جاتی تھی اور جہاں ایسے لوگ تھے جو ہمارے محبوب اور پیارے اور مقصود اور مطلوب پیدا کرنے والے رب کا انکار کرنے اور اسے گالیاں دینے والے تھے۔ کہیں دو اور کہیں تین مسلمان ہوتے تھے۔ اب ان علاقوں میں ایک رو پیدا ہو رہی ہے اور یورپ کے ممالک یعنی ان مغربی ممالک میں جو تہذیب یافتہ ممالک کہلاتے ہیں ایک سو بائیس بیعتیں ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کا ماضی سے مقابلہ کریں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔

مجھے یاد ہے کہ ۱۹۳۹ء میں جب میں کشمیر میں تھا ایک انگریز دوست یورپ میں مسلمان ہوئے تھے اور اس ایک انگریز کے مسلمان ہونے پر کشمیر میں ایک بڑی عید کا دن لوگوں نے منایا تھا اور اس نقطہ نگاہ سے پتہ نہیں کتنے سال بعد وہ عید آئی تھی اس لئے ایک سال میں ایک سو بائیس سے زیادہ بیعتوں کا ہونا ہمارے لئے عید ہے اور ان علاقوں میں اسلام کے قدم جم رہے ہیں اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسلام پر جو مخالف طاقتیں حملہ آور ہیں خدا تعالیٰ نے ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا اور قائم کیا ہے اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکتوں کی بارش اپنے پر نازل ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی راہ میں جب کانٹوں کو بچھا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمارے پاؤں سے ذرا سا خون نکلتا ہے تو ہماری اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے کانوں میں جب اس زبان سے جو اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی تھی نکلا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہے۔ تو ہمیں دوسرے کلموں کی کیا پرواہ ہے جب ایک لایعنی آواز کہ مرزائی کافر ہیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حسین اور دلکش آواز ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو ہمیں پریشان کرے ہم تو اس آواز کو سنتے ہی نہیں۔ ہم تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے غرض ہمیں اس آزمائش کے زمانہ میں شاید دنیا کی

نگاہ میں بڑی تکلیفیں دی گئی ہوں گی لیکن ہماری نگاہ میں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہمیں تو خوشیاں ہی خوشیاں پہنچ رہی ہیں جن کی ایک مثال میں نے بیان کی ہے۔

اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے خوشی کا سامان یہ بھی پیدا کیا ہے کہ ہمارے عرب بھائیوں کے علاقوں میں جنہیں مشرق وسطیٰ بھی کہتے ہیں اور عرب ممالک بھی کہتے ہیں۔ اس سال اتنی بیعتیں ہوئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں جماعت کے لئے کافی پریشانیاں بھی ہیں۔ کافی تنگی بھی ہے وہاں کے حالات بھی پوری طرح ہمیں نہیں ملتے لیکن جن حالات کا ہمیں پتہ لگا ہے ان کے رُوسے اس سال وہاں چالیس عرب احمدی ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ چند مہینے ہوئے وہ ہمارے ایک احمدی عرب دوست کو ملے اس نے انہیں بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہو چکے ہیں اور ایک مہم غلبہء اسلام کے لئے جاری ہو چکی ہے اور اس طرح دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم کی اشاعت کے سامان ہو رہے ہیں اور مساجد اور سکول بن رہے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کے بعد شاید اس نے انہیں کوئی کتاب بھی پڑھنے کے لئے دی اور شاید اس دن یا اس سے اگلے دن وہ کہنے لگے کہ میری بیعت لے لو۔ وہ احمدی دوست سمجھے کہ اس نے جماعت احمدیہ کے متعلق اتنا تھوڑا علم حاصل کیا ہے کہ اس کی بیعت لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ غرض وہ کچھ شش و پنج میں پڑے اس پر وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ (میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں اور جو بات انہوں نے بتائی وہ پرانے زمانہ کی ہے) ۱۹۴۸ء میں میرے والد کی وفات ہوئی اور مرتے وقت میرے والد نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ امام مہدی دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں اور میں ایک بد قسمت انسان ہوں کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور میں ان کی جماعت میں داخل نہیں ہوا۔ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ جب بھی تم ان کے متعلق سنو ان کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ سو میں تو اپنے والد کی وصیت کے مطابق جماعت میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس دل میں اس قدر اخلاص اور جوش پیدا کیا کہ وہ وہاں مسافرت کی حالت میں تھا۔ جس جگہ اس کی ملاقات اس احمدی عرب دوست سے ہوئی اور اس کے دو اور ساتھی بھی تھے وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو تبلیغ کی چنانچہ وہ جو خود چند منٹ پہلے بیعت کر کے جماعت

میں داخل ہوا تھا اس نے تبلیغ کر کے ان کے ان دونوں عربوں کی بھی بیعت کروائی اور اب وہ اپنے علاقہ میں ایک مبلغ بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں احمدی دوست امن میں ہیں۔ وہ بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور الہی جماعتوں کو تکلیفیں پہنچتی ہی رہتی ہیں کہ جو عید کا مزہ ہے وہ دو بالا ہو جائے۔ جس شخص کو عید کا کھانا ہی روز ملے اس کو عید کے دن والے کھانے میں کیا لذت آئے گی۔ غرض جب اللہ تعالیٰ دنیا کو تکلیف پہنچاتا ہے تب مزہ آتا ہے جب دنیا کا ہر انسان گندی زبان کے تیز دھار والے آلہ سے مجھ پر حملہ آور ہو اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پیارا اور محبت کا سلوک کرے تب مجھے اللہ تعالیٰ کے اس پیارا اور محبت والے سلوک میں مزہ آئے گا۔

تیسری خوشی کی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل اور ضمن میں ہمارے لئے پیدا کی اور عید کی مسرت ہمیں پہنچائی یہ ہے کہ نہ صرف عرب ممالک میں بلکہ ان سب ممالک میں جہاں عرب بستے ہیں اور وہاں ہمارے مبلغین ہیں عربوں کی توجہ جماعت کی طرف پیدا ہوئی۔ ان ممالک میں بہت سارے عرب اپنے کاموں کے سلسلہ میں آئے ہوئے ہیں اور بعض اپنی ایمبیسیز (Ambassies) یعنی سفارت خانوں کے سلسلہ میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک سال کے اندر اندر ہمارے کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا آسمان سے تار ہلایا گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری ایمبیسیز یا سارے عرب لوگ ہی جماعت کے کاموں سے بے اعتنائی برتتے ہیں لیکن بہر حال بعض ایمبیسیز (Ambassies) ایسی تھیں کہ جو ہماری مسجد سے کوئی تعلق رکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اپنے کارکنوں کو وہاں جانے سے روکتی تھیں لیکن اچانک انہوں نے ہمارے کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ایک دن ایک ایمبیسیز (Ambasey) نے افطاری کے موقع پر ایک احمدی دوست کو بھی بلا لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ مسجد کب بنی۔ تم کیسی تبلیغ کر رہے ہو (یہ ڈنمارک کی بات ہے۔ پھر انہوں نے اس مسلمان انجینئر کو بلا لیا جن کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے بڑے شوق سے مسجد بنائی ہے اور اس سے جماعت کے حالات پوچھے پھر ایک ایمبیسیز کے سفیر ہمارے امام کو ملنے کے لئے آئے۔ انہوں نے ہمارے کام کی بڑی تعریف کی اور کافی رقم اشاعت اسلام کے لئے وہاں دے گئے اور یہ کہا کہ یہ میری حکومت کی طرف سے ہے اس وقت میں مصلحتاً ان ملکوں یا ان سفیروں کا نام نہیں بتاؤں گا۔

بہر حال اچانک ساری دشمنیاں دور ہو گئیں اور دشمنی کی جگہ محبت پیدا ہو گئی۔ یہ ایک بڑا لطیف بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک علاقہ میں ہمارے کان میں ایذا کی باتیں پڑ رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا (جہاں ایذا کی باتیں کانوں میں پڑ رہی تھیں وہاں) میٹھے بول شروع کر دو تا کہ کمپنیشن (Compensation) ہو جائے اور اس کا بدلہ ان کو مل جائے۔

میں نے بتایا ہے کہ ہمارا اصل کام ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ پہلا کام تو دفاع کرنا تھا لیکن اب خالی ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم دفاع کریں یہ تو بہت معمولی کام ہے اب ہمارا اصل کام یہ ہے کہ اس طاقت کے خلاف جو اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہی ہے حملہ آوار ہوں۔ ہم نے اب مخالف طاقتوں پر حملہ آور ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جو کچھ میسر ہے وہ میری راہ میں قربان کر دو اور مجھے جو کچھ میسر ہے (اور اس کو سب کچھ میسر ہے) وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا اور تمہیں کامیابی دوں گا۔ پس جوں جوں مخالف اسلام طاقتوں کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں توں توں بنی نوع انسان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر سچی خوشیاں اور حقیقی امن اور سکون حاصل کرنا ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تلے ہی مل سکتا ہے۔ پس تم وہاں اکٹھے ہو جاؤ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا کام ہے انسانوں کا یہ کام نہیں ہے۔

میں نے یورپ کے سفر کے دوران بھی بہت سے نظارے دیکھے تھے اور سفر کے بعد واپس آ کر میں نے بعض واقعات احباب کے سامنے بیان کئے تھے میں یہ باتیں بتاتا بھی ہوں اور خود بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں۔ یہ باتیں آپ کو بھی ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہئیں تاکہ کسی وقت فخر اور غرور کے جذبات دل میں پیدا نہ ہوں جو نیک اور شاندار نتائج اور انتہائی طور پر معجزانہ نتائج ہماری کوششوں کے نکل رہے ہیں وہ ہماری کوششوں کے نہیں نکل رہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ورنہ ہماری کوشش کیا اور اس کے نتائج کیا۔

خالی انگلستان ہی کے جو عیسائی ہیں ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں فرقے ہیں۔ وہ سب فرقے عیسائیت کی تائید میں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے ایک چرچ ہی کو لیں ان کے ایک فرقہ کو ہی لیں وہ جو روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ایک فیصد بھی ہم ان کی مدافعت میں یا ان پر حملہ

آرہ ہونے کے لئے خرچ نہیں کر سکتے لیکن جو نتیجہ نکل رہا ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں اتنا شاندار ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے حال یہ ہے کہ افریقہ کے ایک ملک میں ایک صاحب غالباً بیلجئم کے رہنے والے تھے۔ وہ پادری کی حیثیت میں وہاں آئے اور باون سال تک انہوں نے وہاں یسوع مسیح کی منادی کی اور باون سال کی منادی کے بعد جب وہ بوڑھے ہو کر کہ جب ساری امنگیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنا مستقبل اندھیرا نظر آتا ہے اپنے ملک کو واپس جانے لگے تو کسی اور کو بھی نہیں ہمارے مبلغ کو انہوں نے کہا کہ باون سال کی کوشش کے نتیجے میں صحیح معنی میں میں صرف ایک عیسائی کر سکا ہوں ہمارے مبلغ نے انہیں کہا کہ خدا کا فضل ہے کہ چند سال میں ہزاروں فدائی اسلام کے اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں باون سال کی کوشش اور ہمارے مقابلہ میں کئی سو گنا زیادہ اموال کا خرچ اور نتیجہ ایک اور دس کا نہیں ایک اور سو کا مقابلہ بھی نہیں بلکہ اگر ہمیں خدا نے دس ہزار دیا تو شاید ان کو ایک دیا ہو۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دس ہزار سے بھی زیادہ دیا۔ غرض خدا تعالیٰ کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکالیف ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی عید کی خوشیوں میں کوئی کدورت اور کوئی اندھیرا نہیں پیدا کرتیں۔ کوئی بدمزگی نہیں پیدا کرتیں۔ ہماری عید کی خوشیاں اسی طرح قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے قائم رکھی جاتی ہیں۔ اس لئے معمولی معمولی تکلیفوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اور ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا یہی چاہے اور وہ ہمیں اس امتحان میں بھی ڈالے کہ ہم اس سے نو ہزار گنے زیادہ اس کی راہ میں تکالیف اور اذیتیں اٹھائیں تو ہم اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر ہماری تکلیف جس نسبت سے بڑھے گی اس سے کہیں زیادہ نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہوگی۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ جاپان میں تبلیغ کا کام شرع ہو جانا چاہئے۔ ان ملکوں کا بھی حق ہے کہ سچ اور صداقت اور نوران تک پہنچے۔ اس سلسلہ میں سال کے دوران عملاً جو کام ہو سکا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں نے وکیل التبشیر صاحب کو وہاں بھجوایا تھا کہ وہ وہاں جا کر خود جائزہ لیں وہاں کے حالات معلوم کریں اور رپورٹ کریں۔ ان کی جو رپورٹ ہے اس کی تفصیل تو وہ غالباً اپنی تقریر میں بیان کریں گے لیکن ایک

حصہ کا تعلق ان سے نہیں یعنی جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ تو خلیفہ وقت ہی کا کام ہے۔ اس وقت وہاں اسلامی تعلیم کو قبول کرنے کی فضا بھی ہے اور بعض ایسی روکیں بھی ہیں جو دوسری جگہوں پر نہیں۔ دوسرے ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اس لئے جب وہ اپنا مذہب بدلتے ہیں تو عام طور پر سنجیدگی سے بدلتے ہیں یعنی پھر ان کا مذہب سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً عیسائیت ہے وہاں عیسائی محض نام کے ہیں بعض لوگ عیسائیت کے گر جائیں بھی نہیں جاتے۔ پھر بھی وہ عیسائی ہیں۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی ان کی یہی کیفیت رہے تو اسلام لانے یا کوئی اور لیبل لگانے کی ضرورت بھی کیا ہے لیکن جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اسی لئے مسلمان ہوتے ہیں کہ پہلے ان کے دل میں اللہ اور مذہب کا خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ اسلام کے حسن کو دیکھتے ہیں اور اس سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن جاپان کے حالات کچھ مختلف ہیں وہ مذہب کو کلب سمجھتے ہیں یورپین ممالک تو مذہب کو کلب بھی نہیں سمجھتے۔ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اس لئے جب وہ اسلام میں آئیں گے تو اسے کلب سمجھ کے نہیں آئیں گے بلکہ اسے مذہب سمجھ کر آئیں گے یعنی اگر وہ اسلام کی طرف آئیں گے اور اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے تو سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ اٹھائیں گے لیکن جاپان میں مذہب کو کلب سمجھتے ہیں اور وہاں آپ کو ہزاروں آدمی ایسے ملتے ہیں جو عیسائیت میں کیتھولک کلب میں بھی شامل ہیں اور پروٹسٹنٹ کلب میں بھی شامل ہیں اور بدھ مذہب کے کلب میں بھی شامل ہیں اور ان کے اپنے جو دو چار بڑے مذاہب ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کلب میں شامل ہیں۔ کسی مذہب کی رسومات وہ پیدائش کے وقت ادا کر لیتے ہیں اور کسی کی وفات کے وقت کر لیتے ہیں اور اب عیسائیت وہاں گئی ہے تو وہ اسے بھی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کلب سمجھتے ہیں۔ بعض ان میں سے اسلام کو بھی کلب سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اسلام کی روح ان میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ روح پیدا کرنے کے لئے صرف علمی دلائل کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لئے ہمیں ایک خدا رسیدہ بزرگ انسان کی ضرورت ہے جو وہاں جا کر ایسا نمونہ ان کے سامنے رکھے کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ انسان کا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تب ان کے دل میں حقیقی اسلام پیدا ہوگا۔ ورنہ دلائل کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ خدا کرے کہ وہ دلائل

کے ساتھ قائم ہو جائے لیکن ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔

اس لئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا ایثار پیشہ دعائیں کرنے والا اپنے رب سے پختہ تعلق رکھنے والا اور اپنے خدا کے زندہ جلوؤں کو اپنی زندگی میں دیکھنے والا مخلص مبلغ مل جائے جسے ہم جب وہاں بھیجیں تو وہ اپنا ایسا نمونہ جاپانیوں کے سامنے رکھے کہ جو ان کے دلوں کو موہ لے اور ان کے لئے برکتوں کے سامان پیدا ہو جائیں۔ چونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور اسلام کے لئے فضا وہاں پیدا ہوگئی ہے۔ اس لئے وہاں ایک آدمی کافی نہیں۔ اگر ہم نے وہاں پھیلنا ہے تو ایک سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔

ایک آدمی اس لئے بھی کافی نہیں کہ وہاں کی زبان مشکل ہے یعنی ایک شخص جس کو زبان سیکھنے کا ملکہ ہو وہ جرمن زبان آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ سپینش زبان آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ انگریزی زبان آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ سنڈے نیویا میں جو مختلف زبانیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولی جاتی ہیں وہ آسانی سے سیکھ لیتا ہے اٹالین سیکھ لیتا ہے لیکن ایسے انسان کے لئے جاپانی زبان کا سیکھنا نسبتاً مشکل ہے اس کے لئے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ پس کم از کم ایک مخلص نوجوان بھی وہاں جانا چاہئے جو اپنا زیادہ وقت زبان سیکھنے پر خرچ کرے۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی بدلے گا اور میرا دل تو اس کے فضل سے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دل میں تو کبھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے جو کام کرنا ہے وہ بہر حال کرنا ہے۔ ویسے فکر کرنا ہمارا کام نہیں۔ ہاں ہمارا یہ کام ضرور ہے کہ جو پیسہ ہمیں مل جائے اس کے متعلق یہ فکر کریں کہ اس میں سے ایک دھیلا بھی ضائع نہ ہو۔ لیکن ہمارا یہ کام نہیں کہ سوچیں کہ یہ خدا کا کام تو ہے لیکن خدا اس کے لئے پیسے مہیا نہیں کرے گا اور نہ اس کا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے۔

دوسرے وہاں لٹریچر بعض کتب رسالے وغیرہ اور قرآن کریم کے ترجمہ کی کمی ہے۔ یہ ملک دوسرے ممالک سے اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ مثلاً جرمنی میں اسی فیصدی آبادی انگریزی زبان سمجھ لیتی ہے یا فرنیسی زبان سمجھ لیتی ہے یہی حال فرانس کا ہے اور ہمارا زیادہ لٹریچر انگریزی زبان میں ہے۔ زیادہ تر کتب انگریزی میں ہیں اور وہ لوگ بڑی کثرت سے انگریزی سمجھ لیتے

ہیں اور ہماری کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں لیکن جاپان کی یہ حالت نہیں۔ ان کو تو ہمیں ان کی اپنی زبان ہی میں سمجھانا پڑے گا اور اس کے اوپر وقت بھی خرچ ہوگا اور پیسے بھی خرچ ہوں گے لیکن خدا تعالیٰ کا جو قانون اس مادی دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہے۔ تدریجی ارتقا کا اصول چلتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں۔ ہم انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے مالی سال میں (کیلنڈر ایئر میں نہیں کہ جو جنوری سے شروع ہوتا ہے بلکہ اپنے مالی سال میں جو یکم مئی سے شروع ہوتا ہے) وہاں اپنا مشن کھولیں جو دو آدمیوں پر مشتمل ہو اور اس کے لئے جو روپیہ کی ضرورت ہوگی وہ میں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر بھی ذہن میں ڈالی۔ اس کی منشا اور اس کی برکت اور اس سے دعاؤں کے ساتھ اس تحریک کو جاری کر دوں گا۔ یہ کام میں بعد میں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو ہو کر رہے گا لیکن اس وقت جماعت یہاں کثرت سے آئی ہوئی ہے۔ دیہاتی بھی اور شہری بھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاپان کی قوم اسلام کی تعلیم کو سننے کے لئے تیار معلوم ہوتی ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کی اس روحانی پیاس کو بجھائیں اور اس کے لئے ہمارے امکان میں جو تدبیر بھی ہے وہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں ان پر بھی اسی طرح کھلیں جس طرح اس کے فضل نے ان راہوں کو ہم پر کھولا ہے اس کے لئے جو خرچ ہوگا جس طرح اس کی آمد ہوگی وہ سکیم بعد میں جماعت کے سامنے رکھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے سامان پیدا کرے گا۔ پھر آپ یہ دعائیں کریں کہ جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں وہ اقوام یا ان اقوام کے گروہ اور جماعتیں جو اسلام سے بیگانہ یا بے نیاز یا اسلام سے تعصب رکھنے والی تھیں اور بہت سے مقامات پر ایک سال میں ہم نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتے دیکھی اسی طرح جاپان میں بھی ہو۔ لیکن یہ پہلے دن سے ہو جائے جب ہمارے مبلغ وہاں جائیں تو ان کے دل کھل جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیوی فراست، عقل اور ہمت دی ہے اور کام کرنے کے طریق سکھائے ہیں اس نے یہ چیزیں ان کو دی ہیں۔ تو خدا کرے کہ مذہب اور دین اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توحید باری بھی انہیں ملے تاکہ وہ صرف دنیا میں ترقی کرنے والے نہ ہوں بلکہ اسی دنیا کی جو جنتیں ہیں ان میں بھی وہ ترقی کریں اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ انسانوں میں اٹھائے جائیں۔

سال گذشتہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جو کام ہوئے ہیں میں ان کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ مشرقی افریقہ میں دو مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور مغربی افریقہ میں تین نئی مساجد تعمیر ہوئیں اور جنوبی امریکہ میں دو مساجد اور ٹرینی ڈاڈ میں۔ ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔

سکول غانا۔ (مغربی افریقہ) میں ایک مزید سیکنڈری سکول کھولا گیا ہے سیرالیون کے ہمارے ایک سیکنڈری سکول میں سائنس بلاک کا اضافہ ہوا ہے۔ کمپالہ (یوگنڈا) کے سیکنڈری سکول کی عمارت میں کافی توسیع کی گئی ہے۔ اب وہ عمارت قریباً دگنی ہو گئی ہے۔ تنزانیہ میں دو پرائمری سکول جاری ہوئے ہیں۔

سکولوں کے متعلق ایک نئی رو یہ پیدا ہوئی ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے ہماری تبلیغ کا کہ ان ممالک میں جو دوست احمدی نہیں ہیں اب وہ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے سکول احمدیوں کی نگرانی میں دیں۔ چنانچہ نائیجیریا کے شمالی حصوں میں جہاں بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں وہ ایک نئے سکول کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ہم سے درخواست کی ہے کہ جماعت اس سکول کا انتظام سنبھالے کیونکہ جماعت احمدیہ ہی بہترین انتظام کر سکتی ہے۔ اسی طرح مغربی افریقہ کے ایک دوسرے ملک میں وہاں کے پیراماؤنٹ چیف (بڑا چیف سارے علاقہ یا ضلع کا افسر اعلیٰ) نے سکول اور ڈپنٹری کی عمارت بنادی تو کچھ لوگوں نے اس پر زور دیا کہ یہ عمارت احمدیوں کو نہ دو لیکن اس نے کہا۔ میں یہ احمدیوں ہی کو دوں گا چنانچہ چند دن ہوئے وہ عمارت ہمیں مل گئی ہے یعنی اس نے سکول بھی ہمیں دے دیا ہے اور ڈپنٹری بھی ہمیں دے دی ہے اور اب وہ لوگ زور دے رہے ہیں کہ اپنا ڈاکٹر یہاں بھیجو ہم احمدی ڈاکٹر ہی یہاں چاہتے ہیں تو یہ رو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔

ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں نازل ہوتی دیکھی ہیں اگر وہ برکتیں صرف یہیں نازل ہوتیں تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ تم نے اپنے دل کی تسلی کے لئے یہ کہہ دیا ہے لیکن جو چیز ہمیں یورپ میں نظر آ رہی ہے امریکہ میں نظر آ رہی ہے۔ شمالی امریکہ میں بھی اور جنوبی امریکہ میں بھی اور جزائر میں بھی نظر آ رہی ہے اس کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی۔ اس سال جزائر میں بھی بحیثیت مجموعی زیادہ پیچتیں ہوئی ہیں۔

میڈیکل سنٹر۔ (گیمبیا مغربی افریقہ میں ایک میڈیکل سنٹر کھول دیا گیا ہے اور وہاں ایک احمدی ڈاکٹر بھی پہنچ گئے ہیں۔ عمارت کی منظوری بھی انہیں مل گئی ہے وہ بعد میں بن جائے گا لیکن ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھ رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ شفا ان کے ہاتھ میں رکھ دے تا دنیاء ہر دوسرے میڈیکل سنٹر کو چھوڑ کر اسی کی طرف ہی رجوع کرے اور ڈاکٹر صاحب کو عوام کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔

غانا میں بھی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے جگہ ہمیں مل گئی ہے اور عنقریب ایک احمدی ڈاکٹر یہاں سے جا رہے ہیں نائیجیریا میں ہمارے ڈاکٹر اور ڈسپنسری پہلے ہی موجود تھے اب ایک بڑا قطعہ زمین وہاں خرید لیا گیا ہے اور بڑے پیمانہ پر ہسپتال کی عمارت بننے والی ہے اور آجکل ہی میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اسلام اور ان علاقوں کے لئے مبارک کرے۔

تفسیر قرآن کریم کے تراجم اور تفسیر کا کام بھی ہو رہا ہے۔ انگریزی تفسیر القرآن بہت بڑی تھی۔ اس خیال سے کہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے اس کو مختصر کر کے خلاصہ کی شکل میں شائع کرنے کا پروگرام تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سال ذکر کیا تھا۔ بڑا حصہ اس کا چھپ چکا ہے اور یہ ۱۳۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

بڑی تفسیر القرآن جو تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے اس کا پری فیس (Preface) جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور دو تین سو صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ اتنی بڑی کتاب کے لئے کوئی بڑا دیباچہ نہیں تھا لیکن جب اس کا خلاصہ ۱۳۰۰ صفحات کا ہو گیا تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ ۱۳۰۰ صفحات کے لئے تین سو اور چار سو صفحات کے درمیان کا دیباچہ زیادہ بوجھل اور وزنی ہو جائے گا۔ ۱۳۰۰ صفحات کی کتاب کے لئے دنیا میں اتنا لمبا دیباچہ نہیں ہوا کرتا۔ مختلف آراء تھیں۔ مختلف مشورے تھے۔ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ اس دیباچہ کا خلاصہ کرنا درست نہیں اس طرح اس کی افادیت میں کمی واقع ہو جائے گی لیکن اتنے بڑے دیباچہ کو مختصر تفسیر سے پہلے اس کا مستقل حصہ بنا کر شائع کرنا بھی غیروں میں سے بعض کی طبائع پر بار ڈالے گا۔ اس لئے دیباچہ اسی شکل میں اسی سائز میں اور اسی پرنٹ میں جس میں خلاصہ

تفسیر القرآن چھپ رہا ہے علیحدہ طور پر شائع کر دیا جائے جنہوں نے لینا ہوگا وہ علیحدہ طور پر خرید لیں گے۔ کاغذ بھی اس کا وہی ہوگا جو تفسیر کا ہوگا ہاں جلد علیحدہ ہوگی۔ جس طرح ہم تفسیر صغیر کو دو جلدوں میں کر لیتے ہیں اسی طرح اس خلاصہ تفسیر القرآن کی بھی دو جلدیں ہو جائیں گی جن میں سے ایک جلد دیباچہ پر مشتمل ہوگی۔ اس کا ایک فائدہ یہ نظر آیا کہ بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے دیباچہ تو خریدا ہوا ہے لیکن تفسیر نہیں خریدی ہوئی۔ اگر دیباچہ کو تفسیر القرآن کے ساتھ شائع کیا جائے تو ان لوگوں پر بھی بار ہوگا کہ وہ اسے دوبارہ خریدیں۔ ان کو ابھی اتنی دلچسپی نہیں پیدا ہوئی۔ وہ کہیں گے کہ ہم یہ دس پندرہ یا بیس روپے دوبارہ کیوں خرچ کریں۔ علیحدہ شائع ہونے کی صورت میں بہت زیادہ لوگ تفسیر القرآن کا خلاصہ خریدنے کے لئے تیار ہو جائیں گے بہر حال دیباچہ کے علیحدہ شائع کرنے میں بہت سے فوائد تھے اور امید ہے کہ یہ بہت جلد شائع ہو جائے گا۔ انشاء اللہ

فرانسیسی ترجمہ قرآن کریم پر نظر ثانی قریباً مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سال ہم وہ شائع نہیں کر سکے۔ یہ بڑی احتیاط کا کام ہے ویسے تو دنیا میں بہت سارے تراجم شائع ہو جاتے ہیں لیکن کوئی ذمہ دار اور حساس دل ان کے پیچھے نہیں ہوتا ترجمہ جیسا بھی ہو شائع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم تو ایک لفظ کی غلطی کو بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہماری تو اس میں موت ہے کہ ہماری طرف سے قرآن کریم کا غلط ترجمہ شائع ہو جائے۔ ایک ایک لفظ کو احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے۔ بیس آدمیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تب تسلی ہوتی ہے۔ یہاں ایک فرانسیسی دوست اور ان کی فرانسیسی بیوی ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن ابھی ان کا جماعت سے تعلق نہیں۔ انگریزی ان دونوں کی بہت اچھی ہے اور قرآن کریم سے وہ دونوں محبت کرتے ہیں ان سے نظر ثانی کروائی جا رہی ہے اور وہ بڑے شوق سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے وہ ترجمہ پر نظر ثانی کرتے ہیں پھر وہ مارٹن مارٹن جاتا ہے۔ وہاں بعض احمدی دوست فرانسیسی زبان بڑی اچھی جانتے ہیں۔ وہاں سے پھر ان دونوں میاں بیوی کے پاس آتا ہے اس وجہ سے اس کام میں کافی دیر ہو گئی ہے لیکن انشاء اللہ یہ ترجمہ جلد چھپ جائے گا۔

تفسیر القرآن انگریزی جلد دوم حصہ اول دوبارہ چھپ رہی ہے۔ انڈونیشیا میں دیباچہ قرآن کریم انگریزی، انڈونیشین زبان میں شائع ہو گیا ہے۔ آئندہ سال دس پاروں کا ترجمہ مع تفسیری

نوٹ تفسیر صغیر کی طرح شائع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے جو تراجم تیار ہو چکے ہیں لیکن بوجہ اس کے کہ ان پر ابھی نظر ثانی ہو رہی ہے یا کچھ مالی تنگی ہے یا ذرائع کم ہیں چھپ نہیں سکے وہ یہ ہیں۔

اسپینیش - ۲ - اٹالین - ۳ - روسی - ۴ - پرٹگیزی - ۵ - چار افریقین زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے بعض پر نظر ثانی ہو رہی ہے اور ان کی اشاعت کے ذرائع کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ تراجم جلد شائع ہو جائیں نیز یہ دعا کریں کہ اگلے پچیس سال کے اندر اندر قرآن کریم کے تراجم ان زبانوں سے زیادہ زبانوں میں شائع ہو جائیں جن میں اس وقت تک بائبل یا کوئی اور کتاب چھپ چکی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عربی کتب کی اشاعت کی طرف بھی توجہ کی جا رہی ہے۔ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کی اشاعت کی طرف خاص توجہ دے گی اور ان کے چھاپنے کا ہم انتظام کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے عربی بولنے والے ممالک اور عربی بولنے والی اقوام کی توجہ یکدم پچھلے سال احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف ہوئی ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ یا قلم سے لکھی ہوئی تحریر کی بجائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحریر یا کتاب رکھیں۔ یہ چیز ان پر بہت اثر کرے گی لیکن جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں کتب کی طباعت ہوتی ہے یا جس قسم کے کاغذ پر وہ شائع کی جاتی ہیں اسی قسم کی طباعت ان کی کرانی پڑے گی اور اسی قسم کے کاغذ پر انہیں شائع کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ کتب بڑی خوش خط نہ ہوں گی اور جب تک ان میں اچھا کاغذ نہیں لگایا جائے گا وہ لوگ ان کی قدر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک ان کی آنکھ دنیا کی آنکھ ہے اور وہ آنکھ نمائش کو دیکھتی ہے جب وہ احمدی ہو جائیں گے تو ان کی نظر بدل جائے گی اور وہ نمائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان قیمتی خزانوں کی قدر کرنے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیں جیسا میرا اور آپ کا دل ہے اگر کسی پتہ پر لکھا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی ایسا مصرعہ یا فقرہ نظر آجائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ نے لکھا ہے تو میں اور آپ اس کو سینہ سے لگالیں گے لیکن وہ لوگ بہر حال اس چیز سے ناواقف ہیں انجان ہیں وہ جس ظاہری رنگ میں کسی چیز کی قدر کر سکتے ہیں اسی رنگ میں وہ چیز ان کے سامنے رکھنی چاہئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام

بھی جلد مکمل کر دے۔

ابھی میں نے جاپان میں تبلیغ کا ذکر کیا تھا لیکن ابھی میں نے اس تبلیغ پر جو اخراجات ہونے ہیں ان کے لئے اپیل نہیں کی۔ اس لئے اس ضمن میں جو وعدے یا رقم پہلے آچکی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب دوست مزید وعدے نہ لکھوائیں اور نہ رقم دیں۔ ابھی ایک دوست (شریف احمد صاحب بانی) کو تحریک ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے والد کی طرف سے جاپان میں تبلیغ اور کتب کی اشاعت کے لئے پانچ ہزار روپیہ کا وعدہ کیا ہے۔ کویت کے ایک دوست نے ایک سو دینار (دینار پاؤنڈ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے) کا وعدہ کیا ہے اور ایک اور دوست نے ایک مہینہ کے خرچ یعنی دو ہزار روپیہ کا وعدہ کیا ہے۔ جزاہم اللہ لیکن دوست اور وعدے ابھی نہ لکھوائیں اور نہ رقم دیں جو جوش ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کو ابھی بند رکھیں تاکہ جب میں اخراجات کے لئے اپیل کروں تو وہ زیادہ زور سے ہو۔

فضل عمر فاؤنڈیشن

فضل عمر فاؤنڈیشن کی تحریک پچیس لاکھ روپے کی تھی بعد میں بعض دوستوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی (اور نیکی کی خواہش انسان خوشی سے قبول کرتا ہے) کہ یہ رقم اس سے زیادہ ہونی چاہئے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ تحریک باون لاکھ کی ہو جائے۔ ہم نے ان کے جذبات کو مد نظر رکھ کر اسے کم از کم پچپن لاکھ کر دیا یعنی تحریک پچیس لاکھ روپیہ کی تھی بعد میں اسے کم از کم پچپن لاکھ کر دیا گیا۔ اس کی مدت تین سال تھی اور اس مدت میں سے ابھی چھ ماہ باقی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک چھبیس لاکھ اور تیس ہزار روپیہ کی نقد رقم جمع ہو چکی ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

کل وعدہ جات اندرون ملک ستائیس لاکھ پچاس ہزار چند سو روپیہ کے ہیں اور بیرونی ممالک کے نو لاکھ ایک ہزار چند سو روپیہ کے ہیں۔ سو یہ سارے وعدے سینتیس لاکھ روپیہ کے قریب بنتے ہیں اور ابھی ان کی میعاد میں سے چھ ماہ باقی ہیں۔ اس سلسلہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی اعلان کیا تھا اور گذشتہ سال میں نے اپنے ایک خطبہ میں بھی کہا تھا کہ اس تحریک کے وعدوں اور وصولیوں کا زمانہ تین سال کے بعد ختم کر دیا جائے گا یعنی دفتر

کلوز (close) کر دیا جائے گا۔ اس واسطے اس چھ ماہ کے اندر اندر اپنے وعدوں کو پورا کر دو اور سوائے اس کے کہ کوئی شاذ استثناء ہو اس مدت کو بڑھایا نہیں جائے گا مثلاً ایک شخص ہے اس نے سوچا ہے کہ میری فصلوں سے مئی کے مہینہ میں آمد ہو جائے گی یعنی ربیع کی فصل سے میں یہ وعدہ ادا کر دوں گا یعنی اس کا جو حصہ اس نے باقی رکھا ہے وہ ادا ہو جائے گا لیکن کسی وجہ سے اس کی فصل بک نہیں سکی یا کوئی اور وجہ ہوگی اور وہ وعدہ ادا نہیں کر سکا تو اس صورت میں اسے ایک مہینہ یا دو مہینہ کی مہلت دی جاسکتی ہے لیکن حساب یا کھاتہ بند سمجھا جائے گا۔ استثناء کھاتہ کو کھولا نہیں کرتے بلکہ وہ تو اس کے بند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ پس فضل عمر فاؤنڈیشن کے وعدوں اور وصولی کے کھاتے تین سال کے بعد بند ہو جائیں گے۔ اس لئے جنہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں اس وعدہ کے مطابق جو انہوں نے خدا سے کیا یا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی محبت میں کیا۔ وہ ان کی ادائیگی (یا اس حصہ کی ادائیگی جو باقی ہے) ان چھ ماہ کے اندر کر دیں۔

یاد رکھیں کہ ہر احمدی کے دل میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی بڑی محبت ہے۔ جماعت کے ہر فرد واحد پر آپ کے بڑے احسان ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی زندہ قدرتوں کے نمونے آپ کی ذات میں اور صفات میں دیکھے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ذرا سی بھی غفلت برتے یا قدر میں کمی کرے تو خدا کے نزدیک وہ ناشکر ا ہو جائے گا۔ لیکن جو تحریک فضل عمر فاؤنڈیشن کے نام سے جاری کی گئی ہے وہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے اضافی طور پر ایک محدود تحریک ہے یعنی جو مقاصد جماعت احمدیہ کے ہیں یا جو ضرورتیں ان مقاصد کے پیش نظر جماعت کی ہیں۔ نہ تو اتنے وسیع مقاصد فضل عمر فاؤنڈیشن کے ہیں اور نہ اتنی اہم اور بڑی ضرورتیں فضل عمر فاؤنڈیشن کی ہے اور جماعت کی نئی سے نئی ضرورتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں مثلاً ایک یہ ضرورت ہمارے سامنے پیش آئی ہے کہ جاپان میں تبلیغ پر خرچ کرنا ہے موجودہ حالت میں وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت بڑی اہم ہے اور اس پر جو خرچ ہوگا وہ بہت زیادہ ہے اس کے پورا کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔

غرض فضل عمر فاؤنڈیشن محدود مقاصد کے پیش نظر جاری کی گئی تھی اور ایک محدود رقم کی اس کے لئے ضرورت محسوس کی گئی تھی اور اس کے کھاتے وعدوں کے بھی اور وصولیوں کے بھی تین سال کے بعد بند کر دیئے جائیں گے سوائے استثنائی حالات کے جو شاذ کا حکم رکھتے ہیں۔ اس لئے میں آپ کی

خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے وعدوں کو جلد سے جلد پورا کریں۔ جب میں اس کے متعلق سوچتا ہوں بعض دفعہ میرے دل میں بڑی پریشانی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے فضل عمر فاؤنڈیشن کا وعدہ اس اعلان کے ساتھ کیا تھا کہ ہمارا یہ وعدہ اس محبت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جو محبت کہ ہمارے دل میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب ہم نے یہ اعلان کیا تھا تو اگر اب ہم اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے اس وعدہ میں جھوٹے تھے کہ ہمارے دل میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی محبت ہے اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اس پاک ہستی کے لئے بڑی محبت پیدا کی ہے۔ اس لئے کہ اس پاک ہستی نے اپنا سارا وجود اور اپنی ساری زندگی اور اپنے سارے لمحات تو حید باری کے قیام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے خرچ کئے اور اپنا کچھ بھی نہ سمجھا۔ ہمارے دلوں میں اس وجود کی محبت ہے آپ اس محبت کو داغدار نہ ہونے دیں اپنے پیار پر اعتراض نہ آنے دیں۔ اپنے وعدوں کو پورا کریں یا اگر کوئی مجبوری ہو اور آپ اس صورت میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں انسان پر گرفت نہیں کرتا۔ وہ اسے معاف کر دیتا ہے تو یہ دعا کریں کہ اے خدا اگر میں اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اس ثواب سے محروم ہو رہا ہوں تو تو کسی اور دل کے اندر اتنی رقم یا اس سے زیادہ دینے کی تحریک کر اور پھر اسے اپنی نیت کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر۔ تا جو مجموعی وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے اس میں کوئی کمی نہ ہو۔

فضل عمر فاؤنڈیشن کے جو مقاصد تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلاً خطبات حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی اشاعت کا انتظام کرنا۔ عیدین کے خطبات پر مشتمل مسودہ تیار ہو چکا ہے لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس سال شائع نہیں کیا جاسکا۔ آپ کی سوانح حیات پر بھی کام ہو رہا ہے اور تسلی بخش طور پر ہو رہا ہے۔ تیسرا حصہ کام ہو چکا ہے باقی کام بھی اگلے سال میں ختم ہو جائے گا۔

ایک حصہ دینی تحقیق کا بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کے لئے ایک ایک ہزار کے پانچ انعامات مقرر کئے گئے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو اور تحقیق کرنے کی عادت اور جذبہ پیدا ہو اور مہارت پیدا ہو۔ سینتیس مسودات دوستوں کی طرف سے آئے ہیں اور پہلی نظر میں ان سینتیس مسودات سے اکیس

کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ انعامی مقابلہ میں حصہ لیں۔ اس لئے وہ گر گئے ہیں باقی سولہ جو ہیں وہ اس وقت مختلف مراحل میں ہیں اور امید ہے کہ جلدی اس کا نتیجہ نکل آئے گا اور یہ مقصد ایک حد تک پورا ہو جائے گا۔ یہ ابھی پہلا مقابلہ ہے اور یہ ہر سال جاری رہنا چاہئے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دوسرے مقابلہ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور بیس مقالے آچکے ہیں۔ پھر یہ انتقام کیا گیا ہے کہ یہ مقالے شائع بھی کئے جائیں کیونکہ غرض ہی یہ ہے کہ دنیا میں تحقیقی کام کی اشاعت ہو۔

فضل عمر لائبریری کا قیام

فضل عمر فاؤنڈیشن نے یہ پیشکش کی تھی کہ ایک اچھی اور ضرورت کے مطابق وسیع لائبریری کی عمارت وہ بنادے۔ پھر اس کا انتظام اور روزمرہ کے اخراجات کا انتظام صدر انجمن احمدیہ کرے۔ اس لائبریری کے نقشے وغیرہ تیار ہو گئے ہیں ابتدائی کام ذرا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ خاموش کام ہے نظر نہیں آتا بہر حال کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ یہ عمارت اگلے سال شروع ہو جائے گی۔

لائبریریوں کے متعلق میں ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں اور وہ یہ کہ لائبریریوں کی طرف جماعت کو توجہ نہیں جہاں توجہ پیدا ہوتی ہے وہاں غلط توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لائبریری کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کتابیں رکھی جائیں جو کتاب بنی کے روحانی شوق کو پورا کرنے والی ہوں روحانی کے لفظ کا اضافہ میں جان بوجھ کر کر رہا ہوں۔ کتاب بنی کا شوق پورا کرنے کے لئے لوگ عمر عیار کی عیاریاں بھی پڑھتے ہیں اور حمید و فریدی کے ناولوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل بے معنی ہیں۔ گو وہ بڑی کثرت سے بک رہے ہیں لیکن وہ انسان کی روحانی پیاس نہیں بجھاتے اور لائبریری کا مقصد روحانی پیاس کے بجھانے کے سامان پیدا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لائبریریوں کے قیام کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو ہماری روحانی پیاس نہیں بجھے گی اور ہمارے اندر روحانی کمزوری پیدا ہو جائے گی اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا جو احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب نہیں پڑھتا یا اس تفسیر سے واقف نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یا خلفاء سلسلہ احمدیہ اور پہلے بزرگوں نے کی یا جو شخص

خلفاء سلسلہ احمدیہ اور دوسرے بزرگوں کی کتب یا پہلی کتب کے ان حصوں کو دیکھنے کی عادت نہیں ڈالتا جو ہمارے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ پہلی کتب کے بعض حصے تو ایسے ہیں جو پہلے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں صرف چند لوگوں کی دلچسپی کا سامان ہے مثلاً فلسفہ ہے۔ فلسفہ کا ایک پرانا مسئلہ تھا جو ہمارے اسلام میں بھی آ گیا ہے کہ زمین چلٹی ہے۔ اس پر فلسفیوں نے بہت سارے دلائل لکھے ہیں اور اب ہمارے اس زمانہ میں مولوی فاضل کے کورس میں بھی ایک ایسی کتاب آگئی ہے۔ اس مضمون میں بہت سارے طلباء صرف اس لئے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے مضمون کو یہ سمجھ کر یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ سچ ہے اور اس سچ کو قبول کرنے کے لئے ان کا ذہن تیار نہیں تھا۔ چند سالوں کے لئے میں بھی قادیان میں جامعہ احمدیہ میں پروفیسر رہا۔ میں نے اپنے شاگردوں کو پہلے ہی سال یہ کہا تھا کہ یہ کتاب اتنی آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان اور کوئی کتاب نہیں کیونکہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی ارتقاء میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ جب انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین چلٹی ہے گول نہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا جو ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے یاد پڑتا ہے جس مضمون میں مولوی فاضل کے امتحان میں سب سے زیادہ لڑکے فیل ہوتے تھے اس میں میری کلاس ساری کی ساری پاس ہو گئی۔ کیونکہ انہوں نے اسے اس لحاظ سے یاد نہیں رکھا تھا اور اس پر غور نہیں کیا تھا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بلکہ انہوں نے خیال کیا کہ ایک زمانہ میں انسان یہ سمجھتا اور غلط سمجھتا تھا اور اب یہ زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ غرض اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہر ایک کے کام کی نہیں۔ ہاں وہ تاریخ دان کے کام کی ہیں وہ کہے گا کہ ایک زمانہ میں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا۔

اب میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک زمانہ میں مسلمان علماء اس غلطی میں مبتلا تھے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں اور فلاں عالم نے اپنی فلاں کتاب میں فلاں فلاں آیات کو منسوخ سمجھا ہے۔ اب جو مذہبی تاریخ دان ہے اس کا تو یہ مسئلہ ہے لیکن ایک عام احمدی اور مسلمان کو اس بات میں کیا دلچسپی ہے کہ پہلے زمانہ میں کیا کیا غلطیاں تھیں۔ ہمیں تو صرف اس بات میں دلچسپی ہے کہ پہلے لوگوں نے اسلام کے روحانی سمندر میں سے موتی کون سے نکالے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جنہوں نے ان کو بھی فائدہ پہنچایا اور ہمیں بھی ان سے

فائدہ پہنچے گا۔ لیکن جو تاریخ دان ہیں اور تاریخ کے لحاظ سے تحقیق کرنے والے ہیں وہ بیشک دوسری باتوں میں دلچسپی لیں ان کے لئے یہ بات مفید ہوگی۔

غرض پہلی غلطیوں کو یاد رکھنا نہ ہمارے لئے مفید ہے اور نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے لیکن پہلے لوگوں نے اسلام اور قرآن کے روحانی سمندر میں غوطے لگا کر جو موتی نکالے وہ آج بھی بڑے قیمتی ہیں۔ ہمیں ان کی کتابیں دیکھنی چاہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں جو پہلوں نے لکھی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تائید میں لکھی ہیں۔ چند کتابوں کا ہمیں اب پتہ چلا ہے ان میں بڑی مفید باتیں درج ہیں۔ کچھلی صدی میں غانا (مغربی افریقہ) میں ایک مجدد پیدا ہوئے۔ انہوں نے بعض ان سوالات کو حل کر دیا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہونے تھے اور یہ ایک کام تھا جو وہ کر گئے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح کے آنے کا قصہ ہی ایک افسانہ ہے۔ حمید و فریدی کی کتابیں پڑھ کے ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے انہوں نے (غانا میں پیدا ہونے والے کچھلی صدی کے مجدد) نے رستہ صاف کر دیا۔ ان پر اعتراض ہوا کہ تم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہ میں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں کیونکہ جو علامات امام مہدی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ میرے وجود میں پوری نہیں ہوتیں۔ مثلاً ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی کے زمانہ میں ماہ رمضان میں معینہ تاریخوں میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں جو امام مہدی کی بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ امام مہدی جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس کی علامات میرے وجود میں پوری نہیں ہوتیں اس لئے میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم اس زمانہ میں داخل ہو چکے ہیں جس میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے کہنے کے مطابق جب ایک مجدد یہ کہتا ہے کہ ہم اس آخری زمانہ میں داخل ہو چکے ہیں جس میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہے تو اس کے معنی اس کے سوا کوئی نہیں کہ اس صدی کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ کیونکہ اس کا ظہور اگلے مجدد کے زمانہ ہی میں ہوگا اور اس کا زمانہ آ گیا ہے اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہئے جو اس مجدد کے تبعین ہیں کہ اگلی صدی

میں جس امام مہدی کو ظاہر ہونا تھا وہ تمہارے نزدیک کون ہے۔ غرض اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے والی ہیں اور خدا کے علم اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ہمیں جانی چاہئیں۔

میں لائبریری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ہر جگہ لائبریری ہونی چاہئے۔ لیکن ہر جگہ لائبریری کی عمارت پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اور بڑا ظلم ہوگا کہ ہم محض اس لئے لائبریری کو قائم نہ کریں کہ ہمارے پاس پیسے اور جگہ نہیں۔ میری توجہ جب اس طرف ہوتی ہے تو میرے دل میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور میں بڑا استغفار کرتا ہوں میرے نزدیک ایک کمرہ (جو سونے کا کمرہ ہے) لے کر اس کی ایک دیوار سے لائبریری کا کام لیا جاسکتا ہے کیونکہ اگر کسی لائبریری کو صحیح معنوں میں لائبریری کہا جاتا ہے تو اس کی عمارت کی وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ لائبریری کے یہ معنی نہیں کہ اس کی عمارت بڑی شاندار ہو لیکن ہماری اگلی نسل کو وہ کتاب نہ ملے جس کے پڑھنے کی ہم اسے بار بار تلقین کریں۔ جن لوگوں میں ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کا صحیح مزہ پیدا نہیں ہوا اور انہوں نے آپ کی کتب کو پڑھا نہیں انہیں ایسی کتاب آسانی سے مل جانی چاہئے۔ اگر انہیں ایسی کتاب آسانی سے نہیں ملتی تو وہ اس کے مطالعہ میں سستی کر جاتے ہیں۔ بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں کسی کتاب کے پڑھنے کا خیال آئے تو تین منٹ کے اندر اندر انہیں وہ کتاب مل جائے۔

ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہر احمدی کو ضروری کتب جن میں سب سے اہم قرآن کریم اور اس کی وہ تفسیر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی ہے سہولت میں میسر آ جائیں۔ اس لئے ہر جگہ لائبریری قائم کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے انفرادی کوشش مقامی کوشش (مقامی کوشش سے میری مراد مقامی جماعتوں کی کوشش ہے) اور جماعتی کوشش یعنی مرکز کی کوشش کی ضرورت ہے یہ تینوں کوششیں ہونی چاہئیں اور ضروری کتب کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہئے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے روحانی خزانے دیئے ہیں کہ اگر قیامت تک ہماری نسلیں انہیں خرچ کرتی رہیں تو وہ خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لئے آپ خشت سے کام نہ لیں غفلت اور سستی سے کام نہ لیں۔ ان قیمتی ہیروں اور جوہرات کو خود اپنے استعمال میں بھی لائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اور اگلی نسلوں کے استعمال میں لانے کی

بھی کوشش کریں تا وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انہیں اپنوں کے ہاتھ میں بھی رکھیں تا وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور جو کل اپنے بننے والے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی رکھیں تا وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔

وقف جدید

وقف جدید کا سال نو یکم جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس سال نو کے افتتاح کی ایک رسم بنی ہوئی ہے بہر حال میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ یکم جنوری سے جو سال نو شروع ہوگا اس کے لئے احباب نئی ہمت اور نئے ولولہ کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کریں پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور میں اس چیز کو دہراتے ہوئے تھکوں گا نہیں کہ ہمارے اطفال اور ناصرات اور بچے (یعنی وہ بچے جو ابھی اس عمر کے نہیں جو اطفال اور ناصرات کی تنظیم میں شامل ہوتے ہیں) اس بوجھ کو اٹھائیں اور دوسری بات یہ کہ بچے (اطفال اور ناصرات) ایسی عمر کے بھی ہیں جو خود اتنی سمجھ نہیں رکھتے۔ آپ جوان کے ماں باپ یا مربی ہیں ان کی تربیت اس رنگ میں کریں کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ کی حالت مالی لحاظ سے اتنی مضبوط یقیناً ہے کہ اگر ہم اس طرف پوری توجہ دیں تو ہمارے بچے وقف جدید کا سارا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے وارث بن سکتے ہیں جن فضلوں کے وارث اس حصہ جماعت میں ہیں جو وقف جدید کے میدان میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔

آپ وقف جدید سے تعلق رکھنے والے سارے فضل اپنے بچوں کے لئے روحانی زینت کا ہار بنا کر ان کے سروں پر ڈال دیں اور پھر اپنے رب کے حضور واپس آئیں اور کہیں کہ ایک نعمت جو تو نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے تیرے بچوں (یہ بچے جو ہمارے کہلاتے ہیں یہ ہمارے کہاں ہیں یہ سب اللہ کے بچے ہیں) کے سپرد کر دی ہے۔ اب تو ہمارے لئے اور فضلوں اور رحمتوں کے دروازے کھولنا ہوتا ہے ہم نے تیرے فضل سے ان بچوں کو دیا ہے اور خود اس میں حصہ دار نہیں بنے اس میں سے بھی حصہ دے (کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے) اور دوسری قربانیوں کے راستے بھی ہمارے لئے کھولنا ہوتا ہے تیرے فضلوں کے پہلے سے زیادہ وارث بنیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے سال کی نسبت مالی میدان میں زیادہ رقم جمع ہوئی ہے اور یہ

ایک بالکل ذیلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے سال کی نسبت وقف جدید کا ہر جہت سے زیادہ کام ہوا ہے (اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا) اور جو واقفین وقف جدید ہیں ان کی تعداد بھی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہے۔ لیکن جب کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی اتنی تعداد نہیں ہوئی جتنی کی ہمیں ضرورت ہے یا جتنی تعداد کی حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے خواہش کی تھی۔ یعنی یہ کہ ہر گاؤں میں ایک واقف وقف جدید بٹھا دیا جائے جو عام تربیت کرے۔ گو علمی لحاظ سے ان کا معیار بلند نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک حد تک وہ روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی روحانی دوکان سے نمک تیل اور آٹا مل جاتا ہے پلاؤ زردہ پکانا ہو تو اور جگہ سے سو دالے لو دوسرے مری بھی تو ہیں۔ بہر حال واقفین وقف جدید روحانی لحاظ سے جماعت کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں اور وہ ہر جگہ ہونے چاہئیں ورنہ جہاں وہ نہیں وہاں روزمرہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں الا ماشاء اللہ۔ بعض جگہ گاؤں کے رہنے والوں میں سے ایک سے زائد واقف وقف جدید سے بھی زیادہ علم اور تجربہ رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن بہت سے ایسے دیہات ہیں جہاں اس وقت اس قسم کے احمدی موجود نہیں اور نہ ہمارا واقف وقف جدید موجود ہے اور اس وجہ سے جماعت ان فضلوں سے محروم رہ رہی ہے جو فضل ان کے بھائیوں پر دوسرے مقامات میں نازل ہو رہے ہیں۔

وقف عارضی

پچھلے سال جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور آپ سے یہ امید رکھی تھی کہ آپ سات ہزار واقفین وقف عارضی میدان تربیت میں لاکھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال گذشتہ میں ان کی تعداد چھ ہزار سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ گو وہ سات ہزار نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھ ہزار بھی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے وقت میں سے کم از کم دو ہفتے نکالنے ہیں پھر سفر کی کوفت برداشت کرنی ہے۔ پھر اپنا خرچ کرنا ہے جہاں انہیں بھیجا جانا ہے وہاں انہوں نے اپنا کیمپ بنالینا ہے اور وہیں اپنا کھانا پکانا ہے اور اپنی دوسری ضروریات پورا کرنے کا انتظام کرنا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے مستقل سپاہی ہیں وہ دوسروں کی عارضی امداد کے محتاج نہیں

وہ ہر لحاظ سے انڈی پنڈٹ ہیں۔ مستقل حیثیت رکھتے ہیں کھانا بھی انہوں نے خود پکانا ہے ٹھہرنے کا انتظام بھی خود کرنا ہے۔ اس کام کے لئے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے دوست مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت بڑی قربانی اور بڑے ہی اخلاص کا مظاہرہ ہے جو جماعت نے اس میدان میں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سات ہزار مخلصین اس میدان میں آسکتے تھے کچھ کمی رہ گئی ہے اور میں توقع رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ آپ سات ہزار سے زائد واقفین عارضی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق بھی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اس سے زیادہ اجر عطا کرے جتنا آپ کے وہم و گمان میں آسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں اس قدر برکت ڈالے کہ اپنے بھی اور غیر بھی اسے دیکھ کر خوش ہوں۔ ایک چیز جو رہ گئی ہے (شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو) اور وہ نئی کتابیں ہیں جو شائع ہوئی ہیں۔ اس سال بہت سی نئی کتب شائع ہوئی ہیں۔ میں ان سب کا اکٹھا اعلان کر دیتا ہوں۔ ویسے تو کتابوں کے متعلق کچھ کہنا یا نہیں رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ میں گلے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتا بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس میں زیادہ وقت لگ جاتا تو بعض باتیں مجھے چھوڑنی پڑتیں اور کوفت الگ اٹھانی پڑتی ابھی کل کا مضمون بھی ہے۔

دعا کی میں پھر تحریک کروں گا۔ آج دس گیارہ بجے تک تو یہ حالت تھی کہ میرا خیال تھا کہ شاید میں یہاں آ تو جاؤں گا مگر تقریر نہیں کر سکوں گا۔ گلابا لکل بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور وہ میرے لئے بھی حیرانگی کا موجب بنا کہ جس گلے سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی یکدم وہ بیٹھنے والی کیفیت اس کی نہیں رہی۔ بھاری آواز جو نزلہ میں ہو جاتی ہے وہ تو باقی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ’فلو‘ کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں۔ پس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عموماً ان ساری ذمہ داریوں کو کما حقہ اور اچھے رنگ میں اور مقبول رنگ میں اٹھانے کی توفیق دے جو اس نے ان کمزور کندھوں پر ڈالی ہیں خصوصاً ان مخصوص ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا کرے جو جلسہ سالانہ کے ان بابرکت دنوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ مجھے تو توفیق دیتا ہے کہ میں جلسہ سے بھی پہلے آپ دوستوں کے لئے کثرت سے دعائیں شروع کر دیتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سے مجبور ہو کر بھی مجھے اس کی طرف خاص توجہ پیدا

ہوتی ہے۔ میں دعائیں یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جلسہ کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ حصہ عطا کرے اور ان برکتوں کے حصوں سے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے مہیا کئے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے مثلاً یہاں کی پاک اور محبت بھری فضا ہے مثلاً یہاں کی تقریریں ہیں مثلاً یہاں کی بشاشتیں ہیں مثلاً یہاں کے ہنس مکھ چہرے ہیں پھر صرف یہاں کے رہنے والے ہی ہنس مکھ نہیں ہوتے باہر سے آنے والے بھی اس فضا میں ہنس مکھ ہو جاتے ہیں۔ غرض محبت اور پیار کا ایک سمندر ہے جس میں ہم نہاتے ہیں اور اپنی ساری کدورتیں دور کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً مقرر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تسکین قلب کے سامان کرے محنت کرے۔ غفلت سے کام نہ لے۔ مجھے بڑی کثرت سے دعائیں کرنی اور استغفار کرنا پڑتا ہے کہ کسی اپنی غفلت یا کوتاہی کے نتیجے میں میرے اپنے بولوں میں (جو میں تقریر کرتا ہوں) کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے کہ آپ اس کمی کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ اس شخص نے اپنی غفلت سے ہمیں ایک برکت سے محروم کر دیا ہے۔ غرض بڑی دعاؤں کے بعد مجھے یہاں آنا پڑتا ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ کل کا مضمون بھی ہے ملاقاتیں بھی ہیں اور پھر مجھے آجکل یہ بیماری بھی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے ویسے بیماری تو جیسے میں نے بتایا ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ میں سے کسی نے یا میں نے جب اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہو تو بیماری کا احساس نہیں ہوتا۔ جب تک زندگی ہے اور ہمت اور توفیق ہے انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہئے اور اللہ تعالیٰ فضل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے بتایا ہے کہ صبح میرا گلابا لکل بیٹھا ہوا تھا اس سے آواز نہیں نکلتی تھی اور میں محسوس کرتا تھا کہ گلے کے بعض ایسے حصے ہیں کہ جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے کام نہیں کر رہا لیکن یکدم وہ بیٹھا ہوا گلا ٹھیک ہو گیا اور اس میں آواز آگئی۔ نزلہ کا حصہ ابھی ہے۔ آپ دعا کریں ہمارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی۔ اپنے لئے یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ برکتوں کو حاصل کریں اور نمبر ۲ زیادہ سے زیادہ برکتیں پہنچانے کا وسیلہ بنیں اور ہمارے لئے کہ ہم اس پاک ماحول سے زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھا کر زیادہ سے زیادہ افاضہ خیر کا موجب بنیں۔ سب خیر تو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم جو بھی دیتے ہیں۔ وہ ایک خادم اور ظل کی حیثیت سے دیتے ہیں خیر اور خادم میں بھی شاعروں کے

محاورہ کی طرح وفا اور دوستی میں باز نہ آنے کا محاورہ ہے۔ خدمت میں بال نہیں آنا چاہتے کہ ظاہر میں تو وہ سلامت ہو لیکن بال آچکا ہو اور وہ بے فائدہ، بے حقیقت اور بے قیمت چیز بن کر رہ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ خالص خلوص نیت اور خلوص کوشش اور حسن تدبیر کے ساتھ آپ کی تسکین کے جو سامان پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ کے لئے پیدا کر سکیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور اس کے خاص فضل آپ کے بھی اور ہمارے بھی شامل حال رہیں۔

جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ آپ کے فائدہ کے لئے شائع ہوئی ہیں آپ میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ مالی لحاظ سے اور دل کے شوق اور دل کی پیاس کے لحاظ سے توفیق دے ان کو چاہئے کہ وہ یہ کتابیں خریدیں۔

پھر ہمارے رسالے ہیں یعنی الفرقان ہے ریویو آف ریلیجنز ہے۔ تحریک جدید کا رسالہ ہے انصار اللہ ہے خدام احمدیہ کا رسالہ ہے لجنہ اماء اللہ کا رسالہ ہے بچوں کا رسالہ ہے جس جس ماحول کے لئے یہ رسالے شائع کئے جا رہے ہیں اس ماحول میں ان کا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پہنچیں گے تو ہمارا دعویٰ ایک خیال اور ایک غیر حقیقی اعلان ہوگا۔ اس کے پیچھے روح نہیں ہوگی۔ ایک مردہ اور بے روح جسم ہوگا۔ آپ اسے ایسا نہ بنائیں۔

پھر الفضل ہے الفضل ہر احمدی کو پڑھنا چاہئے یا سننا چاہئے اور الفضل سے بھی خصوصاً خلیفہ وقت کا پیغام جو مختلف موقعوں پر وہ دے آپ کے پاس آنا چاہئے۔ یہ چیز دوسرے نمبر پر ہے بنیادی چیز جو مستقل بھی ہے اور ہمیشہ کے لئے اور ساری دنیا کے لئے ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ لیکن ضرورت وقت کے لحاظ سے خلیفہ وقت کا پیغام بھی قرآن کریم کی تفسیر ہی ہے یا اس تفسیر میں جو اللہ تعالیٰ عملاً برکت پیدا کرتا ہے اور اس کا عملاً ایک مادی نتیجہ نکلتا ہے مثلاً اسلام کی کامیابیاں غیر ممالک میں اور ان کی رپورٹیں ہیں ان کا ضرور علم ہونا چاہئے۔ یہاں سے سات ہزار میل کے فاصلہ پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پانچ احمدی گھرانے ہیں اگر ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی تو ان کے دلوں میں بشارت پیدا نہیں ہوگی۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس رنگ میں اور کس طور پر اپنی رحمتیں جماعت احمدیہ پر نازل کر رہا ہے اور ہمیں اس کا

شکر گزار بندہ بننا چاہئے۔ ان تک یہ بات جانی چاہئے اور یہ زیادہ تر الفضل میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے رسالوں میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری کتابیں جو شائع ہوئی ہیں وہ ان دوستوں کو خریدنی چاہئیں مثلاً میر داؤد احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کے جو اقتباسات شائع کئے ہیں وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ میرے تو وہ ہر وقت سرہانے رکھی رہتی ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ساری کتب تو آپ اپنے سرہانے نہیں رکھ سکتے اور ہماری تو زندگی ان میں ہے کیونکہ ہماری زندگی قرآن کریم میں ہے اور قرآن کریم کی صحیح تفسیر ان کتابوں میں ہے اور وہ موجودہ حالات اور موجودہ زمانہ کے تقاضے پوری کر رہی ہیں۔ ایک دوسری صورت جو ممکن ہے یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کے اقتباسات ہمارے قریب رہیں، ہمارے سینہ کے ساتھ وہ لگے رہیں۔ ہمارے دماغ کے ساتھ مقامی قرب بھی ان کو حاصل ہوتا کہ روحانی قرب حاصل ہو سکے اور جب تک آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح اور بہت سی مفید کتابیں ہیں وہ آپ خریدیں۔ جماعتیں اپنی اپنی جگہ کوشش کریں میں نے لائبریریاں بنانے کے لئے تحریک کی ہے۔ ہمارے مبلغ جو باہر کام کر رہے ہیں (میں کل کی دعا میں بھی تحریک کروں گا) وہ مادی اور دنیوی لحاظ سے نہایت نامساعد حالات میں کام کر رہے ہیں۔

ان کے وجود اور ان کی ان علاقوں میں زندگی اور ان کی کوششوں اور ان کے نتائج سے خدائے واحد و یگانہ کے وجود پر ایک بڑی بھاری دلیل قائم ہو رہی ہے اور وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے لئے دعائیں کریں۔ آپ انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں بہت ہی برکت ڈالے اور ہماری اس خواہش کو جلد پورا کرے کہ تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے۔

اسی طرح جو بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں۔ بیمار کی عیادت مسلمان پر ایک فریضہ ہے لیکن ہر آدمی ہر بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا۔ ہاں ہر مسلمان مفت میں گھر بیٹھے ہر بیمار کی عیادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ وہ ہر بیمار کے لئے دعا کرے۔ جب وہ دعا کرے گا تو اس کو عیادت کا ثواب مل جائے گا۔

اسی طرح جو غریب ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے میرے ذہن میں تھا کہ میں اس طرف جماعت کو توجہ دلاؤں گا کہ اسلام میں احمدیت میں مالی لحاظ سے کوئی غریب نہیں۔ اس لئے میں مختصراً کہہ دیتا ہوں آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ احمدیت اور اسلام میں مالی لحاظ سے کوئی غریب نہیں۔ اس لئے کہ جس شخص کی جائز ضرورتیں بطور حق کے دینیوی اموال میں قائم کی گئی ہیں وہ غریب نہیں کہلائے گا اسے غریب نہیں کہا جاسکتا اور جس کے مادی وسائل اور ذرائع اتنے تھوڑے ہیں کہ اس کی اہم بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں اس کا حق امیر کے روپے میں رکھا گیا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّكِيَّة: ۲۰) امیر کی دولت میں یہ حصہ اس کا نہیں اس کو چاہئے کہ جس کا وہ حق ہے اسے وہ پہنچائے اور جو دینیوی لحاظ سے کم پایہ ہے اور غریب سمجھا جاتا ہے اسے میں اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں اور حرص سے زیادہ کوئی غربت نہیں۔ پس اپنے دلوں میں قناعت پیدا کرو اور جو کچھ تمہیں خدا کی طرف سے ملے اس کو تم شکر اور حمد کے ساتھ قبول کرو اور استعمال کرو۔ اس طرح یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا وہ اس تھوڑے میں تمہارے لئے زیادہ برکت ڈال دے گا۔ اگر ایک امیر آدمی دس روپیہ کے کھانے سے اپنے جسم کی ایک ضرورت پوری کر رہا ہوگا۔ تو اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ آپ اپنے جسم کی اتنی ضرورت ایک لقمہ سے پوری کر لیں گے اور جب آپ کو یہ ایک لقمہ ملتا رہے اور جب یہ ایک لقمہ دس روپیہ کے کھانے کا آپ میں کام کر رہا ہو تو کھانے کے لحاظ سے آپ اتنے ہی امیر ہو گئے جتنا کہ وہ امیر ہے جو دینیوی طور پر امیر سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک امیر کا بچہ بیمار ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے دس ہزار روپیہ خرچ کروا کے اس کے بچہ کو صحت دے اور آپ جو دنیا کی نگاہ میں غریب ہیں آپ کے بچہ کو ویسی ہی بیماری میں اور ان حالات میں ہی ایک دو روپیہ خرچ کروا کے اللہ تعالیٰ صحت دے تو آپ اتنے ہی امیر ہیں جتنا وہ شخص جس نے اپنے بچہ کی بیماری پر دس ہزار روپیہ خرچ کیا۔ پس اسلام میں کوئی شخص نہ امیر ہے اور نہ غریب ہے۔ امیر اس لئے کوئی نہیں کہ امیر وہ ہے جو خدا کی نگاہ میں امیر ہے اور وہ شخص خدا کی نگاہ میں امیر نہیں جس نے اپنے مال سے وہ حقوق ادا نہیں کئے جو اس مال کے دینے والے نے اس پر فرض کئے تھے۔ پھر وہ خدا کی نگاہ میں امیر کیسے ہو اور خدا کی نگاہ میں چور۔ خائن اور غبن

کرنے والا تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کی نگاہ میں وہ امیر نہیں ہو سکتا اور کوئی غریب نہیں اسلام میں اس لئے کہ جو دنیا کی نگاہ میں غریب تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ایک سے زائد سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے۔ امیر کہلانے والوں کے اموال میں ان کا حق رکھ دیا امیر کہلانے والوں کے دلوں میں ان کے لئے اخوت اور محبت پیدا کر دی امیر کہلانے والوں کی روحوں میں یہ تڑپ پیدا کر دی کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد بغیر احسان جتلانے کے یہ فقرہ ان کی زبان پر آنا چاہئے کہ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكْرًا (اللہھر: ۱۰) ہم نہ تم سے کسی بدلہ کے طالب ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا احسان مانو۔ یا شکر یہ ادا کرو دنیا دار اپنا مال دوسروں پر دو میں ایک چیز کے لئے خرچ کرتا ہے یا تو اس نے جزا لینی ہوتی ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے مثلاً مزدور دوسرے کے لئے اپنا دن خرچ کرتا ہے اس لئے کہ شام کو اسے مزدوری ملے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی جزا کی ضرورت نہیں۔ پھر دنیا دار دوسرے پر اس لئے اپنے اموال خرچ کرتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کرنا ہوتا ہے لیکن مومن یہ کہتا ہے کہ تمہیں میرا احسان ماننے اور شکر یہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے یہ کام جو چیز حاصل کرنے کے لئے کیا تھا وہ تم مجھے نہیں دے سکتے۔ وہ صرف میرا رب مجھے دے سکتا ہے میں نے اپنا مال اور اپنا پیسہ اس لئے خرچ کیا ہے کہ مجھے اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے اور تم مجھے میرے رب کی رضا دے ہی نہیں سکتے پھر میں تم سے شکر یہ بدلہ یا احسان کا طالب کیسے بن سکتا ہوں میں احمق تو نہیں ہوں۔

غرض اسلام میں نہ تو کوئی امیر ہے خدا کی نگاہ میں اور نہ کوئی غریب ہے خدا کی نگاہ میں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے طریق اور خدا کی راہ میں اعمال صالحہ بجالا کر اس کی نعمتوں کے حصول کے طریق بتائے گئے ہیں کہ سب کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس لئے جماعت احمدیہ اور اسلام میں نہ اضافی طور پر کوئی زیادہ معزز ہے اور نہ اضافی طور پر کوئی زیادہ غریب ہے۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کی نگاہ کا تعلق ہے وہی جانتا ہے کہ کون اس کی نگاہ میں معزز ہے اور کون اس کی نگاہ میں ذلیل ہے ہمیں تو اس کا پتہ نہیں اور چونکہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں اس لئے ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون ذلیل ہے اور کون معزز ہے اس نقطہ نگاہ سے جہاں تک دنیا کا سوال ہے خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ عزتوں کا سرچشمہ میرا وجود ہے اور ذلتوں کا منبع مجھ سے دور ہے۔ اگر سو آدمی میرے دامن کو آ کر

پکڑ لیں گے اور مجھ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ سب ہی معزز ہو جائیں گے۔ ایک روحانی آنکھ رکھنے والا کسی شخص کے مال یا عظمت و جاہ یا اس کے محل اور اس کے باغات کو دیکھ کر یا اس کے سیاسی اثر و رسوخ کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ زیادہ معزز ہے۔ اس کی نگاہ تو یہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہ بھی اور وہ بھی ایک رب واحد و یگانہ سے چمٹے ہوئے ہیں جو عزت کا سرچشمہ اور سب کو معزز کرنے والا ہے اور جو خدا سے دور ہو گیا وہ تو ذلیل ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ ان میں سے کون زیادہ معزز اور کون زیادہ ذلیل ہے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اسلام میں اور احمدیت میں خدا سے دوری ذلت کا باعث بنتی ہے اور جو خدا کے غضب کے نیچے ہے اس کو یہ بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی کہ وہ یہ کہے کہ خدا کا غضب محمد پر دوسرے کی نسبت کم ہے اگر تم جہنم میں ہو تو چاہے تم جہنم کے کسی حصہ میں بھی ہو۔ تم آگ کی سوزش سے محفوظ نہیں رہ سکتے اور اس بات پر کوئی شخص کیا فخر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر نے اس کو پکڑا اور اسے کچل کے رکھ دیا۔ کوئی شخص اس پر فخر نہیں کر سکتا کیونکہ فخر تو وہ کر سکتا ہے جس کے اندر کوئی خوبی ہو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیا وہ خدا کی نگاہ میں اور روحانی بینائی رکھنے والے کی آنکھ میں معزز بن گیا۔

اس اسلام اور احمدیت میں سب ایک جیسے معزز ہیں وہ جنہوں نے خدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور اس کے ہو لئے۔ انہوں نے غیر سے منہ موڑا اور شیطان سے قطع تعلق کیا اور خدا سے دوری پر موت کو ترجیح دی وہ سارے معزز بن گئے۔ ایک جیسے معزز۔ پس اگر تمہیں خدا کے غضب سے محفوظ رہنا ہے تو اخوت کے اس ذریعہ کو قائم رکھو اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو اور کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو۔ جہاں تک روحانی آنکھ کا تعلق ہے سب ایک جیسے ہیں سب بھائی بھائی ہیں اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا تعلق ہے ہمیں یہ علم ہی نہیں ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ کون اس کی نگاہ میں زیادہ معزز اور کون کم معزز ہے ایک اصولی بات ہمیں بتائی گئی ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ معزز وہ ہوتا ہے جو تقویٰ کی زیادہ راہوں کو زیادہ قربانی دے کر اختیار کرتا ہے لیکن کون ہے وہ اس کا علم ہمارے رب کو ہے۔

ایک ظاہری عزت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ان ناسبین کی مقرر کر دی ہے جن سے وہ کام لینا چاہتا ہے اور یہ ناسبین انبیاء اور مامورین اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ان کے خلفاء


بنتے ہیں۔ لیکن انبیاء اور مامورین (خلفاء کو چھوڑو وہ تو بہر حال ان کے نائب ہیں) نے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لئے اپنی زبان سے عزت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اگرچہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ساری عزتیں تیرے قدموں پر لا کر رکھ دی ہیں اور آج میری نگاہ میں عزت وہی حاصل کرے گا جو تیرے قدموں پر جھکے گا اور یہاں سے اپنے لئے عزت کو تلاش کرے گا اتنے بڑے مقام کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کسی عزت کے مقام کا دعویٰ نہیں کیا آپ یہی فرماتے رہے کہ فلاں نبی پر مجھے ترجیح نہ دو فلاں پر مجھے ترجیح نہ دو۔ آپ نے عاجزی کے مقام کو اختیار کیا تاکہ امت یہ سبق سیکھے کہ عاجز کی راہیں انسان کو عزت کی منازل کی طرف لے جانے والی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان راہوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور جماعت میں یہ جذبہ اور روح قائم رکھے کہ جماعت میں شامل ہونے والا ہر فرد بشر ایک جیسا معزز اور خدا تعالیٰ کی نگاہ میں قابلِ صد عزت و احترام ہے اور جو شخص مرد ہو یا عورت اس وجہ سے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو اختیار کیا خدا کی نگاہ میں معزز ہو۔ اس شخص کو جو معزز نہیں سمجھتا وہ اپنی ذلت پر مہر لگا تا ہے۔

اور اسلام میں کوئی شخص غریب نہیں کیونکہ ہر اس شخص کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کہ جو بظاہر غریب ہے ظاہری امیر کی دولت میں اس کا حق رکھا گیا ہے اور جو حقیقی طور پر احمدی اور مسلمان ہے اس کے دل میں قناعت کے خزانے لا کر رکھ دیئے گئے ہیں وہ تو دنیا کی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس کے ہاتھ میں تو جب ایک پیار کرنے والا ہاتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں حالانکہ خدائی آواز اس کے کان میں آرہی ہوتی ہے کہ یہ تیرا حق ہے تو اسے لے لے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی بندے بننے کی ہمیشہ توفیق عطا کرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے اور کل کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے۔

(از رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)



خلافتِ حقہ کا حق ادا کرنے والے انسان کا مل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۶۸ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے درج ذیل آیات تلاوت فرمائیں:-
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ
مَا أَوْحَىٰ (النجم: ۱۱ تا ۱۴)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

قبل اس کے کہ میں آج کا مضمون شروع کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب جماعت کی طرف سے ان بہنوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے بے وقت اور فوری اطلاع پر آج صبح خدمت سلسلہ کا ایک بڑا ہی اچھا کام کیا۔

بات یوں ہوئی کہ صبح پانچ بجے کے قریب جلسہ سالانہ کے منتظمین نے یہ محسوس کیا ہے کہ روٹی کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے گی اور انہوں نے اذان سے بھی آدھ گھنٹہ قبل صدر صاحبہ لجنہ اماء اللہ کو یہ اطلاع دی کہ جو ہنگامی حالات کے لئے انتظام ہے لوہ پر اور چھوٹی تندوریوں پر رضا کارانہ طور پر مستورات روٹیاں پکائیں۔ اس انتظام کے ماتحت آپ جس حد تک روٹیاں پکوا کر دے سکتی ہوں دیں۔ گزشتہ سال کے تجربہ کی وجہ سے ہمارا انتظام یہ تھا کہ ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں پر ہنگامی حالات کے مطابق ہنگامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے روٹی پکانے کا انتظام کیا ہوا ہے جس میں سے ایک یہ حصہ ہے چنانچہ جو منتظمین تھے انہوں نے ان تندوریوں یا تندوریوں میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دی اور لوہ کے جو چولہے ہوتے ہیں ان کے نیچے بھی آگ جلا دی اور یہ اطلاع انہوں نے دے دی نصف گھنٹہ کے اندر اندر ہماری مستعد اور

فدائی بہنیں ضرورت سے کہیں زیادہ اس موقع پر آگئیں اور روٹی پکاتی رہیں۔ جب تک کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اب اور مزید روٹی نہ پکائیں کیونکہ ہماری ضرورت پوری ہوگئی ہے اور تھوڑے سے وقت میں انہوں نے ساڑھے نو ہزار روٹی تیار کر کے لنگر میں بھجوا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بہنیں جماعت کے شکر کی مستحق ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ساری جماعت کی طرف سے ان کا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں بھی ہمیشہ ہی ہنگامی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے بھی اور جو ہماری مستقل ضروریات ہیں ان کے مطالبات پورا کرنے کے لئے بھی توفیق دیتا چلا جائے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک نہایت ہی حسین پیرایہ میں اور جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کے اور اس کے الہام کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان پر روشنی ڈالی ہے اور اس سارے مضمون کی وضاحت اصولی طور پر سورۃ نجم کی آیات سے کی ہے جن کی تلاوت میں نے کی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بات جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

میں اپنے الفاظ میں اور اس بات کے پیش نظر کہ میرے سامنے پڑھے لکھے بھائی بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے عالم بزرگ بھی ہیں۔ عام علم رکھنے والے بھائی بھی ہیں جن کی غالباً کثرت بھی ہوگی ان میں سے ممکن ہے بہت سے لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں لیکن احمدیت میں آجانے کے بعد اور احمدی جو جلسے کرواتے ہیں وہ سننے کے بعد ایسے لوگوں کو بھی کوئی عقلمند اور سمجھدار انسان جاہل اور ان پڑھ نہیں کہہ سکتا۔ لکھنا پڑھنا بے شک وہ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور فراست دیا ہے۔ لیکن بہر حال استعدادیں مختلف ہیں میں کوشش کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علمی رنگ میں حقیقت محمدیہ کو جس طور پر بیان کیا ہے اُسے واضح الفاظ میں اور سادہ زبان میں بیان کروں تاکہ ہر احمدی اس حقیقت کو جاننے اور پہچاننے لگے اور یہ ہماری زندگیوں کے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حقیقت اور جو اصل مقام اور آپ کی جو اصل شان ہے اس سے واقف ہوں اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ تاکہ ہمارے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو جائے کیونکہ جس قدر اس محبت میں شدت ہوگی اسی

قدر اللہ تعالیٰ کی اس محبت میں شدت ہوگی جو ایسے بندوں سے وہ کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔

اس حقیقت اور اس مضمون کو سمجھنے کے لئے میں پیدائش عالم کے بیان سے مضمون شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ اس عالمین کی پیدائش بلا وجہ اور بغیر مقصد کے نہیں بلکہ وہ خدا جو بغیر وقت کے ہماری مشکلیں (ہم اپنے لئے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کے اندر) لیکن اللہ کی ذات تو اس لمحہ سے بھی بالا ہے بہر حال ہم نے چونکہ اپنی زبان استعمال کرنی ہے اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علام الغیوب ایک لمحہ کے اندر ہر چیز کا اپنے علم میں احاطہ کرتا اور اپنے منشاء کی اور ارادہ کی تفصیل کو طے کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس طرح اس چیز کو بنا دینا ہے پھر حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مادی دنیا میں تدریج کا اصول جاری کیا ہے اس نے مثلاً نظام شمسی کو کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گیا لیکن تدریجاً ان کو ان کی آخری شکل تک پہنچایا بعض لوگوں کے نزدیک ایک زمانہ بعض کے نزدیک کوئی دوسرا زمانہ گذرا لکھو کھا سال گذرے جس میں نظام شمسی نے وہ شکل اختیار کی جو شکل کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا نظام شمسی اختیار کرے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کے شروع میں ہی اس بنیادی اصول کی طرف یہ کہہ کر توجہ دلائی تھی کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحہ: ۲) کہ اس عالمین کی ربوبیت ہوئی ہے۔ رب کے معنی ہیں پیدا کر کے درجہ بدرجہ مدارج ارتقا طے کروا تا چلا جانے والا یعنی وہ پیدا کرتا ہے اور وہ خود درجہ بدرجہ مختلف مدارج میں سے گزار کے اس کی جو استعداد ہے اس کو اپنے مخصوص دائرہ استعداد کمال تک پہنچاتا ہے۔ مثلاً گندم کا بیج ہے ہمارے ہزاروں زمیندار بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ گندم کا بیج اپنے کھیتوں میں ڈال کے جلسہ سننے کے لئے آ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر گندم کا بیج گندم کی فصل کی شکل اختیار کر کے گندم پیدا کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے بعض بندوں کا تیرے ذریعہ سے پیٹ بھرنا چاہتا ہوں اس لئے تو ایک کی بجائے ستر یا سو یا دو سو یا استعداد کے مطابق سات سو تک یا اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ بڑھنا ہے لیکن خدا تعالیٰ کا یہ حکم مختلف دوروں میں سے اس بیج کو گذارتا ہے پہلے اس کی

جڑیں نکلتی ہیں اور زمین کے اندر پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں اور جو نئے نئے زمیندار بنتے ہیں ان کو پہلے دن بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس سے روئیدگی باہر آئے گی یا نہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا جا کے اس مٹی کو کرید کے جسے پنجابی میں پھولنا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے جڑیں بن رہی ہیں یا نہیں۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد باہر نکل آتی ہیں۔ جس طرح زرد رنگ کا خیف کمزور بچہ ہوتا ہے وہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے اور پانی سے وہ اپنی غذا کو لیتا ہے اور بڑھتا ہے پہلے پتے نکالتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پتے جب زمین اور سورج کی شعاعوں سے اپنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو اس سٹاک کو جس میں بعد میں گندم کے دانے لگتے ہیں۔ اس کو یہ طاقت دیتا ہے اور وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سٹھ نکل آتا ہے اس کو، اور پھر پتے اور اس کا جو سٹاک ہے تنا چھوٹا سا وہ اپنی ساری طاقت بیج کی طرف منتقل کر کے بڑھاپے کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور اس کی کمر بعض دفعہ دہری ہو جاتی ہے چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور کوئی جان اُن میں نہیں رہتی خون سب خشک ہو جاتا ہے اور دانے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پس ایک لمبا سلسلہ درجہ بدرجہ ترقی کرنے کا ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔

قرآن کریم نے ہمیں فرمایا کہ اس عالمین میں بنیادی طور پر تدریجی ترقی کا اصول قائم کیا گیا ہے۔ اس تدریجی ترقی کا اصول کس لئے قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تدریجی ترقی کا اصول اس مقصد کے حصول کے لئے ہے جس مقصد کے حصول کے لئے اس عالمین کو پیدا کیا گیا یعنی عالمین کو پیدا کیا گیا ایک خاص مقصد کے لئے اور اس تدریجی ترقی اور تدریجی ارتقاء کا اصول قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت میں فرماتا ہے خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (العنکبوت: ۲۵)

کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ روم میں فرماتا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ (الروم: ۹)

کیا وہ سوچتے نہیں اور فکر اور غور نہیں کرتے اپنے نفسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین کو ایک خاص مقصد کے لئے

اور ایک مقررہ وقت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ احقاف میں فرماتا ہے۔

مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى (الاحقاف: ۴) کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور ان کے درمیان پایا جاتا ہے بلاوجہ اور حکمت کے بغیر پیدا نہیں کیا اور نہ کوئی مدت مقرر کرنے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات پر قرآن کریم نے بڑے زور کے ساتھ اس دعویٰ کو انسان کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کائنات کی پیدائش ایک خاص مقصد کے حصول کے پیش نظر کی گئی ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، اب جب ہمارا علم بڑھ گیا ہے تو ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بے شمار سورج ہمارے نظام شمسی کی طرح اس عالمین میں پائے جاتے ہیں۔ پھر آسمانوں کے متعلق تو بڑا تھوڑا علم ہے۔ کم از کم تھوڑا بہت علم ہم نے حاصل کر لیا ہے کہ بعض ستارے زیادہ روشن ہیں اور بعض کم اور بعض ستارے ہم سے قریب ہیں اور بعض بہت دور یعنی یہ محض فلسفیانہ رنگ میں نہیں بلکہ دور بینوں سے ہم نے یہ پتہ لیا اور ہم نے شعاعوں کے متعلق یہ بھی پتہ کر لیا کہ کتنے لائٹ ایریز میں، یعنی کتنے ایسے سالوں میں کہ جس میں شعاعوں کی ایک سال کی رفتار جو ہے (اسے لائٹ ایریز (Light years) کہتے ہیں) وہ روشنی یہاں تک پہنچی وغیرہ وغیرہ اور اس سے جو علم حاصل ہوا جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چاند اور سورج کی روشنی ہماری فصولوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے اندر بعض خاص خصوصیتیں پیدا کرتی ہے اسی طرح ستاروں کی روشنی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج گندم کا دانہ جس میں مثلاً تعداد تو نہیں یاد، کسی کو پتہ بھی نہیں، گنا بھی نہیں جاسکتا ہے، لیکن مثال دے دیتے ہیں، جس کی پرورش میں ایک ہزار ستاروں نے دودھ پلایا۔ وہ اس دانہ سے مختلف ہے۔ جو آج سے پانچ ہزار سال پہلے پیدا ہوا تھا اور جس کی پرورش میں صرف نو سو ستاروں کی روشنی کا حصہ تھا۔ عقلاً اس میں اختلاف ہونا چاہئے تھا کیونکہ زیادہ ستاروں کی روشنی پرورش کا باعث بنی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے ستارے بنائے، پھر زمین بنائی اور پھر میں نے بے شمار چیزیں بنا دیں مختلف انواع کے کچھ حیوان ہیں۔ کچھ نباتات سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ کچھ معدنیات سے تعلق رکھنے والی ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر ہر چیز میں میری جس جس صفت کا جلوہ ہوا ہے چونکہ میری ہر صفت اور اس کے جلوے غیر محدود ہیں۔ اس چیز کے جو خواص ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ تو اتنا بڑا کارخانہ اپنی وسعتوں کے لحاظ سے بھی اور اپنی گہرائیوں کے

لحاظ سے بھی بے فائدہ اور بلا مقصد نہیں ہے، کوئی بات میرے سامنے تھی، کوئی مقصد میرے پیش نظر تھا جس کے لئے میں نے اس کارخانہ عالم کو بنایا۔

دوسری صداقت جو قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش عالمین کا جو بھی مقصد ہے اس کا تعلق انسان سے ہے یعنی انسان نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِئْتِيْٓ جَاعِلٍۭ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرة: ۳۱)

کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش عالم کے وقت ملائکہ سے یہ کہا کہ میں ایک ایسی نوع پیدا کرنے لگا ہوں جو میرے خلیفہ اور میرے نائب ہو کر زندگی گذاریں گے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی نسل، ایسی نوع انسانی پیدا کرنے لگا ہوں جن میں یہ استعداد اور قوت رکھی جائے گی کہ وہ میری صفات کا مظہر بن سکیں کوئی خلیفہ اور نائب ایسا نہیں جو اس کی صفات کا مظہر نہ بنے۔

تو اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان ہے اس کی پیدائش کا مقصد انسان سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کو یہ کہا کہ تم غور کرو کہ اگر پیدائش عالمین کا مقصد تم سے تعلق نہ رکھتا تو پیدائش کی ہر چیز کو تمہاری خدمت میں نہ لگایا جاتا۔ اگر وہ مقصد جو اس عالمین کی پیدائش کا ہے مثلاً ہمارے سورج سے تعلق رکھتا تو ہم غلاموں کی طرح اس سورج کی خدمت کر رہے ہوتے جس طرح خدا چاہتا کہ ہم خدمت کریں لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف یہ سورج بلکہ دنیا میں جو بے شمار سورج پائے جاتے ہیں سارے کے سارے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ عالمین بلکہ جو ان کا سہارا ہیں یعنی ملائکہ اور ان کی قوتیں وہ بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ ہم نے جس چیز کو بھی پیدا کیا تمہاری خدمت میں لگا دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَلَمْ تَرَوْا اَنْۢ بَرَّ اللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْۭ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَهُ ظٰہِرَةً وَّ بَاطِنَةً ۗ وَّمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدٰی وَّ لَا یَكْتُبُ مُنِیْرٍ (لقمن: ۲۱)

کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے اور اس رنگ میں لگایا ہوا ہے کہ اپنی اس خلق کو تمہاری خدمت پر لگانے کے نتیجے میں تمہارے لئے جن نعمتوں کے سامان پیدا کر دیے گئے ہیں۔ انہیں تم شمار نہیں کر سکتے انہیں تم گنتی میں نہیں لا سکتے۔ **وَاسْبِغْ عَلَیْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً** اور تم پر اپنی نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی پانی کی طرح بہادی ہیں جس طرح سمندر کے پانی کے قطرے نہیں گنے جاسکتے (شائد وہ گنے جائیں لیکن) اس سے زیادہ بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسانوں کا شمار نہیں ہے۔ اس سے تمہیں یہ سبق لینا چاہئے اس سے یہ حقیقت تم پر واضح ہونی چاہئے کہ پیدائش عالم کا مقصد انسان سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں بات شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو خدا ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو اس کو ہمارے ساتھ کیا غرض؟ اور اس بحث میں ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہوتی ہے **وَلَا هُدًى**۔ نہ صحف سابقہ میں سے کسی آسمانی صحیفے کا اس کے پاس کوئی استدلال ہوتا ہے **وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ** اور نہ قرآن کریم سے کوئی استدلال وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو عقل، پہلی کتابیں جو ان میں سے سچائیاں قائم رہ گئی ہیں اور دنیا کو روشن کرنے کے لئے جو کتاب منیر قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے ان میں سے کوئی پختہ دلیل نکال کر وہ اپنے موقف کی تائید میں بیان نہیں کر سکتے اور اس بات سے وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ دنیا کسی مقصد کے پیش نظر پیدا کی گئی ہے اور آخرت پر جو شخص ایمان نہیں لاتا (اور دنیا میں ایسے انسانوں کی بڑی کثرت ہے) اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائش انسانی کی کوئی غرض نہیں ساری دنیا کو، کائنات کو، موجودات کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ بے مقصد ہے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا یہ قصہ ہے۔

اسی طرح سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ
قُلْ لِلذِّكْرِ أَمْنٌ وَإِخْفَرٌ وَالذِّكْرِ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (الجماعۃ: ۱۶ تا ۱۴)

کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اُس نے تمہاری خدمت پر لگا

رکھا ہے اور جو فکر کرنے والی اور تدبیر کرنے والی اور غور کرنے والی قوم ہے ان کے لئے اس میں ایک بڑا نشان ہے اور وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کی پیدائش اور انسان کی پیدائش کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اس لئے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا تو مومنوں سے کہہ دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جزاء کی امید رکھو کیونکہ ایک مقصد کے پیش نظر تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی استعداد کے مطابق صفات باری کے مظہر بنو اور جو شخص اپنی استعداد کے مطابق صفات باری کا مظہر بن جاتا ہے وہ منبع مسرت اور خوشیوں کے سرچشمہ سے پرسکون اور خوشحال زندگی حاصل کرتا ہے جس پر کبھی فنا نہیں آتی ہے۔ اس لئے تم اللہ کی سزا سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کے یہ معنی ہوں گے کہ جو مقصد تم سے وابستہ کیا گیا تھا اس میں تم ناکام ہوئے اور جو خوشیاں تمہارے لئے مقدر کی گئی تھیں ان سے تم محروم ہوئے اور خدا تعالیٰ سے دوری کے نتیجے میں جو عذاب مقدر کیا گیا تھا اس کے تم حق دار ٹھہرے۔ خود ہی نہیں بلکہ جو سزا سے نہیں ڈرتے اور اپنے رب کو نہیں پہچانتے ان کو بھی معاف کریں اور ایسے سامان پیدا کریں کہ ان کی توجہ محبت اور پیار کے ساتھ ان کے رب کی طرف پھیری جاسکے اور خود سزا دینے کی طرف متوجہ نہ ہوں اور نہ خدا سے یہ کہیں کہ جلد انہیں سزا دے بلکہ کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگ بلکہ ساری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَاتَا ہے کہ ان لوگوں کو تم اچھی طرح سمجھا دو کہ ہمارا جو یہ مطالبہ ہے کہ ہماری ہدایت کے مطابق ہمارے ارشادات کی روشنی میں مناسب حال نیک اعمال بجالایا کرو فَلِنَفْسِهِ اس میں تمہارا فائدہ ہے کیونکہ اسی کے نتیجے میں تم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔

تو دوسری بات قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لئے کائنات اور موجودات کی پیدائش ہوئی ہے اس کا تعلق انسان سے ہے اور اس کا یہ تعلق انسان سے ہے کہ وہ اپنی قوتوں اور استعدادوں کے دائرہ کے اندر مظہر صفات باری بن سکے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایتوں کے سامان پیدا کئے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کی کوشش کرے وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے۔ اسی لئے جو بنی نوع انسان کے مختلف ادوار ہیں اپنے اپنے دائرہ میں جو اس وقت کے انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لئے ضرورت تھی اس کے مطابق خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی اُس قوم کے نبی کو ہدایت دے دی اور اس آیت استخلاف میں جو

ابھی میں نے پڑھی اس میں جو کہا گیا ہے کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگرچہ عام طور پر اس کائنات کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ ایک ایسی نوع پیدا ہو کہ جو مظہر صفات باری بن سکے۔ لیکن اصل غرض یہ ہے کہ ایک ایسا وجود پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کا مظہر اتم ہو یعنی تمام صفات باری کا وہ کامل مظہر ہو۔ صرف اللہ کی اس صفت کا وہ مظہر نہ ہو کہ وہ ذوا انتقام ہے۔ خدا تعالیٰ بدلہ لیتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نمایاں طور پر خدا کی اس صفت کا مظہر بنے اور انتقام لینے پر آپ نے زور دیا، یا وہ اللہ کی صرف اس صفت کا مظہر نہ بنے کہ وہ غفور ہے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام صرف اس صفت کا نمایاں طور پر مظہر بنے اور صفات کا بھی بنے لیکن نمایاں طور پر اس صفت کا مظہر بنے اور یہ کہا کہ اگلا آدمی خواہ بدیوں میں ترقی کرتا چلا جائے تم اس کو معاف کرتے چلے جاؤ اور یہ نہیں بتایا کہ سوچ لیا کرو کہ تمہارے معافی دینے کے ساتھ کہیں وہ اپنی بدیوں میں تو ترقی کر کے اللہ تعالیٰ سے اور بھی بعد تو نہیں حاصل کر لیتا۔

تو ان آیات سے خصوصاً اس آیت سے کہ میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ کائنات کی پیدائش کا اصل اور حقیقی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا انسان وجود پذیر ہو جو اللہ (اور اللہ کے معنی ہیں مسجع جمیع صفات کاملہ حسنہ وہ ذات جو تمام کامل اور اچھی صفات کی جامع ہے) کا مظہر اتم بن جائے یعنی اس کے اندر بھی ظلی طور پر تمام صفات الہیہ جمع ہو جائیں۔ تو اس سے ہمیں تین چیزوں کا پتہ لگا ایک یہ کہ مقصد کا تعلق انسان سے ہے دوسرے یہ کہ یہ مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ پیدائش عالم کا یہ مقصد حاصل ہو سکے کہ ایک ایسی نوع پیدا ہو جائے جو صفات باری کی مظہر بننے کی قوت اور استعداد اپنے اندر رکھ سکتی ہو اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ اصل اور حقیقی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان کامل پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ کا مظہر اتم ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر ہو تمام صفات کا جو مظہر ہوگا اصولی طور پر وہ اللہ کا مظہر ہوگا۔ وہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البروج: ۱۳) کی صفت کا بھی مظہر ہوگا جب گرفت کرے گا تو اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہوگی اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہوگا اور وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: ۱۵۷) کی ایک صفت باری ہے۔ جب وہ رحمت

کرنے پر آئے گا تو اس میں بھی وہ کامل طور پر اللہ کی اس صفت کا مظہر ہوگا۔ جب وہ معاف کرے گا تو لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (یوسف: ۹۳) کا ایسا نعرہ لگائے گا کہ انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکے گی۔ جب وہ عزیز ہونے کی صفت کا مظہر بنے گا تو سارا عرب جب اکٹھا ہو جائے گا تو وہ قدرت الہی جو اس میں جلوہ گر ہوگی ہوا کے ذروں کی طرح اسے اڑا کے رکھ دے گی۔ پس تمام صفات کا وہ مظہر ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک ایسے ہی انسان کامل کی ضرورت تھی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان کامل کون ہے؟ دنیا میں جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے بڑے بڑے مقرب پیدا ہوئے لیکن وہ انسان کامل جس نے اس خلافتِ حقہ کا حق ادا کیا اپنی استعداد کی رو سے بھی اور اس استعداد کی تربیت کاملہ کی رو سے بھی (خالی استعداد کافی نہیں ہے استعداد کی کامل تربیت اور کامل نشوونما کی ضرورت ہے) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں کہ جس کی پیدائش کے لئے جس کے وجود کے لئے جس کے معرض وجود میں آنے کے لئے ساری کائنات کو پیدا کیا اور آپ اپنی استعدادوں کے لحاظ سے بھی اور ان استعدادوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی انسان کامل ہیں اور جو انسان کامل ہوگا وہ اشرف المخلوقات بھی ہوگا یعنی حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو ایک تو آپ کی صفت آپ کے دعویٰ کے مطابق ہے (ابھی ہم آپ کے دعویٰ میں ہیں) آپ کا دعویٰ ہے اور قرآن کریم نے بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کوئی انسان نہیں کیونکہ آپ ہی انسان کامل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند اور ارفع شان رکھنے والا کوئی نبی نہیں کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ دعویٰ قرآن کریم نے بھی بڑے زور سے کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کی اس ہدایت کے مطابق ان قرآنی آیات کی تفسیر میں کیا کہ میں ہی صحیح معنی میں اشرف المخلوقات، میں ہی حقیقی طور پر انسان کامل اور میں ہی نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین کامل اور مکمل طور پر ان کامل رفتوں پر پہنچ جانے کی وجہ سے جہاں تک میرے خدا نے مجھے توفیق عطا کی۔ یہ دعویٰ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہمیں نظر آتا ہے مثلاً

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (البقرة: ۲۵۴) میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس دعویٰ کا ذکر ہے کہ ایک وہ انسان بھی پیدا ہوا جو اپنے درجات میں ارفع مقام تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر مقام تک جو انسان اپنی روحانی ارتقاء میں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچے اور یہ بعض سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اسی طرح اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (القلہ: ۵) کے معنی ہیں کہ تیرے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ اس سے زیادہ عظمت والے اخلاق انسانی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جن میں قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپؐ ہی اشرف المخلوقات ہیں یعنی خلق کی جو غرض اور غایت تھی وہ آپ کے وجود میں پوری ہوئی۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی اور آپ کی قوت اور تاثیر اور مقام کے نتیجے میں خلق میں سے ہر چیز کو خدا کی صفات کا وہ جلوہ ملا جو ملا۔ کیونکہ یہ جو خلق ہے اس پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے۔

مثلاً آپ کو گندم کا دانہ نظر آتا ہے، چنے کا دانہ نظر آتا ہے اور کی کا دانہ نظر آتا ہے اور سرسوں کا دانہ نظر آتا ہے آگے پھلوں میں کیلا یا آم وغیرہ ہر چیز نظر آتی ہے یا ہیرا نظر آتا ہے یا قوت نظر آتا ہے زمرہ نظر آتا ہے یا درخت نظر آتے ہیں یا جھاڑیاں نظر آتی ہیں پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے نظر آتے ہیں یا مختلف رنگوں کے پھل نظر آتے ہیں اور سب سے زیادہ پھول گلاب کا نظر آتا ہے کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ وجود جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے ماہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ظل اور اثر ہے تو ساری مخلوق اظلال و آثار صفات باری ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی ماہیت نہیں۔ تو ہر جلوہ جو ہمیں ملا ہے کیونکہ اس وقت یہ مضمون ہے میرا اس کے تسلسل میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہر جلوہ جو جس رنگ میں ہمیں وہ کائنات میں نظر آتا ہے اور پیدائش عالم سے لے کر آج تک نظر آتا رہا ہے اور آج سے لے کر قیامت تک نظر آتا رہے گا۔ یہ جلوہ اسی لئے ہے کہ اس جلوہ کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ہر قسم کے جلوے ختم ہو گئے اس لئے جس چیز میں بھی ہمیں خدا تعالیٰ کی کسی صفت کا کوئی جلوہ نظر آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ہے۔

ان آیات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے

وہاں ہمیں تفسیر کرنی پڑتی تھی یہ تفسیری احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ إِلَّا فَلَاحًا“ (موضوعات کبیر زیر حرف لام) اگر پیدائش عالم کی غرض تیرا وجود پیدا کرنا نہ ہوتا تو پیدائش عالم بھی نہ ہوتی اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس حدیث کے الفاظ پر لفظی طور پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند پختہ اور ثقہ نہیں، مشکوک ہے لیکن اس کے معنی پر سب نے اتفاق کیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ الفاظ نہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ مفہوم کسی اور لفظ یا جملے میں ادا نہیں کیا گیا۔

ہمارے جو بڑے مشہور اور بڑے ثقہ علمائے ربانی گذرے ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پر اعتراض نہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں جنت کو نہ پیدا کرتا۔ تو معنی کے لحاظ سے تو وہی ہیں یعنی جنت کو پیدا نہ کرتا یعنی ساری پیدائش بے مقصد ہو جاتی اور خدا تعالیٰ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ پیدائش ہی نہ ہوتی۔

اسی طرح بعض دوسرے الفاظ کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان پر روایت کے لحاظ سے کسی قسم کا اعتراض نہیں پڑتا تو جہاں تک ”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ إِلَّا فَلَاحًا“ (موضوعات کبیر زیر حرف لام) کے الفاظ کا تعلق ہے۔ روایت کے لحاظ سے یہ ضعیف ہے لیکن روایت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے جو دوسرے الفاظ ہمیں مختلف معتبر احادیث میں ملتے ہیں ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑی ثقہ حدیث ہے۔ اپنے مفہوم اور معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی ضعف نہیں۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي عَبْدُ اللَّهِ لِحَاثِمِ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ (مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۱۲۷) کہ میں اللہ کا بندہ یقیناً خاتم النبیین ہوں اس وقت سے کہ آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔

ایک اور حدیث میں ہے غالباً مسلم کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خلق کائنات سے پچاس ہزار سال پہلے (یا کتنے سال پہلے غالباً پچاس ہزار سال پہلے) ہوئی تھی (تو پچاس یا

ساٹھ یا سترہ ہمارے محاورہ میں ہوتا ہے کہ کہیں پہلے تھی)۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی متعدد آیات کی جو تفسیر کی ہے وہ ان الفاظ میں ہے کہ اگر میرا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کی پیدائش اور خلق نہ ہوتی اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو بنی نوع انسان کی پیدائش نہ ہوتی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کسی نبی کی پیدائش بھی نہ ہوتی۔

اب یہ حدیث اور اس حدیث کے متعلق تو میں نے مختصراً بعض باتیں بتائی ہیں کہ معنی کے لحاظ سے کوئی اعتراض اس پر نہیں مانا گیا۔ اس حدیث کے متعلق میں ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ حدیث قرآن کریم کی ان متعدد آیات کی تفسیر ہے۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مطلب تھا اور اس کے راوی کیسے تھے۔ تو ہمارے پاس اس بات کی پختہ شہادت ہونی چاہئے کہ ان الفاظ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کیا ہے اور وہی حقیقت ہے۔ شواہد ایسے ہونے چاہئیں جن کا انکار نہ کیا جاسکے۔

چنانچہ پہلی شہادت روایت کی ہے تو میں نے اس کے متعلق جو مختلف حوالے نکلوائے۔ ہاں ایک تو یہ کہ یہ حدیث صرف مسند احمد بن حنبل میں نہیں بلکہ اس حدیث کو بعض خفیف لفظی تبدیلیوں کے ساتھ طبقات ابن سعد۔ کنز العمال۔ الخصائص الکبریٰ اور مشکوٰۃ میں بھی بیان کیا گیا ہے یعنی صرف مسند احمد بن حنبل کی نہیں بلکہ اور حدیث کی کتب میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے اور اس کے جو راوی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے یعنی روایت کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچا ہے تو جو شخص صحابہؓ میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت کرنے والے ہیں وہ عراب بن ساریہ ہیں۔ ان کے متعلق زرقانی شرح المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ پرانے صحابہ میں سے تھے۔ اصابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ مشہور صحابی اور اصحاب الصفہ میں سے تھے۔ انہی کے حق یہ آیت نازل ہوئی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ (التوبة: ۹۲) (آگے چلتی ہے یہ آیت) اور لکھا ہے یہ صحابہ میں سے ایک عظیم بزرگ تھے۔

اور ہمارے علماء میں سے بعض نے لکھا ہے کہ یہ بیان میں عمدہ اور مضبوط یعنی ان کے بیان اور حدیث کے روایت کرنے میں کسی قسم کا ضعف نہیں ہوتا تھا اور ان سے آگے جو سلسلہ روایت ہے ہر شخص کے متعلق جب میں نے تحقیق کی تو ہر شخص کو ثقہ پایا۔ یہاں تک کہ یہ روایت احمد بن حنبل یا دوسری کتب احادیث کے لکھنے والوں کے پاس پہنچی۔ تو ایک سلسلہ راویوں کا چلانا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بیان کیا اور سب سے آخر میں کہا کہ مجھ سے عرابض بن ساریہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو عرابض بن ساریہ کے متعلق میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ باقیوں کے متعلق جو بڑی بحث کی ہے وہ تو ایک مستقل علم بن گیا ہے کہ احادیث کی روایت کرنے والوں کی حالت کیا تھی۔ اس قسم کے لوگ بعد میں پیدا ہوئے اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ منافق بھی تھے مومن بھی تھے بڑے غرور اور فکر کرنے والے بھی تھے اور بڑے محتاط بھی تھے اور اس کے مقابلہ میں غیر محتاط لوگ بھی تھے لیکن تنقید کرنے والوں نے ایک ایک آدمی کو لے کے ذرا سی بات سامنے رکھ کے تنقید کی ہے اور ان کتب میں اس سلسلہ میں روایت میں ہر راوی کو مستند اور ثقہ بیان کیا ہے۔ تو جہاں تک روایت کا سوال ہے یہ ایک معتبر حدیث ہے۔

اب ہم روایت کو لیتے ہیں کہ مضمون کے لحاظ سے آیا اس کو علمائے اسلام نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کے راویوں پر کوئی شک نہ ہو سارے نیک ہوں مخلص ہوں۔ محتاط ہوں لیکن انسان انسان ہے غلطی کر سکتا ہے اسی واسطے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی حدیث قرآن کریم سے ٹکرائے تو راوی خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو تم اسے رد کر دو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی ہے قرآن کریم کی تفسیر ہی کی ہے۔ اس کے خلاف تو بات نہیں کی تو اس کا مضمون بتا رہا ہوگا کہ یہ درست نہیں۔ پھر معنوی لحاظ سے اسے قرآن کریم کے مطابق بنانے کی کوئی تدبیر نہ سوچھے تو اسے رد کر دو۔ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہ ہو لیکن راوی بعض لوگوں کے نزدیک مشتبہ ہوں لیکن جب ہم قرآن کریم کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تو قرآن کریم کی بعض

اسی طرح حضرت عبدالکریم جیلانیؒ جو بغداد کے نامور صوفی تھے جن کی وفات ۱۱۶۵ء میں ہوئی۔ وہ اپنی کتاب ”انسان کامل“ میں لکھتے ہیں۔

”انسان کامل وہ ہے (یہ اس حدیث کی تفسیر میں سارے حوالے ہیں) جو مخلوقات کا مرکزی نقطہ اور محور ہے اور وہ شروع سے ایک ہی تھا ہاں وہ مختلف حُلُوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے اس کا اصلی وجود ایک ہی ہے اس وجود باوجود کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کنیت ابوالقاسم اور وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین تھا پھر آپ کے مختلف عبارات سے مختلف پیرہن ہیں۔“ (ترجمہ از انسان کامل جلد دوم صفحہ ۶۱-۶۲)

اسی طرح حضرت شیخ بالی آفندی جو اپنے زمانہ میں عالم محقق، قابل مدقق، شیخ عصر اور خلیفہ الصوفیاء کے نام سے یاد کئے جاتے تھے۔ ۱۵۵۲ء میں یہ فوت ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

”پس آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نبوت خاتم النبیین کے مشکوٰۃ سے حاصل کرتا ہے اگرچہ آپ کے وجود کی مٹی کا خمیر ان سے متاخر تھا لیکن حقیقت کے لحاظ سے ہر زمانہ میں پہلے سے موجود تھا۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ كُنْتُ نَبِيًّا و آدم بين السماء والطين اور اسی طرح باقی انبیاء کی تخلیق سے قبل کہ وہ نبی صرف اپنی بعثت کے وقت (سے نبی) تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آدم کی تخلیق سے بھی قبل (نبی) تھے۔“

(ترجمہ از شرح فصوص الحکم صفحہ ۵۶، ۵۷)

اسی طرح حضرت شیخ محمد اکرم صابری جو سلسلہ صابریہ قدوسیہ نظرانیہ کے مشہور مشائخ کے پیشوا بھی ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”محققوں کے نزدیک یہ امر ثابت شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس وقت بھی موجود تھا جب کہ ابتداء میں دنیا انسان کی شکل میں ظاہر ہوئی اور حضور ہی تھے جو بالآخر خاتم النبیین بن کر ظاہر ہوئے۔“ (ترجمہ اقتباس الانوار صفحہ ۵۱، ۵۲)

اور بتایا ہے کہ دراصل پیدائش خلق سے بھی پہلے آپ کی حقیقت موجود تھی لیکن اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔

حضرت امام عبدالوہاب شعرانیؒ جو سولہویں صدی کے مشہور بزرگ اور قطب الواصلین اور امام

العارفين کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں اپنی کتاب ”الیواقیت والجواہر“ (جلد ۳ صفحہ ۲۵) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”آپ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کی طرف مبعوث کئے گئے۔“ (ترجمہ)

اور ہمارے مشہور صوفی حضرت شہاب الدین سہروردی جو سہروردیہ سلسلہ کے امام ہیں وہ لکھتے ہیں:-
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کائنات کا سرچشمہ تھے (لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ إِلَّا فَلَاحَ) یعنی تمام کائنات کا چشمہ آپ ہی کی ذات مبارک سے پھوٹا۔ چنانچہ اس طرف آپ نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے ”كنت نبياً و آدم بين السماء و الطين“ میں اس وقت سے نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے..... اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا اور یہ دونوں چیزیں آپ کے قلب سے قلوب تک منتقل ہوئیں اور آپ کے نفس مبارک سے دوسروں کے نفوس تک سرایت کر گئیں۔“ (ترجمہ عوارف المعارف صفحہ ۴۰ تا ۴۲)

اب ایک شہادت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی ہے وہ لکھتے ہیں:
”اگر تم کہو کہ خاتم کی کیا وجہ ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا ہے) تو ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ آپ کے مقام کا کمال اس کا سبب ہے۔ (یعنی جو خاتم آپ کو کہا گیا یعنی خاتم النبیین اور آپ کے مقام کا کمال اس کا سبب ہے چونکہ ان کی زبان عالمانہ اور دقیق ہوتی ہے۔ میں کھول دوں گا) اور منع اور روک اس کا مفہوم ہے (یعنی چونکہ کمالات نبوت، کمالات انسانیت، کمالات خلق آپ پر ختم تھے اس کی انتہا تک آپ پہنچے ہوئے تھے اس لئے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا اور چونکہ آپ اس منع اور روک کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے۔ کوئی شخص بطور خود نہ اتنی استعداد رکھتا ہے اور اگر رکھتا ہے تو اس نے اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ وہ اس ارفع مقام تک پہنچ سکے جس مقام تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دوسرے منع اور روک کے یہ معنی کہ ہر شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا جو کچھ لیا۔ وہ آدم ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں یا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوں پہلے

ہوں یا پچھلے ہوں۔ جس نے روحانی میدان میں جو برکت بھی حاصل کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی حاصل کی اور جو آپ سے دور ہوا۔ اس نے ہر قسم کے قرب کے دروازے اپنے اوپر بند کر لئے۔ پس یہ منع اور روک کا مفہوم ہے) اور یہ اس وجہ سے کہ جب دنیا کی ابتداء بھی ہے اور خاتمہ بھی تو اللہ سبحانہ نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ اس میں ہے اس کا آغاز بھی ہو اور انجام بھی (جب مقصد کے لئے ایک انجام اور ایک مقصد کا حصول شروع کر دیا۔ آغاز ہو گیا۔ بنی نوع انسان کی پیدائش ہو گئی اور پھر اس کا انجام یعنی انسان اپنے کمال کو پہنچ گیا اور اس پر آگے اس پر روشنی اگلا فقرہ ڈال رہا ہے) اور اس دنیا میں شریعتیں بھی نازل کی گئیں (آغاز اور انجام کے لئے) پس ان شرائع کا انتہائی نقطہ شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ خاتم النبیین تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس دنیا میں (جو دراصل کہنا چاہئے خدا کے ظل ہونے کی حیثیت سے جیسا کہ میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا کہ اس دنیا میں جو ایک نقطہ ظلی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ایک فیضان عام ہے اور ایک فیضان خاص ہے۔ یہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں (ولایت عامہ بھی ہے) (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجہ میں ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے اور انہوں نے یہاں بیان یہ کیا ہے کہ ولایت عامہ کا تعلق آپ کی بعثت اور جسم کا جو وجود ہے اس کے پہلے زمانہ کے ساتھ ہے یعنی حضرت آدم سے لے کر آپ کے زمانہ تک جن لوگوں نے آپ کے فیوض حاصل کئے وہ ولایت عامہ کے نتیجہ میں حاصل کئے۔ ان کا بڑا عجیب بیان ہے۔ یہ بہت گہرے گئے ہیں اور جو آپ کے بعد آپ کے فیوض حاصل کرنے والے تھے انہوں نے نے ولایت خاصہ کی وجہ سے وہ فیوض حاصل کئے اور میرے نزدیک اس کا فرق یہ ہے کہ ولایت عامہ میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے فیوض شامل ہیں وہ عام فیوض ہیں اور چونکہ قرآن کریم ابھی پورا اور کامل نازل نہیں ہوا تھا اس لئے جن انبیاء علیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قبل آپ سے برکتیں حاصل کیں اور آپ کی لائی ہوئی کامل اور مکمل کتاب ہی سے ہدایت لی وہ اس ہدایت کا ایک حصہ تھا۔ کسی کو ایک حصہ ملا اور کسی کو دوسرا ملا۔ کسی کو تھوڑا ملا کسی کو بہت ملا مگر قرآن کریم کا ہی حصہ جیسا

کہ قرآن کریم میں آتا ہے ”أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ“ (ال عمران: ۲۴) آگے جا کر اگر مجھے وقت ملا تو تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ بہر حال وہ ولایت عامہ ہے لیکن جس وقت آپ تشریف لے آئے اور اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ: ۴) کا ایک شیریں کلام اللہ تعالیٰ کی زبان سے بنی نوع انسان نے سنا تو یہ ممکن ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض سے آپ کے بعد پیدا ہونے والے اور آپ میں فنا ہو کر وہ ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو پہلوں کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ پورا قرآن ان کے سامنے نہیں تھا اور جو پہلوں نے آپ کے کمالات سے حصہ لیا اور ظلی طور پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کیں وہ ولایت عامہ کے نیچے تھے کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا اور ان میں سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جیسا کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور قرآن کریم کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ معراج میں بھی آپ نے یہی دیکھا۔ وہ ولایت عامہ کی دنیا ہے۔ اب تو دنیا بھی دو ہو گئیں ایک حصہ کا تعلق ولایت عامہ کے ساتھ ہے جو قبل از بعثت نبوی کی دنیا ہے اور ایک حصہ کا تعلق ولایت خاصہ سے ہے جو بعد کی دنیا ہے۔ ولایت عامہ کی دنیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر جو فرد ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے اور اسی کے نتیجے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساتویں آسمان پر دکھائی دیئے دوسرے وجود جو انبیاء کے تھے وہ ساتویں آسمان پر نہیں پہنچ سکے اور ولایت خاصہ میں یعنی اس دنیا میں ہی جس کا تعلق آپ کی بعثت کے بعد کے ساتھ ہے اس کے متعلق حضرت ابن عربیؒ ہی فرماتے ہیں کہ) آپ کے بعد (ولایت خاصہ کا زمانہ شروع ہو گیا نا! ان کے محاورے کے مطابق)..... آپ کے مخصوص مقام کا نزول ہوا (سارا قرآن آ گیا۔ پوری شان سے آپ ظاہر ہو گئے) اور مستحق قرار دیا گیا کہ آپ کی ولایت خاصہ کی بھی انتہا (ہو کہ یعنی کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ولایت خاصہ میں روحانی طور پر آپ کے قریب تر پہنچے اور آپ کے قرب میں بعد میں پیدا ہونے والوں میں سے اسے ارفع تر مقام حاصل ہو۔ یہ ابن عربیؒ کہہ رہے ہیں یعنی یہ

میرا بیان نہیں۔ گو میں اس کی تائید میں ہی ہوں لیکن بیان محی الدین ابن عربی کا ہے اور پھر خیال ہوتا تھا یعنی انسان جب بات کرتا ہے تو خود ہی اس کے دماغ میں آتا ہے کہ پھر وہ کون ہے؟ کہ وہ ولایت خاصہ کی انتہاء تک پہنچنے والا کون انسان ہے؟ آپ فرماتے ہیں ولایت خاصہ کی بھی انتہا اس سے ہو کہ ہاں) اُس سے ہو کہ جس کا نام آپ کے نام کی طرح ہو اور وہ مہدی ہے کہ جو آپ کی عزت سے ہے یعنی (وہ مہدی جس کو مسیح) مہدی المنتظر (جس کا انتظار کیا جا رہا ہے) اور یہ مہر یعنی انجام (یعنی خاتم النبیین میں بھی مہر ہے نا! تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انجام) آپ کی جنسی نسل سے (تعلق) نہیں (رکھتا کہ فاطمہؑ میں سے وہ ہوگا) بلکہ آپ کے صفات اور اخلاق کی نسل سے ہے۔ (ترجمہ فتوحات مکیہ جلد ۲ صفحہ ۵۶، ۵۵)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی جیسا کہ میں نے انصار اللہ کے اجتماع پر ایک مضمون کے ضمن میں بتایا تھا۔ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقدر کیا تھا کہ موسوی خلفاء کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بارہ خلفاء ہوں جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو اور تیرھواں وہ ہو جو بن باپ ہونے کی وجہ سے آپ کی قوم کی طرف منسوب نہ ہو سکتا ہو۔ اسی طرح امت محمدیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدر تھا کہ اس سلسلہ کے بارہ خلفاء، بارہ مجددین قریش میں سے ہوں اور تیرھواں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام وہ ہو جو خون کے رشتہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی تعلق ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے میں اور وہ دونوں ایک ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ ایک خونی رشتہ کی وجہ سے نہیں بلکہ صفاتی اور اخلاقی رشتہ کی وجہ سے وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں جو صفات تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں اور جو خلق عظیم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشاہدہ کرتے ہو ابن عربی کہتے ہیں کہ وہی صفات اور وہی خلق تم مہدی المنتظر میں مشاہدہ کرو گے جو ہمارے لیے ظاہر ہو گیا اور ان صفات کا ہم نے مشاہدہ کیا۔

اسی طرح امیر خسرو کہتے ہیں کہ:

”حضرت نبی کہ بنائے ہر دو عالم۔ از نور نبوت اوست۔ و نبوت آدم از نبوت او۔“

(مثنوی مطلع الانوار صفحہ ۱۷)

کہ ہر دو جہانوں کی بناء آخضر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے ہے (لَوْلَا كَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ) اور حضرت آدمؑ کی نبوت بھی اور بعد میں آنے والے انبیاء کی نبوت بھی آپ ہی کی نبوت کے طفیل ہے۔

پھر حضرت مجدد الف ثانیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”کائنات عالم کی تخلیق کا مقصد خاتم المرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ دوسرے انبیاءؑ اپنے وجود اور کمالات کے حصول میں آپ کے طفیلی ہیں اور آپ ہی کی پیروی سے بلند مرتبوں تک ان کی رسائی ہوئی ہے اس لئے قیامت کے دن حضرت آدمؑ اور دیگر تمام انبیاءؑ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔“ (ترجمہ مکتوبات امام ربانی جلد ۱ صفحہ ۴۲۵)

اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی اور مشہور مناظر ہیں۔ جن کی وفات ۱۸۸۰ء میں ہوئی وہ لکھتے ہیں:-

”جملہ کمالات میں خاتم الانبیاءؑ کو اصل اور مصدر ماننا لازم ہے جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ عالم امکان کمالات علمی ہوں یا کمالات عملی دونوں میں خاتم الانبیاءؑ اصل اور مصدر ہیں اور سو اس کے جو کوئی کچھ کمالات رکھتا ہے وہ در یوزہ گر خاتم الانبیاءؑ ہے“ (رسالہ قبلہ نمائے صفحہ ۲۴ بحوالہ افادات قاسمیہ)

ارشادات فریدی میں ہے یعنی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑاں شریف والے فرماتے ہیں کہ:-

”(وہی ولایت عامۃ اور خاصہ کا ایک ٹکڑا میں نے ان کا لیا ہے۔ اسی کی طرف مفہوم کا بیان ہے کہ) حضرت آدم صلی اللہ سے خاتم الولا یہ امام مہدی تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ظہور فرما ہیں۔“ (ترجمہ ارشادات فریدی حصہ دوم صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲)

میں اس وقت یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا! کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھا کہ ابھی پیدائش عالم بھی نہیں ہوئی تھی۔ مختلف الفاظ میں یہ مفہوم ادا ہوا ہے۔ ایک تو روایت کے لحاظ سے یہ اتنی پختہ ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا دوسری درایت کے لحاظ سے بڑی پختہ ہے بزرگ علماء نے اسے

بیان کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو اپنا لیا ہے۔ میں صرف یہاں تک ہی آیا ہوں کہ علمائے اسلام کے نزدیک اس حدیث میں کوئی کلام نہیں کہ واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمؑ کی پیدائش سے پہلے بلکہ کائنات کی پیدائش سے بھی پہلے میں خاتم النبیین تھا انسان کامل تھا، حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات میں ہی تھا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-
(حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حوالے اس مضمون کے اب میں پڑھوں گا ایک اور شہادت کہ یہ حدیث پڑے پایہ کی ہے)

”بلاشبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے (غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی آدم ثانی میں تو آپ نے وضاحت فرمادی) بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعہ اور طفیل سے تمام انسان فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانہ کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے اور چونکہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم تھے اس لئے آپ کی شریعت صفات جلالیہ و جمالیہ دونوں کی حامل تھی اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی بخل کا نہیں بلکہ وہ ابتداء سے (یعنی آدم سے لے کر) تمام دنیا کے لئے ہے۔“ (لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۰۷)

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ:-

”قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَوَّهَّنُ فِيْهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُۥٓ اِنْ اَسْأَلْتَهُمْ لَيَقُوْنَنَّ اَنْ يَّجِيْعُوْا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۳۰۰)

کہ قرآن کریم کے متعلق یعنی آپ کی قوت قدسیہ یہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کامل قوتیں اور طاقتیں اور استعدادیں موجود تھیں جو انسان کو اس ارفع مقام تک جس ارفع مقام تک کسی اور انسان کا پہنچنا ممکن نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ ان قوتوں اور

طاقتوں اور استعدادوں کی تربیت کے لئے جیسا کہ خدا تعالیٰ کا قانون ہمیں حضرت آدمؑ کے آغاز سے ہی نظر آتا ہے ایک ایسی شریعت کی ضرورت تھی جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہو اور انسانی فطرت کی ہر شاخ کو سرسبز رکھنے کے قابل اور اہل ہو۔

پس قرآن کریم وہ کامل شریعت ہے کہ معنوی لحاظ سے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم فرق نہیں کر سکتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ سے جب پوچھا گیا کہ آپؐ کے اخلاق کیسے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن پڑھ لو یعنی ایک تو علم ہدایت اور شریعت ہے اور ایک عمل ہے اور سنت ہے اور اسوہ ہے ایک ہی چیز کے دراصل دو نام ہیں۔

پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل قوت و استعداد کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لئے قرآن کریم کی کامل شریعت نازل ہوئی اور قرآن کریم نازل نہ ہو سکتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل وجود دنیا میں نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بے فائدہ اور بے مقصد تو نہیں کیا کرتا۔ اگر کسی شخص نے اپنے مقصد کے حصول کے لئے دو منزلہ مکان کی چھت پر ہی چڑھنا ہے اور اس نے خود وہ مکان بنایا ہے تو وہ اپنے مکان کی تیسری منزل نہیں بنائے گا کیونکہ اس کی اسے ضرورت نہیں تو جب انسان اس قسم کی لغو اور بے مقصد بات نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کس طرح کر سکتا ہے جو حکیم ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد جو حاصل کرنا تھا تو اس کے لئے اس نے قرآن کریم کو بنایا اور چونکہ ایک نوع ایسی پیدا کی تھی جو ان صفات کی مظہر ہو اور انہوں نے (اس نوع انسانی نے) درجہ بدرجہ ترقی کر کے ایک ایسے زمانہ میں داخل ہونا تھا جس میں ایک انسان ایسی استعداد اور قابلیت پیدا کر سکتا ہے جو کمال کو حاصل کر لے اور اس زمانہ میں اسے وہ کتاب بھی دے دی جائے جو اسے کمال تک پہنچادے تو کتاب دے دی گئی۔ ضمناً یہ میں ایک بات کی تشریح کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک فلسفہ اور علم کا تعلق ہے ایک ایسے زمانہ میں انسان داخل ہو جس میں اس کے لئے کمال استعداد کا حصول ممکن ہو گیا اور ان استعدادوں کی کمال تربیت کا موقع میسر آ گیا لیکن ایک ہی شخص نکلا جس میں اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ وہ اپنی استعدادوں کو اُجاگر کرتا اور منور اور روشن کرتا اور قرآن کریم کی ہدایتوں پر عمل کر کے خود قرآن مجسم بن جاتا۔ اگر باقیوں سے وہ آگے نکلا تو یہ اس کی اپنی ہمت اور شان ہے اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں بٹھایا بلکہ ایک زمانہ انسان کے لئے

ایسا آ گیا کہ جس میں اس کی استعدادیں کمال تک پہنچ گئیں۔ اس زمانہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسا وجود پیدا ہوا کہ جنہوں نے اپنی کمال استعدادوں اور انسان کو سچی اور پورے طور پر جو طاقتمیں مل سکتی تھیں جو آپ کو ملیں ان کی صحیح تربیت کی اور آپ ارفع تر مقام کو پہنچ گئے۔ چونکہ پہلے زمانوں میں اپنی استعداد کے دائرہ کے اندر جس حد تک وہ زمانہ اور قوم ترقی کر سکتی تھی اتنا قرآن خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض ماضی میں جیسا کہ ایسا ہی ہمیں مستقبل میں نظر آتا ہے قرآن کریم کی Chanals میں سے قرآن کریم کی نہروں میں سے پیچھے جا کے ان لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اس کی وضاحت جو ہماری عقل میں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ میں انشاء اللہ آگے بیان کروں گا۔ اس وقت صرف اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم جو انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا اور قرآن کریم کے طفیل پہلوں نے اپنی اپنی ہدایتیں حاصل کیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

”حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظل تھے۔“

(کشتی نوح روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۶)

اسی طرح آپ فرماتے ہیں:-

”اور قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کا آدم اور جمع معارف صحیف سابقہ کا جامع تھا اور

مظہر جمع صفات الہیہ تھا۔“ (تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۵۸)

لیکن جو قرآن ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک وہ یہ ہے کہ قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کا آدم تمام آسمانی کتابوں کی پیدائش قرآن کریم سے ہوئی کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے اور صحیف سابقہ جتنے بھی ہیں ان میں جس قدر معارف پائے جاتے ہیں ان کا جامع ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں وہ سارے معارف اس کے اندر جمع ہو گئے اور یہ اس لئے کہ قرآن کریم تمام صفات الہیہ کو بیان کرنے والا ہے۔ جمع صفات الہیہ کا اپنے بیان میں مظہر ہے۔ قرآن کریم نے جس قدر روشنی صفات باری تعالیٰ پر ڈالی ہے کسی اور آسمانی کتاب نے تو نہیں ڈالی۔ قرآن کریم نے جس رنگ میں اللہ کو پیش کیا ہے اس رنگ میں اللہ کو بھی پہلوں نے پیش نہیں

کیا۔ پھر اسم ذات اللہ وہ وجود جو مجموعہ جمع صفات کا ملہ حسنہ، یہ ایک لفظ میں پہلی کتابوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس شان کا ہے ہمیں قرآن کریم نے ہی بتایا۔

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی ہر اس صفت کا بیان کیا ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہماری ترقی سے، ہمارے روحانی ارتقاء سے، ہمارے قرب کے حصول سے تعلق ہے، صراط مستقیم پورے کا پورا ہمارے سامنے اپنی پوری چمک اور پوری روشنی کے ساتھ لا کر رکھ دیا اور کہا یہ راستہ ہے۔ تمہیں طاقت دی گئی ہے لیکن تمہیں اختیار بھی دیا گیا ہے چاہو تو اس راہ کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کو حاصل کر لو اور اگر چاہو تو خدا سے منہ موڑو اور اندھیروں کی طرف چلے جاؤ۔ رحمت سے بھی محروم ہو جاؤ اور اپنا وجود بھی کھو بیٹھو۔ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔

بہر حال قرآن کریم آدم ہے تمام آسمانی کتابوں کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس قدر شرائع (شریعتیں) نازل ہوئیں ان سب کا آدم قرآن ہے کیونکہ وہ قرآن کریم کا ہی ایک حصہ ہیں اور قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ اور اس کی تمام صفات کا ملہ حسنہ کا ذکر ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خدائے رحمن کا جلوہ نازل ہوا اور اسی وجہ سے وہ اسلام پر بہت سے اعتراض کر دیتے ہیں لیکن صفت رحمانیت کا جو اصل مفہوم اور معنی ہیں اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے بنی اسرائیل اس سے نا آشنا ہیں اور اسے سمجھتے ہی نہیں لیکن قرآن تمام کی تمام صفات الہیہ کا مظہر ہے اور اسی وجہ سے یہ پہلے صحف آسمانی کا آدم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ پس وہ موسیٰؑ بھی ہے عیسیٰؑ بھی اور آدمؑ بھی اور ابراہیمؑ بھی اور یوسفؑ بھی اور یعقوبؑ بھی۔ اسی کی طرف اللہ جلّ شانہ اشارہ فرماتا ہے۔ **فِيهِدِلْهُمُ اَقْتِدَهُ** یعنی اے رسول اللہ تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر ایک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں اور درحقیقت محمدؐ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ محمدؐ کے یہ معنی ہیں کہ بغایت تعریف کیا گیا اور غایت درجہ کی تعریف تھی متصور

ہوسکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں (یعنی ہر نبی میں جو اپنی اپنی خاص صفات اور شان تھی ان سب کو اپنے وجود میں اکٹھا کر لیا کیونکہ وہ شانیں دراصل ایک ایک عکس ایک ریفلکشن (Reflection) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہی تھا۔) چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جن کا اس وقت لکھنا موجب طوالت ہے اسی پر دلالت کرتی بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک باعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی (یہ ایک ایسا منج ہے جس میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی نکل آیا۔) اور ہر ایک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے اور قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا یہ نبی ہے اور بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسیح سے بہ شدت مناسبت ہے (جیسا کہ اب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ابن عربی نے کہا ہے کہ ولایت خاصہ کا کمال مہدی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے وجود میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی کہا ہے کہ میری اور مسیح کی بہ شدت مناسبت ہے۔) اور اس کے وجود سے میرا وجود ملا ہوا ہے۔‘ (آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۳۲۳)

پھر آپ فرماتے ہیں:

’ہمارے سید و مولیٰ جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبت صرف حضرت مسیحؑ نے ہی بیان نہیں کیا کہ آنجناب کا دنیا میں تشریف لانا درحقیقت خدائے تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہے (یعنی بوجہ مظہر اتم الوہیت یعنی اللہ کا مظہر اتم، تمام صفات باری کے مظہر اتم ہونے کی وجہ سے تمثیلی زبان میں پہلے صحیفوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو اللہ تعالیٰ کا ظہور ہی قرار دیا ہے۔ ناقل) بلکہ اس طرز کا کلام دوسرے نبیوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیشگوئیوں میں بیان کیا ہے اور استعارہ کے طور پر آنجناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے بلکہ بوجہ خدائی کے مظہر اتم ہونے کے آنجناب کو خدا کر کے پکارا ہے (اب چونکہ وقت کم ہے میں نے پورا حوالہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لکھا

ہے وہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ مضمون انشاء اللہ جب بھی کتابی صورت میں چھپا تو پورا حوالہ آجائے گا میں پھر یہ فقرہ دے دوں گا۔) چنانچہ حضرت داؤد کے زبور میں لکھا ہے.....
اے خدا تیرا تخت ابد الآباد ہے تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے تو نے صدق سے دوستی
اور شر سے دشمنی کی ہے اسی لئے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں
سے زیادہ تجھے معطر کیا ہے۔ (دیکھو زبور نمبر ۴۵)“

(توضیح مرام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۶۵، ۶۶ حاشیہ)

(اب حضرت داؤد علیہ السلام کی اس عبارت میں کہ اے خدا تیرا تخت ابد الآباد ہے میں جو
یہ معنی ہیں کہ اس کے مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
خدا تعالیٰ نے کافی ثبوت مہیا کر دیا۔ کیونکہ شروع کیا اس فقرہ سے کہ اے خدا تیرا تخت ابد الآباد
ہے اور بعد میں یہ کہہ دیا ایک فقرہ چھوڑ کے ”اسی لئے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے
تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔“ معلوم ہوا کہ پہلا خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بولا
گیا کیونکہ خدا نے خدا کو معطر تو نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں)

”اب جاننا چاہئے کہ زبور کا یہ فقرہ کہ اے خدا تیرا تخت ابد الآباد ہے تیری سلطنت کا عصا
راستی کا عصا ہے یہ محض بطور استعارہ ہے جس سے غرض یہ ہے کہ جو روحانی طور پر شان محمدی ہے اس
کو ظاہر کر دیا جائے پھر یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے چنانچہ اس کی عبارت یہ ہے۔
”دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے میں
نے اپنی روح اس پر رکھی (روح القدس سے مدد کی۔) وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا۔
(رحمۃ العالمین بن کر آئے گا۔) وہ نہ چلائے اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز
بازاروں میں نہ سنائے گا (آگے چلتا ہے)

پھر آپ لکھتے ہیں۔)..... وہ نہ گھٹے گا نہ تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ
کرے اور جزیرے اس کی شریعت کے منتظر ہوویں۔۔۔ (مظہر اتم ہونے کی وجہ سے آپ
کا ظہور خدا کا ظہور قرار دیا گیا اور لکھتے ہیں۔) خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا۔ وہ جنگی
مرد کی مانند اپنی غیرت کو اسکائے گا۔ الخ۔ اب جاننا چاہئے کہ یہ فقرہ کہ خداوند خدا ایک

بہادر کی مانند نکلے گا“ یہ بھی بطور استعارہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرہیزگار اور پاک
اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ نبی کی کتاب باب بیالیس اور ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی اس
استعارہ کو اپنی پیشگوئیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا ہے۔“
(توضیح مرام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۶۶، ۶۷)

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء بھی گذرے ہیں جن کی
کتاب وغیرہ کا ہمیں اس وقت کچھ نہ کچھ علم ہے کلی طور پر وہ منسوخ نہیں ہو گئیں اور انسانی تاریخ اور
انسانی ذہن سے محو نہیں کر دی گئیں ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے اور اکثر میں
اسی رنگ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ آپ کا آنا خدا کا آنا قرار دیا گیا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا لیکن اس زمانہ کا کوئی لٹریچر نہیں ایک لفظ
بھی محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ بعض باتیں حضرت آدم علیہ السلام سے تعلق رکھنے
والی انبیاء کی زبان سے محفوظ رکھیں اور جب کتابیں شائع ہونی شروع ہو گئیں تو وہ کتابوں میں
محفوظ کر دی گئیں۔ پھر میرے دل جب یہ شوق پیدا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گواہی بھی
چاہئے۔ اب دراصل میں ایک اور شہادت پر آچکا ہوں۔

پہلے روایت کی شہادت تھی پھر روایت کی شہادت نمبر ایک علمائے اسلام کی شہادت کہ وہ
حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد آگئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت۔ پھر اب
آگئی ہے انبیاء سابقہ کی شہادت کہ انہوں نے بھی اس مفہوم کو درست سمجھا ہے اور اسے بیان کیا
ہے اور محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ وہ محفوظ ہو گئی تو جب میرے دل میں یہ
خواہش پیدا ہوئی کہ اگر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت ہمیں مل جائے حضرت عیسیٰ کی
تو مل جائے گی۔ تو پہلے نبی کی بھی مل جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گذرے
ہیں تو صفائی ہو جائے گی۔ سارے انبیاء کا طریق یہ رہا ہے جیسا کہ ہمیں اوروں کی بھی ملی۔

اس سلسلہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت انبیاء کے سینوں میں محفوظ رکھی اور حضرت
عیسیٰ کے ذریعہ کتابی شکل میں اسے محفوظ کر دیا چنانچہ انجیل میں جو برنباس کی انجیل ہے۔ اب
ہمارے عیسائی دوست گھبراتے ہیں مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق بحث

کی ہے کہ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ان اناجیل میں سے ہے جو سچی ہیں اور جن کے اندر حقائق پائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ دوسروں سے بھی زیادہ سچی ہے لیکن ایک وقت میں جب بگاڑ پیدا ہو گیا تو سچی شہادت چھپا لیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی آیتیں غائب کر لیں جس طرح بعض دفعہ مخالف جو ہے ایک دوسرے مذہب کے مخالف جن میں روحانیت نہیں ہوتی بعض حوالے بدل دیتے ہیں ٹائٹل پیج کے لفظ بدل دیئے اس قسم کی حرکت یہ عام طور پر کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی غفلت اور جہالت کا ایک مظاہرہ ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے تو کوئی ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اس برنباس کی انجیل کے خلاف باتیں بنانی شروع کر دیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑی تحدی سے کہا اور آپ نے کتابوں سے ثبوت دیا ہے۔

نمبر ۱ کہ یہ کتاب ہے جو تمہارے پوپ کی لائبریری میں ہمیشہ رہی ہے۔ اب اگر یہ اس قسم کی لغو اور لائینی کتاب ہوتی تو پوپ کی لائبریری میں کیوں ہوتی۔

نمبر ۲۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق بڑے بڑے پادریوں نے لکھا کہ ہم نے سنا تھا کہ ایسی کوئی کتاب ہے اتفاقاً پوپ کی لائبریری میں اسے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا اور جب ہم نے اسے پڑھا تو قرآن کی حقانیت ہم پر واضح ہو گئی اور ہم مسلمان ہو گئے۔

خیر آپ نے بڑی لمبی بحث کی ہے میں مختصر کر کے صرف اشارہ کر کے لمبی بحث نہیں کروں گا۔ اس انجیل میں اس مضمون کی جو حدیث ہے اس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کی گواہی ہمیں ملتی ہے کہ:

”پس جب کہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا (میں سمجھتا ہوں کہ اس کا محاورہ یہ ہے کہ بلوغت کو پہنچا۔ یعنی نبوت انہیں ملی۔ یہ نہیں کہ ڈیڑھ سال کا بچہ چلنا شروع ہوا یعنی آدم اپنی نبوت کے قدموں پر کھڑا ہوا یعنی روحانی بلوغت کو پہنچا) اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار اللہ کیونکہ تو نے مہربانی کی پس مجھ کو پیدا کیا لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا (یعنی جس غرض

کے لئے انسان پیدا کیا گیا تاکہ صفات باری کا مظہر بنے۔ جس کے اوپر یہ مہر لگی کہ واقعی یہ انسان یعنی ایسے مظہر ہیں جو دنیا کے سامنے پیش کئے جانے کے قابل ہیں) اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے جو کہ اس وقت کے بہت سے سال بعد دنیا میں آئے گا اور وہ میرا ابا رسول ہوگا کہ اس کے لئے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے (لو لاک لما خلقت الافلاک) وہ رسول کہ جب آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشنے گا (ایک قوم ایک زمانہ کے لئے نہیں ہوگا) وہ نبی ہے کہ اس کی روح ایک آسمانی روشنی میں ساٹھ ہزار سال قبل اس کے رکھی گئی تھی کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں“

(انجیل برنباس کا ترجمہ مطبوعہ ۱۹۱۶ء طبع دوم صفحہ ۶۰ فصل انتالیسیوس آیت ۱۴ تا ۲۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”اور یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا (یعنی یہ خوشخبری دی کہ میں جسمانی طور پر تم سے جدا ہو رہا ہوں اور میرا زمانہ نبوت ابھی وقتی اور عارضی ہے وہ جو جدا ہو جائے گا لیکن میں تمہیں ایک برکت بخش جاتا ہوں) کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دھننے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لئے تھی“

(استثناء باب ۳۳ آیت ۲۱ بائبل مطبوعہ ۱۸۷۰ء شائع کردہ نارٹھ انڈیا بئیل سوسائٹی مرزا پور)

اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پیشگوئی کو بھی لے کر اس پر تفصیلی تنقید کی ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ تورات ہمیں بتاتی ہے کہ فاران مکہ کا پہاڑ ہے اور وہ جو فاران ہی کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پر یہ فقرہ لگتا نہیں۔

اور خداوند سینا سے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فاران کے پہاڑ پر جو اللہ تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اس قدر کمال کو کہ اس جلوے کی وجہ سے جس ہستی نے اس کے اس جلوے کو قبول کیا اور اس روشنی کو اس دنیا میں پھیلا یا بوجہ مظہر اتم الوہیت کے ہونے کے اس کا آنا خدا کا آنا ہی قرار دیا جاسکتا ہے اسی واسطے فرمایا خداوند سینا سے آیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بشارت دی:

”میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے یہ وہی دن ہے (کل میں نے بتایا تھا نا کہ عید کا دن شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ۔ جسے خداوند مقرر کیا ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔“

(زبور باب ۱۱۸ آیت ۱۲ تا ۲۴)

اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ کر تاکید کی:

”اس کا منہ شریخی ہے ہاں وہ سراپا محمد یم ہے اے یرشلیم کی بیٹیو:۔“

(غزل الغزلات باب ۵ آیت ۱۶)

حضرت حبوق نبی نے یہ پیشگوئی کی:

”خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ سلاہ: (یعنی وہ قدوس کوہ فاران سے آئے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو گیا ہے غالباً کشف میں آپ کو بتایا گیا) اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی جگہ گاہٹ نور کی مانند تھی اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مُثَلُّ نُورِهِ كَمَشْكُوَةٍ۔ مَثَلُّ نُورِهِ میں ہ کی ضمیر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے۔ جس طرح خدا نور ہے وہ بھی نور تھا) اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں (قرآن کریم مجسم نور ہے تین مختلف جگہوں کے شعر میں نے اسی لئے ہی پڑھوائے تھے کہ وہ مضمون کو Cover کرتے تھے۔) اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی (جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی آپ کی خلیت میں اللہ کی قدرت کے جلوے انسان نے ظلی انسانوں میں دیکھے) وہ اس کے آگے آگے چلتی تھی (یعنی حوادث زمانہ اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں جب) وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی اس نے نگاہ کی اور قو میں پراگندہ ہو گئیں (یہ قرآن کریم کی ساری پیشگوئیاں ہیں جن کے متعلق یہاں اشارے ہیں) ازلی پہاڑ پارہ پارہ ہو گئے قدیم ٹیلے جھک گئے (اب یہ ہے اس کی شان) اس کی راہیں ازلی ہیں“ (یعنی جس دن سے وہ مبعوث ہو گا اس دن سے اس

کی برکتیں شروع نہیں ہو گئیں بلکہ اس کی راہیں ازلی ہیں) (حقوق باب ۳ آیت ۳، ۴)
اسی برنباس کی انجیل میں حضرت یسوعؑ کے منہ سے یعنی ان کی یہ شہادت بیان ہوئی ہے کہ
انہوں نے سوال کے جواب میں کہا:

”تحقیق خدا کی نشانیاں جو اللہ میرے ہاتھ سے نمایاں کرتا وہ ظاہر کرتی ہیں کہ میں وہی
کہتا ہوں جو خدا کا ارادہ ہوتا ہے (میں اپنی طرف سے نہیں کرتا جو اللہ نے کہا ہے وہ میں تمہیں
پہنچا رہا ہوں اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے یہ ہے کہ) اور میں اپنے آپ کو اس کا مانند شمار
نہیں کرتا جس کی نسبت تم کہہ رہے ہو (کہ تو وہی ہے یعنی خیال کیا جس کا ہم انتظار کر رہے
تھے سارے انبیاء نے اس کی پیشگوئی کی ہوئی تھی تو یسوعؑ نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو
اس کا مانند نہیں شمار کرتا جس کی نسبت تم کہہ رہے ہو) کیونکہ میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ
اس رسول اللہ کے جوتے کے بندیا نعلین کے تسمے کھولوں جس کو تم مسیحا کہتے ہو وہ جو کہ (اب یہ
فقہرہ بھی وہی ہے لو لاک لما خلقت الافلاک اور وہ حدیث جو ہے) میرے پہلے
پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا اور وہ بہت کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی
کوئی انتہاء نہ ہوگی۔“ (انجیل برنباس کا اردو ترجمہ بیالیسویں فصل صفحہ ۶۶ آیت ۱۳ تا ۱۷)

اور بھی حوالے ہیں۔ وقت تنگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں تھا کہ اس بات کو ذہن نشین کرنا بڑا
ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم دعویٰ ہے کہ میں خاتم النبیین، انسان کامل اور
اشرف المخلوقات پیدائش کائنات سے بھی پہلے تھا۔ یہ محض ایسا دعویٰ نہیں جو کسی نے آپ کی طرف
منسوب کر دیا ہو۔ چنانچہ خود راوی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا وہ معتبر اور
ثقتہ اور پھر جتنا سلسلہ روایت ہے وہ ضعیف نہیں۔ پھر علمائے اسلام نے اس حدیث کو سچا سمجھا اور
بعض حقائق کے بیان کے لئے اسے بنیاد بنایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جو دنیا میں
اشاعت ہدایت قرآن کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی قرآن کریم کی روشنی
میں اس حدیث کا وہی مفہوم سمجھا جو ایک سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں کی۔ یہ ایک
اور شہادت ہے اور سب کے آخر میں میں نے پہلے انبیاء علیہم السلام کی شہادت پیش کی ہے کہ
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا علم دیا جاتا

رہا کہ میں نے اس ساری کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیدا کیا ہے یعنی ایک ایسا وجود جو میرا (یعنی اللہ تعالیٰ کا) مظہر اتم بنے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کاملہ کا کامل اور مکمل طور پر وہ مظہر ہو اور چونکہ وہ نبی پیدا ہونا ہے اس واسطے ان جسمانی ذہنی اخلاقی اور روحانی استعدادوں کو کمال تک پہنچانے کے لئے جس کائنات کی ضرورت تھی وہ کائنات میں نے پیدا کی۔ وہ چیزیں پیدا کیں۔ تو سورج کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ اس زمین میں ایسے اثرات پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی قوتوں کو ایک طاقت ملے۔

اب میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ عام طور پر آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے انسان جو پہلے ہوئے انہوں نے حصہ لیا۔ افضل الرسل اور انسان کامل اور خاتم النبیین سورج کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے بتایا کہ اس سلسلہ پیدائش میں ایک سلسلہ تدریجی ارتقاء کا چل رہا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں یہ نقطہ سکھایا ہے کہ کھانے پینے کا اخلاق پر بڑا اثر ہے۔ اسلامی اصول کی فلاسفی اور دوسری جگہ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ہماری غذا ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو بہترین اخلاق جس میں انسانی جو روح ہے اور اس روح میں اخلاق اور اس جسم میں ان اخلاق کے نبھانے کی طاقت پیدا ہونے کے لئے ضرورت تھا کہ اس کے مطابق بہترین غذا ملے اور غذا مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح میں نے بات سمجھنے کے لئے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ تو ہر چیز اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ جہاں تک مادی دنیا کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین شکل میں دنیا پر ظاہر ہوں۔

تو انبیاء علیہم السلام میں بھی جو پہلے گزرے انہوں نے بھی یہ شہادت دی۔ جو آپ کے بعد اس امت کے بزرگ گزرے اور ہمارے نزدیک جن کے سر دفتر اور سردار حضرت مسیح موعود و مہدی معبود ہیں۔ انہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ دعویٰ صحیح ہے کہ پیدائش عالم کی علت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ روحانی طور پر تمام برکات کا افاضہ کرنے والے، اور ہر غیر وہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ یا آدم یا ابراہیم یا نوح علیہم السلام، روحانی طور پر سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگ کر روحانی رفعتوں کو حاصل کرنے والے ہیں اور جو مادی مخلوق ہے اس میں بھی ہر خلق میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی

سے بڑی میں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا جس قدر جلوہ ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف اس لئے ہے کہ اس جلوہ کے نتیجہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو۔

تو یہ دعویٰ تو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش عالم کی وجہ بنے ہیں اور آپ اشرف المخلوقات اور انسان کامل اور خاتم النبیین ہیں۔ بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کسی شخص نے اپنی نادانی میں یہ لکھ دیا کہ اصل تو سورج ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلی اور اعزازی طور پر سراج منیر کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جیسا کہ میں نے اب بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اصل سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہماری دنیا کا یہی ایک سورج نہیں دنیا کے لاکھوں کروڑوں سورج اظلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور نہ لیتے تو ساری دنیا اور فضاء میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔

اب یا تو میں یہاں ختم کر دوں اور پھر اگلے سال یہ مضمون چلے اور یا میں اس کو مختصراً بیان کر دوں ویسے سارا مضمون تو اس سال بیان نہیں ہو سکتا اور پھر اگلے سال بھی چلے۔ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔

اگلا سوال ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے ایک سوال تو مجھے یقین ہے آپ میں سے سب نے ہی اس مسئلہ کو سمجھ لیا ہوگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نبوت کا دروازہ بند، انسان کی تخلیق ناممکن، کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ہمارے علم کے مطابق ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات تو نہ جانے کہاں کہاں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔

اب سوال یہ ہے اور بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے کہ یہ بھی مانا کہ روایت صحیح، یہ بھی مانا کہ علمائے امت کا یہ مذہب تھا یہ بھی مانا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیات کی یہی تفسیر کی ہے۔ یہ بھی مانا کہ پہلے انبیاء کی شہادت بھی اس کے حق میں ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو پاک وجود پانچویں ہزار سال میں پیدا ہوا اس نے ظہور کیا اور وہ خاتم النبیین بنا۔ پانچ ہزار سال پہلے اس کے فیوض کس معنی میں اور کس رنگ میں آدم علیہ السلام کو اور دوسرے انسانوں کو پہنچ رہے تھے۔ کیونکہ جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ بڑا مشکل

نظر آتا ہے کوئی شخص یہ کہے گا کہ عجیب بات کرتے ہو کل کو یہ کہو گے کہ نہر کا وہ پانی جو کہ کوہ ہمالیہ سے نشیب میں بہتا بہتا سمندر کے قریب پہنچ چکا ہے اس سے کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں سیراب ہو رہی ہیں یعنی واپس فراز کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی الجھن دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ حل ہونی چاہئے اگر وہ حل ہو جائے تو پھر ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شدید محبت پیدا ہو جائے اور تبھی ہم آپ کے مقام کو صحیح معنی میں پہچان سکتے ہیں۔

اس کا بیان سورہ نجم کی آیات میں ہے اور اس کے سمجھنے کی چابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے یہ کہہ کر کہ جس طرح یہ کائنات ہے ایک عالمین ہے نا! جس کو ہم عالم موجودات کہتے ہیں۔ عالم موجودات کے مقابلہ میں ایک عالم قضاء و قدر ہے اور عالم موجودات، عالم قضاء و قدر کی Reflection اور عکس ہے۔

تو اصل چیز عالم قضاء و قدر ہے اور اس کا عکس عالم موجودات ہے جو اصل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ سکیں اور کسی آدمی کو سمجھا سکیں کہ عالم قضاء و قدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تخلیق کی وجہ بنی تو عالم موجودات میں اس کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔

عالم قضاء و قدر کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کا مالک ہے اس نے اتنا بڑا کارخانہ عالم موجودات کا عالم قضاء و قدر کے عکس کے طور پر پیدا کر دیا ہے۔ اس کے ظل کے طور پر ہم بھی قضاء و قدر کی ایک چھوٹی سی دنیا بنایا کرتے ہیں۔ ایک یہ دنیا ہمارے پیچھے مسجد بن رہی ہے ہم نے ایک Plan کیا ہے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم اتنے ہزار آدمیوں کو بٹھانے کے لئے ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہماری ضرورتیں اب پوری نہیں ہو رہی ہیں ہم اتنے ہزار آدمیوں کو بٹھانے کے لئے ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد تھا۔ پھر ہم نے قضاء و قدر کی ایک چھوٹی سی دنیا بنائی۔ ہم نے کہا اتنی بڑی مسجد بنانے کی کئی شکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ بہت سے Safe Stone رکھے جائیں جس طرح بعض مساجد میں ہیں قریب قریب ستون۔ اس سے چھت آسانی سے پڑ جاتی ہے کون سا Material استعمال کیا جائے سینٹ کیا جائے یا چھت Reinforcement Concrete کی بنائی جائے بنیادیں کیسی

بنائی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا سوچ کے ہم نے وہ دنیا اس مسجد کی دنیا جو ہے اس کا فیصلہ کیا نا! عالم قضاء و قدر کے معنی ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لئے یہ ہیں کہ فیصلے اور تخمینے کا عالم اتنا روپیہ اس پر خرچ آئے گا پھر ہم نے جیسا بنانا چاہا تھا اس کے مطابق ہم نے لوہا خریدا، سیمنٹ کی گاڑیاں منگوائیں، اینٹیں لیں، پانی کا انتظام کیا۔ اتنے راج لئے، جتنی shutting کے لئے لکڑی چاہئے تھی وہ مہیا کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ایک دنیا بنا دی کہ نہ ایک چھوٹی سی دنیا میں جس میں سیمنٹ بھی ہے لکڑی بھی ہے لوہا بھی ہے، بیٹھنے کے لئے سایہ دار درخت بھی ہیں کوئی مہمان آجائے تو اس کو بعض دفعہ بوتلیں بھی پلا دیتے ہیں۔ کھانے پینے کا سامان بھی ہے تو ایک چھوٹی سی دنیا ایک معمولی سے انسانوں نے بسائی۔ یہ لوہا یہاں کیوں ہے؟ اس لئے کہ ایک مسجد بنی ہے جس میں اتنے ہزار آدمی بیٹھنے ہیں اتنا سیمنٹ یہاں کیوں آیا؟ اس لئے کہ ایک مسجد بنی ہے جس میں اتنے ہزار آدمی بیٹھنے ہیں اتنے مزدور یہاں کیوں لگائے گئے؟ اس لئے کہ ایک مسجد بنی ہے جس میں اتنے ہزار آدمی بیٹھنے ہیں یہاں یہ درخت کیوں اگائے گئے ہیں اس لئے کہ ایک مسجد بنی ہے جس میں مزدوروں نے کام کرنا ہے۔ اُن کے سایہ کے لئے ضروری ہیں۔ یہاں یہ کنواں کیوں Bore کیا گیا؟ اس لئے کہ ایک مسجد بنی ہے اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے ایک دنیا بس گئی نا۔ صرف مقصد کے لئے پانی کا اس جگہ وجود، لوہے کا اس جگہ، وجود اس مقصد کے ساتھ ہی وابستہ ہے اگر وہ مقصد نہ ہوتا اگر اسے مثلاً مقصد بدل دیتے ہیں۔ اگر اس سے نصف آدمیوں کو نماز پڑھانے کے لئے مسجد بنانی ہوتی تو اتنا لوہا یہاں کبھی نہ آتا اتنا سیمنٹ یہاں کبھی نہ آتا اس سے آدھا ہو جاتا نا! تو دنیا بدل جاتی تو یہ ہے فیصلے اور تخمینے کا عالم اور موجودات کا انحصار ہی اس عالم قضاء و قدر پر ہے۔

ایک اور مثال میں دیتا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سمجھنے کے زیادہ قریب ہے۔ ایک سائنسدان نے یہ ایجاد کی کہ ایک ایسا روشن لیمپ تیار کیا جاسکتا ہے جس کی روشنی کا کوئی اور روشنی مقابلہ نہ کر سکے کہ جو خود بخود روشن ہو جائے جس کے لئے نہ تیل کی، نہ گیس کی، نہ بجلی کی ضرورت ہو مثلاً اب اس کا سمجھنا بھی آسان ہے کیونکہ ہم اب بہت ساری چیزیں سورج کی شعاعوں اور روشنی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو Saucer پہلے پوری

کہانی تھی اب نیم کہانی کچھ حقیقت بن گئی ہے اس دنیا میں وہ اپنی ساری Energy اور طاقت سورج کی روشنی سے حاصل کرتی ہے ایسے انجن اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص نے ایک ایجاد کی کہ ایک ایسا چراغ میں بناؤں گا کہ جس کی روشنی کا مقابلہ کوئی اور روشنی نہیں کرے گی اور وہ خود بخود روشن ہو جائے گا صرف اس تدبیر کی ضرورت ہے جس سے میں عام ذرائع روشنی پیدا کرنے یا اس کا استعمال کر سکوں اور اب اس کا مقصد ایک لیمپ ہے جس سے میں ایک دنیا کو روشن کر کے اپنی شان بڑھانا چاہتا ہوں اور اس نے کہا میں سات منزلہ ایک مینار بناؤں گا اور ساتویں منزل کے اوپر ایک عرشہ بناؤں گا اور اس عرشہ میں اپنا یہ چراغ رکھوں گا اور ایسا انتظام کروں گا کہ جب میری ایجاد کے نتیجے میں یہ روشن ہوگا تو اس کی روشنی بنیادوں میں جو مسالہ میں لگاؤں گا اس کو بھی روشن کرے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا شیشہ بھی ایجاد کیا کیونکہ یہ ایک مقصد تھا اور وہ کر بھی سکتا تھا؟ کی دنیا ہے کہ جو چیز مضبوط بھی ہو اتنا کہ سات منزلہ مینارہ کا بوجھ اٹھا سکے اور صاف اور شفاف بھی ہو اتنا کہ سات منزلہ اوپر جو چراغ روشن ہے اس کی خواہ ظلی روشنی کیوں نہ سہی بنیادی پتھروں میں وہ دکھا سکے۔

چنانچہ اس نے اپنے اس منصوبہ میں اس مقصد کے حصول کے لئے جو اس نے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی اور مینار جو اس کی ایجاد کو دنیا میں ظاہر کرے گا اور اس کی ایجاد کی شان ظاہر کرے گا۔ اس نے ایسے مضبوط شیشے کی سلوں سے ساتھ منزلہ مینار کی بنیادیں اٹھائیں پھر منزلہ منزل اس کو اوپر اٹھا تا گیا پھر ساتویں منزل ختم ہوئی تو اس کی چھت پر اس نے ایک عرشہ بنایا اور اس پر اپنا ایجاد کردہ چراغ رکھا اور اپنی ایک خاص ترکیب سے جو اسلکی سے تعلق رکھتی تھی اور موٹی مادی چیز سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اس چراغ کو اس نے روشن کر دیا جب وہ چراغ روشن ہوا تو وہ بنیاد کا پتھر جو زمانے کے لحاظ سے کئی سال پہلے بنیاد میں رکھا گیا تھا۔ (جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا بنیادی پتھر نبوت کی بنیاد میں رکھا گیا تھا) اور جو اس سے مکان کے لحاظ سے دور بھی تھا زمانہ کا بعد بھی تھا چراغ روشن ہوتے ہیں کیونکہ یہ دنیا ہی ایسے تھی کہ اس مینار میں ایسے پتھر لگائے جائیں گے کہ جب چراغ روشن ہوگا اس کی روشنی نیچے تک آجائے گی جو اوپر کے پتھر تھے جو اس چراغ سے زیادہ فریب تھے دیکھنے والوں نے انہیں زیادہ روشن پایا جو زیادہ دور تھے دیکھنے والوں نے کئی

وجوہات کی بناء پر انہیں کم روشن پایا لیکن ہر آنکھ نے ہر پتھر میں اسی چراغ کی روشنی کو دیکھا۔
تو میں بتا رہا ہوں کہ عالم قضاء و قدر کے مطابق عالم موجودات کے جو موجودات ہیں وہ
معرض وجود میں آتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو قرآن کریم نے سورہ نجم کی آیات میں ہمیں یہ
بتایا ہے کہ عالم قضاء و قدر میں یہ تو ایک انسان، محدود دنیا، ناقص دنیا، سارے منصوبے کامیاب بھی
نہیں ہوتے اس دنیا کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں میں نے دی ہیں اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ
کچھ بات واضح ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدرتوں والی ذات ہے۔ اس نے عالم قضاء و قدر
میں ہماری اس عالم موجودات کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کاملہ
کا ایک وجود پیدا ہوگا جو الوہیت کا مظہر اتم بنے گا یعنی اللہ نے عالم قضاء و قدر میں فیصلہ کیا کہ میں
اپنی صفات کا مظہر اتم ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے یہ انتظام کیا کہ ایک دنیا کو
جس کا تصور بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا پیدا کیا اور جس چیز کو بھی پیدا کیا ایک نوع
ایسی پیدا کی کہ ان کی خدمت میں اس کو لگا دیا۔ بنی نوع انسان کے لئے عالم کو مسخر کر دیا اور اس
نے بنی نوع انسان کا انتظام کیا۔ مادی دنیا میں بھی ایسا انتظام کیا کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ
فصل پکنے کے لئے بعض ستاروں کی روشنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس زمین
پر پہنچ کر ان کی تربیت میں حصہ نہ لے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ کر
اور آپ کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے وہ روشنی مادی دنیا میں بھی اس سے زیادہ اور بہتر تغیر پیدا
کرے۔ ستاروں کی جو روشنیاں اس سے پہلے اس دنیا میں تغیر پیدا کرتی تھیں سارے تغیر ہی
انسان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے تغیرات
بہتر شکل میں تھے۔

تو اللہ تعالیٰ نے ساری مادی دنیا کو اس لئے پیدا کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی
غذا مقدار کے لحاظ سے نہیں کیونکہ خدا کے بندے زیادہ نہیں کھایا کرتے لیکن اپنی چھپی ہوئی صفات
کے لحاظ سے چھپی ہوئی میں اس لئے کہتا ہوں کہ ابھی انسان باوجود بہت کچھ حاصل کرنے کے ان
باریکوں پر جو خدا کی کتاب ہمیں بتاتی ہے یا جن کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہے ان کا علم حاصل نہیں
کیا تو غذا کی چھپی ہوئی صفات اس قدر بہتر ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب بریکٹ

میں سمجھ لیں ہے یہ فقرہ! کہ (کھانے کا اثر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان بہترین اخلاق کا نمونہ بن جائیں اور بن سکیں اور پھر اخلاق سکھانے کا بہترین انتظام کیا۔ اور بنی نوع انسان کو درجہ بدرجہ ارتقاء کے مدارج طے کروانے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کہتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری کیا اور اس زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہر شریعت کو قرآن کریم کا ایک حصہ دیا اور پورا قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ اس لئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ جو شریعت دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق کا نمونہ اس شریعت کے مطابق بن سکیں۔ استعداد دی کہ دل میں خواہش ہے لیکن حضرت مسیح کی طرح یہ نہ کہا جائے کہ میرا جسم روح کا ساتھ نہیں دیتا تو جسم بھی روح کا ساتھ دینے والا دیا۔ روح بھی جسم کا ساتھ دینے والا بنایا اور ان کامل استعدادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کے آخری نقطہ تک پہنچایا اور موجودات کا مرکزی نقطہ بن گئے۔

اور یہ حقیقت محمدؐ یہ ہے جس کو سمجھ کر ہم علی وجہ البصیرت ایسے مقام پر کھڑے ہوں کہ دنیا میں یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ پہلوں نے بھی اور بعد میں آنے والوں نے بھی جو مرتبہ حاصل کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کیا۔

یہ جو دوسرا حصہ تھا اس کی ابتداء میں نے آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دی ہے تاکہ قلق باقی نہ رہے لیکن یہ ابتداء ہے اس کی جو تفصیل ہے اگر میں اس میں گیا تو ممکن ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور لگ جائے کیونکہ جتنے نوٹ میں نے پہلے استعمال کئے ہیں اس سے زیادہ نوٹ ابھی موجود ہیں بڑا المبا عرصہ لگ جائے گا لیکن کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام نے برکت حاصل کی اور آپ کے طفیل حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء نے برکت حاصل کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے عالم قضاء و قدر میں جو مقدر تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور جو اس عالم موجودات میں ہو وہ اس عالم قضاء و قدر کے عکس کے طور پر ہے۔ وہ اس لئے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی شان دنیا پر ظاہر ہو۔

پس حقیقت محمدؐ یہی ہے کہ طفیل حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا قرب اور رب العالمین کی

برکات حاصل کیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کا قرب اور اللہ کی برکات حاصل کیں اور جس طرح معراجی سیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سب سے زیادہ قریب پایا یعنی ساتویں آسمان پر اور خود عرش پر آپ کا مقام تھا۔ اسی طرح آپ کے قول کے مطابق حضرت مسیح موعود و مہدی معہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں بعد کے زمانہ میں اور ان کا مقام بھی ساتویں آسمان پر ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے توفیق اور زندگی دی تو میں انشاء اللہ تعالیٰ اگلے سال بیان کروں گا۔

جو ایک نقطہ حقیقت محمدیہ کا تھا اس حد تک ہی سمجھتا ہوں کہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کی پیاس ایک حد تک سیراب ہو جائے اور تشنگی پوری کی پوری باقی نہ رہے۔ یعنی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہئے نا! ورنہ تو عیسائی ہمیں یہ کہے گا کہ خواہ مخواہ کے تم دعوے کر رہے ہو لیکن اگر ہم عالم قضاء و قدر کی حقیقت کو سمجھنے لگیں تو اس کے لئے دماغ پر بڑا زور ڈالیں۔ سارا سال ہی سوچیں۔ عالم قضاء و قدر کی حقیقت سمجھنے لگیں اور عالم موجودات کا عالم قضاء و قدر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آجائے تو تب حقیقت محمدیہ ہم پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور معرفت اور عرفان عطا کرے اور خدا کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے ہم جو اس کے عاجز بندے ہیں ہمارے دلوں میں بھی شان قائم ہو اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مگن رہیں اور اپنی دنیا کی کوئی ہوش ہمیں باقی نہ رہے اور اس طرح ہم دنیا کی فکروں سے بھی آزاد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بھی وارث بن جائیں۔

اب میں دعا کراؤں گا اور اس کے بعد اس سال کے جلسہ کی کارروائی ختم ہو جائے گی اپنی دعاؤں میں جو عظیم مہم غلبہ اسلام اور قیام توحید کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی گئی ہے اس کے جلد تر کامیاب ہونے کی دعا بھی کریں اور ان لوگوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اپنی ہر عاجزی اور بے مائیگی کے باوجود ہر قسم کی مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی اکناف عالم میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے فرض کفایہ کے طور پر تبلیغ اور اشاعت اسلام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حافظ و ناصر ہو ان کی زبان میں اور ان کے کام میں برکت ڈالے اور انہیں دنیا کے لئے ایک نیک نمونہ

بننے کی توفیق عطا کرے اور دنیا کو ان کے اس خوبصورت نمونہ میں حسن دیکھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔
اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بھی دعا کریں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان پورے استحکام کے ساتھ ترقی کی
راہ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے ایک تو اس لئے کہ وطن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے
اور دوسرے اس لئے بھی کہ پاکستان کا استحکام اسلامی دنیا میں بڑا اثر پیدا کر رہا ہے اور پیدا کر سکتا
ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو اسلامی دنیا میں بھی ایک ضعف واقع ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ
اختلاف رائے کے باوجود اور اپنے اپنے اصول رکھنے کے باوجود پوری دیانت داری کے ساتھ
اس ملک کے رہنے والے ہم سب ہی ملک کی بہبود کے لئے اور ملک کی ترقی کے لئے اور ملک کی
حفاظت کے لئے اور ملک کی مضبوطی کے لئے سکیمیں سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں
اور خدا کرے کہ ہم میں سے ہر شخص اور ہر جماعت فتنہ و فساد سے بچے اور اگر کوئی نادان اس طرف
متوجہ ہو تو ہر جماعت ہی اس فتنہ اور توڑ پھوڑ سے روکنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی کمزوری ہمارے
اس ملک! ہمارے پیارے ملک پاکستان میں واقع نہ ہو۔

ہمارے بھائی کشمیر میں بسنے والے صدیوں سے مظلوم ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مظلومیت کا
یہ زمانہ جلد ان سے دور کرے اور وہ دلی خوشی اور بشارت کے ساتھ آزادانہ طور پر ترقی کی راہوں
پر اسی طرح بھائیوں کے کندھا بکندھا ہو کر چلنے لگیں جس کا ان کو حق ہے پیدائشی حق اور مذہبی حق
اور اخلاقی حق اور انسانی حق۔

اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے اور ہم پر
بھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لئے بھی دعا کرنی چاہئے اور اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ
ہم سے نیکیوں کے کام کرواتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر قرب کی راہیں کھولتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ
ہمارے لئے رضا کے محلات کو روشن اور منور کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں ہم سب محبت اور پیار کی
جھلک دیکھیں قہر اور غصہ کی بجلی نہ وہاں پائیں۔ اپنے لئے اور نہ کسی کے لئے، خدا کرے۔

میری آپ کے لئے یہ دعا ہے آج بھی اور ہمیشہ ہی دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں جس حالت
میں بھی ہوں سفر میں یا حضر میں۔ خدا کی اجازت کے ماتحت دنیوی کاموں میں تاکہ اس کے نتیجہ
میں آپ خدا کی راہوں کی تلاش میں لگیں یا خدا کے حکم کے مطابق اس کی عبادت اور اس کی تلاش

میں لگیں یا خدا کے حکم کے مطابق اس کی عبادت اور اس کی حمد کے بیان میں ہوں جہاں بھی ہوں جس حالت میں بھی ہوں جس کام میں بھی ہوں جس رنگ میں بھی آپ کی زندگی کے لمحات گذر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اپنی رضا کے سامان پیدا کر رہا ہے اور اگر ہم میں سے کسی سے کوئی غفلت یا کوتاہی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت جوش میں آئے اور وہ کچھ اس رنگ میں اس کو چھپالے کہ خود ہمارے ذہن سے بھی وہ نکل جائے اور ہمیں بھی وہ یاد نہ رہے تاکہ ہم عاجز بندے اپنے دل کے سامنے بھی شرمندگی کا احساس نہ پائیں۔

ہر قسم کی نیک دعائیں اپنے لئے کریں اور میں جو عاجز بندہ ہوں اور اپنے اندر کوئی خوبی نہیں پاتا لیکن اس کرسی کی عظمت پہچانتا ہوں جس پر اس ذرہ حقیر کو خدا نے اپنی حکمت کاملہ سے بٹھایا ہے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانا آسان کام نہیں نہ کسی انسان کے بس میں ہے۔ ہر لمحہ اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت ساتھ نہ دے تو خلافت کی ذمہ داری نہیں نبھائی جاسکتی۔ آپ دعائیں کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا کرے تاکہ دنیا میں جو اسلام کے غلبہ کی ایک مہم جاری ہوئی ہے وہ بھی تکمیل کی منازل طے کرتی ہوئی جلد تر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے اور آپ کا اپنا بھی یہ فائدہ ہے کیونکہ اس خلافت حقہ راشدہ کو آپ کے خوف اور خطر کو اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اگر میں اپنے رب سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق پاؤں گا تو اس وقت میں آپ کی پریشانیوں کے دور کرنے کی بھی توفیق پارہا ہوں گا۔ پس ہر لحاظ سے آپ کا اس میں فائدہ ہے اور میرا بھی یہ فائدہ ہے کہ میں خدا کی عظمت اور اس کے جلال سے ہر وقت کانپتا رہتا ہوں۔ تو میری مدد کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش رہے اور جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو اس وقت بھی اس سے راضی ہوئے خدا کی گود میں بٹھایا جائے۔ پرے نہ دھتکار دیا جائے۔

(از رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)



اے ہمارے سچے اور حقیقی محسن! ہمیں اپنی محبت کی نعمت سے مالا مال کر

﴿افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۹ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اُمتِ مسلمہ کو اس طرف پکارا کہ غلبہ اسلام کے لئے مجھے مبعوث کیا گیا ہے میری طرف آؤ اور میرے انصار بنو۔ اللہ کی راہ میں، اسی کی رضا کے حصول کے لئے قربانی دو اور ایثار دکھاؤ تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:-

”اور اس قدوس جلیل الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں اور ان کی آلودگیوں کے ازالہ کے لئے دن رات کوشش کرتا رہوں اور ان کے لئے وہ نور مانگوں جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور بالطبع خدا تعالیٰ کی راہوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان کے لئے وہ روح قدس طلب کروں جو ربوبیت تامہ اور عبودیت خالصہ کے کامل جوڑ سے پیدا ہوتی ہے اور اس روح خبیث کی تسخیر سے ان کی نجات چاہوں کہ جو نفسِ امارہ اور شیطان کے تعلق شدید سے جنم لیتی ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۶۵)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے آگے فرمایا:-

”اُن کی زندگی کے لئے موت تک دریغ نہیں کروں گا۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے میرے دل میں بھی یہ جوش پیدا کیا ہے کہ میں اپنے ربِّ کریم سے آپ دوستوں کے لئے انہی باتوں کو چاہوں

اور طلب کروں۔ میری جان آپ پر قربان، میں ہمیشہ آپ کے لئے ہر رنگ میں دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ آپ جب اس جلسہ کے لئے سفر شروع کرتے ہیں تو میرے دل میں بڑی فکر پیدا ہوتی ہے۔ سفر کی تکالیف ہیں۔ سفر کے حادثات ہیں۔ سفر کی پریشانیاں ہیں۔ میں ان کو سوچتا ہوں اور اپنے رب کریم کے حضور جھک کر آپ کے لئے اس کی حفاظت اور امان چاہتا ہوں۔

جب آپ یہاں آجاتے ہیں مجھے یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں کوئی مخلص رضا کاروں کی کسی غفلت کے نتیجے میں آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ خود آپ کے نفوس آپ کی پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ جس مقصد کے لئے آپ یہاں آئے ہیں اس کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور متضرعانہ دعاؤں کی توفیق پائیں۔ اور جلسہ میں شامل ہو کر خدا اور اس کے رسول کی باتیں سُنیں۔ انہیں سمجھیں اور یہ عہد کریں کہ یہ ارشادات اللہ کا یہ پیغام قرآن عظیم ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ان ذمہ داریوں کو نبانہنے کی توفیق بخشے۔ کہیں یہ مقصد آپ کی نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اور میں آپ کے لئے ہر وقت ہر آن دعا میں لگا رہتا ہوں کہ اے خدا! جہاں تو نے میرے ان بھائیوں کو اور میری ان بہنوں کو یہ توفیق عطا کی کہ وہ تیری رضا کے حصول کے لئے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سُننے کے لئے تیرے مسیح محمدی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس جلسہ میں شامل ہونے کے لئے آئے ہیں۔ جہاں تو نے ان کو یہ توفیق بخشی اور تو نے ان کو سفر کی تکالیف اور حادثات سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ جہاں تو نے اپنے فضل سے مخلص رضا کاروں کو یہ توفیق بخشی کہ وہ انتہائی کوشش اور جدوجہد سے اپنے آنے والے بھائیوں کی خدمت کریں اور یہ خیال رکھیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں تو میرے ان بھائیوں کو ان کے نفوس کی آفات سے بھی محفوظ رکھ۔ وہ اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں۔ وہ اپنی توجہ کو اپنے مقصود سے ہٹائیں نہ۔ وہ جس غرض کے لئے آئے ہیں اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے انتہائی کوشش کریں اور تیرا فضل پائیں اور ان کی یہ کوشش مقبول ہو اور تیرے فضل سے وہ اپنے مقصود کو حاصل کریں اور دین اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر کر اپنے گاؤں اور گھروں کو واپس لوٹیں۔

سارا سال جو دعائیں میں آپ دوستوں کے لئے کرتا رہتا ہوں وہ سورہ فاتحہ کی دعائیں

ہیں جن کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں بیان کی ہے۔ ان دعاؤں کا خلاصہ اس وقت میں بلند آواز سے پڑھوں گا۔ آپ آئین کہتے رہیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سفر و حضر میں آپ کا بھی اور ہمارا بھی حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس غرض کے لئے اسلام کو دنیا میں قائم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور جس مقصد کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم روحانی فرزند بنایا ہے وہ مقصد پورا ہوا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے کہ ہم بھی اس کے لئے کچھ خدمت کرنے کے قابل ہوں اور ہماری وہ حقیر خدمات اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ٹھہریں۔

الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ اے اللہ! ہم ان بے حد و حساب نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے محض اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے جلووں سے ہمیں عطا کیں۔ ہماری دعا، ہماری التجا، ہمارے عمل، ہماری سعی، ہمارے مجاہدات انہیں کہاں پا سکتے تھے۔ لیکن اے ہمارے رب! تو اپنے عاجز بندوں کی دعائیں بھی تو قبول فرماتا ہے۔ اے ہمارے مالک! تو عمل اور مجاہدہ پر اپنی رحمت بے پایاں سے ثمرات حسنہ بھی تو مرتب کرتا ہے۔ دعا اور سعی پیہم کی ہمیں توفیق عطا کر، انہیں قبول فرما اور نعماء ہمیں بخش جو دعا اور مجاہدہ پر عطا کی جاتی ہیں، ہمیں اپنا حقیقی خادم بنا دے، صدق و سداد دے، حق و صداقت پر ثبات قدم عطا کر، خوشحال زندگی ہمارے لئے مقدر کر دے اور فلاح اور کامیابی ہمارے نصیب میں کر دے۔ (آمین)

اے ہمارے خدا! ہم بے علم اور کمزور ہیں۔ تیری مدد اور نصرت کے بغیر ہم تیری رضا کی راہوں کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اے ہمارے رب! تو خود مہربانی فرما اور ہمارے صحن سینہ اور وسعت دل کو اپنی ذاتی محبت سے معمور کر دے تا ایک اخیل اور تیز رو گھوڑے کی طرح ہم تیری طرف دوڑیں اور تیرے حضور جا حاضر ہوں۔ ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے! پیار سے ہمیں اٹھا اور اپنی گود میں ہمیں بٹھالے۔

کبر و غرور تیرے در کے لعین اور دھتکارے ہوئے لیکن تذلل اور انکسار تیرے عرش کی لونڈی ہیں اے خدا! ہمارے دل کی بھی یہی ملکین ہوں۔

نیستی ہمارے وجود کی اصلیت اور حقیقت ہے۔ اے خدا ہمیں اس حقیقت پر ہمیشہ قائم رکھ۔ نہ ہمارا جوان اپنی قوت پر اترائے۔ نہ ہمارا بوڑھا اپنی لاٹھی پر بھروسہ رکھے۔ نہ ہمارا عاقل اور فہیم اپنے عقل و فہم پر ناز کرے۔ نہ کوئی عالم اور فقیہ اپنے علم کی صحت اور اپنی دانائی کی عمدگی پر اعتبار کرے۔ اور نہ ہمارا ملہم اپنے الہام اور کشف یا دعاؤں کے خلوص پر تکیہ کرے کیونکہ تُو اے ہمارے رب! ہمارے محبوب!! جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جن کو چاہے اپنے حضور سے دھتکار دے اور جن کو چاہے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔

اے ہمارے معبود! ہم تیرے عاجز اور بے مایہ بندے، عبودیت تامہ کے حصول کے لئے سرگرداں عبادت تو تیری ہی کرتے ہیں۔ لیکن پریشان خیالی اور شیطانی وسوسہ اندازی اور خشک افکار اور مہلک اوہام اور تاریک خیالات کے ساتھ ہم سیلاب کے گندے پانی کی مانند ہیں۔ اور گمان اور ظن سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔

اے رحمتِ اُمّ! تو اپنے بے پایاں فیض سے خود اپنا چہرہ دکھا۔ تاحق و یقین ہمیں نصیب ہو۔ اے رحم الراحمین! ہم تیری ہی نصرت کے طالب ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ذوق، شوق، حضورِ قلب، بھرپور ایمان کے ملنے کے لئے، تیرے احکام پر لبیک کہنے کی توفیق کے لئے، سرور اور نُور کے لئے، معارف کے زیورات اور حقائق و دقائق کے لباس کے ساتھ دل کو آراستہ کرنے کے لئے۔ تاہم تیرے فضل، تیرے رحم کے ساتھ یقین کے میدانوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں اور اسرار و حقائق کے دریا پر وارد ہو جائیں۔

اے ہمارے رحمان! ہوائے نفس کی موجیں ٹھاٹھیں مارتی رہتی ہیں اور ہمیں غرق کرتی رہتی ہیں۔ نفس کے عوارض ایک چکر میں ہیں اور ہوائے نفس کے قیدی ہلاک ہوتے رہتے ہیں اور کم ہیں جو نفس امارہ کی اس یلغار سے محفوظ رہتے ہوں! اے ہمارے رحمان! تو خود ہی ہماری حفاظت کر۔ اے شافی حقیقی! ایک حاذق طبیب کے رُوپ میں ہم پر جلوہ گر ہو۔ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ ہمیں اپنے سینہ سے لگا لے تاہم تیری محبت میں دیوانے مستانے بن جائیں۔ اور سب امراضِ نفس سے شفا پائیں۔ ہمیں سعادت دے اور اس سعادت مندی پر قائم رہنے کی ہمیشہ توفیق بخش اور اپنے پاک بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔

اے ہمارے ہادی! صراطِ مستقیمِ نعمتِ عظمیٰ ہے۔ ہر نعمت کی جڑ اور ہر عطا کا دروازہ ہے۔ اے ہمارے محبوب! اے ہمارے مقصود!! سیدھی راہ ہمیں دکھا۔ یہ نہ مٹنے والی روحانی بادشاہت ہمیں عطا کر۔ تیرے تفضلات اور تیری نعماء کا مسلسل ہم پر نزول ہو۔ ان نعمتوں، ان فضلوں کو قبول کرنے کے لئے ہمیں تیار کر اور ان کا ہمیں اہل بنا۔ تا اندھیری راتوں کے بعد خوشگوار زندگی اور ظلمات اور تاریکیوں کو دور کر دینے والا نور ہم پائیں تا اے ہمارے رب!! ہلاکت سے قبل ہر قسم کی لغزش اور ضلالت سے ہم نجات حاصل کر لیں۔

اے ہمارے رب! ہمارے مالک!! اپنے ہی فضل سے ہمارے دلوں میں اپنی ذاتی محبت کا شعلہ بھڑکا۔ اپنے نشانوں سے اپنی ہستی پر ہمیں حق الیقین بخش۔ اے ہمارے محبوب! اپنے چہرے سے نقاب اٹھا اور رُخِ انور کا ہمیں جلوہ دکھا۔

اے محسن! تیرے احسان کی نورانی لہریں ہمارے فانی وجود میں کروٹ لیں ہمارا ذرہ ذرہ تجھ پر قربان۔ تیری سوزشِ محبت ہر وقت ہمارے سینے کو گرماتی رہے۔ تیری عظمت اور تیرے جلال کا جلوہ کچھ اس طرح ہمیں اپنی گرفت میں لے کہ دنیا اور اس کی ہر شے تیری ہستی کے آگے مردہ متصور ہو۔ ہر خوفِ تیری ہی ذات سے وابستہ رہے۔ تیرے درد میں لذت پائیں اور تیری خلوت میں راحت۔ تیرے بغیر دل کو کسی پہلو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔

اے ہمارے سچے اور حقیقی محسن! ہمیں اپنی محبت کی نعمت سے مالا مال کر۔ اپنی روح ہم نے تیرے سپرد کی۔ اپنی ہستی تجھے سونپی۔ ہم تجھ سے ہی اپنی محبت کو خاص کرتے ہیں۔ عاجزانہ اور متضرعانہ ہم تیری طرف آتے ہیں۔ تیری رحمت تیری شفقت کے ہم بھکاری ہیں۔ ہم غفلوں کی غفلت کے پردے پھاڑ کر پرے پھینک دے۔ ہماری چال کو سیدھا کر۔ ہماری روح تیری عظمت اور جلال کے خوف سے لرزاں اور ترساں ہے۔ تیری محبت رگِ جان بن جائے۔

محبوب! ہماری مدد کو آ۔ یقین اور ایمان کو پختہ کر۔ تا ہم اپنے پورے دل اپنی ساری خواہشات، اپنی عقل، اپنے اعضا، اپنی زمین اور کھیتی باڑی، اپنی تجارت اور صنعت و حرفت اور اپنے پیشہ۔ سب کے ساتھ کلی طور پر تیری طرف ہی مائل ہو جائیں تیرے سوا سب سے منہ موڑ لیں۔ ہماری نگاہ میں اے ہمارے محبوب! تیرے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ہم صرف تیری ہی

اطاعت اور پیروی کرنے والے ہوں۔

اے خالقِ کل! اے مالکِ کل!! مال اور صاحبِ مال پر ہمیں ناز کیوں ہو اور ہم ان کے دھوکے میں کیوں آئیں۔ ہم تو بس تیری بارگاہِ عزت میں عاجزوں اور مسکینوں کی طرح حاضر ہوتے ہیں۔ دُنیا کو ہم دھتکارتے اور اس سے الگ ہوتے ہیں اور آخرت سے ہم محبت کرتے اور فقط اُسے ہی چاہتے ہیں۔

اے کاملِ قدرتوں والے! ہمارا توکل صرف تیری محسن ذات پر ہے۔

اے رحمان! ہمارا ذرہ ذرہ تجھ پر قربان۔ ہمیں اپنے نُور سے منور کر آمین

اب دُعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں سے نوازے۔

(روزنامہ الفضل ربوہ ۲۸ جنوری ۱۹۷۰ء صفحہ ۳ تا ۵)

خلفائے احمدیت کی سورۃ فاتحہ کی گئی تفسیر بڑی حسین اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۶۹ء بمقام ربوہ﴾

شہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نور نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔
 اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِنْ تَشْكُرُوا
 يَرْضَاهُ لَكُمْ (النمر: ۸)
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ لَبَدَّةٌ حَلَالَةٌ ۗ وَالرَّبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سبا: ۱۶)
 پھر حضور نور نے فرمایا۔

مختلف عنوانات پر جو آج کے دن کچھ کہا جاتا ہے ان پر بیان کرنے سے قبل میں بعض کتب کا تعارف اپنے دوستوں سے کرواؤں گا۔

سب سے اوّل اور پہلے نمبر پر تو قرآن کریم انگریزی ترجمہ مع تفسیری نوٹ تفسیر صغیر کی شکل میں وکالت تبشیر کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں اور اس وقت تیار ہیں ان سے لئے جاسکتے ہیں۔ قرآن کریم انگریزی ترجمہ بھی پہلے سے موجود تھا اور قرآن کریم کی انگریزی تفسیر بھی چار جلدوں میں پہلے سے موجود تھی خالی ترجمہ تفسیری بیان کے لئے کافی نہیں اور تفسیر اتنی ضخیم تھی کہ ہر آدمی کو خصوصاً ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ابھی تک قرآن کریم کی محبت نہیں پائی جاتی یہ بہت لمبی اور bore (یعنی اکتادینے) کرنے والی تھی۔ اس لئے تفسیر صغیر کے طریق پر قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ مع تفسیری نوٹوں کے تحریک جدید کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ خوشخط ہے اچھے کاغذ پر ہے حسین مضامین پر مشتمل ہے۔ وہ تیار ہے۔ جو میرے دوست اسے لینا چاہیں وہ وکالت سے لے سکتے ہیں۔ اب تو بعض احمدی دوست بھی ترجمہ انگریزی میں پڑھتے ہیں مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے اسی زبان

میں ترجمہ پڑھنے کی بھی ہمیں عادت ہونی چاہئے اور خصوصاً عربی کا جو حصہ ہے جسے ناظرہ پڑھنا کہتے ہیں اسے غور سے خود پڑھنا چاہئے اور تلفظ صحیح رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ قرآن کریم سے ہمارے دل میں جو محبت پائی جاتی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عربی الفاظ ادا کرنے کے قابل ہوں، جہاں تک ممکن ہو ان کو سمجھنے کے قابل ہوں محض ترجمہ یا تفسیر پر انحصار نہ کرنے والے ہوں۔

پس اس سال کے دوران ایک تو قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ مع تفسیری نوٹ شائع ہوا ہے دوسرے سورۃ فاتحہ کی وہ تفسیر جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مختلف کتب اور تقاریر میں بیان فرمایا ہے اسے اکٹھا کر کے یکجا طور پر کتابی شکل میں ادارۃ المصنفین کی طرف سے تفسیر سورۃ فاتحہ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ مضمون جو کتابی شکل میں اکٹھا ہوا ہے اسے میں نے اس وقت تک تین چار دفعہ پڑھا لیا ہے۔ جن دوسرے صاحب علم اور صاحب فراست اور صاحب محبت الاسلام نے اسے پڑھا ہے ان پر بھی اسی طرح اکٹھی شکل میں خاص اثر ہوا ہے اور یہ سورۃ فاتحہ کی بڑی ہی عجیب تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو پڑھ کر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس چیلنج کا صحیح پتہ لگتا ہے جو آپ نے پادریوں کو دیا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک بھی تو رات ایک الہامی کتاب ہے پھر اس الہامی کتاب کی موجودگی میں قرآن کریم کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تو بات چھوڑو سورۃ فاتحہ میں جو روحانی اور اخلاقی علوم بیان ہوئے ہیں اور اسرار بتائے گئے ہیں۔ اگر تم اس سورۃ کے اسرار روحانی کے مقابلے میں اپنی ساری الہامی کتب سے جو ۲۷ کے قریب ہیں۔ یہ مضامین اس کے ملتے جلتے مضامین یعنی آپ نے فرمایا کہ ہم بہتر کا مطالبہ نہیں کرتے ایسے ہی ان سے ملتے جلتے مضامین نکال کر ہمیں دکھا دو تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے لیکن عیسائیت کے عمل نے دنیا پر یہ ظاہر کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے مقابلہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب یورپ کے دورے پر گیا تو میں نے وہاں کے پادریوں کے سامنے اس چیلنج کو دھرایا۔ جب میں اس چیلنج کو دھرا ہی رہا تھا تو دراصل اس وقت مجھے ایک خیال آیا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ پادری کہیں کہ اچھا ہم مقابلہ کرتے ہیں کہاں ہے سورۃ فاتحہ کی وہ تفسیر تو میں کہوں گا کہ مختلف کتابوں میں وہ بکھری ہوئی ہے۔ ذرا سی بات پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پس اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ اسے اکٹھا

کر کے ضرور شائع کر دینا ہے۔

اور یہ تو اس چینج کے لحاظ سے پہلی جلد ہے اس کے بعد اب سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی اور جلدیں آئیں گی۔

خلفائے احمدیت نے سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر کی ہے وہ اپنی جگہ بڑی حسین ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ انسان کا اپنا تو کچھ نہیں اور یہ بھی سورۃ فاتحہ کے مضامین کی شاید دو یا تین جلدیں بن جائیں۔ لیکن اب بھی ہم اس مقام پر آگئے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کہاں ہے وہ تفسیر جس کا چینج دیا گیا ہے تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان فرمودہ یہ تفسیری مجموعہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ ہیں ان سات آیات کے حسین بیانات جو اسرار روحانی اور دقائق اخلاقی پر مشتمل ہیں۔ اس جیسی تعلیم اپنی ۲ کتابوں میں سے نکال کر دکھاؤ تو جائیں۔ لیکن سورۃ فاتحہ میں ابھی تو بہت کچھ ہے جو کچھ اب تک مل چکا ہے اس سے بھی بہت زیادہ قیمت تک نکلتا آئے گا۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دو تین اور مجلدات سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی شائع کرنی پڑیں گی۔ انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے احسان سے اور ہماری اور آپ کی دعاؤں سے ممکن ہے اگلے جلسہ سالانہ پر مزید جلدیں آپ کے ہاتھ میں آجائیں۔

ابھی میں نے اسلام کے اقتصادی نظام کے اصول اور اس کے فلسفہ پر جو خطبات دیئے تھے جس وقت میں یہ خطبات دے چکا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اکثر احمدی تو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ان خطبات میں جو مختلف مذہبی پہلو بیان ہوئے ہیں۔ جن کی بنیاد پر آگے اقتصادی اصول قائم کئے گئے ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھیں گے اور بڑی لذت محسوس کریں گے لیکن دوسرے لوگ خصوصاً غیر مسلم جو ہیں ان کو تو مذہب یا اسلام یا قرآن سے دلچسپی نہیں وہ شاید bore یعنی اکتا جائیں اس لئے ان سارے خطبات کا ایک خلاصہ بیان کر دینا چاہئے جس میں صرف اصول بتا دیئے جائیں۔ اس کی حکمتیں اور وہ روحانی بنیاد جن کے اوپر ان کو قائم کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو تعلیم ہے اور جو اس کا فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا جائے اور یہ دراصل خلاصہ ہوگا ان خطبات کا۔ چنانچہ میں اس وقت بہت دعا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جو کچھ تم نے ان چودہ خطبات میں بیان کیا ہے یہ سارا مضمون سورۃ فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ تم سورۃ فاتحہ کی اقتصادی

تفسیر بیان کر دینا تو ان خطبات کا خلاصہ آ جائے گا۔ چنانچہ مجھے بڑا لطف آیا لیکن ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا کچھ دوسرے کام، کچھ دوسرے نئے مضامین ضرورت جماعت کے لئے سامنے آجاتے ہیں اس واسطے انسان سلسلہ وار مضمون بیان نہیں کر سکتا بلکہ ضرورت وقت مثلاً مالی تحریک ہے۔ تبلیغی اور اصلاحی تحریک ہے یہ درمیان میں آ جاتی ہے ان کا مطالبہ ہوتا ہے یہ بہر حال پورا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سورۃ فاتحہ کی اقتصادی تفسیر بھی آ جائے گی۔

بہر حال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر سورۃ فاتحہ چھپ چکی ہے۔ بڑی لطیف تفسیر ہے اسے پڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے اور جتنی دفعہ پڑھیں نئے سے نئے مضامین سو جھتے رہتے ہیں۔ میرے تو بہت سارے خطبات کی بنیاد وہ Ideas (یعنی نظریات) ہوتے ہیں جو وہاں بکھرے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی نہ کسی پر ہی اپنے مضمون کی بنیاد رکھا کرتا ہوں یعنی وہاں سے ایک خیال لے لیا اور اس کو پھیلا یا اور وہ خطبہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر آدمی اتنی وسعتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہی معلم حقیقی ہے۔ غرض یہ ہے بڑی لطیف تفسیر دوستوں کو چاہئے کہ وہ اسے ضرور خریدیں۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم ہر نوجوان کو سورۃ فاتحہ کی یہ تفسیر اپنی بغل میں رکھنی چاہئے کیونکہ قرآنی مضامین کا اجمال سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن عظیم سورۃ فاتحہ کے اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے پس یہ مضامین جب آجائیں گے تو سارے قرآن کریم کی آؤٹ لائنز (out lines) سامنے آجائیں گی۔ اس لئے یہ تفسیر ہر عاقل بالغ پڑھے لکھے نوجوان کے ہاتھ میں ہر وقت رہنی چاہئے بلکہ میں تو کہوں گا کہ سرہانے رکھنی چاہئے میرے تو سرہانے پڑی رہتی ہے جب دو چار دنس پندرہ بیس منٹ کا مجھے وقت ملتا ہے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دیتا ہوں اور وہ وقت ضیاع سے بچ جاتا ہے اور اس وقت میں ایک لذت اور سرور حاصل کرتا ہوں۔ غرض میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے محروم نہ رہیں یہ عادت ڈالیں اور یہ کتاب ضرور خریدیں۔

پھر تاریخ احمدیت جلد دہم ہے جو ۱۹۴۴ء تا ۱۹۴۷ء کے حالات پر مشتمل ہے اور جوڑ ملانے کے لئے کہیں وہ آگے نکل گئے ہیں اور کہیں پیچھے سے جوڑ ملایا ہے۔ اس لئے زمانہ کے لحاظ سے

۱۹۴۴ء سے پہلے سے شروع ہوتی ہے اور ۱۹۴۷ء کے بعد تک جاری رہتی ہے۔ مثلاً تعلیم الاسلام کالج کو جو لیا ہے تو انہوں نے ۴۷ء میں قادیان کی ہجرت پر نہیں حالات کو چھوڑا بلکہ لاہور کے بعد ربوہ میں پہنچا کر پھر اپنا مضمون بند کیا ہے۔

تذکرہ نیا ایڈیشن جو ایڈیشن سوئم ہے وہ بھی چھپ گیا ہے۔ تذکرہ ہم نے اس مجموعہ کا نام رکھا ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریباً سارے الہامات جمع ہو گئے ہیں۔ قریباً میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایڈیشن میں کچھ نئے الہامات کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی دوست کو خط لکھا اور اس میں تحریر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہے لیکن کسی وجہ سے اس وقت الحکم یا البدر میں یا کسی اور کتاب میں نہیں چھپا اور شروع میں سامنے نہیں آیا۔ پس اس طرح کے الہامات سامنے آتے رہتے ہیں۔ گویا ہر دفعہ کچھ اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ الشریکۃ الاسلامیہ نے شائع کیا ہے۔

اسی طرح الشریکۃ الاسلامیہ نے روحانی خزائن جلد اول جو براہین احمدیہ ہر چہار حصص پر مشتمل ہے شائع کی ہے۔ پہلے یہ out of print (یعنی نایاب) تھی اب انہوں نے دوبارہ شائع کر دی ہے۔

میاں مبارک احمد صاحب نے سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایک مضمون غالباً کسی موقع پر کسی تقریر میں بیان کیا تھا۔ اس کا انگریزی ترجمہ انگلستان سے چالیس ہزار کی تعداد میں شائع ہوا ہے۔ میں نے اسے سرسری طور پر دیکھا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں سیرت کو بڑی اچھی طرح لکھا گیا ہے۔ یہاں بہت سے ایسے دوست جو احمدی ہیں اور بہت سے ایسے دوست جو ابھی احمدی نہیں ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ جس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے یا جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے کچھ حالات کا تو ہمیں پتہ لگے کہ وہ کس اخلاق کا انسان تھا اس کا مقام کیا تھا۔ بعض دفعہ ہمیں بہت دقت پڑتی ہے بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام نے مضمون بیان کیا تم اس پر غور کرو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں پڑھنی آتی انگریزی میں اگر کوئی مواد ہے تو اس میں دیں پھر ہم غور کریں گے۔ یہ بھی بڑی مشکل پڑ گئی پہلے تو صرف عربی کی وجہ سے مشکل تھی اب اردو نہیں آتی۔ پس کہتے ہیں کہ عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی انگریزی مواد

ہے تو دو۔ اگر تو انگریزی ماں کا بچہ یہ کہے کہ انگریزی میں مواد دو، اگر ایک فرانسیسی ماں کا بچہ ہمیں یہ کہے کہ فرانسیسی میں مواد دو، اگر ایک سپینش ماں کا بچہ یہ کہے کہ سپینش میں مواد دو، تو اس کا حق اور ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم اس کی زبان میں وہ مواد شائع نہیں کر سکتے اور اس طرح اسے روحانی خزانے سے محروم کر رہے ہیں۔ لیکن جب ایک اردو بولنے والے ماں باپ کا بچہ ہمیں یہ کہے کہ مجھے اردو نہیں آتی انگریزی میں مواد دو تو شاید میری غلطی ہو پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات اسے شرمندہ کرنے والی ہے۔

محمد اجمل صاحب شاہد نے ایک دلچسپ کتاب (میرے لئے دلچسپ) یعنی امام محمد ابن سیرین کی کتاب کا وہ کہتے ہیں ترجمہ ہے۔ میرا خیال ہے خلاصہ ہے کیونکہ میرے پاس عربی میں ہے اور میں نے جب مقابلہ کیا تو تعبیر الرویاء اردو والی کو اس سے بہت کم پایا غالباً انہوں نے خلاصہ کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارا سوچا ہوگا کہ اتنی لمبی لمبی خوابیں بھی لوگ نہیں دیکھتے۔ پس انہوں نے سوچا کہ اس کو مختصر کر دو بہر حال بہت سے لوگوں کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ علم ہے۔ جن کو دلچسپی نہیں ہوتی وہ پھر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہر ڈاک میں پانچ سات خوابیں ہوتی ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھی ہے اس کی تعبیر بھیج دیں۔ اگر میں اس طرح دوستوں کی خوابوں کی تعبیر کرنے لگوں تو غالباً جماعت کا اور کوئی کام نہ کر سکوں صرف تعبیریں لکھتا رہا کروں۔ اس واسطے میں تعبیر کا خلاصہ بھجوا دیتا ہوں۔ کیونکہ بالکل مایوس بھی نہیں کرنا ہوتا۔ مثلاً ان کو میں اتنا لکھ دیا کرتا ہوں کہ اگر میرے نزدیک خواب مبارک ہو کہ یہ خواب مبارک ہے یا اگر میرے نزدیک انذار کا کوئی پہلو ہے تو صرف یہ نہیں لکھتا کہ اس میں انذار کا کوئی پہلو ہے صرف اتنا لکھ دیتا ہوں کہ کچھ صدقہ دودعائیں کرتے رہو۔ پس اس سے زیادہ تو نہیں لکھ سکتا۔ ایسے دوستوں کے پاس یا ان کے شہر اور محلے میں یہ تعبیر الرویاء اردو میں ہوگی تو شاید ان کی کچھ سیری ہو جائے۔

اصحاب احمد جلد سوم ملک صلاح الدین صاحب کی طرف سے شائع ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی ہی مفید کتاب ہے انہوں نے بہت سا علم اکٹھا کر دیا ہے۔ اسی طرح چوہدری ظہور احمد صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی ”کشمیر کی کہانی“ اور وہ ختم ہو گئی تھی اب دوبارہ اس کو شائع کیا گیا ہے اس میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے کشمیر اور کشمیریوں کے لئے جو کام کیا اور جماعت سے جو

قربانیاں دلوائیں ان کا ذکر ہے۔ میرے نزدیک بہت سے پہلو تشریح ہیں لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بڑا مفید ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔

ایک ابھی مجھے دی گئی ہے ”احمدیہ پاکٹ بک“ مکرم محترم قاضی محمد نذیر صاحب ناظر اصلاح و ارشاد نے اسے مرتب کیا ہے اور چار مضامین پر یہ مشتمل ہے جن کا ذکر شروع میں نہیں کیا گیا۔ نہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس کس صفحے سے شروع ہوتے ہیں کسی دوست نے بتایا ہے کہ آخری صفحے پر ہیں۔ نہیں آخری صفحہ پر فہرست ہے میری مراد یہ ہے کہ ان چار عنوانوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہو کہ ان مضامین پر فلاں فلاں صفحے سے بحث شروع ہوتی ہے یہ میری نظر سے نہیں گذرا اگر ہے تو بہر حال جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ جس پر اس میں بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے بزرگ انبیاء کی طرح ہی وفات کے بعد اپنے رفقاء کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں وہاں بڑے خوش ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی جو پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور بعض دوسری پیشگوئیاں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس کو ہم خاتم النبیین ہونے کا مقام کہتے ہیں اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اور جو پہلے بزرگ گذر چکے ہیں ان کے بیان کے مطابق کیا ہے۔

الفضل ہے الفرقان ہے ماہنامہ انصار اللہ ہے اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تین تقریریں بھی شائع ہوئی ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ اصل علم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب اور بیان میں ہے باقی تو کسی حصے کی تفسیر ہے کسی جگہ بعض پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بہر حال بنیاد وہیں ہے۔

جس طرح قرآن کریم کے باہر کوئی صداقت نہیں یہ پکی بات ہے۔ بعض دفعہ یہ جو بعد میں جھگڑے پڑے ہیں۔ ہماری جماعت میں ہی غلط خیال پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے اور قرآن کریم کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اپنے کمال کے لئے ضرورت نہیں یعنی یہ خیال غلط ہے کہ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

نہ ہوتے یا اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو قرآن کریم ناقص ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے قرآن کریم اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد احکام قرآنی اور بیان قرآنی پر زائد نہیں ہے بلکہ آپ کا ہر ارشاد اور آپ کا ہر بیان قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ زیادتی کوئی نہیں یہ تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پہلا نمبر تو اسی تفسیر کا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تفسیر کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر فوقیت حاصل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا نہ آپ ایسا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اس محبت میں ڈوبے ہوئے جو آپ کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نظر آتی ہے۔ یہ دعویٰ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ وہیسا عاشق فرزند اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نہیں دیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی تفسیر قرآنی کو یا اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم سمجھائے ان کی بناء پر یا اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس میں اس لحاظ سے تفسیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے کھولے اور آپ نے وہ تفسیر بیان کی۔ ہمارے نزدیک دوسرے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر ہے۔

پہلے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر ہے جو آپ نے کی ہے اور آپ کی تفسیر میں کوئی ابدی غلطی نہیں رہ گئی۔ آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تفسیر کی ہے اس میں کوئی ابدی غلطی نہیں رہ گئی بلکہ اگر پہلے اعتقادات کی وجہ سے آپ نے کوئی بات بیان کی تو بعد کی کتب میں اللہ تعالیٰ کے منشا اور الہام کے ساتھ اس کی تصحیح کر دی گئی اور جس شکل میں مجموعی طور پر ہمارے ہاتھ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر دی گئی ہے اس شکل میں اس میں سوائے صداقت کے کچھ نہیں۔

ایک مسئلہ ہے اس پر ایک وقت میں کچھ کہا دوسرے وقت میں کچھ کہا مگر جب ہم مجموعی طور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک وقت میں آپ نے یہ کہا حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ اس واسطے کہ وہ دل اپنی طرف سے کوئی بات اپنی زبان پر نہیں لاسکتا تھا اور نہ لانا چاہتا تھا۔ جب

تک اس دل میں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے تاریں نہیں کھینچی گئیں۔ اس وقت تک جو دوسروں کا عقیدہ تھا وہ کہتا اور جس وقت خدا نے اسے کہا کہ دوسروں کا عقیدہ بھی غلط اور اب تک تیرا عقیدہ بھی غلط۔ پس وہ خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آج تک غلطی کر رہا تھا کیونکہ اپنی طرف سے کہتا تھا آج مجھے خدا نے بتایا ہے اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جو میں کہتا رہا اور جو پہلے لوگ کہتے رہے۔ وہ بات غلط تھی لیکن جو خدا تعالیٰ کہتا ہے وہ بات صحیح ہے۔

پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب اور تفسیر میں مجموعی طور پر کوئی ابدی غلطی نہیں رہی یعنی جو چلتی رہی اور جسے کسی اور نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے اوپر بحث کرنی ہے کہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اس لئے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کے آقا اور خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا وہ عظیم روحانی فرزند حکم ہو کر تمہاری طرف آئے گا۔ اس کا آخری فیصلہ تمہارے لئے آخری اور قطعی ہوگا۔ اگر ہم یہ نہ مانیں تو پھر آپ حکم نہیں اور اگر ہم حکم نہ مانیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں۔ آخری فیصلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بطور حکم کے قطعی فیصلہ ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہم کچھ حقیر سا تحفہ اپنے اللہ کے حضور ہر سال ہی پیش کرتے ہیں اور پھر اس جلسہ کے موقع پر اس کا ذکر خلاصہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری سے پیارا کرتا ہے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناشکری کو ناپسند کرتا اور ناشکروں کو اپنی درگاہ سے دھتکار دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر صرف نتیجہ پر ہی کیا جاتا ہے جو کسی کو حاصل ہوتا ہے مثلاً بچوں کو اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لئے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ جو نوجوان یونیورسٹی کی سوگزی کی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں۔ ان میں سے جو اول آیا اسے صرف اول آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہئے لیکن جو حقیقت سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ صرف نتیجہ پر ہی شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ نتیجہ کا سامان پیدا کرنے والے کے لئے اور نتیجہ کے سامان پیدا کئے جانے پر اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے یعنی اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ طاقت دی ایک انسان کو کہ وہ اپنے جسم کو اور اعصاب کو اتنا مضبوط کرے اور پریکٹس سے اتنا اچھا ہو جائے کہ وہ دوسروں کے آگے نکلے اس توفیق کے بغیر تو وہ آگے نکل ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے

ماحول کو گھر کا ماحول ہو یا کالج کا ماحول ہو یا وہ ماحول جس میں اس کی یہ قوت اور استعداد ترقی کر سکتی تھی۔ اس کے ماحول کو یہ توفیق دی کہ اس فرد واحد کو جو قوت دی گئی تھی۔ اس قوت کی کمال نشوونما کر سکے یا قریباً کمال نشوونما کر سکے۔ اس کے بغیر وہ فسٹ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے کہ اگر وہ چاہے اور اس کو غذا صحیح ملے اس کا دماغ آوارہ نہ ہو۔ اس کے خیالات پر اگندہ نہ ہوں۔ اس کی عادتیں بری نہ ہوں وہ وقت پر سونے والا اور پورا آرام لینے والا ہو۔ اس کا گھر دنیوی لحاظ سے فراخی والا ہو کہ اس کے کھانے کی جو ضرورت ہو وہ پوری ہو رہی ہو جس سے اس کی نشوونما بھی کما حقہ ہو رہی ہو۔ اس ماحول میں اس نے پرورش پائی اور پھر وہ دوڑ میں گیا اور اول آ گیا۔

پس صرف دوڑ میں اول آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا بلکہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے طاقت دی اس طاقت کو سمجھنے کی توفیق دی اس طاقت کو نشوونما دینے کی توفیق دی اس طاقت کے نشوونما کے کمال تک پہنچانے کی توفیق دی۔ یہ ساری توفیقات اگر نہ ملتیں تو یہ شخص فسٹ نہ آتا پس محض نتیجہ پر شکر نہیں بلکہ نتیجہ کے سامانوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ** اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی دیا ہے۔ تمہیں اوقات دیئے ہیں تمہیں طاقتیں دی ہیں تمہیں اموال دیئے ہیں تمہیں بہترین سے بہترین کھانے دیئے ہیں تمہاری **كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ** کا مختصراً مفہوم یہ ہے کہ تمہیں طاقتیں دی ہیں اور ان طاقتوں اور استعدادوں کو کمال نشوونما تک پہنچانے کے لئے تمہارے لئے سامان پیدا کر دیئے گئے ہیں۔

كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ اس لئے اپنی طاقتوں اور استعدادوں کی قدر کرو اور ان کی نشوونما کے جو سامان پیدا کئے گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تم ایک حسین شکل میں دنیا کے سامنے آؤ۔ **بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ** یہ بڑا پیارا فقرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کمال موافقت رکھنے والا ماحول میں نے تمہارے لئے پیدا کر دیا ہے۔ **رَبٌّ غَفُورٌ** اس ماحول میں پورے کانشس (conscious) ہوتے ہوئے اور علی وجہ البصیرت تم اپنی کوشش کرو۔ لیکن تمہاری کوشش میں نقص رہ جاتے ہیں انسان میں بشری کمزوریاں ہیں۔ جو نقص رہ جاتے ہیں ان سے تم گھبرانا نہیں۔ یعنی جو انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے جہاں وہ یہ پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے قرب

کی بڑی راہیں کھولی ہیں وہاں یہ بھی پہچانتا ہے کہ میرے نفس میں بڑی کمزوریاں ہیں۔ میرے ساتھ آفاتِ نفس لگی ہوئی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ان سے بچ نہیں سکتا پس فرمایا:۔

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وہ سارا ماحول پیدا کر دیا جو تمہاری قوتوں اور استعدادوں کی صحیح نشوونما کرنے والا ہے اب تم کوشش کرو اور آگے بڑھو جب تم کوشش کرو گے اور آگے بڑھنے کے لئے تگ و دو کرو گے اس وقت یہ احساس اپنے دل میں پاؤ گے کہ تمہارے اندر بشری کمزوریاں ہیں۔ ان سے نہ گھبرانا رَبِّ غَفُورٌ مغفرت کرنے والا تمہارا رب ہے یہاں رَبِّ غَفُورٌ کہہ کر مغفرت اور ربوبیت کو اکٹھا کر دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہاری مغفرت کر دے گا کہ تمہاری ربوبیت اور تمہاری تربیت اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ مثلاً یہ ہمارا ربوہ ہے یہ ہمارے لئے بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ہے ان مکھیوں کے لئے بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ نہیں ہے۔ جن کو مارنے کے لئے ہم مہم کرتے ہیں کہ ملیں یا نہ پھیلائیں۔ ان چوہوں کے لئے یہ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ نہیں ہے۔ جن کو مارا جاتا ہے کہ وہ خرابی پیدا نہ کریں میں ایک خاص بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ کے یہ معنی صحیح نہیں کہ ایک شہر ہے جو بڑا اچھا ہے بلکہ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ کے یہ معنی ہیں کہ ایک شہر ہے جو انسان کے لئے اس کی نشوونما کے لئے اور اس کی نشوونما کے کمال کو پہنچانے کے لیے اچھا ہے۔ وہ بھیڑوں کے لئے اچھا نہیں وہ مکھیوں کے لئے اچھا نہیں وہ چوہوں کے لئے اچھا نہیں وہ چوروں کے لئے اچھا نہیں وہ جو غیر تربیت یافتہ نوجوان جلسہ کے دنوں میں سکھڑوں پر بیٹھ کر شاید اس امید پر آجاتے ہیں کہ شاید ننگے منہ عورتوں پر ہماری نظر پڑ جائے گی ان کے لئے اچھا نہیں۔ فوراً چیک کر لیا جاتا ہے اور ان کو آگے بھیج دیا جاتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ یعنی بڑا اچھا شہر ہے۔ پاک ماحول ہے جس میں انسان جسمانی اور روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض چیزیں ہمیں نہیں ملیں ان میں نقص آجاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انسان کمزور ہے ہماری تربیت میں نقص رہ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا رَبِّ غَفُورٌ ہمیں تو کوئی حجاب نہیں اس بات کے ماننے میں کہ ہمارے اندر نقص رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر نقص کوئی نہیں رہتا تو پھر ہمیں یہ بھی اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمیں رب غفور کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو ہر آن ہر لحظہ رَبِّ غَفُورٌ کی ضرورت ہے۔

تو اس کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم وہ باتیں یہاں بیان کرتے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ ورنہ

اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا اور دنیا میں رہنے والے سب ہمارے لئے ایک مردہ کی طرح ہیں ان کے سامنے ہم جا کر اپنی گردنوں کو فخر کے ساتھ کیسے اونچا کریں گے۔ مردوں کے سامنے بھی کوئی فخر کیا کرتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی قدرت نے ہمیں اس طرح گرفت میں لے لیا ہے کہ دنیا کی ہر دوسری چیز ایک مردہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ان کے سامنے تو فخر کی ضرورت نہیں اور وہ جو زندہ دل اور زندہ روح رکھنے والے احمدی اور مسلمان ہیں ان کے سامنے اس لئے نہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم لاشے محض ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم لاشے محض ہیں۔ نہ اس نیستی کا احساس ان سے چھپا ہوا ہے اور نہ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ پس ان کے سامنے ہم کس طرح فخر سے بات بیان کر سکتے ہیں کہ یہی نہیں سکتے۔ پس فخر کے لئے نہیں نہ غیروں کے سامنے فخر یعنی ان غیروں کے سامنے جو خدا سے دور اور خدا سے جنہوں نے زندگی نہیں پائی ان کو تو ہم مردہ تصور کرتے ہیں نہ اپنوں کے سامنے فخر کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی اس طرح اس حقیقت پر قائم ہے جس طرح کہ میں ایک لاشی محض ہوں اور نیستی کا لبادہ پہنے ہوئے خدا کے حضور جھکا ہوا ہوں۔ کوئی فخر کی بات نہیں لیکن تحدیثِ نعمت کے طور پر اس نیت کے ساتھ اس امید پر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ باوجود ہر قسم کی کم مائیگی کے محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ کیا نہ ذرائع ہمارے اپنے، نہ اسباب ہمارے پیدا کردہ، نہ طاقتیں اپنے زور سے ہم لینے والے نہ ان کی نشوونما کو اس کے کمال تک پہنچانے میں ہمارے اپنے نفسوں کا اپنا حصہ۔ ہر درجہ پر ہر طرح پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ ہونہیں سکتا تھا اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ** تم ایک پاک ماحول کو جو میری توفیق سے پاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ **وَ رَّبِّ غَفُورٌ** وہ بشری خامیاں رہ جائے گی ان سے گھبراؤ نہیں۔

و سنجزی الشاکرین اس طرح جو ہمارا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ ہم انہیں جزا دیں گے۔ جو توفیق انہیں نیکیوں کی پہلے ملی ہے اس سے زیادہ توفیق نیکیوں کی انہیں بعد میں دی جائے گی اس واسطے مومن کا ہر قدم پہلے قدم سے آگے پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ قوتیں اور طاقتیں اور استعدادیں پہلے دی گئی ہیں ان سے بڑھ کر قوتیں اور

استعدادیں دی جائیں گی جو شدت احساس کی ہم خدا کے قرب کو حاصل کر کے اس کی محبت پا کر اس کی رضا کی جنت میں داخل ہوں احساس میں یہ شدت پہلے سے زیادہ تیز ہوگی۔ پھر نتیجہ پہلے سے زیادہ نکلے گا پھر تمہارے دل میں شکر کے جذبات پہلے سے زیادہ پیدا ہوں گے۔ پھر تم ہر قسم پر سوچ کر خدا کا شکر ادا کر رہے ہو گے۔ پھر وہ ایک چکر چلے گا پھر ایک نیا جلسہ آئے گا پھر اس جلسہ پر اسی قسم کی باتیں دھرائی جائیں گی لیکن پہلے سے زیادہ بڑی شکل میں پہلے سے زیادہ حسین رنگ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت طریقہ پر وہ سامنے آتی رہیں گی۔ جب تک قوم شکر کے اس مقام پر رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتی چلی جائے گی اس کے انعاموں کی زیادہ سے زیادہ وارث ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی سلوک روا رکھے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ہم پر احسان کئے ہیں اب میں ان کا ذکر کروں گا۔ یہ تو ابھی میں نے تمہید بیان کی ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کی تحریک جلسہ سالانہ ۱۳۴۵ھش (مطابق ۱۹۶۵ء) کو کی گئی تھی لیکن امان ۱۳۴۶ھش (مطابق مارچ ۱۹۶۶ء) سے اس پر باقاعدہ کام شروع ہوا۔ جس وقت یہ تحریک ہوئی مکرم محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے یہ تحریک کی پھر غالباً میں نے کچھ وضاحت کی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان سے اگر ۲۵ لاکھ روپیہ اس فنڈ میں جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا فضل کرے گا۔ اس کی میعاد ۳۰/۱۳۴۸ھش (یعنی ۳۰ جون ۱۹۶۹ء) اور بیرون پاکستان کیلئے ۳۰/فتح ۱۳۴۸ھش (یعنی ۳۰ دسمبر ۱۹۶۹ء) تک مہلت دی گئی تھی۔

جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس وقت پچیس لاکھ کی حد مقرر کی گئی تھی۔ مگر وہ قدر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی پیدا ہوئی تھی جو حوالہ میں نے کل پڑھا تھا اس کا ایک حصہ جو کل کے مضمون سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس میں آپؑ فرماتے ہیں کہ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نشان ہیں بلکہ دو باتیں چھوڑ دی تھیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا اس میں ایک نافلہ بھی بطور نشان کے زائد کیا گیا تھا۔ لیکن اس مضمون کے ساتھ اس وقت میرا تعلق نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس لئے میں فرض سمجھتا ہوں ان کی قدر کرنا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس میں سے ایک وہ ہے جو موعود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت

مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہاں لکھا ہے کہ میں اپنے موعود فرزند نشان الہی کی قدر کرنا باقی دوسروں کی قدر سے بھی زیادہ فرض سمجھتا ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کی روحانی آنکھ نے وہ دیکھا چنانچہ آپ کا دل اس نظارہ کی وجہ سے اس فرزند موعود کی قدر کرنا فرض سمجھنے لگا۔ جماعت احمدیہ نے اپنی ان جسمانی آنکھوں سے وہ دیکھا کہ جماعت کے ہر فرد کا دل اس موعود فرزند کی قدر کرنا اپنا فرض سمجھنے لگا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اور آپ کی محبت نے یہ عملی ثبوت دیا کہ ہم نے ڈرتے ڈرتے اعلان کیا کہ پچیس لاکھ تک جمع ہو جائے تو خدا کے بڑے مشکور ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی نعمتوں کا وارث کرے گا۔ لیکن جماعت نے کہا پچیس لاکھ نہیں ہم بتیس لاکھ سے بھی زیادہ دیں گے۔ ابھی وہ اور بھی زیادہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی پچیس لاکھ ایک ایسی حد تھی کہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری نہ ہو اور ہمیں ایک قسم کی خفت اٹھانی پڑے کہ جماعت کو اتنی بھی محبت نہیں کہ ایک اعلان کیا اور اسے بھی پورا نہیں کیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا اور میں دعائیں بھی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے لیکن جماعت نے کہا اس قسم کا ظن ہم پر درست نہیں۔ ہم نے حسن و احسان میں مسیح موعود کے اس نظیر کے جلوے دیکھے ہیں ہم اس کے شکرانہ کے طور کے جتنا تم چاہتے اور امید رکھتے ہو اس سے بڑھ کر دیں گے۔ چنانچہ جماعت نے ۳۲،۴۲۸،۰۳ روپے آخری خبر کے آنے تک اس فنڈ میں دیئے۔ ابھی کچھ اور وعدے آرہے ہیں کیونکہ بعض جگہوں کو مزید مہلت دی گئی ہے۔ بیرونی علاقوں میں بعض جگہ اور مہلت دینے کی ضرورت پڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ رقم بہر حال بڑھ جائے گی۔

یہ تو تھا نا کہ جہاں شیطان رخنہ اندازی کر دیتا ہے کہ جی یہ ہم نے دیا یہ میں نے دیا، یہ جماعت نے دیا۔ نہ میں نے دیا نہ تم نے دیا اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر دل میں یہ خیال نہ ڈالتا۔ یہ محبت نہ ڈالتا تو آ کر کون دیتا پیا ر ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ ساڑھے بتیس لاکھ کے قریب جماعت نے دیا اور اس عرصہ میں جو انوسٹمنٹ (Investment) کی گئی اس پر قریباً اڑھائی لاکھ روپے آمد ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بارہواں حصہ یعنی جتنا لوگوں نے دیا اس کا آٹھ فیصد اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حالانکہ یہ

Investment جو ہے وہ بڑی پابندیوں کے اندر بندھی ہوئی Investment ہے کہ سود ہم نے نہیں لینا ہم تو ایسی جگہ Invest کرتے ہیں (سوائے مجبوری کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے) جہاں خالص نفع کی شکل ہوتی ہے۔ جہاں خالص نفع کی شکل ہوتی ہے وہاں خالص گھائے کا امکان بھی ہوتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ گھائے کی طرف فضل عمر فاؤنڈیشن کی Investment کو لے کر نہیں گیا بلکہ وہ خالص نفع کی طرف لے گیا اور اڑھائی لاکھ کے قریب نفع ہو گیا۔ فالحمد لله علیٰ ذلک

انگلستان کی جماعتوں نے وعدے تو بہت سے کئے تھے لیکن وصولی کی رفتار بھی اچھی تھی لیکن تسلی بخش نہیں تھی۔ اس لئے مکرم و محترم شیخ مبارک احمد صاحب (سیکٹری) کو فضل عمر فاؤنڈیشن نے وہاں بھجوایا۔ بعض لوگ اب بھی بھول جاتے ہیں مجھے لکھ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ وقت کی نگرانی ہر تحریک پر ہوتی ہے۔ لیکن تفصیل جو ہیں اس میں فضل عمر فاؤنڈیشن والے آزاد ہیں مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ مجھے اطلاع دے دیتے ہیں کہ اگر میں سمجھوں کہ مناسب نہیں تو منع کر دوں اور اگر خاموش ہو جاؤں تو سمجھیں کہ ٹھیک ہے۔ تو فضل عمر فاؤنڈیشن کی مجلس عاملہ نے یہ سمجھا کہ شیخ مبارک احمد صاحب کو باہر بھجوانا چاہئے چنانچہ شیخ مبارک احمد صاحب کو لندن بھجوایا گیا۔ یہ تفصیل میں اس لئے بتا رہا ہوں۔ اس کی میرے نزدیک ضرورت نہیں تھی کہ چند مہینے ہوئے مجھے ایک خط آیا کہ ایک نوجوان نے نا سمجھی میں یہ بات کر دی کہ اس کو خواہ مخواہ وہاں بھجوایا اس کا کیا فائدہ تھا اتنا خرچ ہو گیا۔ اس کو اور اس قسم کے باقی نوجوانوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں علم نہ ہو وہاں ظن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور جہاں ظن کے علاوہ کچھ نہ ہو وہاں بسا اوقات وہ ظن ظن نہیں رہتا بلکہ بد ظن بن جاتا ہے اور گناہ کا موجب بن جاتا ہے۔

انگلستان میں مکرم محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کے چند ہفتوں کے دورے میں سوالا کھرو پیہ نقد وصول ہوا اور وعدوں میں دو ہزار پاؤنڈ کا اضافہ ہوا۔ مقاصد فضل عمر فاؤنڈیشن اس وقت جماعت کے سامنے آچکے ہیں ان میں ایک مقصد تو یہ تھا کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی سوانح تیار کر کے شائع کی جائیں۔ اس سوانح کے سو سے زائد صفحات تیار ہو چکے ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ اس کام میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے دوست دعا کریں

کہ کام کرنے والے بھی کوشش اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور جماعت کو یہ توفیق دے کہ آئندہ سال سے پہلے یہ سوانح چھپ کر شائع ہو جائیں۔

مختلف مسائل پر عملی اور تحقیقاتی تصانیف کے انعامی مقابلے کے لئے (۱۹۶۸ء) کے موصولہ مقالہ جات سینتیس تھے جن میں سے چار مقالے انعام کے مستحق قرار پائے اور ہر چہار مقالوں نے ایک ایک ہزار روپے انعام لیا یعنی فی مقالہ ایک ہزار روپیہ چنانچہ ایک جماعتی تقریب کے موقع پر یہ انعامات تقسیم ہوئے۔ سال رواں میں بارہ موعودہ مقالوں میں سے چار موصول ہوئے ہیں باقی شاید اس رپورٹ کے بعد آگئے ہوں گے۔ لیکن سینتیس سے تعداد گر کر بارہ پر آ جانا یہ تشویشناک ہے جماعت کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن نے جماعت کو ایک ایسی لائبریری کی عمارت کی جو بڑی خوبصورت بڑی فراخ اور وسیع اور زیادہ کتب اپنے سینے میں لپیٹنے والی ہوگی پیشکش کی ہے اس کا نقشہ تیار ہو گیا ہے اور امید ہے انشاء اللہ سات جنوری سے اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ دوست دعا کریں کہ انجینئر صاحب ایسے مل جائیں جو کام کو لٹکانے والے نہ ہوں۔ جس طرح ہماری مسجد (اقصیٰ) کا کام انجینئر صاحب نے لٹکا دیا ہے۔ پچھلے جلسہ سالانہ سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جلسہ کے موقع سے یہاں نماز شروع ہو جائے گی یعنی اس وقت تک تیار ہو جائے گی۔ اس پر سال گذر چکا ہے ابھی تک یہ تیار نہیں ہوئی۔

آپ کی قربانی کے لحاظ سے اور فضل عمر فاؤنڈیشن کے کاموں کے لحاظ سے اور اس کے منصوبوں کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو مختلف پہلوؤں اور جہات سے اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اہل بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ماضی میں جو اس کے فضل ہم پر ہوئے ہم ان کا شکر یہ ادا کرنے والے ہوں اور ان فضلوں کے نتیجے میں جو اور ان فضلوں کے نتیجے میں جو حسنات ہمیں ملیں ان حسنات کا بھی شکر کرنے والے ہوں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آئندہ مستقبل میں ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اس کے حضور کچھ پیش کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پیشکش کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پیشکش کو قبول فرمائے اور پہلے سے زیادہ ہمیں ان کے حسنات ملیں اور پہلے سے زیادہ ہم بلند یوں تک پہنچنے والے ہوں اور ہم اور زیادہ روحانی رفعتیں پانے والے

ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کی لذت ہم پہلے سے زیادہ محسوس کرنے والے ہوں۔

تحریر جدید کے کاموں میں سے جو چیز نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سال رواں سال میں یعنی جو سال اب ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے سویڈن میں (ڈنمارک جہاں ہماری مسجد عورتوں کے چندے سے بنی ہے اس کے ساتھ الگ ملک سویڈن ہے۔ یہ ممالک سکنڈے نیویا بھی کہلاتے ہیں یعنی ایک ڈنمارک دوسرا سویڈن تیسرا ناروے) ایک جگہ پر ہی نہیں گوٹن برگ میں یا اس کے قریب جگہ ہے وہاں ایک بڑی جماعت قائم ہو گئی ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں یوگوسلاویہ کے مہاجر ترک مسلمان خاندان آباد تھے جو اشتراکیت کے نفوذ کے وقت اپنے خاندانوں کی حفاظت اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے ملک سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ایک ہیولی زندہ تھا اور حقیقت غائب تھی۔ ڈنمارک قریب ہے وہ یہاں آئے مسجد دیکھی باتیں سنیں کچھ توجہ پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک نے یوگوسلاویہ میں اپنے امام کو خط لکھا کہ اس طرح یہاں جماعت کام کر رہی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارا فتویٰ کیا ہے کیا میں بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو جاؤں۔ یوگوسلاویہ میں مسلمانوں کے غالباً دو فرقے ہیں چنانچہ ان کے امام نے اس کو جواب دیا کہ تم بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا۔ ہمارے آدمیوں سے انہوں نے تبادلہ خیال کیا ایک اکٹھا کیا گیا جس میں قریباً پچیس خاندانوں کے سربراہ غالباً پچیس ہی خاندان تھے ممکن ہے کچھ خاندان ایسے بھی ہوں جن کا سربراہ ایک سے زائد ہو بہر حال پچیس نوجوان کمانے والے اور سمجھ دار اس میں شامل ہوئے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم اب بیعت کر لو۔ کیونکہ وہ سلسلہ کے عقائد کی تائید کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سچا مانتے ہیں۔ پس ہمارے لئے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ ہمارے مبلغ کو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سچا تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ بیعت کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں واقعی بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے پھر بہت سارے ایسے نتائج نکلتے ہیں جن میں بدمزگی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت خدائے علام الغیوب نے جس کو پتہ تھا کہ ایسے واقعات پیدا ہو جانے ہیں۔ تو ان میں سے ایک سے اس سلسلہ میں خط

لکھوا دیا تھا۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بیعت کرتا ہوں اور بیعت فارم پر دستخط کرتا ہوں۔ کیونکہ میں نے وہاں امام کو لکھا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ بیعت فارم پر دستخط کر کے بے شک تم جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اس واسطے ضرورت ہے تو انہوں نے لکھا اگر بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو وہ مجھے اجازت کیوں دیتے چنانچہ اس نے بیعت کر لی اور اسے دیکھ کر اس وقت تو دو اور دوستوں نے بیعت کی۔ ہیں تو تیس پینتیس خاندان لیکن ان میں سے پچیس خاندان احمدی ہو گئے۔

میں نے بتایا ہے کہ ہیولی باقی تھا اور روح گم تھی۔ جس وقت وہ احمدی ہوئے تو روح میں ایک زندگی پیدا ہوئی اور جسم نے ایک کروٹ لی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا اسلام کا پتہ نہیں انہیں قرآن اور اسلام سکھانے کا انتظام کرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے ہجرت کی تھی اسلام کو بچانے کے لئے اور جب احمدیت میں داخل ہوئے تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اسلام تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور کس طرح اپنی شان کے نظارے دکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو نسلاً بعد نسل مسلمان تھے ان کے دلوں میں جب یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمارے بچوں کو قرآن اور اسلام سیکھنا چاہئے تو ان کی غیرت پر تازیانہ لگانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نومسلمہ بچی کو انہیں قرآن سکھانے کے لیے مقرر کروایا جس نے دو سال ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔

یہ بچی جس کا میں نے ذکر کیا ہے ۲۴ جولائی ۱۹۶۷ء کو مسجد میں ہماری غیر حاضری میں ہمارے انتظار میں مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور ساری جماعت اور مبلغین کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ اس طرح یونیورسٹی کی ایک نوجوان طالبہ آئی بیٹھی ہے تو میں نے ایک آنریری مبلغ کو جو ناروے کے تھے اور سوئیڈن کے ان دونوں سے کہا کہ تم اس سے باتیں کرو۔ پتہ نہیں کس نیت سے آئی ہے بعض دفعہ کسی سے کوئی رشتہ کرنا ہوتا ہے اور آ جاتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کر لو۔ اس نے اس سے باتیں کیں اور بتایا کہ تمہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں یعنی ۲۴ جولائی ۱۹۶۷ء کو اس بچی کو کہنا پڑا کہ تمہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں کتابیں لے جاؤ اور اسلام کو پڑھو تسلی ہوئی تو آنا اور بیعت کر لینا۔ مگر وہ بھدر رہی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے امام سے ملو آؤ۔

انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ کسی صورت میں مانتی نہیں اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے امام سے ملو او۔ میں نے کہا پھر اسے لے آؤ جب وہ آئی تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا میں نے اسے جواب دیا وہ کہنے لگی کہ پھر میری بیعت لے لیں اصرار کر رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا بیعت کر لو فارم منگو آیا عورتوں سے بھی فارم پر کروانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کی بیعت لی اور دعا کی۔ ہم آگئے۔ یہ جولائی کی بات ہے دسمبر میں روزے آگئے۔ کالج میں چھٹیاں ہوئیں۔ گھر نہیں گئی مسجد ڈنمارک میں آگئی سارے روزے رکھے۔ عبادت میں دعاؤں میں اتنا شغف پیدا کیا کہ ایک احمدی کے گھر کھانے پر صرف اس وجہ نہ گئی کہ اگر میں جاؤں گی تو ڈیڑھ دو گھنٹے آنے جانے پر خرچ ہوں گے اور آدھا گھنٹہ وہاں کھانے پر خرچ ہوگا۔ پس میں یہ وقت کیوں ضائع کروں لہذا میں تو اس وقت بھی مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنا چاہتی ہوں۔

۶۷ء سے ۶۹ء تک اس نے اتنا قرآن عظیم سیکھ لیا کہ ان پچیس خاندانوں کے پیدائشی مسلمان بچوں کو قرآن کریم سکھانے کی جب ضرورت پڑی تو یہ ان کی استانی بنی۔ پچیس میرا اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ کا جو tour (یعنی دورہ) ہوا تھا۔ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ دس دس سال میں جتنی تعداد میں وہاں کے لوگ احمدی ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایک سال میں اس سے زیادہ احمدی مسلمان ہو گئے۔ بڑی بڑی اور قربانی کرنے والی جماعتیں قائم ہو گئیں یعنی پہلے تو سال میں ایک دو احمدی مسلمان ہوتے تھے اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ چلو erosion (اروژن) ہوا۔ ایک ذرا ہی کا ٹاٹا اس کفر کی دیوار سے کچھ تو یہاں سے نکلا۔ کچھ تو ہمارے ساتھ شامل ہوا لیکن اب ایک سال میں مثلاً یہاں پچیس خاندان جس کا مطلب یہ ہے کہ قریباً سو افراد (بچے اور عورتیں ملا کر) احمدی ہو گئے۔ اسی طرح اخلاص رکھنے والے پاک نفس اور پاک روح بچیاں اور بچے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اور اس سے اب یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید یورپ کی اکثریت ہلاکت سے بچ جائے پس ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے۔

دوسرا بڑا فضل یہ کیا ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جاپان میں مشن کھولنا چاہئے۔ پچھلے سال تو میں نے تفصیل نہیں بتائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق جو آیات پائی جاتی ہیں ان کے ایک تفسیری معنی یہ کئے ہیں

کہ ذوالقرنین سے مراد مسیح موعود اور مہدی معبود ہے اور اس کے سفروں کی یہ تفصیل ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے بطون ہوتے ہیں اور بہت سی تفاسیر ہوتی ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے بھی علاوہ اور معانی کے اس کے یہ معنی بھی کئے ہیں لیکن ایک اور تفسیر کے ساتھ یعنی معنی یہی کئے ہیں کہ اس سے مسیح موعود ہی مراد ہیں اور ان کے یہ تین سفر ہوں گے اور یہ حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن وہ مختلف معنی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معنوں سے۔ ہر دو درست اور صحیح ہیں۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جو معنی کئے ہیں ان میں ایک سفر مشرق کا ہے تو جب خدا کا مامور اسلام کو غالب کرنے کے لئے کشفی طور پر یا الہامی بیان میں مشرق کا سفر کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تیر کی طرح ایک سیدھی لائن ہے اور جو ملک سامنے آ گیا وہ اس کے اثر کے نیچے آئے گا باقی نہیں آئیں گے۔ بلکہ پھیلاؤ میں وہ سفر ہے یعنی سارے مشرق کو گھیرتا ہے ورنہ تو مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے مشرق کے سفر کئے تھے احمدیت نے پہلے مثلاً انڈونیشیا ہے اور فجی میں جماعت تھی۔ انڈونیشیا میں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنی بڑی جماعتیں ہیں کہ وہ آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہیں کثرت تعداد اور کثرت ایثار اور قربانی کے لحاظ سے۔ وہ بڑی قربانی دینے والی جماعتیں ہیں دعاؤں میں مشغول رہنے کی کثرت کے ساتھ، بے نفسی کے مظاہروں کی کثرت کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ مقابلے میں یعنی جو پاکستان کی ہماری احمدی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا رحم کیا ہے لیکن وہ بھی کافی نہیں ابھی تو ویسے یہاں بھی ہم نے بڑھنا ہے۔ انشاء اللہ۔ اور وہاں بھی بڑھنا ہے لیکن کسی ملک کو بھی ہم کلیتہً نظر انداز نہیں کر سکتے پھر ایک ایسے ملک کو جو ہماری توجہ اپنی طرف اس وجہ سے کھینچ رہا ہے اور زبان حال سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے احمدیوں اللہ نے دنیوی طور پر مجھ پر اتنا فضل کیا ہے کہ میں روس اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن روحانی طور پر انسان جن فضلوں کو حاصل کر سکتا ہے ان فضلوں سے مجھے محروم کیوں کرتے ہو۔ ان کی یہ آواز تھی جو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے دل میں اس بات کی بڑی تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں مشن کھولنے کے جلد انتظام کر دے۔ سال رواں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں مشن کھل چکا ہے الحمد للہ اور ہمارے ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ مبلغ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ عمر کا میں نے خاص وجہ سے فقرہ بولا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں ایک نئی

زبان سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو سب قدرتوں والا ہے ان کے خط آرہے ہیں کہ زبان سیکھنے کی جس کلاس میں وہ داخل ہوئے ہیں امریکن اور دوسری جگہوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جتنے بھی امتحان ہوئے ہیں قریباً سب میں وہ اپنی کلاس میں اوّل آتے ہیں۔ اس ادھیڑ عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح فضل کیا ہے وہ جلدی جلدی زبان سیکھ رہے ہیں لیکن وہاں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور بات یہ ہے کہ ان کا مطالبہ زبان حال سے یہ ہے کہ مذاہب کی مختلف کلبوں میں سے نکال کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سلسلہ میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔

اس میدان میں ہمیں بڑی جدوجہد کرنا پڑے گی کیونکہ ان کے اندر یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ایک ہی شخص کیتھولک کلب کا بھی ممبر ہے اور پروٹسٹنٹ کلب کا بھی ممبر ہے اور بدھ کلب کا بھی ممبر ہے۔ کلبیں ہیں یعنی مختلف مذاہب کے چرچ اور عبارت گاہوں کو وہ کلب سمجھتے ہیں اور وہاں جتنی کلبیں ہیں وہ ان کے ممبر بن جاتے ہیں۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک مذہب کی رسومات پر عمل کرتے ہیں۔ جب وہی بڑا ہو کر مرتا ہے تو اسے دفنانے کے لئے دوسرے مذہب کی رسومات پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں فراخ دلی بہت ہے ہونی بھی چاہیے۔ کیونکہ جب اللہ سے دوری ہوئی تو دوری کی ایک راہ اور دوری کی دوسری راہ میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ قرب کی جو راہ ہے وہ ایک ہی ہے یعنی صراط مستقیم۔ وہاں سے جو انسان ہٹاوا گیا اور ہلاک ہوا یعنی جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے وہ پھر ایک راہ کا تو پابند نہیں ہوتا ایسی صورت میں تو لاکھوں راہیں نکل سکتی ہیں۔ لیکن صراط مستقیم ایک ہے۔ تو ان کو اس صراط مستقیم پر لانا یعنی کلبوں سے نکال کر مذہب میں داخل کرنا اس کے لئے ہمیں جہاد کرنا پڑے گا۔ چونکہ وہ لوگ مذاہب کو کلب سمجھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مذاہب کی ذہنیت اور ان کا فلسفہ اور اس فلسفہ کے متعلق تقاریر ان کے نزدیک ایسی ہیں جیسی کسی کلب میں مختلف تقاریر ہوتی ہیں۔ اس فلسفہ کو مغلوب کرنے کے لئے اور اسلام کو غالب کرنے کے لئے کسی اور فلسفہ کی ضرورت نہیں اور نہ وہ ہمیں مفید ہو سکتی ہے۔ شاید میں نے پچھلے سال بھی دوستوں کو اس طرف متوجہ کیا تھا کہ وہاں جماعت کو ترقی حاصل کرنے کے لئے نشان آسمانی اور تائیدات سماوی کی ضرورت ہے۔ جن پر ایک نظر پڑنے سے اگلا دیکھنے والا انسان اثر قبول کئے بغیر نہ رہ سکے۔

ابھی مجھے چند ہفتے ہوئے سپین کے مبلغ کا خط آیا۔ وہاں ہمارے مبلغ کی یہ حالت ہے کہ جماعت کی طرف سے اسے کوئی گزارہ نہیں ملتا اس کے ساتھ معاہدہ ہی یہی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے انتہائی قربانی کرنے والے کچھ نوجوان نکالے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ہم تمہیں ایک دھیلا نہیں دیں گے۔ جاؤ کماؤ اور تبلیغ کرو۔ وہ اس قسم کے مبلغین میں سے ہیں یہ شخص دن کے وقت ایک کام بازار کی کٹڑ پر کھڑا ہو کر چھابڑی میں عطر بیچتا ہے۔ ایک دنیا دار کی نگاہ میں ایک چھابڑی فروش سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہئے۔ جس طرح اور لاکھوں کروڑوں چھابڑی فروش دنیا کی گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں اس طرح ظاہری طور پر یہ بھی ہیں لیکن اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ اس قسم کا عزت و احترام کا غلاف چڑھایا ہے کہ جنرل فرانکو کے ساتھیوں میں سے ایک شخص ان کو ملنے کے لئے آیا اور اس نے اپنی پارٹی (وہاں جنرل فرانکو کی ایک ہی پارٹی ہے وہ ڈکٹیٹر ہے) کے لیٹن میں ایک مضمون لکھا اور اس نے بڑی اچھی باتیں لکھیں علاوہ اور باتوں کے اس نے ایک بات یہ لکھی کہ اس مادی دنیا میں کہ انسان اپنے منہ تک مادیت کے گند میں پھنسا ہوا ہے لیکن ایک ایسے راہب انسان سے ملنا میرے لئے بڑی عزت افزائی کا موجب ہے۔ اب دیکھو جنرل فرانکو کا ایک ساتھی وہ جنرل فرانکو جو حاکم اور کلی طور پر صاحب اقتدار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چھابڑی فروش، لاکھوں کروڑوں چھابڑی فروشوں، میں سے ایک نہیں ہے جو تمہیں دنیا کی گلیوں ہی میں پھرتے نظر آتے ہیں بلکہ یہ چھابڑی فروش اللہ کا ایک چھابڑی فروش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھابڑی فروش مسیح موعود کا ایک چھابڑی فروش ہے۔ کوئی اور چھابڑی فروش اگر اس کے گھر میں جاتا تو اس کا چہرہ اسی سے ٹھڈے مار کر باہر نکال دیتا۔ لیکن خدا کا یہ چھابڑی فروش جب اس سے ملا تو اس نے اسے اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اس قسم کے متقی پرہیزگار بے نفس دعاؤں میں مشغول رہنے والے۔ دنیا کو واقعی ایک مردہ تصور کرنے والے اور مادی قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے۔ خدا کا نام بلند کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے ہمیں جاپان میں اس قسم کے مبلغ چاہئیں۔ دراصل تو ایسے ہی ہر جگہ چاہئیں لیکن بعض جگہ ہم یہ خصوصیات نمایاں طور پر محسوس کرتے ہیں کہ یہ خصوصیات مبلغین میں ضرور ہونی چاہئے۔

پس جاپان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشن قائم ہو گیا ہے اور وہ پیشگوئی جس کا ذکر قرآن کریم میں تھا۔ ذوالقرنین کے بیان کے مطابق اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا ایک جلوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دکھایا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کے لئے فنڈ کی میں علیحدہ تحریک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک بغیر کسی تحریک کے گیارہ ہزار سے زائد کی رقم جمع ہو چکی ہے اور اس میں سے اندازاً پانچ ہزار روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اس واسطے میں یہ تحریک نہیں کروں گا کہ آپ ابھی اس میں کچھ دیں۔ میں تحریک کروں گا کہ آپ کیم مئی کے بعد جب سال رواں کی مختلف مالی ذمہ داریاں ادا کر چکیں تو اس وقت جتنا خوشی اور بشارت سے دوسرے چندوں پر اثر ڈالے بغیر آپ جاپان مشن میں دے سکتے ہوں دے دیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ آئندہ سال بھی اس کی باقاعدہ تحریک نہ کروں اور اسی طرح ہماری ضرورت پوری ہو جائے اور یہی اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس ناچیز اور لاشی محض اور حقیر انسان کی اس خواہش کو پورا کرے گا کیونکہ اسی کی عزت اور عظمت اور جلال کو قائم کرنے کے لئے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔

تحریک جدید کے متعلق ایک یہ ضروری خبر بھی ہے کہ وکیل التبشیر صاحب نے ایک سروے کرنے کے لئے ترکی، ایران، اور یوگوسلاویہ کا دورہ کیا۔ اس دورہ میں تو ایک تعلیم یافتہ اور بڑے عہدہ پر فائز نوجوان احمدیت قبول کر کے جماعت میں داخل ہوئے۔ الحمد للہ۔ دوسرے یوگوسلاویہ وہ پہلا کمیونسٹ ملک ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک منظم جماعت قائم ہو چکی ہے اور وہاں کی ایک مسلمان جماعت (میں نے بتایا ہے کہ وہاں مختلف مسلمان جماعتیں ہیں۔) احمدیت اور اس کے عقائد سے بڑی ہمدردی رکھتی ہے اور بڑی شرافت رکھتی ہے۔ ان میں سے جن کو عقائد سمجھ نہیں آ رہے وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں نظر آتے بلکہ غور سے سنتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صداقت کی راہوں کو کھولے گا اور خوشی اس بات کی ہے انگریزی کا محاورہ ہے آہنی پردہ یعنی (Iron Curtain) دوسرے لفظوں میں لوہے کی ایک دیوار ہے جو ان ممالک نے اپنی سرحدوں پر قائم کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس لوہے کی دیوار کو پھلانگ کر یوگوسلاویہ میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کے گھر سے ان کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے سامان پیدا ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ

اس وقت تک کل سیاسی مرکزی مبلغین غیر ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ کچھ تو یہاں بھی ہوتے ہیں لیکن جو اس وقت عملاً کام کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد بیاسی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دہائیوں کی بجائے سینکڑوں کی باتیں کیا کریں اس لئے اس کا جلد سے جلد انتظام ہونا چاہئے۔ یہ ایک دو سال کا کام نہیں۔ جماعت یہ انتظام کر سکتی ہے صدر انجمن احمدیہ کا یہ کام نہیں ہے۔ جماعت یہ انتظام کرے کہ اس کثرت سے بچے جامعہ احمدیہ میں داخل ہوں کہ ٹوٹنے کے بعد بھی سینکڑوں کی تعداد میں مبلغین تیار ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ کچھ بچے ٹوٹ جائیں گے کسی کا اخلاص ترقی نہیں کرے گا کسی کا ذہن ترقی نہیں کرے گا۔ کسی کا علم ترقی نہیں کرے گا۔ کسی کے ماحول کے حالات ایسے ہوں گے کہ اسے ہم خوشی سے کہیں گے کہ تمہارا ماحول ایسا ہو گیا ہے تمہارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ تم اب وقف میں نہ رہو ہم تمہیں خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ تم چلے جاؤ۔ غرض مختلف شکلوں میں یہ چیز سامنے آتی ہے لیکن ٹوٹنے والے جب ٹوٹ جائیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں شاہد پڑھے لکھے تجربہ کار ٹرینڈ تعلیم یافتہ مبلغ ہونے چاہیں اس کے بغیر آج ہمارا گزارہ ہی نہیں۔ یہ مطالبہ زبانِ قال اور زبانِ حال ہر دو سے اتنا شدید ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً انڈونیشیا میں ہماری جماعت ہے ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں جماعت کو سنبھالنا ہے اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دس مبلغ بھجوائیں۔ ایک ملک سے ایک وقت میں دس مبلغین کا مطالبہ تھا مگر پہلے وہاں بڑی روکیں تھیں ان کا مطالبہ آتا تھا ہم خوش ہو جاتے تھے کہ ہماری کمزوری پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے وہاں مبلغ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ اصرار نہیں کر سکتے البتہ خواہش کا اظہار ہے جو کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے کہ وہاں کے بعض افسر بدلے اور ایک ایسا افسر آ گیا جس نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جتنے چاہو مبلغ یہاں بھججو۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے چھ کی اجازت مانگی چنانچہ وہاں سے ان کی اجازت آ گئی۔ اس وقت تک پانچ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ الحمد للہ۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ ابھی چند مہینے نہیں ہوئے ہیں ابھی دو مہینے ہی ہوئے ہیں مولوی محمد صادق صاحب کو گئے اور بیسیوں خطوط عورتوں اور بچوں کی طرف سے، نوجوانوں اور بوڑھوں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں کہ آپ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے ہماری تربیت خراب ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس

آپ نے مبلغ بھیجے۔ اور مبلغ بھیجیں۔ پس یہ تو چلے گئے اور کہاں سے بھیجیں آپ دیں بچے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک سال کا یا دو سال کا کام نہیں اگر آج شروع کیا جائے تو جو کام آج سے پندرہ سال بعد نتیجہ خیز ہونا ہے تو وہ آج شروع ہونا چاہئے ورنہ پندرہ سال کے بعد نتیجہ خیز ثابت نہیں ہونا۔ جس آم کے درخت سے آج سے آٹھ سال بعد تک آپ نے پھل کھانا ہے وہ آج زمین میں لگنا چاہئے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چونکہ آٹھ سال بعد آپ نے پھل کھانا ہے اس لئے سات سال کے بعد اس کو لگائیں گے مگر پھر آٹھ سال کے بعد اس سے پھل نہیں کھا سکتے۔ آپ اگلے تین چار سال میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے دیں غالباً جامعہ کا چھ سال کا کورس ہے۔ پس چھ سال کے بعد وہ بیچ (batch) نکلنے شروع ہوں گے اور اگلے بارہ سال کے بعد یا پندرہ بیس سال کے بعد جو بھی منصوبہ ہو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس مخلص اور فدائی مبلغین ہوں۔ بعض بڑے اچھے نکلتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ آدمی ان پر قربان ہی ہو جائے۔ ایسے اچھے اللہ تعالیٰ واقف دیتا ہے بعض ٹوٹے ہوئے بھی ہیں۔ بعض میں بال آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہ بال اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی مغفرت کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ یہ بال اردو کا محاورہ ہے یعنی تریڑ آئی ہوئی اور بعض ایسے بد قسمت ہوتے ہیں کہ ابھی چھوٹا سا بال ہی ان کے اوپر آتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے۔ یہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ جس انسان کی فطرت اور کردار پر بال آجائے اس کو میرے لئے استعمال نہ کرنا۔ اس لئے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس پلیٹ میں بال آجائے اسے اپنے کھانے کے لئے استعمال نہ کرنا اس میں زہر جمع ہو جاتا ہے۔ پس ایک پلیٹ میں بال آجائے تو آپ اپنے کھانے میں استعمال نہ کریں اور ایک انسان کے کردار میں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے لئے ایک پلیٹ کی طرح ہے اور ایک گلاس کی طرح ہے اس پر بال آجائے تو کوئی سفارش پہنچ جائے۔ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہمارے دلوں میں وہ غیرت نہیں جو اپنے نفسوں کے لئے ہے۔ پس جس کے کردار اور اخلاق میں بال آجائے گا وہ تو ٹوٹ گیا اسے باہر پھینک دیا جائے گا لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بات کی حفاظت کریں کہ ہمارا ہر نوجوان اس بات سے محفوظ رہے۔ لیکن کبھی ہماری غفلت کی وجہ سے اور کبھی اس کی بد قسمتی کی وجہ سے یا اس کے کسی

پوشیدہ گناہ کی وجہ سے بال آجاتے ہیں وہ پرے پھینک دیئے جائیں گے لیکن صاف شفاف خوبصورت دھلی ہوئی نیک پاک روحیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں (اب مثالیں تو یہی دے سکتے ہیں خواہ روحانی چیزیں ہوں یا جسمانی) خواہشات کو دبانے والے، ذہن کو صاف کرنے والے آپ کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھانے والے اس تڑپ میں ہر وقت بے کل اور بے چین رہنے والے کہ اس خاک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کیوں پڑیں ہمارے سروں پر اور ہماری آنکھوں پر یہ پاؤں پڑتے ہوئے سالار قافلہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے ایسے دل چاہئیں۔ ایسی عقل و فراست چاہئے۔ ایسی پاکیزہ روحیں چاہئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ بنا دے اور کوشش کریں کہ وہ بچے ہمیں ملیں تاکہ ہم ان کو ٹریننگ دیں ہم ان کو علم دیں۔

تحریر جدید نے امریکہ مشن کے لئے اپنے رسالوں اور لٹریچر کی اشاعت کے لئے ایک نیا پریس خریدا ہے۔ میں ضمنی بات بتا دیتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں ایک نئے اور اچھے پریس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایسے پریس کی ضرورت ہے جو اردو کا جو عربی کا جو انگریزی کا اور جو فرانسیسی کی کتب شائع کرنے کا ذریعہ بنے۔ ابھی جب سوال پیدا ہوا فرانسیسی ترجمے کی اشاعت کا وہ میں آگے بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس قسم کا پریس نہ ہونے کی وجہ سے کیا دقت پیدا ہوئی۔

اس عرصہ میں برٹش گی آنا میں ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی۔ الحمد للہ۔ ایک اور مسجد کی تعمیر کے لئے پلاٹ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ثم الحمد للہ۔ ڈچ گی آنا میں ایک سکول کا اجراء کیا گیا۔ ثم الحمد للہ۔

ایک مخلص احمدی دوست کے جنہوں نے اس سال بیعت کی یعنی ڈاکٹر کیوسی (Chiussi) ان کی کوشش سے اسپرٹو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ مرکز کی طرف سے جماعت کو یہ خبر نہیں دی گئی تھی کہ اس ترجمہ کو شائع کرنے کے لئے ایک ہزار پاؤنڈ باہر کے مشنوں کی طرف سے (یہاں تو آپکے بیچ ہمیں ملتا لیکن باہر کی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق دیا ہے انہوں نے یہ رقم دی لیکن نام مرکز ہی کا ہوتا) دیا گیا اور یہ ڈاکٹر کیوسی ایک بڑا ہی مذاقی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جب میں دورے پر گیا تو یہ مجھے ملنے آئے بڑی محبت سے ملتے تھے۔ ایروڈرم پر لینے آئے پھر وہاں چھوڑنے آئے مجھے تو یاد نہیں رہا انہوں نے ہی بعد میں لکھا۔ میں نے چلتے وقت کہا مجھے خط لکھتے رہنا انہوں نے وہ یاد رکھا اور دو تین مہینے مجھے خط نہیں لکھا اور پھر ۴ صفحے کا ٹائپ خط لکھا

اور اس میں یہ لکھا کہ میں نے آپ کو اس لئے خط نہیں لکھا تھا کہ آپ کا وقت قیمتی ہے اور میرے پاس آپ کو بتانے کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں چنانچہ اس خط میں اس نے سارے حالات لکھے اور لکھا کہ میں دل سے احمدی ہو گیا ہوں لیکن ظاہری نہیں ہوا۔ ہم میاں بیوی سارے کیتھولک ہیں میں گر جا میں اسی طرح جاتا ہوں جس طرح پہلے جایا کرتا تھا البتہ گر جا میں جا کر بجائے ان کی دعائیں پڑھنے کے سارا وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اب وہ پاک نفس آگے سے یہ زیادتی کرتا ہے کہ آپ مجھے منافق تو نہیں قرار دیں گے۔ یعنی یہ احساس بیدار تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے کہ وہ کٹر بیوی جس کے ساتھ یہ وفا کر رہا تھا۔ چرچ نے اسے ابتلاء میں ڈالا اور یہ اس سے متنفر ہو گئی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پھر اس نے اعلان کیا۔ اب ہمارا مبلغ وہاں جاتا ہے تو اپنے خرچ پر وہ ساتھ جاتے ہیں ایک تقریر وہ کرتا ہے اور ایک تقریر یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کا اسپرٹو میں ترجمہ کیا ہے اور ہمارے تراجم کو پورا پڑھا ہے اور ان پر عبور حاصل کیا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مبلغ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ تحریک جدید کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ جس طرح باہر دوسرے ملکوں میں آنریری مبلغ ہیں اسی طرح ان کو بھی آنریری مبلغ قرار دے دیا جائے۔ بڑا بے نفس انسان ہے۔ اور بڑا امیر انسان ہے کراچی میں امریکی سفارت خانے کی جو وسیع عمارت ہے اس سے بھی بڑی بلکہ دو گنی گنی بلڈنگ اس انٹرنیشنل کمپنی کی ہے جہاں یہ مینجنگ ڈائریکٹ کے طور پر ڈیوٹی دے رہا ہے مگر جب آپ سے بات کرے گا تو بالکل بے نفس اس کے اندر کوئی تکبر اور ریا نہیں ہے اور جہاں جاتا ہے تبلیغ ضرور کرتا ہے۔ اٹلی میں گیا تو وہاں بھی لیکچر دیا ہر جگہ جا کر تبلیغ کر رہا ہے۔ غرض یہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس طرح کے اور لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا رہتا ہے بہر حال انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا۔ غیر ممالک اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں کثرت سے ہو رہی ہیں۔ لیکن بعض نمایاں پہلو جو ہیں وہ میں اس وقت بتا دیتا ہوں مشرقی افریقہ میں پاکستانی، ہندوستانی لوگ (یعنی پارٹیشن سے پہلے ہندوستان کہلاتا تھا) بہت کثرت سے آباد تھے اور انہی میں سے بیعتیں ہوئیں اور انہی میں سے جماعتیں بنیں اور مشرقی افریقہ مثلاً کینیا کے علاقے میں تو شاید ہی کوئی مقامی باشندہ احمدی ہوا ہو لیکن بڑی مضبوط جماعتیں تھیں بڑے چندے دیتی تھیں۔ بڑی قربانی کرنے والی تھیں۔ لوگوں کے

سامنے مشرقی افریقہ کے نام سے تو مشرقی افریقہ کی جماعت متعارف تھی لیکن ان میں مقامی آدمی تھا ہی نہیں یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب جب وہاں سے لوگ بھاگنے شروع ہوئے حکومت بدل گئی پس جماعت ختم ہونی شروع ہوگئی ہے چنانچہ دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایک ملک جس میں اتنی کثرت سے احمدی پائے جاتے تھے اور ان کا اتنا چندہ ہوتا تھا۔ یکدم جماعت کے سامنے یہ چیز آجائے گی کہ وہاں نہ ہمارے آدمی رہے نہ ان کا چندہ رہا جماعت ہی ختم ہوگئی۔ چنانچہ میرا آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کا یہ پہلا موقع ہے بہت دعائیں کریں مجھے اللہ تعالیٰ نے دعائیں کرنے کی توفیق دی۔ اصل میں تو وہی ہے جو دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور بغیر دعاؤں کے بھی ہمارے کام کرتا ہے۔ ہمارے کیا کام کرتا ہے اسی کے یہ سارے کام ہیں۔

مشرق افریقہ میں ان دنوں مقامی حیشیوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توجہ پیدا ہوگئی ہے اور اسٹھ سے بھی زیادہ بیعتیں ہوئی ہیں۔ کچھ ان دنوں میں آئیں وہ شاید اس میں شامل نہیں۔ بعض جگہ تو گاؤں کے گاؤں احمدی ہو گئے ہیں۔ تزانیا میں زیادہ ہیں یوگنڈا میں پھر اس سے کم اور کینیا میں اس سے کم۔ لیکن کینیا میں اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ساحل سمندر پر غالباً مقامی لوگوں کی جماعتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ دعائیں کرتے رہیں۔

اسی طرح یورپ جہاں میں نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ غالباً ۱۹۲۹ء کی بات ہے آٹھ دس سال میں جا کر ایک یورپین احمدی ہوا تھا اور وہ جماعت جس میں وہ شامل ہوا تھا (آپ سمجھ گئے ہیں میں دوسروں کے نام نہیں لیا کرتا) انہوں نے ایک جلسہ کیا اور بڑا ہنگامہ اور شور برپا کیا۔ میں بھی وہاں گیا تھا۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ میں چھین بیعتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیاسی بیعتیں ہوئی ہیں۔

مشارق وسطیٰ میں جہاں Iron curtain (یعنی آہنی پردہ) تو نہیں لیکن اور بہت سخت دیوار بنائی گئی ہے ان عربی بولنے والے ممالک میں کثرت سے جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حالانکہ وہاں نام بھی نہیں ظاہر کر سکتے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے اگر کسی کو کتابیں بھجوائیں تو سنسروالے ان کو رکھ لیتے ہیں لیکن آسمان کے دروازے بند نہیں کئے جاسکتے نہ آسمان کے فرشتوں کے نزول پر کوئی پابندی لگائی جاسکتی ہے۔

اس بات پر کہاں پابندی لگائی جاسکتی ہے کہ ایک عرب ہمارے ایک احمدی دوست سے ملے اور چند گھنٹے تبادلہ خیال کرنے کے بعد کہنے لگے میری بیعت لے لو۔ اس احمدی دوست نے انہیں جواب دیا کہ ابھی تم نے کچھ سیکھا نہیں تمہاری بیعت میں نہیں لوں گا کتابیں لے جاؤ پڑھو اور جب تسلی ہو جائے اور اگر تسلی ہو جائے تو پھر بیعت کر لینا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ غالباً ۶۸، ۱۹۶۷ء کی بات ہے یعنی آج سے دو اڑھائی سال پہلے کی بات ہے صحیح وقت مجھے یاد نہیں رہا۔ غرض وہ کہنے لگے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ اس لئے کہ میرے والد ۱۹۵۸ء میں یعنی دس سال پہلے فوت ہوئے تھے اور اپنی وفات کے وقت انہوں نے اپنے لڑکوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنی چاہتا ہوں اسے بھولنا نہیں اور وہ وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ وہ مہدی منتظر اور مسیح موعود جس کا وعدہ دیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے لیکن میں ایک بد بخت انسان ہوں کہ مجھ سے اس کا ملاپ نہیں ہو سکا اور اس کی جماعت میں شامل ہوئے بغیر ہی اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں میری تمہیں یہ وصیت ہے کہ جب بھی تم اس کا نام سنو اس کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس عرب دوست نے کہا میں نے کتابیں نہیں پڑھنی میرے باپ کو الہاماً بتایا گیا تھا۔ میرا ملاپ ہو گیا ہے میں نے دیر نہیں کرنی میری ابھی بیعت لے لو۔ چنانچہ اس نے پھر بیعت کر لی۔ وہاں اس کے ساتھ دو اور ساتھی تھے ان کو جا کر رات خوب تبلیغ کی اور اگلے دن ان کی بھی بیعت کروادی۔ پھر وہ وہاں سے کئی سو میل دور ایسے علاقے میں چلے گئے اور چند مہینوں کے اندر کئی جگہوں پر اس کے علاقے میں جماعتیں قائم ہو گئیں میرے خیال میں کوئی چالیس کے قریب خاندان یعنی اس میں بچے عورتیں شامل نہیں بلکہ چالیس کے قریب خاندان اس پہلے نئے احمدی دوست کی تبلیغ کے نتیجے میں احمدی ہو گئے۔

علاوہ ازیں اور خبریں بھی آرہی ہیں کہ کئی جگہ پر بعض خاندان یعنی جماعتوں کے رنگ میں (انفرادی طور پر نہیں) احمدی ہو گئے ہیں۔ اب آسمان سے فرشتوں کے نزول پر تو پابندی نہیں لگائی جاسکتی اب اگر وہ آکر کسی کو کہیں الہام یا کشف یا رویاء میں کہ اللہ کے نزدیک مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے روحانی فرزند ہیں ان سے دور نہ رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو پھر پانہیں سکو گئے۔ پس دنیا جو مرضی سمجھے سمجھتی

رہے دنیا جو مرضی ان سے سلوک چاہے کرتی رہے وہ تو ایک قدم نہیں رکھیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور صداقت احمدیت کو قبول کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی مجبوریوں کو دیکھ کر بہت سی اجازتیں بھی دی ہوتی ہیں۔ ایک عراقی عرب جس بے چارے نے عراق میں رہ کر کبھی خط نہیں لکھا تھا اور نہ کسی کو پتہ تھا کہ وہ شخص احمدی ہے۔ موتمر عالم اسلامی کے عراقی وفد کے ایک ممبر کی حیثیت میں وہ مدینہ گیا۔ آخر پڑھا لکھا اور بڑا اثر و رسوخ والا آدمی تھا اسی لئے تو موتمر اسلامی کے وفد میں شامل تھا۔ جب مدینہ گیا اپنے ملک سے باہر نکل گیا وہاں اسے جرأت پیدا ہوئی مجھے خط لکھا کہ عراقی وفد کے ممبر کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں میں احمدی ہوں دعا کے لئے اس کا بڑے پیار کا خط تھا اس کے خط سے مجھے بہت لطف آیا تو آپ کو علم ہو یا نہ ہو خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو تو ان لوگوں کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو وہ ہمارے ہیں اور ایک انتہائی طور پر پیار کرنے والے بچے کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور آپ کی محبت اور آپ کے فیض اور آپ کی برکتوں سے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علاقوں پر بھی اپنی برکتیں نازل کر رہا ہے۔

عکراہ میں تین نئے سکول کھولے گئے ہیں۔ نائیجیریا میں ایک سینڈری سکول کے لئے عمارت حاصل کی گئی ہے جنوری سے انشاء اللہ سکول کھل جائے گا۔ کینیا میں سکول کھولنے کے لئے حکومت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے وہاں بھی انشاء اللہ جلد سکول کھل جائے گا۔ افریقہ میں متعدد نئی مساجد کی تعمیر ہوئی ہے جن میں سے ایک بڑی مسجد ٹیچی مان قابل ذکر ہے۔ جنوبی افریقہ میں ایک وسیع مشن ہاؤس کی تعمیر کا کام شروع ہونے والا ہے۔ ابتدائی تیاری مکمل ہو چکی ہے گیمبیا میں مشن ہاؤس تعمیر ہو چکا ہے۔ ایک اور مشن ہاؤس اور ڈسپنسری کے لئے زمین حاصل کر لی گئی ہے۔ پچھلے سال وہاں ہمارا میڈیکل مشن بھی کھل چکا ہے جو بڑا اچھا کام کر رہا ہے بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔

ماریشس میں بھی لوگوں کو جماعت کی طرف توجہ اور رغبت ہے وہاں ہماری جماعت بڑی مخلص ہے وہاں کے مبلغ بڑے فدائی ہیں اور انہوں نے جماعت کی صحیح قیادت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے اور ماریشس کی جماعت کو بھی جزا دے۔ بڑی قربانی کرنے والی جماعت ہے یوں

ویسے ہے تو یہ ایک جزیرہ گروہ بڑے وسیع پیمانوں پر جلسے کرتے ہیں اور ہر بڑے جلسے میں ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا دوسرے وزراء یا چیف منج یا ججوں میں سے کوئی منج غرض بڑے بڑے چوٹی کے لوگوں کو وہ شامل کرتے ہیں۔ ان کو اپنا لٹریچر دیتے ہیں اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور پڑھا ہوا ہوتا ہے ہمارا لٹریچر کیونکہ بڑے لوگوں کا عام قاعدہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ نہیں سوچتے بلکہ اپنے سیکرٹری سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تقریر تیار کر دو۔ ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور سیکرٹری بچارہ کیا کرے گا جب کہ افسر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کہاں سے تقریر تیار کرے گا چنانچہ وہ پھر جس کے متعلق تقریر کرنی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ ہمیں کچھ مواد دو چنانچہ بعض دفعہ اسلامی اصول کی فلاسفی یا دوسری کتابیں دے دی جاتی ہیں۔ پھر وہ بڑی محنت سے پڑھتا ہے اور اپنے اعلیٰ افسر کو تقریر تیار کر کے دیتا ہے۔ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کو جو فائدہ دیتے ہیں کیونکہ کسی کی طرف غلط کریڈٹ منسوب ہونا تو ظلم ہے اور بے عزتی ہے ہم ایک سیکنڈ کے لئے اسے برداشت نہیں کر سکتے لیکن صحیح بات کسی کی طرف منسوب ہو جانا جو دنیا کے فائدہ کے لئے ہے یہ بہر حال اچھی بات ہے۔ چنانچہ جب کبھی کسی جلسے پر کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے اور وہ اس میں تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اخلاق کے متعلق اسلام نے یہ تعلیم دی ہے احمدیت یہ سکھاتی ہے اور حیات بعد الممات کے متعلق اسلام نے یہ تعلیم دی ہے امن کے متعلق اسلام یہ تعلیم دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس وہ صحیح تعلیم کا نقشہ پورا بیان کر دیتا ہے کیونکہ اسلامی مواد سے تقریر ہوتی ہے اور لوگوں کو توجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھیں تو سہی یہ پرائم منسٹر یا کسی منسٹر یا چیف منج نے تقاریر کی ہیں۔ ان میں حقیقت کہاں تک ہے۔

غرض ہمارے دوست وہاں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو نوازتا بھی ہے۔ تربیت کے لحاظ سے جماعت بڑی اچھی ہوگئی ہے اور اس سال میں بیعتیں بھی ہوئی ہیں۔ الحمد للہ۔

ترجمہ تفسیری نوٹوں کے ساتھ شائع ہوا ہے اس کی چودہ ہزار کاپیاں چھپی ہیں زیادہ تر تو یہ غیر ممالک میں لگے گا۔ اسی طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جو دیباچہ قرآن کریم کا لکھا ہے۔ وہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے لیکن دیباچہ بھی ہے یہ بھی ہم نے چودہ ہزار کی تعداد

میں طبع کروا لیا ہے تاکہ جس کے پاس یہ نہ ہو وہ اس کو خرید لے۔ اسے ہم ایک مستقل کتاب کی حیثیت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈچ زبان کا ترجمہ قرآن کریم ختم ہو چکا تھا پانچ ہزار کی تعداد میں ڈچ ترجمہ قرآن کریم شائع کیا گیا ہے۔ یہ دوسرا ایڈیشن ہے انڈونیشین میں ترجمہ قرآن کریم اور تفسیری نوٹ دس پارے کے تیار ہو گئے تھے۔ ترجمہ کے متعلق تو غالباً میں نے پچھلے جلسہ سالانہ پر یہ اعلان کیا تھا اس کے بعد اور تفسیری نوٹ بھی تیار ہو گئے اور ان کی اطلاع کے مطابق آج قریباً وہ طبع ہو کر اشاعت کے لئے باہر آ گئے ہوں گے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسہ کو بابرکت کرتا ہے ان کی کوششوں کو بھی بابرکت فرمائے۔ ہر جگہ یہاں خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں ان کوششوں کے شامل حال فرمائے۔

تحریک جدید کی طرف سے تقریباً انیس کتب شائع ہو چکی ہیں یا زیر طباعت ہیں اور عنقریب شائع ہو جائیں گی۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سوا حلی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور انڈونیشین اور جرمن اور عربی میں بھی اس کا ترجمہ کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دعوت الامیر کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے یہ کل اکیس کتابیں جو یا تو شائع ہو چکی ہیں یا شائع ہونے والی ہیں۔

اس کے بعد وقف جدید کو لیتا ہوں صدر انجمن احمدیہ کو آخر میں بیان کروں گا۔ وقف جدید کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اصلاح و ارشاد ہر لحاظ سے بڑا ہی اچھا کام ہو رہا ہے۔ تربیت بھی ہے پیغام کا صحیح طور پر پہنچانا بھی ہے۔ پس یہ تو ہے کہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔

لیکن میرے لئے اور آپ کے لئے بہت ہی خوشی کا باعث یہ ہے کہ سال رواں میں نگر پار کر کے علاقہ میں ۲۳۶ ہندو اسلام قبول کر کے احمدیت میں داخل ہوئے ہیں۔ الحمد للہ۔ یہ گزشتہ سال کی نسبت تعداد کے لحاظ سے ۳۵ فیصد اضافہ ہے یعنی اس سے پہلے سال میں جو ہندو احمدی ہوئے تھے وہاں اس سال ۳۵ فیصد زائد احمدی ہوئے ہیں اور اس علاقے میں کل ۵۷۰ ہندو مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں مختلف نوعیت کے کام ہیں وہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق دے ہم ان کو سنبھال سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں اور یہ جو میں نے تعداد بتائی ہے یہ بالغوں کی ہے۔ بچے

جو ساتھ ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ اس میں شامل نہیں کیونکہ اس علاقے میں نو معلم وقف جدید ایک ہزار کو قرآن کریم اور اسلامی تعلیم سکھا رہے ہیں۔

وقف جدید کے چندے کی وصولی سال رواں میں پہلے سال کی نسبت تو زیادہ ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اس پر ہم خوش ہوں دوسرے یہ کہ چندہ بالغاں میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہے اگر آپ کے بچے آپ کی عزت کی حفاظت کے لئے آگے نہ بڑھتے تو جو ۶۷ روپے کی کمی آپ بالغوں کے چندے میں رہ گئی تھی وہ ان کی زائد قربانی (پچھلے سال کے مقابلہ میں زائد قربانی) جو ۴۵۷۷ روپے ہے اس قربانی کے پردہ میں یہ ۶۷ روپے کی غفلت چھپ نہ سکتی لیکن آپ کے بچوں نے آپ کی عزت رکھ لی آپ اپنے بچوں کی غیرت کے جو تقاضے ہیں ان کو اب پورا کریں۔

وقف عارضی کی تنظیم کے ماتحت ۱۳۳۳۲ افراد باہر بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ۵۴۸ مستورات نے اس تحریک میں حصہ لیا ترجمۃ القرآن کلاس سے جماعت ایک حد تک فائدہ اٹھاتی ہے یا مجھے یوں کہنا چاہئے کہ بہت سی جماعتیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور بہت سی غفلت برت رہی ہیں انہیں بھی فائدہ اٹھانا چاہئے کیونکہ فائدہ کی چیز ہے۔

ایک تحریک میں نے شروع کی تھی وقف بعد ریٹارمنٹ۔ اس وقف کی تحریک میں ۵۴ احباب نے حصہ لیا تھاجن میں سے دور ریٹارمنٹ کے بعد خدمت پر لگ گئے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر عمر الدین صاحب غیر ملک میں چلے گئے ہیں اور باقاعدہ طبی ڈاکٹر کی حیثیت میں وہاں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔

اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی سترہ آیات یاد کرنے والیوں کی رپورٹ اگر آپ شرمندہ نہ ہوئے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں بہنیں اور بچیاں بھائیوں اور بچوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ اس وقت تک لجنہ اماء اللہ میں جو رپورٹ آچکی ہے وہ مجھے افسوس ہے کہ کاغذ کہیں رہ گیا ہے لیکن رف (rough) اندازہ مجھے یاد ہے۔ لجنہ اماء اللہ کی ممبران اور ناصرات میں سے ۴۲ یا ۴۳ سو یعنی چار ہزار اور کچھ سونے یہ آیات پوری یاد کر لی ہیں جو ان کی رپورٹ آچکی ہے اور ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے نصف یا کچھ زائد آیا ہے یاد کر لی ہیں ابھی اس حفظ کو مکمل نہیں کیا اور ابھی ان کی رپورٹ نہیں آئی لیکن اس کے مقابلہ میں مردوں کی جو رپورٹ ہے وہ شاید دو اڑھائی ہزار سے اوپر

نہیں۔ بس اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے۔
اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن صدر انجمن احمدیہ اور جماعت کے متعلق میں ضرور کچھ کہنا
چاہتا ہوں۔ پہلے جماعت پاکستان کے متعلق یا مجھے یوں کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہی
عجیب اور پیاری جماعت پیدا کی ہے۔ دنیا میں آپ کو کہیں یہ نظارہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کی راہ میں
اس طرح مال کی قربانی دینے والے ہوں کہ دنیا دار نگاہ ان قربانیوں کو حماقت سمجھے بیوقوفیاں سمجھے یہ
مالی سال جس کا ابھی کچھ حصہ گزرا ہے اور کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کے چندہ جات
کے علاوہ اور بھی بہت سے مالی بوجھ جماعت پر ڈال رہا تھا۔ مثلاً فضل عمر فاؤنڈیشن کے بقائے جو
تھے۔ وہ آخری دو مہینوں (یعنی مئی اور جون) میں وصول ہونے تھے۔ اس کے علاوہ تحریک جدید
کے چندے تھے۔ چار لاکھ کے قریب تو صرف فضل عمر فاؤنڈیشن کے وعدوں کی اس عرصہ میں
وصولی ہوتی ہے اور یہ بڑی قربانی ہے اور تحریک جدید اور وقف جدید کے سال ختم ہوتے ہیں۔ ان
کے وعدوں کے پورا کرنے کی طرف توجہ دی گئی اس کے باوجود چوبیس دسمبر تک صدر انجمن احمدیہ
کے چندوں کی وصولی میں سوادولاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پچھلے سال ۸۵ پچاسی ہزار
روپے کا اضافہ تھا لیکن اس سال باوجود اس کے کہ ہم نے زور دیا فضل عمر فاؤنڈیشن کے وعدے پورا
کر دو دوسرے عطایا دو اس کے باوجود پچاسی ہزار کے مقابلے میں سوادولاکھ روپیہ زائد وصول ہوا
ہے۔ الحمد للہ۔

اللہ تعالیٰ ہی اس جماعت کو پہچان سکتا ہے۔ اسی نے یہ قوت اور استعداد بخشی اور نیکی کی توفیق
دی ہے اور وہی جزا دینے والا ہے۔ میرے جیسوں کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں ہم کمزور
انسان ہیں آپ کو کچھ دے نہیں سکتے دروازہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں آپ کے لئے۔ وہی دروازہ آپ
کھٹکھٹائیں اپنے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی۔ ہم بھی اپنے لئے اور آپ کے لئے وہی دروازہ
کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو دیکھے آپ کے دل میں اپنی محبت کو پائے اور اس کے مطابق
آپ کو جزا دے۔ اگر کوئی بشری کمزوری رہ گئی ہو تو رب غفور نظر دوسری طرف کر لے۔ جیسے کہ کچھ ہوا
ہی نہیں یا جیسا کہ ہم میں کوئی کمزوری ہی نہیں اور وہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ۹۷)
کے مطابق آپ کو جزا دینے والا ہوا اور ہم پر بھی اپنا رحم کرنے والا ہو۔

ایک اور بات - یہ نیا سال جو کیم جنوری سے شروع ہونے والا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ سال رواں فسادات اور ہنگاموں سے شروع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی بشارتوں اور اس کی دی ہوئی ترقیات پر ختم ہو رہا ہے۔ فالحمد لله علی ذلک جو نظم اس وقت پڑھی گئی ہے میں نے انہیں دی تھی کچھ شعروں کی ترتیب بھی بدلی تھی اپنے آج کے موڈ کے مطابق اور میں بھی لطف اٹھا رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ بھی لطف اٹھا رہے ہیں۔ میرے دل میں بشارت کے چشمے پھوٹ رہے تھے اور خوشی کا ایک دریا بہہ رہا تھا اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں میسر آئیں۔

ایک کمزور جماعت دنیا کی دھنکاری ہوئی اور اس فساد کی آگ میں پڑتی ہے پھر نکلتی ہے پھر خالی پختی نہیں بلکہ یہ سارا جسے ہم ثمرات حسنہ کہتے ہیں۔ دنیا دار یہی کہتے ہیں کخواب کے اور ریشم کے اور اس کے اور ان کے جو قیمتی ترین لباس ہوتے ہیں ان میں ملبوس زیور پہنے ہوئے آنکھوں میں سرے لگے ہوئے روحانی طور پر (جسمانی طور پر چوکا نے رومال کی ہمیں ضرورت نہیں) اور نہایت حسین۔ ایسا حسن کہ شاید انسان کی آنکھ اسے دیکھ نہ سکے یعنی وہ حُسن جس پر اللہ کی نگاہ ضرور پڑے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس سال کو ختم کیا اور اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ ہماری اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہمارے اپنے کسی ہنر کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہماری اپنی کسی قربانی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے اپنے کسی ایثار کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہوا اور یقیناً ہوا اور ہم اپنے رب پر خوش ہیں کہ اس کے فضل سے یہ سب کچھ ہوا۔

میں نے عملاً سال رواں میں اس اقتصادی نظام کا چھوٹے پیمانے پر اجرا کر دیا ہے جس کی طرف قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ پہلے میری تحریک جماعت کو تھی ایک اور رنگ میں مگر سال رواں میں ہم نے صرف ربوہ میں ان خاندانوں کو جو انجمن کے کارکن نہیں اور طریق سے اپنی روزی کمانے والے ہیں جن میں بیشتر بیوائیں ہیں ربوہ میں ایسے ۱۵۰ مستحق خاندانوں کو ۸۳۳ من گندم کی امداد دی گئی۔ یعنی سو فیصد جماعت کے نظام نے یہ بار اٹھایا اس کے علاوہ صدر انجمن احمدیہ کے کارکنوں میں سے ۴۳۳ خاندانوں کو جو ۱۲۵۱۱ افراد پر مشتمل پچیس فیصدی گندم کی رعایت دی گئی یعنی ۱۲۵۱۱ افراد کے لئے گندم کی جتنی ضرورت تھی اس گندم میں سے پچیس

فیصدان کو مفت دی گئی۔ باقی کے کارکنان کو گندم کی خرید کے لئے انجمن کی طرف سے قرضہ دیا گیا جو آسان قسطوں میں وہ سال کے اندر ادا کریں گے۔ تحریک جدید میں ۹۶ خاندانوں کے ۵۲۰ افراد کو یہی گندم کی رعایت دی گئی اور وقف جدید کے ۱۱۶ خاندانوں کے ۳۷۲ افراد کو بھی ۲۵ فیصد مفت گندم کے لحاظ سے یا ٹوٹل قیمت کی ۲۵ فیصد امداد دی گئی۔

عید کے موقع پر میرا یہ خیال تھا کہ کچھ سردیوں کے لئے کپڑے بن جائیں گے اور اس طرح سہولت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ صدر انجمن احمدیہ کے ۴۷۰ خاندانوں کو جو ۲۴۶۴ افراد پر مشتمل تھے (یعنی خاندان ۴۷۰ اور افراد ۲۴۶۴) ان کو فی کس کے لحاظ سے ۱۲ روپے امداد دی گئی یہ افراد پر دی گئی مثلاً ایک خاندان اگر گھر ۱۰ افراد پر مشتمل ہے تو اس کو ۱۲۰ روپے عید دی گئی۔ تحریک جدید میں ۹۸ خاندانوں کے ۵۱۲ افراد کو ۱۲ فی کس کے لحاظ سے یہ تحفہ دیا گیا اور وقف جدید کے ۸۸ خاندانوں کے ۲۹۳ افراد کو ۱۲ روپے فی کس کے لحاظ سے یہ تحفہ دیا گیا۔

اور اسی طرح تقریباً ۱۲۰ لحاف اس وقت تک سردیوں کے لئے تقسیم کئے جا چکے ہیں۔ یہ تو تفصیل ہے اسلام نے یہ کہا اور وہ میرے خطبات چھپ چکے ہیں جماعت کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے کیونکہ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں سے بات کی ہے ان میں جو ذرا زیادہ مخالف ہوں وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے اور جو موافق ہوں ان کا یہ حال ہے کہ ایک بہت بڑا سیاستدان کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ ایک جگہ ہم سب اکٹھے تھے میں نے جو پرو لفت (Pro-Left) تھے ان کو پکڑ لیا اور کہا اس معاملہ میں بات کرو اور پھر کہا قرآن نے یہ تعلیم دی ہے اس سے زیادہ حسین تعلیم تم لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے (ویسے مجھے پتہ لگا کہ اس نے صحیح بات کی تھی) کہا کہ امام جماعت احمدیہ نے ہمیں یہ نکتہ بتایا تھا ہمارے ذہنوں میں تو پہلے نہیں آیا۔ پس یہ خطبات بڑی مفید چیز ہے اور یہ کہنا کہ صرف اشتراکیت یا سوشلزم غریب کا ہمدرد ہے اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے۔ دراصل یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سوشلزم اور اشتراکیت غریب کی ہمدرد ہیں۔ میں نے اپنے خطبات میں اصولاً یہ ثابت کیا ہے کہ یہ غلط ہے جس کو دنیا غریب کہتی ہے اور جسے اسلام حق دار کہتا ہے اس کا ہمدرد اور خیر خواہ سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں۔

میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں صبح سے بیمار بھی ہوں صبح سے اللہ تعالیٰ

نے بڑا فضل کیا ہے آپ کی دعائیں بھی لگیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کا ذریعہ بنیں۔
میں اتنا لمبا بول سکا ہوں۔ میرا سر انفلو انزا کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے
سب سے اچھا نعرہ جو سمجھا جاتا ہے کہ غریب کے حق میں کبھی لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ

"From each according to his ability
and to each according to his need"

یعنی کسی پر اس سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے اور ہر شخص کو اس کی
ضرورت ہے۔ یعنی نیڈ (need) کے مطابق دے دیا جائے لیکن اس کے اندر فساد اور فتنہ یہ ہے
کہ ضرورت یا نیڈ (need) کہا مگر ضرورت یا "need" کی تعریف نہیں کی۔ چنانچہ چین
میں "need" (یعنی ضرورت) کی تعریف اور کی جا رہی ہے اور یوگوسلاویہ میں اور تعریف کی
جا رہی ہے اور جہاں جو مرضی چاہے تعریف کرتا ہے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں ضرورت یا
غربت کا لفظ استعمال نہیں کیا بعض جگہ استعمال کیا ہے مگر وہ اپنی اصطلاح میں کیا ہے۔ بعض جگہ بعض
لوگ جن کو سمجھ نہ ہو ممکن ہے انہیں غلط فہمی ہو جاتی ہو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنی اصطلاح
میں ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے یا کسی غیر کے حق کی تعیین کر
سکے۔ کسی انسان کا یہ حق ہی نہیں کیونکہ عقلاً بھی اور شرعاً بھی اور واقعاً بھی کسی شخص کے حق کی تعیین
وہی کر سکتا ہے جو اس شخص اور اس کے حالات اور اس کی طاقتوں اور اس کی قوتوں اور اس کی
ضرورتوں کا پورا علم رکھتا ہو۔ جو پورا علم نہیں رکھتا وہ تعیین نہیں کر سکتا اور سوائے اللہ کے کوئی علم نہیں
رکھتا اس واسطے اسلام نے کہا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے انسان کے حق کی تعیین کوئی دوسری ہستی کر
ہی نہیں سکتی۔

اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حق کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ چونکہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور
میں نے ہر فرد واحد کو وہ قوتیں اور استعدادیں دیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسلام نے کہا
کہ یہ قوتیں اور استعدادیں چار قسم کی ہیں یعنی جسمانی، ذہنی، اخلاقی، اور روحانی، غرض اللہ تعالیٰ نے
یوں فرمایا کہ میں نے ہر فرد واحد کو چار قسم کی قوتیں اور استعدادیں دیں یعنی جسمانی قوتیں روحانی
استعدادیں اخلاقی اور ذہنی استعدادیں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کس فرد کے پاس کتنی کتنی ہیں۔ اس

لئے میں یہ اصول وضع کرتا ہوں حق کے متعلق اور حق کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ ہر فرد واحد کو میں نے یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہر قسم کی قوتیں اور استعدادیں دی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی صحیح اور کمال تک نشوونما ہو۔ اس لئے ان قوتوں اور استعدادوں کی نشوونما کو کمال تک پہنچانے کے لئے جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ اس کا حق ہے اور اگر اس کا یہ حق نہیں ملتا تو وہ مظلوم ہے اور کوئی اور غاصب ہے اب یہ اتنی حسین اور comprehensive (یعنی جامع) تعریف ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی انسانی تعریف پیش ہی نہیں کی جاسکتی۔ یہ میں دھڑلے کے ساتھ آج کمیونسٹ اور سوشلسٹ ملکوں کو بھی چیلنج کرنے کے لئے تیار ہوں اور یہاں جو ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں میرے ساتھ آ کر آرام سے باتیں کریں میں ان کو قائل کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتوں کو میں کر چکا ہوں۔

پس اسلام نے اتنی حسین تعلیم دی ہے کہ دنیا دار اپنے اصول اور اپنے فلسفوں کو لے کر اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عملی شکل میں ان کو قائم کریں۔ ایک چھوٹی سی تصویر صدر انجمن احمدیہ کی امدادوں میں نظر آتی ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کے کارکنوں کا جہاں تک تعلق ہے کیونکہ وہ واقفین ہیں اور فدائی ہیں وہ تو آتے ہی اس معاہدے پر ہیں کہ ہم سارے حقوق نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر رہے ہیں۔ یہ شکل ہم ایسی جگہ قائم کر سکتے ہیں جہاں وقف کا تخیل نہ ہو۔

ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جہاں ہم یہ کر سکتے ہیں اور وہ احمدیوں کی انڈسٹری (industry) ہے۔ اس لئے آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ احمدی جن کارخانوں کے مالک ہیں وہ اپنے کارخانوں کے مزدوروں کی اجرتوں میں اسلامی اصول کو اپنائیں اور وہ اس کے مطابق کام کریں اسی طرح وہ زمیندار جن کو ایک خاص رقبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی ہیں اب میں سوچ رہا ہوں میرے ذہن میں ابھی یہ نہیں آیا کہ وہ رقبہ کتنا ہو میں بعد میں اعلان کروں گا ممکن ہے مشورہ کرنا پڑے وہ زمیندار بھی اسلام نے جو اقتصادی اصول بنانے ہیں ان کے مطابق ذمہ داری لیں ان لوگوں کی جو غیر زمیندار اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔

ہم ایسا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو زمینیں بھی دی ہیں اور بڑے کارخانے بھی دیئے

ہیں اور کارخانوں کے لئے تو میں ابھی ایک کمیٹی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ کارخانوں کی جو کمیٹی ہے اس کا نیوکلیس (nucleus) یعنی اس کا مرکزی نکتہ اس کا سیکرٹری میں سید محمد احمد صاحب کو بنانا ہوں جو شاہنواز جو سز میں مہینگ ڈائریکٹر ہیں۔ یہ مجھ سے مشورہ کر کے نیوکلیس (nucleus) اس طرح میں بنا دیتا ہوں وہ سات آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں اور اپنے مشورہ کے لئے اور میرے خطبات کو سمجھنے کے لئے (ممکن ہے بعض جگہیں ایسی ہوں جو عملی شکل دینے کے لئے ان کو سمجھ بھی نہ آئے پس مجھ سے بھی اور دوسروں سے بھی مشورہ کریں اور تین مہینے کے اندر اندر وہ یہ سکیم میرے سامنے پیش کریں کہ ہمارے نزدیک قرآن کریم کی اقتصادی تعلیم کی روشنی میں احمدی کارخانہ دار کو اپنے کارکنوں یعنی مزدوروں وغیرہ سے اس قسم کا ان اصولوں پر سلوک کرنا چاہئے۔

نمبر دو یہ کہ اپنے سرمایہ اور سالانہ نفع کے لحاظ سے آیا وہ یہ سلوک کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ ایک کارخانہ دار کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں لیکن آپ ہمارے حساب دیکھیں ہمیں اتنا نفع ہی نہیں آتا کہ ہم اتنا دے دیں۔ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ جو اسلام کے اصول حقوق کی تعیین کر رہے ہیں تم واقع میں چونکہ ان کو پورا ادا نہیں کر سکتے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم سو فیصدی حقوق ادا نہ کرو تم اسی فیصدی حقوق ادا کر دو باقی بیس فیصدی ہم جماعت کی طرف سے ادا کر دیں گے۔ پس اس طرح حق کی تعیین ہو جائے گی حق کی تعیین ہو جانے کے بعد یہ کہنا کہ ہم حق نہیں دیتے یہ صحیح نہیں سوائے اس کے کہ ان کو جماعت یہ کہے کہ ہم بھی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے نہیں دیئے یہ تو اور بات ہے لیکن یہ کہنا کہ حق کی تعیین ہو گئی ہے اور جماعت کو توفیق ہے یا نہیں۔ اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں پھر خواہ مخواہ اعتراض پیدا ہوگا پس اگر اللہ تعالیٰ جماعت کو یہ توفیق دے گا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو ایسے کارخانوں کے بقیہ فی صد حقوق جماعت کی طرف سے ادا ہو جائیں گے پس کارخانہ دار ہوشیار ہو جائیں۔ میرے نزدیک تو اسلام کا یہ مسئلہ ہے جن کارخانوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفع دے اور حقوق تو بہر حال معین ہیں ان سے زیادہ اگر وہ نہ دیں تو ان پر کوئی الزام نہیں کوئی گناہ نہیں وہ اپنے کارخانے کے کارندوں کے حقوق ادا کر دیں اور ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ کچھ رہ جائے تو ہم ان سے جبراً نہیں لیں گے۔ ان کو ہم یہ تحریک کریں گے کہ تمہارے حقوق بھی ادا ہو جاتے ہیں تمہارے پاس کام کرنے والوں کے حقوق بھی ادا

ہو جاتے ہیں اس لئے جو زائد رقم ہے اس میں سے رضا کارانہ طور پر اپنی خوشی سے کچھ اس کا من فنڈ میں دے دو جہاں سے وہ حقوق ادا ہوں گے۔ جہاں خود وہ کارخانہ و حق پورا نہیں کر سکتا۔ یہ قابل عمل سکیم ہو سکتی ہے۔

پھر زراعت کے متعلق جو ہمارے ناظر زراعت ہیں ان کو سیکرٹری اور وکیل زراعت کو ایڈیشنل سیکرٹری مقرر کرتا ہوں۔ پھر وہ زمینداروں میں سے لے کر کیونکہ اس میں ابھی ابتدائی کام بھی کرنے والا ہے آج دوسری طرف میں نے کافی سوچ لیا اس طرف مجھے آج ہی خیال گیا کہ ان کو بھی ساتھ شروع کر دوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب دیہاتی ہے آج اگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے کسی کو حقیقی ماں باپ کے علاوہ اس کا ماں باپ بنایا ہے تو وہ آپ احمدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو حقیقی ماں باپ کے بعد دوسرے کا ماں باپ بنا دیتا ہے اور وہ غفلت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی طاقت سے اپنی ریسورسز (resources) یعنی ذرائع سے حقوق کی ادائیگی کے سامان پیدا کرو اور جہاں نہ ہو سکے وہاں اگر آپ کی آواز میں اثر ہو تو دوسروں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ انسان کے حقوق ادا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ مظلوم انسان کو یہ طاقت دے گا کہ وہ پھر ظلم کا بدلہ لیں اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ لینے والے کو تھوڑے سے ظلم کی بھی عملاً اجازت دے دیتا ہے میں شرعاً نہیں کہوں گا لیکن عملاً دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ اس واسطے ان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہئے۔ ان کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ جب تک ہر انسان کا حق ادا نہیں ہو جاتا (ایک اصولی بات ہے اسے کبھی نہ بھولیں) اس وقت تک ہر انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا نہیں ہو سکتا ہر انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا کرنے کے لئے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرکزی نقطہ ہے اور یہی حقیقت محمدیہ ہے

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۶۹ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائی:-
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَىٰ
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ
مَا أَوْحَىٰ (التَّجْوِ: ۴ تا ۱۱)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

اصل مضمون شروع کرنے سے قبل میں دو باتیں دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ اگلے ماہ کی یکم تاریخ سے وقف جدید کا سال نو شروع ہو رہا ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آپ کو اور ہمیں پہلے سب سالوں کی نسبت قربانیوں اور ایثار کی زیادہ توفیق عطا کرے اور انہیں قبول کرتے ہوئے ہمیں بہتر اور احسن ثمرات عطا کرے اور وہ ہمارے نصیب میں کرے۔

دوسرے یہ کہ وقف جدید کے لئے بہت سے نئے معلمین کی ضرورت ہے جو کلاس اگلے ماہ شروع ہو رہی ہے ابھی تک اس کے لئے بہت کم نام دفتر میں پہنچے ہیں۔ دوست اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کلاس میں پچاس اور سو کے درمیان واقفین ہونے چاہئیں ورنہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نباہ نہیں سکیں گے۔ دوست اس طرف متوجہ ہوں اور اہل اور قابل معلم وقف جدید کے نظام کے لئے جلد سے جلد مہیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو جزاء دے۔

گذشتہ سال میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس ساری کائنات کو ایک کھیل کے طور پر بلا مقصد اور بلا غرض پیدا نہیں کیا گیا۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے

ایک مقصد ہے ایک غرض ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر شے چیونٹی سے لے کر ستاروں کے خاندانوں تک غرض کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اس مقصد کے حصول میں مفید اور معاون نہ ہو۔ یہ بات ہمیں اس طرح بھی اور زیادہ سمجھ آ سکتی ہے کہ حقیقت یہ ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی ہر شے اپنی حقیقت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بعض جلوے اس کے حکم سے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر اس مادی دنیا کی اشیاء کی حقیقت اور اصلیت یہ ہو تو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض صفات کو اپنے ارادہ اور حکم سے خاص شکلیں بھی دے اور اس فعل کا کوئی مقصد بھی نہ ہو۔ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے اور مجموعی طور پر تمام اشیاء اور یہ کائنات ان کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی نوع پیدا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظہر بننے کی قابلیت اور اہلیت رکھتی ہو کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ دلیل کے ساتھ اگر نمونہ نہ ہو تو وہ دلیل مؤثر نہیں ہوتی۔ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا مظہر بنانے کے لئے کسی نمونہ کی ضرورت ہے اور وہ نمونہ کامل اور مکمل ہونا چاہئے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ”احد“ ہوں۔ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الاخلاص: ۲) میرا کوئی مثل و مانند نہیں ہے حقیقی معنی میں میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ میں اکیلا، منفرد اور یکتا ہوں بہر حال اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں لیکن اس کی مشیت نے یہ چاہا کہ ظلیت میں ایک وجود کو اپنی تمام صفات کا مظہر اتم بنا دے یعنی اللہ اللہ کا مظہر بنا دے۔

اللہ کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام صفات حسنہ سے متصف اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ ہے۔ گویا اللہ تمام صفات حسنہ سے متصف ہے اور پھر اس کی بے شمار صفات ہیں اور ان صفات کے بے شمار جلوے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کی اس عالمین سے تعلق رکھنے والی جو صفات کے جلوے ہیں ان صفات اور ان جلوؤں کا ایک مظہر بنائے اور وہ مظہر ظلی طور پر خدا کہلائے۔ وہ خدا تو نہیں ہوگا لیکن اسے خدا سے اتنی شدید موافقت اور مماثلت ہوگی کہ پہلے انبیاء اس کے آنے کو خدا کا آنا اور اس کے ظہور کو خدا کا ظہور قرار دیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم قضاء و قدر میں پیدا کیا گیا اور اس مرکزی نقطہ کے گرد عالم کائنات کی پیدائش کا منصوبہ بنایا گیا عالم قضاء و قدر میں منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ پس عالم قضاء و قدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات کو مرکزی نقطہ بنایا گیا۔ پھر اس مرکزی نقطہ کے فیوض کے حصول کے لئے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور ان کو جسمانی اور ذہنی اور اخلاقی اور روحانی تربیت کے لئے یہ تمام مخلوق پیدا کر دی جو زمین کے اندر سے لے کر اس دنیا کے مادی آسمانوں کے آخر تک ہمیں نظر آ رہی ہے۔

میں نے بتایا تھا کہ یہ حقیقت ایک رنگ میں پہلے انبیاء پر بھی ظاہر کی گئی یہ حقیقت کہ مقصود کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود پیدا کرنا منشاء الہی نہ ہوتا اور اگر عالم قضاء و قدر میں اللہ رب العالمین اس وجود کو پیدا کرنے کا منصوبہ نہ بنا دیتا تو یہ عالم اور یہ کائنات پیدا ہی کوئی نہ ہوتی مخلوق ہی نہ ہوتی، نہ شجر ہوتے، نہ حجر نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ انسان ہوتا، نہ حیوان ہوتا، غرض یہ وجود پیدا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے لغو طور پر کوئی فعل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نقص ہے اور اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہو اور پہلے انبیاء کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا میں سے جتنا حصہ بھی لیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے لیا اور آپ سے علیحدہ ہو کر کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی برکات اس کے فیوض اور اس کی رحمتیں حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ تمام انبیاء نے اس کا اظہار بھی کیا۔

جب ہم تاریخ انبیاء پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم اور نوح علیہما السلام اللہ تعالیٰ کے بزرگ نبی تھے لیکن انہوں نے جو یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کیں کہ وہ بعض صفات باری کے مظہر بنے تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا مظہر اتم نہیں تھا بلکہ ہر نبی صفات باری میں سے بعض صفات کا مظہر تھا تمام صفات باری کا مظہر نہیں تھا۔ اس لئے ان کی تعلیموں میں ہمیں فرق نظر آتا ہے یعنی ایک نبی ہمیں ایسا نظر آتا ہے جو ذوالانقیام رب العالمین کا مظہر ہے وہ انقیام پر زور دیتا ہے اور دوسرا نبی ہمیں ایسا نظر آتا ہے جو خدا تعالیٰ کی صفت غفور کا مظہر ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے چلے جاؤ لیکن پہلے انبیاء میں سے اور بعد میں آنے والے اولیاء اور مقربین میں سے سوائے دو وجودوں کے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب نظر نہیں آتا اور ممکن ہے کہ اس کے متعلق بعد میں میں کسی جگہ اشارہ کروں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بعض صفات باری کے مظہر تھے وہ سب صفات باری کے مظہر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی

استعداد اور ان کی قوم کی ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اضافی طور پر ایک ناقص مظہریت عطا کی وہ بعض صفات باری کے مظہر بنے اور اس لئے مظہر بنے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے روحانی فیوض سے نوازا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فیوض کو حاصل کرنے کا اور کوئی نظر یہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بعض صفات باری کے مظہر بنے اور ایک بزرگ شریعت بنی اسرائیل کی طرف لے کر آئے۔ وہ اس شریعت کے اضافی نقص کا علم رکھتے تھے اور آپ کے دل میں یہ شدید تڑپ تھی کہ آپ اپنے آقا اور ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل جلوہ دیکھیں۔ ضعف استعداد کی وجہ سے آپ کی یہ خواہش تو پوری نہ ہو سکی لیکن اس تڑپ کا آپ نے اظہار کر دیا کہ آنے والے عظیم مظہر خدا کی دنیا کو آپ نے بشارت دی اور اس اقرار کا اعلان کیا کہ اپنی عظمت جلالی اور مظہریت کے کمال میں آنے والے کو ظلی طور پر خدا کے نام سے پکارا جانا بھی عین مناسب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اور اس حقیقت کا عرفان رکھتے ہوئے کہ جو پایا سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پایا۔ بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء نے بھی استعارہ کے طور پر صاحب مقام ہذا کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا اور اس کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا ٹھہرایا مثلاً داؤد علیہ السلام نے دنیا میں یہ اعلان کیا کہ

”اے خدا تیرا تخت ابد الابد ہے تیری سلطنت کا عصا رستی کا عصا ہے۔ تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی ہے اس لئے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا ہے۔“ (زبور باب ۴۵ آیت ۶، ۷)

یعنی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ تو نے خدا تعالیٰ کے قرب اور خدا تعالیٰ کی رضا اور خدا تعالیٰ کی محبت کو پایا ہے۔

یسعیاہ نبی نے دنیا میں یہ ندا بلند کی۔

”وہ نہ گھٹے گا نہ تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کر لے اور جزیرے اس کی شریعت کے

منتظر ہوں گے۔ خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا۔“ (یسعیاہ باب ۴۲ آیت ۴، ۵، ۱۳)

اس آیت میں آنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے نام سے ظلی طور پر پکارا گیا ہے۔

مسیح علیہ السلام بھی خدا کے ایک بزرگ نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قابل شاگرد تھے وہ اپنے مقام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا علم رکھتے تھے۔ آپ نے بھی انسان کے کان میں یہ سرگوشی کی کہ میں اپنے آپ کو اس کا مانند شمار نہیں کرتا جس کی نسبت تم کہہ رہے ہو کیونکہ میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بند یا نعلین کے تسمے کھولوں۔ تم مجھے مسیحا کہتے ہو وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا اور وہ کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔

جتنے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں جب ہم ان کی تاریخ کا اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیئے گئے تھے کہ ان کو جو بھی ملا وہ کامل اور مکمل نہیں اور دوسرے یہ کہ انہیں جو بھی ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملا۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ

”حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظن تھے“

(کشتی نوح روحانی خزائن جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۲۶)

پھر فرمایا۔

”قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کا آدم..... تھا“

(تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۷ صفحہ ۲۵۸)

”قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں

داخل ہے“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر ۲۱ صفحہ ۳۰۰)

گذشتہ سال میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم اولیائے امت کی کتب کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قریباً سارے بزرگ اولیاء نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی اور آپ ہی کے فیوض سے سارے انبیاء نے فیض حاصل کیا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت محمدیہ کو سورۃ النجم کی ان آیات میں بیان کیا ہے جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اگرچہ یہ مضمون بڑا عمیق ہے اور ہمارے سننے والے ہر قسم کی استطاعت کے مالک ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک آسان طریق پر

میں اسے بیان کر سکوں اس کو اسی طرح بیان کر دوں۔

قرآن کریم نے یہاں ان آیات میں ایک مثال کے ذریعہ حقیقت محمدیہ کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس طرح سمجھ لو کہ دو قوسیں ہیں ان میں سے جو قوس اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر مشتمل ہے یا ان کی علامت ہے جو تشبیہی صفات ہیں اور جن کا تعلق ہمارے اس عالم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں اور پھر ان صفات کے جلوے غیر محدود ہیں۔ کسی مادی مثال میں تو ہم اسے بیان نہیں کر سکتے لیکن اس عالمین میں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات جلوہ گر ہیں۔ اس کی ساری صفات جلوہ گر نہیں اور پھر ان بعض صفات کے بھی سارے منصوبے نہیں بلکہ ان کے بھی یہاں کچھ جلوے ہیں کیونکہ ان صفات کے جلوے بھی بالکل یقینی طور پر غیر محدود ہیں لیکن بہر حال ہم نے اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ میری وہ صفات جو تشبیہی ہیں اور جن کا تعلق تمہاری اس دنیا اور تمہارے اس جہان سے ہے ان میں سے میری بعض صفات کے جو جلوے ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح ایک قوس۔ اور یہ جو تمہاری کائنات ہے وہ ساری ایک دوسری قوس یعنی کمان کی مثال ہے جو نیچے کی طرف ہے۔ اس دنیا کی قوس نے جس چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کا وجود ممکن ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات سے وہ فیوض حاصل نہ کرے۔ پس ہر چیز اپنے وجود پذیر ہونے میں یعنی خلق ہونے میں، پیدا ہونے اور اپنے قائم رہنے میں مسلسل اور بغیر کسی انقطاع کے اللہ تعالیٰ کے جلوؤں کی محتاج ہے اس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا اور رب العالمین کے یہی معنی ہیں۔ غرض مخلوق کے وجود اس کے خلق اور اس کی بقاء کے لئے ربوبیت کے غیر متناہی اور مسلسل جلوؤں کی ضرورت ہے اور اگر ایک لحظہ کے لئے بھی اس کائنات سے رب العالمین کے یہ جلوے چھپا دیئے جائیں تو قیامت آجائے۔ انیہیلیشن (Annihilation)، ہر چیز مٹ جائے۔

فرمایا یہ مخلوق جو ہے یہ کائنات جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک قوس۔ یعنی ایک نصف دائرہ ہے ایک کمان ہے جس نے نچلی طرف ساری کائنات کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک اور قوس ہے جس نے اپنے احاطہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام تشبیہی صفات کے جلوؤں کو لیا ہوا ہے جو اس کائنات سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بغیر اس کا وجود اور قیام اور دوسری

صفات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا امکان ہی باقی نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے یہ جلوے براہ راست اس کائنات کو نہیں پہنچ رہے اس پر ظاہر نہیں ہو رہے بلکہ بیچ میں ایک وجود ایسا ہے جو برزخ کے طور پر ہے اور اس کی وساطت سے یہ جلوے کائنات کو پہنچ رہے ہیں اور وہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اگر یہ وجود درمیان میں نہ ہوتا تو آم کے درخت کو آم بھی نہ لگتے بلکہ آم کا درخت بھی نہ ہوتا اگر وہ جلوہ اسے نہ ملتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے حصول کی استعداد نہ ملتی۔ غرض ایک عام مخلوق سے لے کر انبیاء علیہم السلام تک جو بڑی ہستیاں ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے آگے نہ پہنچائیں۔ آپ کا یہ فیض صرف انسانوں کو نہیں پہنچ رہا بلکہ آپ کا یہ فیض دنیا کی ہر مخلوق کو پہنچ رہا ہے اور اس لئے پہنچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ انسان کے لئے پیدا کی ہے۔ وہ انسان کی خدمت کر رہی ہے ہر چیز کو ہم نے انسان کی بہبود کے لئے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے مسخر کر دیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وتر کا مقام ہے جو دو قوسوں یعنی قوس الوہیت اور قوس کائنات کے درمیان ہے اور ان کے درمیان ایک برزخ کے طور پر ہے اور وتر ہے لیکن حقیقت محمدیہ وہ وتر نہیں ہے بلکہ حقیقت محمدیہ وتر کا وہ درمیانی نقطہ ہے جس کو صوفیاء نے نقطہ محمدیہ بھی کہا ہے اور اس نقطہ سے حقیقت محمدیہ دائیں اور بائیں حرکت کرتی اور دو قوسوں کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے حقیقت محمدیہ اللہ کا مظہر اتم ہے جو تمام صفات حسنہ کا جامع ہے اور اللہ کا یہ مظہر اپنی روحانی حرکت میں سارے وتر پر چلتا ہے اور ساری ہی صفات باری کا وہ مظہر بن جاتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مظہر ہے وہ اس کی ساری صفات کا مظہر ہے اور جو اس وجوہ کا مظہر ہے۔ جو تمام صفات حسنہ سے متصف ہے ظاہر ہے کہ وہ تمام صفات حسنہ کا مظہر ہے اور اس بات کو بیان کرنے کے لئے اور اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم ہیں اور اس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی ان تمام تشبیہی صفات کے مظہر اتم ہیں جن کے جلوے ہماری اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کہ دوسرے بزرگ انبیاء جو پیدا ہوئے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا اور اس کی محبت کو پایا وہ اللہ تعالیٰ کے کامل مظہر نہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ ایک دو تین چار پانچ یا دس صفات کے مظہر ہیں جو اللہ کا مظہر ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ وہ تمام صفات باری اس وتر پر نقطوں کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک لائن میں بے شمار نقطے ہوتے ہیں اور حساب کا غالباً یہ قاعدہ ہے کہ وہ نقطہ کو کوئی جگہ نہیں دیتا اور اس لائن میں جو قوسین کے درمیان وتر کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کو نقطوں کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اب جو جو اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات اور پھر ان صفات کے جلوؤں کا مظہر ہوگا اور اس کی شکل اس طرح بن جائے گی کہ اس کی روحانیت نے وتر کے مرکزی نقطہ سے حرکت کی اور ان تمام تشبیہی صفات کے جلوؤں کو جو اس کائنات سے تعلق رکھتی ہیں اپنی مظہریت میں سمیٹ لیا۔ اس لائن کے دائیں اور بائیں جو بے شمار نقطے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دوسرے انبیاء ہیں ان انبیاء میں کوئی ایک صفت کا مظہر ہے کوئی دو صفات کا مظہر ہے کوئی پانچ صفات کا مظہر ہے اور کوئی دس صفات کا مظہر ہے۔

اس کے علاوہ یوں ہوا کہ یہ مرکزی نقطہ بحر الوہیت میں غرق ہوا اور اس نے اوپر کی قوس کی طرف بڑھنا شروع کیا اور چونکہ یہ مرکزی نقطہ ہے اس لئے وہ سب سے بلند رفعت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس وتر کا کوئی اور نقطہ اگر عمودی خط کے ذریعہ کمان کے اوپر کے حصہ سے ملایا جائے تو وہ انتہائی ارتفاع کا نقطہ نہیں ہوگا بلکہ جتنا جتنا وہ کمان کے کناروں کی طرف چلتا چلا جائے گا اس کی رفعت کم ہوتی جائے گی اور سب سے زیادہ رفعت اور بلندی اس خط کی ہے جو وتر کے وسطی نقطہ سے اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس مثال میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ گویا آپ کی حقیقت وتر کے وسطی نقطہ کی ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی بلندیوں کو حاصل کرنا شروع کیا اور رفعتوں پر بلند ہوتے ہوتے بلند تر مقام پر پہنچے اور وہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ سے پکڑا اور عرش پر اپنے دائیں طرف بٹھالیا یہ ایک حرکت ہے۔

میں نے سوچا کہ اس مرکزی نقطہ سے چار حرکتیں حقیقت محمدیہ میں پیدا ہوں گی۔ ایک حرکت ارتفاع کی طرف ہوئی اور اس نے آپ کو سب سے بلند کر دیا اور یہ مقام ختم نبوت ہے کہ پہلوں نے بھی اور بعد میں آنے والوں نے بھی جب بھی اور جس زاویہ سے بھی رفعتوں کی طرف دیکھا

سب سے آخر میں اور سب سے بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ آپ آخری نبی بھی ہیں اور افضل الرسل بھی ہیں آپ سب کچھ ہیں۔ اب دیکھیں وہ سامنے ایک پہاڑی ہے اس کی بلندی پہ ایک آدمی کھڑا ہے اگر اس پہاڑی کے گرد ایک ہزار آدمی دائرہ بنائے تو ان میں سے جو بھی اور جس زاویہ سے بھی دیکھے گا اسے سب کی بلندی کے اوپر یہ آدمی نظر آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اب بھی اس پہاڑی پر کوئی آدمی ہو لیکن یہاں سے وہ نظر نہیں آتا غرض روحانی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوس الوہیت کے وتر کے وسط سے روحانی بلندی کو حاصل کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے اتنا کوا یعنی الوہیت کے سمندر کے کنارے پر پہنچے اور (یہ تمثیلی زبان ہے) اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے عرش پر بٹھالیا اور اس طرح سب سے آخری مقام بھی آپ کا بن گیا اور سب سے بلند مقام بھی آپ کا بن گیا سب سے اعلیٰ مقام بھی آپ کا بن گیا اور سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل مقام بھی آپ کا بن گیا۔ غرض جس زاویہ سے بھی دیکھیں اور جس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں سب سے آخر میں اور سب سے اعلیٰ آپ ہی ہیں۔ اس طرح پہ آپ اللہ کے اور اس کی تمام صفات حسنہ کے مظہر اتم بن گئے اور آپ کی اس حیثیت میں مخلوق نے جو بھی حاصل کیا وہ آپ کے طفیل حاصل کیا لیکن نظر ہمیں یہ آتا ہے کہ اس وتر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں آدھانچ کے فاصلے پر یا یہ کہنا چاہئے کہ اگر مثلاً وہ دائرہ سات انچ کا ہے تو دو انچ کے فاصلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں کیونکہ وہ چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں اور ایک انچ کے فاصلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں۔ پھر اس وتر کے تین انچ کے فاصلے پر حضرت ہارون علیہ السلام نظر آتے ہیں کیونکہ آپ پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں اور پانچ انچ کے فاصلے پر ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نظر آتے ہیں کیونکہ آپ دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں اس طرح دوسرے اولیاء اور انبیاء (بنی اسرائیل میں تو بے شمارے انبیاء آئے ہیں) کا مقام اس وتر پر بے شمار نقطوں میں ہے۔ معراج کی سیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر پچھلوں میں سے جو نبی نظر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں آپ نے ان کو ساتویں آسمان پر دیکھا اس سے زیادہ قرب تو ہو نہیں سکتا۔ آپ عرش پر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہیں جس کو انگریزی زبان میں نیکسٹ ٹو ہم (next to him) کہا جاسکتا ہے اور بعد میں آنے والوں میں سے

جونہی آپ کے قریب تر نظر آئے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور یہ ہر دونہی غیر تشریحی نبی ہیں اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک غیر تشریحی نبی تشریحی نبی موسیٰ سے اوپر کیسے نکل گیا کیونکہ وہ اسی طرح اوپر نکل گیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے اوپر نکل گئے بہر حال یہ عجیب مماثلت ہے جو معراج کی رات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ معراج کی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر نہیں دیکھا بلکہ انہیں آپ نے چھٹے آسمان پر دیکھا اور بعد میں آنے والوں میں سے آپ نے صرف ایک کو اس قدر قابل احترام اور قابل عزت پایا اور اپنی محبت کے قابل پایا کہ ساری امت کے اولیاء کو چھوڑ کر آپ نے اس ایک کے متعلق فرمایا کہ اگر تمہیں ملے تو اسے میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔

اور دوسری حرکت روحانی جو دو پہلوؤں میں ہے وہ وتر سے یعنی مرکزی نقطہ سے عین اوپر دائیں اور بائیں حرکت ہے۔ میرے ذہن میں آیا ہے کہ دائیں طرف جو حرکت ہے وہ اپنے زمانے سے پہلے کی طرف حرکت ہے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام آخر میں آگئے ہیں اور جو بائیں طرف حرکت ہے وہ بعد کے زمانہ کی حرکت ہے اور اس کے آخر میں وہ آدم ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک آدم ہیں ایک اور معنی کے لحاظ سے۔ اس میں کنفیوژن (Confusion) نہیں پیدا کرنا چاہئے لیکن بعض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پر قریب تر ہونے کی وجہ سے اور آپ کے روحانی فرزندوں میں سے عظیم تر فرزند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مماثلت رکھتے ہیں جیسے فرمایا:۔

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

(در شین صفحہ ۱۳۱)

اور اس کا تو یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ بھی ہے کیونکہ جو ساتویں آسمان پر ہے اسے چھٹے آسمان کی رفعتیں بہر حال حاصل ہیں کیونکہ یہ تو ہونہیں سکتا کہ کسی کو چھٹے آسمان کی رفعت ہی نہ ملے اور وہ ساتویں آسمان پر جا پہنچے یہ تو بالکل

غیر معقول چیز ہے۔ انسانی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ جو ساتویں آسمان پر ہے اسے پانچویں آسمان کی، چوتھے آسمان کی، تیسرے آسمان کی، دوسرے آسمان کی اور پہلے آسمان کی رفعتیں حاصل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رفعتیں حاصل تھیں اور ادھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ رفعتیں حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھی امت محمدیہ کو یہ بتایا کہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ بھی دنیا میں یہ منادی کی کہ مجھ عاجز فرزند میں اور میرے آقا اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہے اور جس نے ہم میں کوئی فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روحانی حرکت ہے جسے ہم تیسری حرکت بھی کہہ سکتے ہیں چوتھی حرکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان حرکتوں کو جو وتر کے دائیں اور بائیں ہیں دو شمار کیا جائے تو یہ چوتھی حرکت آپ کی نیچے کی طرف ہے یعنی مخلوق کی طرف ہے۔ یہاں آپ کی یہ عظیم شان ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے کے تمام انبیاء اور بعد کے تمام اولیاء نوع انسانی سے ہمدردی اور خیر خواہی رکھنے والے نہیں تھے بلکہ ایک قوم سے اور ایک زمانہ سے ان کا تعلق تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیم میں تحریف و تبدل کے بعد شاید وہ بھیسا تک شکل پیدا ہوئی ہو جو اس وقت ہے لیکن بہر حال اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ جو تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ تم ان کے اموال کو لوٹ لو ان کی عورتوں کو اور ان کی بیٹیوں کو بلاوجہ لوٹدیاں بنا لو اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اپنوں سے سود نہ لینا ہاں دوسری قوموں سے بے شک جتنا چاہو جس ریٹ پر چاہو اور جس شرح سے چاہو سود لیتے چلے جاؤ۔ غرض جہاں تک دنیا اور اس کی بیماریوں اور جہاں تک نفوس انسانی اور ان کی آفات کا تعلق تھا کسی نے اس طرح ہمہ گیر ہمدردی اور غم خواری کا اظہار نہیں کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جو شخص اسفل السافلین کی گہرائیوں تک جا پہنچا دنیا کا کوئی نبی اسے اس گند سے چھڑانے کے لئے وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت بنی نوع انسان کے لئے جوش میں آئی اور آپ اس اسفل السافلین تک پہنچے اور آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم مایوس کیوں ہوتے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْضِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (الترمس: ۵۴) اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حقیقتاً صرف اس کو کہی جاسکتی ہے جو

سارے گناہوں میں ملوث ہو جو شخص صرف ایک گناہ کا احساس رکھتا ہے اس کو آپ جا کر کہیں کہ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ کہے گا مجھ سے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط لیکن اگر کسی کو احساس ہی یہ ہو کہ میں نے صرف ایک غلطی کی ہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دینے کا اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ یونہی بات گذر جائے گی لیکن وہ شخص جو خود کو ہر قسم کے گند، ناپاکی اور پلیدی میں پاتا ہے اور اس کا احساس بیدار ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرنے کا ایک جذبہ اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے بائیں طرف دیکھتا ہے سامنے دیکھتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے جہاں تک اس کا شعور پہنچ سکتا ہے وہ اپنے ہادی اور نجات دہندہ کو تلاش کرتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمام انبیاء کو دیکھتا ہے اور مایوس ہو کر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ گناہوں سے نجات کے ذرائع تو ان انبیاء کے پاس ہیں مگر کچھ کہہ گا تو نہیں ہوں میں تو گناہ کی تہ تک پہنچ کر اسفل السافلین کے مقام تک پہنچا ہوں۔ اس لئے یہ انبیاء مجھے نجات نہیں دے سکتے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں آواز اس کے کان تک پہنچتی ہے اور آپ فرماتے ہیں:-

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (التَّوْبَةُ: ۵۴)

اس کو یہ آواز سننے کا لطف آتا ہے۔ آپ کی محبت اور شفقت اور ہمدردی اور غم خواری نے ہر دکھ کو ہر درد کو اور ہر گناہ کو دور کرنے کے سامان لئے ہوئے اور نجات کا یہ ہر طریقہ ہاتھ میں لئے ہوئے ساری مخلوق اور ساری کائنات کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔

آپ کی حرکت روحانیہ چلی طرف ہے آپ نیچے گئے تو اسفل السافلین تک پہنچ گئے جہاں تک پہنچ عقلاً اس کی نہیں ہو سکتی تھی جو مثلاً مرکزی نقطہ سے تین انچ دائیں یا تین انچ بائیں طرف ہے کیونکہ وہ چکر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کا رستہ ختم ہو جاتا ہے اور گہرائیاں اور بدیاں اور بد اعمالیاں اور گناہ کی تاریکیاں ابھی اور آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے یہ اہلیت ہی نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس مرکزی نقطہ

کا مقام ہے اور یہی حقیقت محمدیہ ہے۔ آپ اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے اٹھا کر آپ کو اپنے عرش پر بٹھالیا اور بنی نوع سے ہمدردی کرنے کے لئے نیچے اترے تو جہاں تک کوئی دوسرا نبی نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہاں روحانی طور پر گندہی گند اور عفونت ہی عفونت تھی وہاں پہنچ کر خدا کے بندے کو کہا گھبراؤ نہیں میں تمہیں نجات دینے کے لئے پہنچ گیا ہوں اور یہ ہے حقیقت محمدیہ۔

اور ختم نبوت کی یہ حقیقت ہے کہ جو دور سے دیکھو آخر میں اور بلند تر آپ ہی نظر آتے ہیں۔ محسن اعظم آپ ہی ہیں جہاں احسان کرنے کی غرض سے کوئی اور نبی نہیں پہنچ سکتا وہاں آپ نظر آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس صفت کا جلوہ اپنے اندر لیا تھا جب آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہماری تو یہ حالت ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست شراب کے نشہ میں مست کسی گندی نالی میں گرا پڑا ہو تو ہم اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ دنیا کیا کہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کی بعثت سے بعد جو اعتراض کرنے والے تھے اور قیامت تک کی دنیا کیا کہے گی۔ معترضین اب تک کہتے ہیں کہ آپ ایک وحشی قوم میں پیدا ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے افریقہ میں جا کر وحشیوں میں اسلام پھیلایا۔ بعض تو میں اپنے آپ کو مہذب سمجھتی ہیں وہ اس قسم کے اعتراض کر دیتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وحشیوں کو انسان بنانا تو آپ کی شان ہے اور یہ آپ کا احسان عظیم ہے انسانیت پر (انسانیت کے کسی ایک حصہ پر نہیں بلکہ ساری انسانیت پر) آپ کا یہ احسان عظیم انسانیت کے اس حصہ پر بھی ہے جس سے زیادہ گندہ جس سے زیادہ پلید اور جس سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں۔ آپ وہاں تک بھی پہنچے اور ان کی تسلی کا باعث بنے یہ مقام محمدیت ہے یعنی اس وتر کا وسطی نقطہ۔

جس رنگ میں میں نے اس مثال کو بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے چار اطراف میں حرکت کی اور اس اپنے وتر کی حرکت میں آپ برزخ بین اللہ و بین المخلوق بن گئے یعنی تمام اوپر کے فیوض جو تھے وہ آپ نے مخلوق تک پہنچا دیئے اور مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں بلکہ مخلوق سے مراد پتھر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں، ریت کے ذرے بھی ہیں، پانی بھی ہے اور جو چیزیں مانع نہیں ہیں وہ بھی ہیں آکسیجن بھی ہے ہائیدروجن بھی

ہے یعنی مخلوق سے مراد ہر قسم کی مخلوق ہے جس کا علم ہمیں ہے یا جس کا علم آئندہ ہمیں ہو اس تمام مخلوق پر خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی ربوبیت کو جلوہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوا کیونکہ آپ الوہیت کی کمان اور کائنات کی کمان کے درمیان برزخ کے طور پر ہیں۔ اس وتر میں اور اس برزخ میں آپ کی حقیقت یعنی حقیقت محمدیہ تو وسطی نقطہ ہے لیکن اس حقیقت کا پھیلاؤ اس وسطی نقطہ سے لے کر وتر کے آخری حصہ تک ہے جہاں دونوں کمانوں کو اس نے ملا دیا ہے۔ یہ پھیلاؤ دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے اور وہاں آپ کے وہ روحانی شاگرد کھڑے ہیں جو اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق اور اپنی استعداد کے مطابق آپ سے فیض پاتے اور اس کو خدا کے بندوں تک جن کا ان کی قوم سے تعلق ہے پہنچاتے ہیں۔ آپ کی روحانی تاثیر سارے وتر میں بھی پھیلی ہوئی ہے آپ بطور برزخ کے بھی ہیں اور وسطی نقطہ کے بھی۔ آپ کی روحانی تاثیر آگے اور پیچھے پھیلی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نیکی کا کروڑواں حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرتے۔

حقیقت محمدیہ کو میں نے مختصر طور پر اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے ویسے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا یہ بڑا عمیق مضمون ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو بڑی گہری کتابیں لکھی ہیں ان میں اس مضمون کو بیان کیا ہے یعنی براہین احمدیہ میں۔ کیونکہ اس وقت عالم آپ کے مخاطب تھے۔ بہر حال میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ اور جہاں تک میرے لئے ممکن ہو سکے وضاحت کے ساتھ آسان الفاظ میں اس حقیقت محمدیہ کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے بعد ان کے دلوں میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ لینا ہو یا آسمانوں کی رفعتیں حاصل کرنی ہوں تو سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگنا مگر یہ بھی ایک صداقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ تمہیں ملے گا تو، اور اگر آسمانوں کی رفعتیں ملیں گیں تو وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے روحانی فرزند کے طفیل ہی ملیں گی اس کے بغیر نہیں مل سکتیں۔

یہ ایک حقیقت ہے نا، مگر اس عملی دنیا میں اس حقیقت اور صداقت کا جس رنگ میں اظہار ہو

رہا ہے۔ یعنی جس رنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنی نوع انسان کو مختلف قسم کے فیوض حاصل ہو رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے دئے گئے علم سے میں نے نوٹ لینے شروع کئے تو میرا خیال تھا کہ کوئی تمیں باتیں بنیں گی اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ عجیب تجربہ مجھے ہوا کہ جلسہ سالانہ سے چند روز پہلے مجھے انفلونزا کی تکلیف ہو گئی اور میرا سر جیسا کہ انفلونزا میں ہوتا ہے بالکل بند ہو گیا اور جسم میں درد اور بخار بھی تھا۔ بہر حال میں سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا اور مجھے بڑی فکر پیدا ہوئی کہ جلسہ قریب آ رہا ہے اور جلسہ کے دنوں میں خطبہ جمعہ سمیت پانچ مضمون ہیں جو بیان کرنے ہیں۔ کیا ہوگا لیکن اب میری طبیعت ایسی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں تو ایک تیرا حقیر بندہ ہوں تو مجھے علم نہیں دے گا تو میں بات نہیں کروں گا۔ میں کھڑے ہو کر کہہ دوں گا کہ میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں لیکن وہ سکھاتا ہے اور بڑی عجیب طرح سکھاتا ہے۔

جیسا کہ میں نے بتایا ہے جلسہ سالانہ سے چند دن قبل میں بیمار تھا بیماری کے اثر میں ہی میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہیولی سا میرے دماغ میں چکر لگا رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ہے کیا۔ کبھی مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ شاید بیماری ہی کا کوئی حصہ ہے، کوئی تکلیف ہے۔ اور کبھی خیال ہوتا کہ نہیں یہ تو کوئی غیر معلوم علم ہے جو چکر لگا رہا ہے اور اس کا مجھے پتہ نہیں لگتا۔ اس سے ایک امید بھی بندھی اور بے چینی بھی ہوئی یعنی ایک چیز ہے جس کا پتہ نہیں لگتا جیسے پس پردہ حرکت ہو رہی ہو یا کوئی آواز آرہی ہو اور جس طرح قرآن کریم نے آسمانوں کے متعلق کہا ہے **كَانَتْ آرْتَقًا (الانبیاء: ۳۱)** میں نے سمجھا کہ اس سے ملتی جلتی کوئی کیفیت ہے اور **فَفَتَقْتُهُمَا** جس طرح وہاں ہوا کہ ایک دن اچانک ایک سیکنڈ کے اندر وہ فتق ہو گیا اس طرح اس ہیولے نے بھی ایک معین شکل اختیار کر لی اور وہ یہ مضمون تھا جو میں نے ابھی آگے بیان کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے اور آپ کی جو حقیقت محمدیہ ہے اس کو اس عملی دنیا میں جس میں ہم دن رات گزار رہے ہیں کس طرح مثالوں سے اور حقائق سے واضح کیا جاسکتا ہے۔

غرض میں نے نوٹ لکھوانے شروع کئے مضمون تو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈال دیا تھا لیکن بہر حال حوالے دیکھنے پڑتے ہیں اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی

فلاں آیت نکالو۔ فلاں حوالہ دیکھو۔ میرا خیال تھا کہ میں ان باتوں کو تین تک لے جاؤں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تیس باتیں تو بہر حال ختم نہیں ہو سکتیں اس لئے میں نے ان باتوں کو سترہ اٹھارہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ اٹھارہ باتیں بھی ختم نہیں ہو سکتیں لیکن ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وسعت اور بلندی اور گہرائی تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلووں کے پیرا ال (Parallel) ہے۔ اس کے لحاظ سے اس مضمون نے کہاں ختم ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو آئندہ سال اس مضمون کو بیان کیا جا سکتا ہے یا دو اور ان سال اس کو پھیلا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں مضمون کو شروع کر دوں گا۔ بڑی عجیب طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام اور آپ کی کتنی عظیم شان ہے۔ پہلی بات جو اس مثال میں بھی واضح تھی اور بڑی اہم اصولی ہے وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افاضہ روحانی اور آپ کا افاضہ خیر پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک جس پر قیامت آئے گی تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن آپ کا فیض جاری ہے۔ قیامت سے آخری مرنے والا آپ کے روحانی فیض سے توحصہ نہیں لے رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ دنیوی زندگی اور اس کی جائز آسائشیں اور آرام جو حقیقی آرام ہیں یعنی جو شیطان کے کہنے پر انسان حاصل نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حقوق کے ماتحت حاصل کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ملتی ہیں اور اس آخری انسان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی وہ ملیں گی۔ قرآن کریم نے اپنی ابتداء ہی میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہہ کر اور سورۃ البقرہ میں ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرہ: ۳) کہہ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان کی روحانی اور جسمانی اور معاشرتی اور اخلاقی اور اقتصادی اور سیاسی وغیرہ ضرورتوں کو پورا کرنے والی صرف یہی ایک کتاب ہے جو فطرت انسانی کے سب حقیقی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس لئے کہ یہ اپنے ذاتی کمالات اور فضائل اور بے نظیر تعلیمات سے تمام شرائع سابقہ پر اثر انداز اور مستقبل کی تمام الجھنوں کو دور کرنے والی ہے۔ (ذٰلِكَ الْكِتٰبُ) پھر فرمایا کہ یہ پہلوں اور پچھلوں پر احسان کرنے والی کتاب ہے کیونکہ یہ انسان کو ہر قسم کے شیطانی وساوس، ظن اور گمان کے بے آب و گیاہ ویرانوں سے اٹھا کر دلائل اور آیات

بینات کے ساتھ یقین کی رفعتوں تک پہنچاتی ہے اور اس کی یہ خوبی خدائے قیوم کی حفاظت میں ہے اور اس شکل میں کہ جس میں کہ قرآن کریم آیا وہ محفوظ ہے۔ لوگ پوری حقیقت نہیں سمجھتے اور بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں یا بعض دفعہ دوسروں کو ملزم قرار دینے کے لئے ہم بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو تمہاری شریعتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے تو یہ صحیح ہے لیکن اس لحاظ سے یہ بھی صحیح ہے کہ ان کو بھی اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل تھی کہ ان کی ابدی صداقتوں کو قرآن کریم نے اپنے اندر لے لیا اور اس نے انہیں اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ چنانچہ جو ابدی صداقت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی یا جو ابدی صداقت حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی یا جو ابدی صداقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یا جو ابدی صداقتیں دوسرے انبیاء کو دی گئی تھیں ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں ان تمام ابدی صداقتوں کو اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا۔

تیسرے قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمام انسانوں پر احسان کرنے والی کتاب ہوں اس لئے کہ پہلی صداقتوں کو جامعیت اور کمال کے لئے جن نئی صداقتوں کی ضرورت تھی میں ان کی بھی حامل ہوں یعنی صرف پہلی صداقتوں کو میں نے نہیں لیا جو ابدی صداقتیں تھیں لیکن چونکہ پہلی کتب میں تمام ابدی صداقتیں بیان نہیں ہوئی تھیں اس لئے جو ابدی صداقتیں بیان ہونے سے اس وجہ سے رہ گئی تھیں کہ پہلے زمانہ کا انسان ان کا حامل نہیں ہو سکتا تھا یا اس کو ان کی ضرورت نہیں تھی اور اب انسان اپنے آخری کمال کو حاصل کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس لئے میں نے وہ تمام صداقتیں جو پہلوں کو دی گئی تھیں وہ بھی اور وہ تمام ابدی صداقتیں جن کی انسان کو قیامت تک کے لئے ضرورت پیش آتی رہے گی ان سب کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے اور جمع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا

قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَلَا تُؤْخِرُوا خَيْرًا لَكُمْ (النساء: ۱۷۱)

یہ کامل رسول اور خاتم النبیین کامل صداقت لے کر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آچکا ہے اس پر سچے دل سے ایمان لانا وہ تمہاری تمام قوتوں اور استعدادوں کو کامل نشوونما تک پہنچا دے گا اس سے تم ہر قسم کی بھلائی کے وارث ہو گے اور ایسی امت بن جاؤ گے جن پر یہ صادق آئے گا کہ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (ال عمران: ۱۱۱)

اور پہلی شریعتوں کے منبع بھی خیر محض اور خیر کامل کے تہی و ارث ہو سکیں گے جب وہ اس کامل حقیقت اور مکمل ہدایت پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے فرمایا

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ حَيْرًا لَّهٗمُ (آل عمران: ۱۱۱)

کہ ان کی اپنی شریعت کی اتباع میں ان کے لئے کامل خیر کے سامان نہیں ہیں اس لئے اب ان کو چاہئے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائیں تاکہ مسلمانوں عربوں اور دوسرے مومنوں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کامل خیر کے وارث بنیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہی الفاظ میں یہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ قوتیں اور استعدادیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور وہ اپنے کمال نشوونما کو اب حاصل کر سکتا ہے۔ امتیں جو اس قوت اور استعداد کو رکھنے والی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برکت اور قوت قدسیہ کے نتیجہ میں اور آپ کی روحانی تربیت کے فیض سے وہ مقام حاصل کریں گی جو اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور حالت میں تمام پہلے انبیاء کے روحانی فرزندوں کے مقام رفعت کے مقابلہ میں اکمل اور اتم اور ارفع اور اعلیٰ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود میں یہ مژدہ تمام بنی نوع انسان کو بلا امتیاز قومیت اور رنگ اور نسل کے سنایا اور یہ عجیب مژدہ ہے مثلاً ایک ہندو کو کہا کہ تمہارے لئے یہ موقع ہے کہ تم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبعین سے آگے نکل جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے آگے نکل سکتے ہو۔ تم قرآن کریم پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرو یعنی دنیا میں بعض نقطہ ہائے نگاہ سے بعض قوموں کی نگاہ میں بعض دوسری قومیں ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہیں مثلاً اس وقت عیسائیت کا بڑا زور ہے اور بعض اور ایسی سوسائٹیاں ہیں جن کا مثلاً اخلاقی لحاظ سے یا خیرات کے کام کرنے کے لحاظ سے ایک اثر ہوتا ہے تو ہر دوسرے کو کہا کہ جو بھی تمہاری نگاہ میں بڑا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس سے زیادہ بڑے بن سکتے ہو۔ تم قرآن کریم پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو اور کسی فرق اور کسی امتیاز کو یہاں مد نظر نہیں رکھا بلکہ ہر قوم کو وہ کالی ہو یا سفید۔ سرخ ہو یا زرد، دنیوی لحاظ سے رفعتوں تک پہنچی ہوئی ہو یا دنیوی لحاظ سے تنزل کے گڑھوں میں پڑی سڑ رہی ہو۔ سب کو آواز دے کر کہا کہ اگر تم ترقی

کرنا چاہتے ہو، ہر دوسری قوم سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ کا یہ عظیم رہبر اور رہنما اور بادی تمہیں بلند سے بلند تر رفعتوں تک لے جاتا چلا جائے گا۔

دوسری رحمت جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نوع انسان پر نظر آتی ہے اور جو بڑی وسیع ہے اور ان آیات میں بیان ہوئی ہے۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

(الانعام: ۹۳)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَلَمَ تَرْحَمُونَ (الانعام: ۱۵۶)

ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی قوموں پر عظیم احسان ہے دیکھو پہلے تمام انبیاء جن کو ایک قوم کے علاوہ دنیا کی باقی ساری اقوام جھٹلا رہی ہیں یا وہ انہیں اس قابل نہیں سمجھتیں کہ انہیں سچا سمجھا جائے مثلاً یہودیوں کے انبیاء کے متعلق ہندو کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کا یہ ایمان نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو سچے مگر وہ ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سچے ہی نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ غرض ہر نبی کو اس کی قوم کے علاوہ دنیا کی باقی اقوام نے عملاً جھٹلایا لیکن قرآن کریم دنیا میں آیا تو اس نے دنیا کی ساری اقوام کو مخاطب کر کے کہا کہ آدم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ ورنہ نجات نہیں مل سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ ورنہ نجات نہیں مل سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ تمہیں باقی سب انبیاء پر بھی جو میرے عزیز شاگرد ہیں ایمان لانا پڑے گا۔ اگر تم مجھ پر اور باقی انبیاء کی نبوتوں پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں نجات مل جائے گی۔

غرض قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذشتہ انبیاء اور ان کی اقوام پر یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر نبی جو پہلے آیا ہے وہ خدا کا ایک برگزیدہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

ایک روحانی فرزند تھا اور دنیا کی ساری قوموں کو یہ کہا کہ ان تمام انبیاء پر ایمان لانا اب فرض ہو گیا ہے۔ پہلے ان پر ایمان لانے کی اس لئے ضرورت نہیں تھی کہ یہ مختلف خطوں میں بسنے والی اقوام کے لئے ہدایت لے کر نہیں آئے۔ ہر ایک قوم کی اپنی ضرورت تھی ہر ایک قوم کے اپنے حالات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس زمانہ کے ہندو ایمان لاتے تو وہ تباہ ہو جاتے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقو کی ضرورت تھی۔ وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر ایمان لاتے تو اس زمانہ کے لحاظ سے وہ بھی تباہ ہو جاتے۔ غرض ہر نبی جو آیا وہ ایک صداقت لے کر آیا لیکن اس کی قوم کے حالات دنیا کی ہر دوسری قوم سے اتنے مختلف تھے کہ دوسری اقوام عالم کو خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہیں تو یہ نبی مگر اس کی شریعت اور ہدایت پر ایمان لانا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے حالات کے مطابق نہیں ہیں تمہارے لئے ایک اور نبی بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ ان پر ایمان نہیں لانا یعنی ان کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں لیکن بہر حال انہیں خدا تعالیٰ کے سچے انبیاء تو سمجھنا چاہئے دنیا کی اقوام نے انہیں جھوٹا قرار دیا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ کی بات کی جو روح تھی وہ تم نے نہیں پائی۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان انبیاء کو جھوٹا کہو بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ان کی شریعت تمہارے مناسب حال نہیں ہے لہذا تمہیں ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ تمہارے مناسب حال دوسری شریعت بھیجی جائے گی لیکن شیطان نے تمہیں ورغلا یا اور تم نے خدا تعالیٰ کے بزرگ بندوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرزند کو جھٹلا دیا اور ان کو کافر اور دجال اور پتہ نہیں تم کیا کچھ کہنے لگ کئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام اقوام عالم کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا کہ یہ تمام انبیاء سچے تھے۔ یہ تمام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ تھے۔ میں کامل اور مکمل ہدایت لے کر آیا ہوں اب میری پیروی تمہیں نجات دلا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول تمہارے لئے ممکن بنا سکتی ہے لیکن اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے تو تمہیں ان تمام انبیاء کو سچا سمجھنا پڑے گا۔

دوسرے ان عظیم بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ بندے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کیا اور یہ بڑا عجیب احسان ہے کہ پہلے انبیاء کی اقوام میں سے جو منکر ہوئے تھے

انہوں نے شرافت کی تمام قیود توڑ کر اپنے نبیوں پر نہایت گندے اور فحش الزام لگا دیئے تاریخ بدل گئی۔ زمانہ بدل گیا۔ تاریخ کا وہ دور ختم ہو گیا اور نیا دور شروع ہو گیا۔ وہ تو میں بدل گئیں اور ان کے لئے خدا تعالیٰ نے نئے نبی مبعوث کئے اور ان انبیاء پر نئے الزام لگائے گئے لیکن پہلے الزامات تاریخ نے محفوظ کر لئے۔ آدم علیہ السلام پر جو تہمت لگی تاریخ نے اسے تو محفوظ کر لیا لیکن آدم علیہ السلام جو صداقت لے کر آئے تاریخ اسے بھول بھی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تہمت لگی اور تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو صداقت لے کر آئے تھے تاریخ نے اسے خالص رنگ میں محفوظ نہیں رکھا بلکہ اسے کچھ محفوظ رکھا تو کچھ گنداس میں ملا دیا جس طرح آدھ سیر دودھ ہو اور اس میں آدھ سیر نہایت گندا اور غلیظ قسم کا پانی ملا دیا جائے تو وہ دودھ تو نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ صداقت بھی صداقت نہیں رہی تھی یہی حال دوسرے انبیاء کا ہے۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کے نام لئے گئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر اس سے اس تہمت کو دور کیا جو اس پر لگائی گئی تھی اور کسی مصلحت کی بناء پر ظاہر نہیں کئے گئے (ویسے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء کے نام قرآن کریم میں لئے نہیں جاسکتے تھے) ان سب کے متعلق یہ اعلان کیا کہ وہ ہر قسم کی تہمتوں سے پاک ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام پر یہ اتہام باندھا گیا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے شیطان کی فرماں برداری کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور دنیا میں جو بزرگ کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان میں یہ اتہام موجود ہے۔ حوالہ تو میں نے لکھا ہوا ہے لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں حوالہ اس وقت پڑھوں گا نہیں جب یہ تقریر چھپے گی تو حوالہ بھی اس میں آجائے گا اس لئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بغیر حوالہ کے بات کر رہا ہوں میں جب دوسرے کے منہ میں بات ڈالتا ہوں تو اس کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری سے بچنے کے لئے باغ کے درختوں میں جا چھپے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بھی الزام ہے کہ وہ علام الغیوب نہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا میں یہ اعلان کیا کہ فَتَسَىٰ وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا (طہ: ۱۱۶)

کہ یہ بھول تھی۔ گناہ کا ارادہ نہیں تھا غرض قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس تہمت سے بری قرار دیا جو آپ پر لگائی گئی تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام پر تہمت لگانے والوں نے یہ تہمت لگائی کہ آپ نے شراب پی اور بدمست ہوئے اور اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گئے اور پھر وہ ساری بدنامی ساری قوم میں پھیلی لیکن قرآن کریم نے دنیا کو اور تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا یہ تہمت غلط ہے۔ یہ ایک اتہام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر لگایا گیا ہے۔ فرمایا

سَلِّمْ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ ۝ اِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (الْصَّفٰت: ۸۰، ۸۱)

یعنی وہ تو نیک اعمال کو پوری توجہ اور پورے زور اور شوق اور شغف کے ساتھ اور ہر قسم کی قربانیاں دے کر بجالانے والا تھا۔ اس نے اپنی محبت کے نتیجے میں اور محسن ہونے کی وجہ سے ہماری طرف سے سلامتی کو اور امن کو اور رضا کو اور میری جنتوں کو پایا تھا۔ وہ بدمست کہاں ہو سکتا تھا وہ اپنے ڈیرہ میں برہنہ کیسے ہو سکتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹ بولنے کی تہمت لگائی گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو پکار کر یہ کہا:

اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (مریم: ۴۲)

یعنی وہ تو راست بازی پر قائم تھا اور دوسروں کو راست بازی پر قائم کرنے کے لئے آیا تھا پھر وہ خود راست بازی کے طریق کو کیسے چھوڑ سکتا تھا فرمایا وہ صرف صدیق ہی نہیں تھا بلکہ نبی تھا یعنی وہ دوسروں کو بھی راہ راست پر اور سچی بات کرنے پر قائم کرنے آیا تھا وہ عام معاشرے کی ہدایتیں دوسروں کو سکھانے آیا تھا پھر وہ خود اس راستہ سے کیسے ہٹ سکتا تھا۔

حضرت لوط علیہ السلام پر یہ بہتان باندھا گیا کہ ان کی دو بیٹیاں ان سے حاملہ ہوئیں^۲ (نعوذ باللہ) قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ اعلان کروایا گیا:

وَلُوْطًا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّ نَجِيْنًا مِّنْ اَقْرَبِيَّةٍ اَلَّتِيْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءًا فٰسِقِيْنَ (الانبياء: ۷۵)

یعنی ہم نے لوط کو قوت فیصلہ اور علم روحانی عطا کیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ اعلان کروایا کہ وہ

تو اتنا نیک بندہ تھا کہ وہ بد صحبت سے بھی بیزار تھا اور جس بد ماحول میں اس نے خود کو پایا اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے وہ ہمارے حضور جھکا اور اس نے ہم سے دعائیں کیں اور ہم نے اس کو 'الْفَرِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ'، اس شہر اور قبیلہ سے جو فسق و فجور میں مبتلا تھا اور ان کی بد صحبت سے بھی اس کی دعاؤں اور اس کی زاری کی وجہ سے نجات دی پھر وہ خود اس فسق و فجور میں کیسے مبتلا ہو سکتا تھا۔

اسی طرح حضرت اہل حق علیہ السلام پر دروغ گوئی کا الزام لگایا گیا^۱ لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ایک بزرگ امام تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو ہدایت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہماری اطاعت اور عبودیت میں زندگی گزارنے والوں میں سے تھے۔

حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ کچھڑا پرستی جیسے گھناؤنے گناہ کے مرتکب ہوئے انہوں نے زیورات اکٹھے کر کے شرک کے لئے کچھڑا بنوایا تھا^۲ لیکن قرآن کریم نے ہمارے کانوں میں آ کر پھونکا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا:-

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (طہ: ۹۱)

یعنی تم کدھر کچھڑے کی طرف جا رہے ہو تم رحمان خدا کی طرف آؤ جو بغیر تمہارے استحقاق کے تم پر فضل کر رہا ہے۔ یہ اس کچھڑے کے خلاف بڑی عجیب دلیل دی ہے۔ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اہل ہی نہیں لیکن اس کی بے شمار نعمتیں صبح سے شام تک تمہارے پر نازل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ وہ رحمان خدا ہے لیکن یہ کچھڑا وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے اور یہ کچھڑے کی سب سے بڑی خدمت اور اس پر سب سے بڑا احسان ہے کہ تم اس کے خالق بنے۔ اس لئے اگر تمہیں اس سے کچھ بھی مل گیا تو وہ تمہیں رحمانیت کے نتیجے میں نہیں مل سکتا اور تم رحمانیت کے فیض سے باہر رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مختصر سا بیان ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل گنائے ہوں گے کہ دیکھو اللہ نے تم پہ فضل کیا۔ اس کے مقابلہ میں تم نے اللہ تعالیٰ کی کون سی خدمت کی ہے۔ یہاں تم تو اس کچھڑے کے خالق ہو اور اسے خلق کرنا تمہاری اس کی خدمت سمجھی جاسکتی ہے اور اول تو تمہیں اس سے ملے گا کچھ نہیں اور اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو وہ رحمانیت کے نتیجے میں تو نہیں دے گا۔

غرض حضرت ہارون علیہ السلام پر ان کی اپنی قوم نے یہ الزام لگایا کہ وہ نچھڑا پرستی کے شرک میں ملوث ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ تمہارا خدا رحمان ہے تم اس کی پرستش کرو اور میری اتباع کرو تا کہ میں تمہیں شرک سے نجات دلا کر خدائے رحمان کے قدموں پر لا ڈالوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ اتہام لگا کہ وہ اوریاہ کی بیوی بنت سبوع پر عاشق ہوئے۔ اس سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوئی۔ آپ نے اس حمل کو چھپانے کی بہت کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ اس ناکامی کے بعد ذلت کے خوف سے آپ نے اس کے خاوند کو مروانے کی سکیم بنائی اور اسے مروادیا اور پھر اس حاملہ عورت سے خود شادی کر لی۔ غرض ایک بڑا تفصیلی اتہام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے دنیا کو کہا کہ جھوٹا ہے وہ انسان جو میرے بندہ پر یہ الزام لگاتا ہے۔

إِنَّهُ آوَابٌ (ص: ۱۸)

وہ تو ہر وقت میری طرف رہتا تھا شیطان کی طرف تو وہ کبھی ایک لحظہ کے لئے بھی نہیں جھکا پھر اس قسم کی بدکاری کا وہ مرتکب کیسے ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کہا کہ تم داؤد علیہ السلام کو ایک عام انسان کا شرف دینے کے لئے بھی تیار نہیں حالانکہ وہ تو انسانوں میں سے بھی بڑی شرف اور فضیلت والا انسان تھا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا فُضِّلَا (سبا: ۱۱)

ہم نے اسے انتہائی فضلوں سے جو اس زمانہ میں زیادہ سے زیادہ اس قوم کے کسی فرد پر ہو سکتے تھے نوازا تھا۔ پھر اسے ان فیوض کا حامل اور ان فیوض کا آگے افاضہ کرنے والا بنایا تھا یعنی وہ نبی تھا وہ ہم سے برکتیں لیتا اور پھر وہ برکتیں اپنی قوم کو جا کر پہنچاتا تھا اور تم اس پر اس قسم کا گند الزام لگا رہے ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو تہمت پر تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آیا اور اس نے آپ کی برات کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت لگی اس کے آگے بھیا نک نتائج بھی تہمت لگانے والوں نے گنائے ہوئے ہیں اور وہ تہمت یہ تھی کہ آپ بدکار اور زنا کار عورتوں کی اولاد تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بدکار اور زنا کار عورتوں کی اولاد ہو وہ لعنتی ہوتا ہے اور خدا سے دھنکارا ہوا ہوتا ہے وغیرہ^۱۔ قرآن کریم میں آپ کی بریت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَحِيًّا (مریمہ: ۲۹)

اے مریم نہ تیرے آباء میں سے کوئی بدکار تھا اور نہ تیری نانیوں میں سے کوئی بدکار تھی۔ تو پاک بنت پاک ہے اور تیری اولاد بھی پاک ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنی ماں سے بدسلوکی کرنے والے تھے۔ قرآن کریم نے کہا تم ہمارے اس پاک بندے پر کیوں ظلم کرتے ہو

بَرًّا بِوَالِدَيْكَ (مریمہ: ۳۳)

ہم نے تو اس کی فطرت میں رکھا تھا کہ وہ اپنی والدہ سے حسن سلوک کرے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی گئی کہ آپ کی زندگی ایک ملعون زندگی تھی۔ کہا گیا کہ مسیح علیہ السلام ہمارے لئے لعنتی بناؤ۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو اور پھر ان کے منہ سے کہلوا یا۔

جَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ (مریمہ: ۳۲)

میرے تو ایسے حالات ہیں کہ جہاں بھی میں زندگی گذارتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو پاتا رہا ہوں۔ میں ملعون کیسے ہو گیا اگر مجھے خدا تعالیٰ سے دوری حاصل ہوتی اور میں ملعون ہوتا میری زندگی لعنتی ہوتی تو ہر لحظہ اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں وہ کیسے نازل ہوتیں۔

قرآن کریم میں جن انبیاء کا نام لیا گیا ہے ان کی چند مثالیں میں نے بیان کی ہیں۔ بہت سی مثالیں میں نے چھوڑ دی ہیں میرا خیال ہے کہ ان انبیاء میں سے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ہر نبی پر اتہام لگایا گیا ہے اور ان تہمتوں کو دور کرنے کے لئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں آیا۔

یہ چند مثالیں ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نبی بھی آیا اس پر اتہام لگانے والوں نے اتہام لگایا اور جھوٹ باندھنے والوں نے جھوٹ باندھا اور نہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ جو نبی بھی ہم نے تمہاری طرف بھیجا وہ نذیر تھا یعنی وہ تمہیں فسق و فجور سے نکالنے کے لئے آیا تھا اور تمہیں یہ انداز کرتا تھا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑو گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نیچے ہو گے اس کے غضب کے نیچے ہو گے اور جہنمی ہو گے تو

جو شخص دوسروں کو فسق و فجور سے چھڑانے والا اور اللہ تعالیٰ کا انذار کرنے والا ہے وہ خود ان گناہوں میں کیسے پھنس سکتا ہے۔ غرض قرآن کریم نے دنیا کے ہر نبی کی برأت کی ہے اور یہ بڑا ہی عظیم احسان ہے اس محسن اعظم کا جس کی ہم امت ہیں اور جس کے احسان اور فضل ہر وقت ہم پر ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی ہوں یا ہندوؤں کے نبی ہوں قرآن کریم نے کہا

وَلَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۵)

اور سب کی برأت کر دی۔

ایک اور احسان عظیم جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان پر کیا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسی شریعت اور ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا ذکر لے کر آئے جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اصل میں تو غور کر کے دیکھا جائے تو اللہ جس کو اسلام پیش کرتا ہے وہ تمام صفات حسنہ کا جامع اور تمام نقائص اور تمام برائیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان برزخ بنایا اور اسے اپنے نام اللہ کا مظہر اتم اور مظہر اکمل بنایا اور وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہئے کہ وہ تمام صفات باری سے ظلی طور متصف اور تمام نقائص اور کمزوریوں اور برائیوں سے اللہ کے فضل سے محفوظ ہو ورنہ وہ مظہر اتم ہو نہیں سکتا۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے اس کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ کوئی ایسا اعتراض قرآن کریم پر نہیں کیا جاسکتا جسے ہم معقولی طور پر رد نہ کر سکیں۔ اگر کسی کو ہمت ہے وہ آج کر کے دیکھ لے اور پھر تمام ہدایتیں قرآن کریم کے اندر پائی جاتی ہیں آج صبح ہی کا ذکر ہے کہ ایک صحافی دوست یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے سوشلزم اور سرمایہ داری کے متعلق بات کی۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ نہ میں سوشلزم کے حق میں ہوں اور نہ سرمایہ داری کے حق میں ہوں میں تو اسلام کے حق میں ہوں۔ جب مجھے یہ یقین ہے کہ اسلام سے باہر اور قرآن سے باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مجھے ضرورت ہو اور ہر وہ شئی جس کی مجھے ضرورت ہے وہ قرآن کریم میں پائی جاتی ہے تو میں غیر کی طرف جاؤں گا کیوں۔ اگر ہم آج یہ کہیں کہ کوئی ایسی چیز سوشلزم میں مل سکتی ہے جو قرآن کریم میں نہیں پائی جاتی تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے۔ اس سے تو ہماری بنیادیں ہی اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں

میں تو اس یقین پر قائم ہوں کہ کوئی چیز قرآن کریم سے باہر ایسی نہیں جس کی قرآن کریم کی تکمیل اور اتمام کے لئے ضرورت ہو قرآن کریم تو مکمل اور متمم ہو گیا۔ اب کسی اور چیز کی قرآن کریم کو ضرورت نہیں۔ چونکہ میں اس قرآن کریم کو ماننے والا ہوں اس لئے نہ میں سوشلزم کے حق میں ہوں نہ میں اشراکیت کے حق میں ہوں۔ نہ میں سرمایہ داری کے حق میں ہوں، نہ میں فاشلزم کے حق میں ہوں۔ میں تو خدا اس کے رسول اس کی کتاب اس کے دین اسلام اور اس کے بندے (انسانیت) کے حق میں ہوں۔ اسلام نے ہمیں پیر نہیں سکھایا بلکہ اس نے ہمیں ہر ایک سے اس قدر شفقت ہمدردی اور غم خواری سکھائی کہ اس سے زیادہ شفقت ہمدردی اور غم خواری کوئی اور ازم انسان کو نہیں سکھا سکتا۔ پس قرآن کریم کا بعد میں آنے والوں پر عظیم احسان ہے کہ ہر چیز جو قابل بیان تھی یعنی جس کی انسان کو ضرورت تھی وہ اس میں بیان کر دی گئی ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل: ۹۰)

ہر ضروری ہدایت اور صداقت قرآن کریم میں بیان ہو گئی ہے اس لئے تمہیں کسی صداقت اور کسی ہدایت اور شریعت کے کسی حکم کو حاصل کرنے کے لئے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ سارا کچھ قرآن کریم میں ہے۔

۔ جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا (درئین صفحہ ۹)

دوسرے یہ کہ کوئی ایسی چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی وہ بیان ہونے سے رہ نہیں گئی یعنی دونوں طرف سے اس کو محفوظ کر لیا ہے جیسے فرمایا مَا فَهَرَّ ظَنًّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ۳۹) اس آیت میں اصل مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ بنی نوع انسان کی قوتوں اور استعدادوں کی کامل اور حقیقی اور صحیح نشوونما کے لئے جن ہدایتوں اور احکام کی ضرورت تھی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کے لئے قرآن کریم سے باہر تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ہر قسم کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم میں موجود ہے دنیا کی جو الجھنیں ہیں ان پر بھی اصولی طور پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ بھی قرآن کریم کا بڑا احسان ہے کہ قوم قوم اور حالات حالات میں فرق ہے۔ کوئی رنجیدگی (Rigidity) اور سختی نہیں بلکہ اصول بتا دیئے اور کہا ان اصولوں کی روشنی میں اپنے حالات کے مطابق جو احسن ہے اس کی پیروی کرو۔

اس میں پہلوں پر یہ احسان کیا گیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ اگرچہ ان حالات کے مطابق کامل اور مکمل ہدایت تمہیں نہیں مل سکتی تھی لیکن اس کامل اور مکمل ہدایت میں سے جو کچھ تمہیں مل سکتا تھا وہ تمہیں مل گیا ہے یعنی اپنے وقت کے لحاظ سے جس چیز کی بھی ضرورت تھی اپنے حالات کے مطابق جو ضروری چیز تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ انبیاء جیسا کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے خود اپنی طرف سے باتیں بنانے والے ہوں۔ دوسرے ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک عظیم مقصد کے حصول کے لئے تمہیں مبعوث کیا گیا ہے اور تمہارے ذریعہ تمہاری قوم کو اس مقصد کے حصول کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل اور مکمل نبی آنے والا ہے کامل شریعت آنے والی ہے۔ تم اپنی قوم کو اس کامل اور مکمل نبی پر ایمان لانے اور اس کامل شریعت کے حامل بننے کے لئے اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار کرو۔ اس لئے جہاں انہوں نے صداقت کا اعلان کیا وہاں یہ بھی اعلان کیا کہ جو کامل ہے وہ آنے والا ہے اگر یہ پس منظر نہ ہو تو دوسرا اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اس شریعت کے حاصل ہونے کے لئے قوم کو تیار نہیں کیا جا رہا تھا تو ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ کامل اور مکمل نبی آنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا جو خدا کا کامل کلام تمہیں سنائے گا اور جو اس کی اتباع نہیں کرے گا وہ خدائے قہار کے مواخذہ کے نیچے ہوگا۔

در اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ دیکھو میں جتنا بھی لے کر آیا ہوں وہ اس لئے لے کر آیا ہوں کہ تم آنے والے کی کامل اتباع کے لئے تیار کر سکو اور اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم و زمانہ تم اس پر اکتفا نہ کرنا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی تم اتباع کرو بلکہ تمہارے دماغوں میں یہ بات حاضر رہے کہ صداقت کا ایک حصہ ہمیں ملا ہے اور یہ اس لئے ملا ہے کہ جب پوری صداقت ہمارے سامنے آئے اسے قبول کرنے کے لئے ہم تیار ہوں اور ہماری طبیعتوں میں کوئی انقباض پیدا نہ ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مخاطب کیا اور ان کو بھی یہ کہا کہ میں صداقت لے کر آیا ہوں لیکن تیار ہو جاؤ (وہ بڑا قریب زمانہ تھا) وہ عنقریب آنے والا ہے جس کی تمہیں اتباع کرنی پڑے گی اور جسے کہتے ہیں بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے تھوڑی سی اور تربیت تمہاری ہوگئی تو تم اس

قابل ہو جاؤ گے کہ اس کامل اور مکمل شریعت لانے والے کی امت بن سکو اور اس کی اتباع کر سکو اور اللہ تعالیٰ کے کامل فضلوں کو تم حاصل کر سکو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ شریعت کی بہت سی باتیں ابھی قابل بیان ہیں مگر چونکہ اس وقت بنی اسرائیل ان کی برداشت نہیں کر سکتے بلکہ برداشت کے لئے تیاری کروائی جا رہی ہے۔ اس لئے انہیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہئے کہ جب بنی نوع انسان کامل تعلیم کے حامل بننے کی اہلیت پیدا کر لے اور اللہ کا ایک عظیم نبی ان صد اوتوں کو بنی نوع انسان کے سامنے بیان کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں (یہ تیسری شق ہے) پہلے انبیاء پر سے ہی تہمتیں دور نہیں کیں بلکہ پہلی کتابوں پر سے بھی تہمتیں دور کیں۔ مثلاً وید پر یہ اتہام لگایا گیا اور یہ اتہام ماننے والوں نے لگایا کہ وید نے نیوگ کی اجازت دی یہ بڑا سخت اتہام ہے۔ بڑا گندا اتہام ہے لیکن قرآن کریم نے یہ کہا کہ وہ رشی جن پر یہ وید اپنی اصل شکل (جو بھی ان کی شکل تھی) میں اترے وہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی تھے اور جو صحیح اور سچی باتیں ان کو ملی تھیں اور جو کامل اور ابدی صداقتیں انہوں نے پائی تھیں وہ ہم نے قرآن کریم میں محفوظ کر لیں ہیں۔ وید کا وہ حصہ جو قرآن کریم کی تعلیم سے مشابہت رکھتا ہے وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا اور وید کا وہ حصہ جو قرآن کریم سے مشابہت نہیں رکھتا وہ خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا اس لئے اگر دنیا نیوگ کی تعلیم کو وید کی طرف منسوب کرے گی تو وید کے لانے والے انبیاء پر اور وید کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا کیونکہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وید ہے ہی نہیں۔ یہ انسان نے بیچ میں ملا دیا ہے۔

غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی کتب کو بھی مختلف تہمتوں سے بری قرار دیا اور ایک بنیادی اصول یہ قائم کر دیا کہ تمام انبیاء خدا کی طرف سے تھے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورت زمانہ کے مطابق ہدایتیں لے کر آئے تھے اور ان تمام ہدایتوں کو قرآن کریم نے اپنے اندر جمع کر لیا۔ اس لئے ہر وہ گندا اور ناپاکی اور لعنت کی بات جو ان کتابوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے یا اسے ان کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور وہ قرآنی تعلیم کی مخالف ہے اس کے متعلق ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسے انسانی دجل نے بیچ میں شامل کیا ہے۔ یہ کتاب تو ایک حسین خدائی کتاب تھی تم نے اس کے اندر گندا ملا دیا اس میں اس کتاب یعنی وید کا کیا

قصور۔ پھر زبور کا کیا قصور، تورات کی کتابوں میں اگر تم نے گند ملا دیا ہے تو اس میں تورات کی کتابوں کا کیا قصور۔ اس طرح دوسرے انبیاء جن کی شریعتیں بدلی ہوئی شکل میں موجود ہیں یا جن کو کسی وقت اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ پرانے زمانہ کے جو شہر تھے اگر ان کی کھدائی سے کوئی اور شریعت بھی ہمارے سامنے آئے اور اس میں اس قسم کا گند ملا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بھی حفاظت کی ہے۔ غرض عظیم احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلوں پر بھی اور اگلے آنے والوں پر بھی۔ اگلوں کو کہہ دیا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ پس فیصلہ ہو گیا اور یہی بات پہلوں کو بھی کہی ہے کہ اگر کوئی گند کتاب کی طرف منسوب ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ قرآن کریم کو دیکھ لیا کرو کیونکہ تمہاری کتاب میں جو سچائی تھی وہ قرآن کریم میں موجود ہے جو چیز تمہاری کتاب کی طرف منسوب ہوتی اور اس کتاب کو قابل اعتراض ٹھہراتی ہے اگر وہ قرآن کریم میں موجود نہیں تو تمہیں تسلی ہو تم خوش ہو جاؤ کہ وہ تمہاری کتاب کا حصہ نہیں تمہاری کتاب حقیقتاً گندی نہیں تھی۔ انسان نے اس کے اندر گند ملا دیا ہے۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم احسان ہے پچھلوں پر بھی اور پہلوں پر بھی۔ اس لئے اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل: ۸۲)

اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور قرآن عظیم کے نور میں کامل طور پر جلوہ فرما ہوا۔ نور جو اس نور سے نہیں ملتا یا جو ظاہری چمک ہے اس کے پیچھے اس قسم کا اندھیرا ہے کہ وہ اس نور کا حصہ نہیں بن سکتا اور ہر وہ باطل جو پہلی شریعتوں میں دجل کے نتیجے میں داخل کیا گیا تھا اس کے لئے اب کوئی جگہ نہیں۔ قرآن کریم نے ان کتابوں کو بری قرار دے دیا ہے اب وہ ان کتابوں کے حصے نہیں سمجھے جائیں گے اسی لئے وید کی جو شکل ہے اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں سخت تنقید کی ہے وہاں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سب اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ وید اپنی اصلی حالت میں خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی پر نازل ہونے والی کتاب تھی۔ ہمارا اعتراض اس دجل پر ہے جو بعد میں انسان کے ہاتھ نے وید میں ملا دیا۔ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ کیونکہ یہاں فرمایا گیا تھا کہ اس دجل کے لئے اب کوئی جگہ

نہیں۔ شیطان اپنے تمام لشکروں کے ساتھ بھاگ گیا ہے اور حقیقتاً بھاگ گیا ہے کیونکہ اس تعلیم کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور اس کی تحریف و تبدیل حقیر اور ذلیل ثابت ہوئی اور اس کی قائم کردہ بد رسوم کا گند ظاہر ہو گیا اور وہ جو اس کے گروہ میں شامل ہو کر حق و صداقت میں رخنہ اندازی کر رہے تھے قرآنی انوار کی یلغار سے بھاری شکست کھا کر بھاگ گئے اور ان کے لئے اب کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہی اس لئے فرمایا:-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(الصَّف: ۱۰)

یعنی اس خاتم النبیین کے جلالی ظہور کے نتیجے میں وہ تمام ادیان سابقہ جن میں شیطانی وسوسہ نے شرک خفی یا شرک جلی کی کھڑکیاں کھول رکھی تھیں اور جن کے چہروں کو اس یقین نے مسخ کر دیا تھا شکست کھائیں گے اور اسلام اپنی پوری شان کے ساتھ ان پر غالب آئے گا اور دنیا اس صداقت کو پہچاننے لگے گی کہ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف: ۱۵۹)

آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب بنی نوع انسان کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔

یہ جو میں نے کہا ہے کہ پہلی کتاب پر جو اتہام لگائے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور کیا ہے۔ ایک اتہام تو دہریہ عام لگاتے ہیں دہریہ ہر طرف یہ تلوار چلا رہا ہے یعنی ایک طرف تو شیطان نے گند کو ان کتابوں میں داخل کر دیا اور دوسری طرف شیطان نے شیطانی دل کو کہا کہ یہ دیکھو نشانہ کی بڑی اچھی جگہ ہے یہاں جا کے تلوار چلاؤ۔ گویا آپ ہی ٹارگٹ بنایا اور اس کے اوپر چلانے کے لئے آپ ہی گولیاں دیں۔ شیطان نے یہ کارنامہ کیا۔ دہریہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں اور اس پر وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ بہتوں کو گمراہ کرنے والی دلیل ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں وہ کہتے ہیں کہ آدم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خدا ہے اور وہ خدا کا بندہ تھا اور اس کے اوپر شریعت نازل ہوئی تھی لیکن آدم تو ایسا تھا اور تورات سے وہ حوالہ دے دیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ داؤد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ تھا لیکن وہ تو اس قسم کے اخلاق کا تھا وہ زانی تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ فلاں شریعت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نازل ہوئی تھی لیکن اس میں تو مثلاً نیوگ جیسی لعنت پائی جاتی ہے۔ غرض وہ پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک اور پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک نام لے لے کر عملاً اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ خدا کے برگزیدہ نبی ہیں اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ خدا تعالیٰ نے نازل کی ہیں لیکن ان میں یہ گند پایا جاتا ہے اس لئے اللہ ہی کوئی نہیں تم نے سب فراڈ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی حفاظت کی اور کتابوں کی بھی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ شیطان کو کہلوا یا کہ تجھے وید میں گند نظر آ رہا ہے اور تجھے یہ گند تیری طبیعت کے مطابق نظر آ رہا ہے لیکن ہمیں وید میں بہت سی صداقتیں نظر آ رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ ہی ایسی دی ہے کہ ہم صداقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام کو جو صداقت دی گئی تھی وہ صداقت قرآن کریم میں بھی پائی جاتی ہے اسی طرح جو صداقتیں بعد کے انبیاء کو دی گئیں وہ بھی قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں اور قرآن کریم اپنی صداقت کے ثبوت کے لئے صرف عقلی دلائل کا محتاج نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ آسمانی نشانات رکھتا ہے جن کا تو اسے شیطان! مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس شہادت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس شہادت کو تو ٹوڑ نہیں سکتا وہ شہادت ہے اس بات پر کہ آدم سچا تھا وہ شہادت ہے اس بات پر کہ نوح سچا تھا وہ شہادت ہے اس بات پر کہ موسیٰ سچا تھا اور عیسیٰ سچا تھا اور دوسرے تمام انبیاء سچے تھے اور یہ شہادت ہے اس بات پر کہ ان کی کتابوں میں جو صداقتیں تھیں وہ قرآن کریم نے لے لی ہیں اور اس حد تک وہ کتابیں صداقتوں کی حامل تھیں۔ سچی کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اس لئے تیرا وارے شیطان تیرے اپنے ہی پیدا کردہ ایک ٹارگٹ پر ہو رہا ہے لیکن خدا اور اس کے بندوں پر تیرا وار کا میاب نہیں۔ تو دیکھو یہ کتنا بڑا احسان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کتب سماویہ پر بھی کیا کہ ان سب کو تہتوں سے بری قرار دیا اور اس کا بڑی شان کے ساتھ اعلان کیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس حصہ کے متعلق کہ قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے اور ہمیں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں یہ فرمایا کہ۔

”جس قدر معارف عالیہ دین اور اس کی پاک صداقتیں ہیں اور جس قدر نکات

ولطائف علم الہی ہیں جن کی اس دنیا میں تکمیل نفس کے لئے ضرورت ہے ایسا ہی جس قدر نفسِ امارہ کی بیماریاں اور اس کے جذبات اور اس کی دوری یا دائمی آفات ہیں یا جو کچھ اُن کا علاج اور اصلاح کی تدبیریں ہیں اور جس قدر تزکیہ و تصفیہ نفس کے طریق ہیں اور جس قدر اخلاقِ فاضلہ کے انتہائی ظہور کی علامات و خواص و لوازم ہیں یہ سب کچھ باستیفائے تام فرقانِ مجید میں بھرا ہوا ہے اور کوئی شخص ایسی صداقت یا ایسا نکتہ الہیہ یا ایسا طریق وصول الی اللہ یا کوئی ایسا نادر یا پاک طور مجاہدہ و پرستش الہی کا نکال نہیں سکتا جو اس کلام میں درج نہ ہو۔“ (سرمہ چشم آریہ روحانی خزائن جلد نمبر ۲ صفحہ ۴۷ ح)

غرض ساری ہدایتیں اس میں درج ہو گئیں اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب پچھلی کتب سماویہ کی ضرورت نہیں رہی اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے پاک انبیاء پر نازل ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کے اندر جو گندی باتیں انسان نے ملا دی تھیں ان سے بھی ان کو بری قرار دیا اور ان کے ماننے والوں کو کہنا کہ اصل میں جو کتاب تمہیں دی گئی تھی اس کی طرف بھی ہم تمہیں بلاتے ہیں اور وہ قرآن کریم میں ہے تمہاری اپنی کتاب میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اور آپ کو جو ابدی صداقت عطاء ہوئی تھی وہ ابدی صداقت قرآن کریم میں ہے۔ اس لئے اہل کتاب کو کہا تو رات کو مانو اور اس میں تم نے اپنے ہاتھوں سے جو بدل ملا دیا ہے اور گند داخل کر دیا ہے اس کو چھوڑ دو تم نجات پاؤ گے اور پھر تمہیں اور انعام ملے گا۔ مزید صداقتیں تمہارے ہاتھ میں دی جائیں گی اور تم اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں زیادہ سہولت کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ روحانی رفعتوں تک پہنچنے کے لئے تم اختیار کر سکو گے۔

اسی نکتہ کی چوتھی شق یہ ہے کہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت بتائی ہے کہ پہلی تمام شرائع قرآن کریم کا ایک حصہ تھیں اور یہ بات ایک اور زاویہ نگاہ سے ہے اور پہلی امتوں کو جس چیز کی وقتی ضرورت تھی وہ قرآن کریم نے افاضہ روحانی سے انہیں عطا کر دی اور صرف وہی ہدایت عطا کی اور اس طرح ماقبل کی سب شریعتیں قرآنِ عظیم کا ایک حصہ اور سارے انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بزرگ شارح انبیاء قرآنِ عظیم ہی کے ایک حصہ پر عمل کرنے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے اور کوئی مستقل شریعت اس معنی میں وہ لانے والے

نہیں تھے کہ قرآن کریم سے زائد ان کے پاس کچھ ہو تو میں نے بعض دوسری جگہوں میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اس کی وضاحت قرآن کریم نے ان آیات میں کی ہے۔

الْمُتَرَاكِبِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ يُمِتُّوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (آل عمران: ۲۴)
الْمُتَرَاكِبِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ
أَنْ تَضَلُّوا السَّبِيلَ (النساء: ۲۵)

الْمُتَرَاكِبِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا سَبِيلًا (النساء: ۵۲)

ان آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ وہ اقوام جنہیں قرآن عظیم کا ایک حصہ ہی وقتی ضرورت کو پورا کرنے اور ناقص قوتوں اور استعدادوں کی مناسب نشوونما کے لئے دیا گیا تھا ان کی حالت یہ ہے کہ وہ

۱۔ اپنی جہالت اور اللہ سے بُعد کی وجہ سے کتاب کامل کے ایک ٹکڑے پر ناز کرتے اور کتاب کامل سے اعراض کرتے ہیں یعنی یہ ایک بڑی غیر معقول بات ہے کہ دیا تو گیا تھا انہیں قرآن کامل کا ایک حصہ اور ان کی حالت یہ ہے کہ کتاب کامل کے ایک ٹکڑے یعنی اپنی کتاب پر ناز کرتے ہیں اور اس کامل کتاب سے وہ اعراض کرتے ہیں۔

دوسرے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب کامل کا جو حصہ ان کو دیا گیا تھا اس میں ضلالت کی جو باتیں خود انہوں نے اپنی طرف سے دجل کر کے ملائی ہیں ان سے ہدایت کے اس حصہ کی نسبت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اسے ترجیح دیتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں جو اس کے مقابلہ میں اصل کتاب ہے اور تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ تم بھی صداقت کاملہ حقہ کو چھوڑ کر شیطانی وساوس اور انسانی بناوٹ کو اختیار کرو جو بناوٹ انہوں نے اپنی کتاب کے متعلق کی ہے۔

تیسرے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ شیطانی وسوسہ اندازی اور نفس امارہ کی آواز جو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے اور بے فائدہ ہیں اور حد سے بڑھنے والوں کی

باتوں کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ انہیں ملا تھا اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے اور اللہ کی ہدایت سے اس قدر بے رغبتی اور نفرت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ نفسِ امارہ اور شیطانِ لعین کو مومنوں سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں بھی اس قسم کے بہت سارے نظارے نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا:-

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۗ وَأَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (الانبیاء: ۵۱)

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا بَرُهَا نَكْمَةٌ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ وَذِكْرٌ

مَن قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ (الانبیاء: ۲۵)

فرمایا کہ یہ قرآن مجید عزت اور شرف کا جامع ہے ذِکْرٌ مُّبْرَكٌ اللہ کی نگاہ میں جو شرف اور رضا پہلی اقوام علیحدہ علیحدہ پاتی تھیں اس کی اتباع سے وہ سب عزتیں مل جائیں گی بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ کیا تم اے ہمارے مخاطب ایسی عظیم کتاب کا انکار کرتے ہو اور پہلوں کو جو بھی عزت اور عظمت ملا کرتی تھی وہ بھی اس قرآنِ عظیم کے بعض حصوں کی اتباع کے نتیجے میں ملتی تھی اور جو میری تربیت میں آ کر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے) اس کی پیروی کریں گے انہیں سب عزتوں کے سرچشمہ سے (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا یونس: ۶۶) وہ ساری ہی عزتیں نصیب ہوں گی جو ایک انسان اپنے اپنے دائرہ استعداد میں حاصل کر سکتا ہے مگر ان میں سے اکثر اس تعلیم کو پہچانتے نہیں جو انسان کی ہر فطری پیاس کو سیراب کرنے والی اور فطرتِ انسانی کے سب قوای کو اپنے اپنے دائرہ استعداد میں کمال نشوونما دینے والی ہے (الْحَقُّ) اور اس لئے اس منبعِ عزت و شرف سے منہ موڑ کر باطل اور بے حقیقت چیزوں کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ پہچانتے نہیں۔

غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں بنی نوع انسان سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی طرح دوسرے انبیاء پیدا ہوئے اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت پائی اور ان کے ماننے والوں نے بھی۔ اب تمہیں یہ بشارت ہو کہ تمہیں بھی وہ ساری عزتیں ملتی رہیں گی اور ان کے حصول کے دروازے بند نہیں ہوئے بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر عزتیں تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حاصل کر سکتے ہو

ان سے بڑھ کر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکتے ہو۔ ”الحق“ کو تم پا سکتے ہو یہ عجیب بات ہے کہ اتنی عظیم عزت اور عظمت کے سامان تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور تم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور صرف ایک مختصر سے اور چھوٹے سے حصہ عزت کا تم بہانہ بناتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں بھی عزت کا سامان ہے لیکن تمہاری کتاب میں جو عزت کا سامان ہے اس کی طرف بھی تو تم توجہ نہیں دیتے بلکہ اس میں جو گند تم نے اپنی طرف سے ملا دیا ہے تم ہر وقت اس کی پیروی کرتے ہو۔ اس لئے تم بڑے جاہل ہو اور اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کرنے والا ہو۔

پانچویں شق اس نکتہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو غیر محدود ترقیات کے وعدے دیئے ہیں جیسا کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة: ۳) میں اس فیض عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جس کے حصول کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ

رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَغُفْرَانًا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحریر: ۹)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں

”اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا۔ یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا۔ پھر دوسرا کمال سامنے نظر آئے گا۔ اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے۔ پس کمال ثانی کے حصول کے لئے التجاء کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا ان پر ظاہر ہوگا۔ پھر اس کو دیکھ کر پہلے کمالات کو ہیچ سمجھیں جائیں گے اور اس کی خواہش کریں گے یہی ترقیات کی خواہش ہے جو آتَمُّمُّ کے لفظ سے سمجھی جاسکتی ہے۔ غرض اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائے گا اور تنزل کبھی نہیں ہوگا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۰ صفحہ ۴۱۲، ۴۱۳)

یہ وعدہ ہے امت محمدیہ سے۔ اٹھارہ میں سے تین باتیں میں نے بیان کر دی ہیں اور باقی پندرہ کو بیان کرنے کا تو اب وقت بھی نہیں۔ دوستوں نے جانا بھی ہے اور جانے کی تیاری بھی کرنی ہے اور ہم نے بھی ان کو الوداع کرنے کی تیاری کرنی ہے یعنی ان کے لئے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ انشاء اللہ۔ سواب میں تقریر کو اس حصہ پر ختم کرتا ہوں۔

جو کیفیت ہم ربوہ میں رہنے والوں کے دلوں کی جلسہ کے آخری دن ہوتی ہے اس کا اندازہ باہر سے آنے والے ہمارے عزیز بھائی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی بھی یہی کیفیت ہوگی لیکن میری اپنی جو حالت رہتی ہے اس کا ایک حصہ میں نے بتایا تھا کہ جب آپ جلسہ پر آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی میں پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی شیطانی رخنہ آپ کو جلسہ میں شمولیت سے روک نہ دے۔ جب آپ آرہے ہوتے ہیں تو چونکہ انسانی زندگی اور سفر میں سینکڑوں قسم کی تکالیف اور حادثات لگے ہوئے ہیں اس کے لئے میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور تکلیف میں رہتا ہوں۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حافظ و ناصر ہو اور وہ ہر قسم کی تکلیف اور دکھ اور آفت اور حادثہ سے آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر آپ یہاں آجاتے ہیں تو پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے رضا کار بھائیوں میں سے کوئی شخص غفلت اور نادانی کے نتیجے میں کسی آنے والے دوست کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے نفوس آپ کے لئے تکالیف اور آفات کا سامان نہ پیدا کر رہے ہوں۔

اس جلسہ کے ایام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے اور اگر ہم چاہیں اور اگر ہم ارادہ کریں اور اگر ہم اس کے لئے کوشش کریں اور اگر ہم اس کے حصول کے لئے دعائیں کریں اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اور دعا کو قبول فرمائے تو بے انتہا برکات کو لے کر ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے نفوس کی کوئی کمزوری ان برکات سے ہمیں محروم کرنے والی ہو۔ اس کے لئے میں دعاؤں میں لگا رہتا ہوں۔

پھر آپ کے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کو بھی یہ دن گذرتے معلوم نہ ہوتے ہوں گے لیکن کام کی کثرت کے نتیجے میں تو میرے لئے ایک گھنٹہ پہلے اور تین دن پہلے کی صبح کا تصور کرنا مشکل ہے۔ میرے لئے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ دونوں حالتیں ایک ہی وقت میں ہو گئی تھیں یعنی پرسوں صبح پہلے دن کی ابتداء اور آج ایک گھنٹہ پہلے کی جو حالت ہے اس میں مجھے وقت کا احساس نہیں۔ پس اس طرح معلوم ہوتا ہے۔ آپ آئے۔ آپ ہم سے ملے۔ آپ کی وجہ سے ہم نے بہت سی خوشیاں اور برکات حاصل کیں اور اب آپ ہمیں اداس چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں جہاں بھی آپ ہوں۔ جس حالت میں بھی آپ ہوں۔ سفر و حضر میں بھی اور دوسرے حالات میں بھی

اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا حافظ ہو۔ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں اور ہر شر سے آپ کو بچائیں۔ خدا تعالیٰ آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیجے اور آپ کے دل اور آپ کے سینہ اور آپ کے دماغ اور آپ کی روح کو اپنے نور سے معمور کر دے۔ خدا تعالیٰ کے فرشتے آئیں اور آپ کے دلوں میں اس کی ذاتی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیار آپ کے سینہ میں بھر دیں۔ ایک آگ آپ کے جسموں میں لگا دیں اور دنیا سے کلی طور پر منقطع ہو کر اپنے رب کی طرف آپ ایک روحانی حرکت میں آجائیں تاہم راہ مقصود حاصل ہو جس کے حصول کے لئے ہم پیدا کئے گئے تا جماعت احمدیہ کا وہ مقصد حاصل ہو جس مقصد کے حصول کے لئے جماعت کو قائم کیا گیا ہے۔

آپ بھی دعائیں کرتے رہیں ہم بھی دعائیں کرتے رہیں گے اپنی ان دعاؤں میں وسعت پیدا کریں۔ سورۃ فاتحہ میں ہمیں جمع کے صیغہ سے دعا سکھائی گئی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اکیلے کوئی چیز نہیں ساری دنیا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو تا کہ وہ خدا جو ساری دنیا پر اپنی ربوبیت سے اپنی رحمتوں کا سایہ کئے ہوئے ہے وہ اپنی رحمتوں سے تمہیں بھی حصہ دے بہت سی ترقیات روحانی دنیا کے ماحول پر منحصر ہوتی ہیں اگر آج دنیا کی اکثریت مثلاً احمدی ہو جائے اور اسلام لے آئے اور آج دنیا کے اموال اسی طرح خدائے واحد یگانہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے خدا کے حضور پیش کئے جائیں جس طرح شیطان کے حضور دجل کو پھیلانے کے لئے آج اموال اور دولت کے ڈھیر پیش کئے جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ فضلوں کا وارث بننے کی توفیق مل جائے۔ ساری دنیا کے لئے دعائیں کریں۔ آپ کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کا آپ کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے کسی سے دشمنی کو خدا نے جائز قرار نہیں دیا۔ ہم بدی کے دشمن ہیں لیکن ہم بد کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم ناپاکی کے دشمن ہیں لیکن ہم ناپاک کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم ایک غافل انسان کے دشمن نہیں لیکن ہم اس کی غفلت کے دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی ناپاکی پاکیزگی سے بدل جائے اس کا گند نیکی میں متغیر ہو جائے نیکی کا چولہا پہن لے۔ اس کے اندھیرے نور کی شکل میں اس کے اپنے لئے اور دنیا کے لئے ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی

رحمتوں کا ہر انسان وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے کے بھی ہم دشمن نہیں ہاں ان کی گالیوں کے ہم دشمن ہیں اس بدی کے ہم دشمن ہیں۔ ان شیطانی وساوس کے ہم دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں گند سے بھری ہوئی اور تہمتوں سے بھری ہوئی اور اتہاموں سے بھری ہوئی جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان کتابوں کے لکھنے والوں اور ان کتابوں کے شائع کرنے والوں کے خلاف ہمارے دل میں کوئی دشمنی کا جذبہ نہیں ہے۔ جو عالمین کے لئے رحمت بن کر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے قدموں میں جگہ دے کر ساری دنیا کے لئے رحمت کا ایک نشان بنا دیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو ان ہستیوں تک بھی لے کر جائیں جو رحمتوں سے انتہائی طور پر دور اور نور سے بالکل محروم اور کامل اور نہایت خطرناک اندھیروں میں اپنی زندگی کے اوقات گزارنے والے ہیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ایک گندی بیماری کا علاج کرتے ہوئے اس گندے آدمی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اور اپنی جان کو اور اپنی صحت کو خطرہ میں بھی ڈالتا ہے۔ یہ حالت ہماری ہے ہم نے اندھیروں میں اس لئے گھسنا ہے تا ان اندھیروں میں بسنے والوں کے لئے روشنی کا سامان پیدا کریں۔ ہم نے ناپاکیوں کو اس لئے ہاتھ لگانا ہے کہ ہم ان ناپاکیوں کو دور کر کے اس کی جگہ پاکیزگی کے سامان پیدا کریں۔ ہم نے دوری اور بعد کے قریب اس لئے جانا ہے کہ دوری اور بعد کو خدا کے قرب میں تبدیل کر دیں اور ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے وارث بنائیں جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کی عظمت اور اس کے جلال کو اور اس کی قدرتوں کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز اپنی کامل قدرتوں کے نظارے دکھاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی زندگی کا ثبوت دیتا ہے۔ اس پیارے کوچھوڑ کر کسی اور طرف ہم منہ نہیں کر سکتے اور اس پیارے کے سامنے ہی ہم عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ جھکتے ہیں کہ ہم بے ہنر اور بے مایہ ہیں لیکن وہ ہنر کا مالک اور ہر قدرت کا مالک ہے اور ہر بزرگی کا مالک اور ہر عزت کا مالک اور ہر عظمت کا مالک اور ہر جلال کا مالک اگر وہ چاہے اور خدا کرے کہ وہ چاہے تو ہم ناچیز بندوں کو اپنا ہتھیار بنا لے اور ہمارے ذریعہ سے دنیا کی انسانیت میں وہ انقلاب عظیم پھا کرے کہ ساری دنیا کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔

اپنی دعاؤں میں تمام انسانوں کو یاد رکھیں۔ تمام احمدی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ تمام احمدی

بہنوں کو یاد رکھیں۔ دنیا میں جہاں بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے دعائیں کریں جہاں کہیں دکھ ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دکھ کو دور کر دے۔ جہاں کہیں غربت ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کے حقوق دلوادے۔ جہاں کہیں کوئی ظالمانہ طور پر کوئی بے عزتی کی جا رہی ہو۔ خدا جو عزت کا سرچشمہ ہے اس شخص یا ان اشخاص یا اس جماعت یا ان جماعتوں کی عزت کو قائم کرے۔ خدا کرے کہ جس طرح اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کر کے ساری انسانیت کے گرد ایک احاطہ کر لیں اسی طرح وہ ایسے سامان پیدا کر دے کہ ہمارے اعمال صالحہ بھی ساری دنیا کا احاطہ کر لیں اور ہر شخص کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت میں ہمیں ایک محسن کی شکل اور رُوپ عطا کرے کہ اس کی قدرت سے کوئی چیز انہونی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔

اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ سب کے لئے ہی دعا کریں۔ وہ بڑا قدرتوں والا اور بڑا پیار کرنے والا ہے۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)

قلوب کو خدا اور اس کے رسولؐ کی محبت کی آگ سے روشن رکھو

﴿افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۷۷ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

عزیز از جان بھائیو، بہنو اور بچو! ہمارے محبوب و مقصود و ربِّ کریم کے آپ پر ہزاروں

سلام ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آنے کی غرض بھی اور اس جلسہ کی غرض بھی یہ بتائی ہے کہ ایسا سامان پیدا ہو کہ دلوں سے دُنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جائے اور خدائے واحد و یگانہ سے ذاتی محبت اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ عشق دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج دُنیا اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچانتی نہیں۔ دُنیا، دُنیا میں اس قدر مٹو ہو چکی ہے کہ ہزار قسم کے بُت دلوں میں بٹھا دیئے گئے ہیں۔ علم پر غرور ہے۔ طاقت پر بھروسہ ہے۔ مادی سامانوں پر تکیہ کیا جاتا ہے لیکن وہ جو ان تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے اُس کو بھلا دیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یہ غرض تھی کہ دُنیا کی تمام اقوام اپنے پیدا کرنے والے رب کے قدموں میں جمع ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزندِ جلیل کی حیثیت سے، آپ کے ایک محبوب ترین بیٹے کی حیثیت سے دُنیا میں اسی غرض سے آئے۔ الٰہی بشارات کے مطابق یہ ہے ہمارا عقیدہ۔

پس جن لوگوں کے دلوں میں دُنیا کی محبت سرد ہو جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتیہ کی آگ جوش مارنے لگتی ہے اور جس کے نتیجے میں بظاہر سب کچھ خل جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس دے دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی اور جن کی فراستیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے بے بہرہ اور غافل ہوتی ہیں وہ سمجھتے

ہیں کہ ان کو بہت کچھ ملا لیکن انہیں بھی ایک دن جاننا پڑتا ہے اور دُنیا بھی دیکھتی ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملا۔

اس جلسہ کی غرض ہی یہ ہے کہ یہاں جو نیکی کی باتیں کی جاتی ہیں دوست انہیں غور سے سُنیں۔ اخوت کی جو فضا پیدا کی گئی ہے دوست اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو پاک ہوا ہمیں یہاں مل رہی ہے اس میں وہ سانس لیں اور کسی طرح ایسا ہو جائے کہ ہر احمدی کے دل سے دُنیا کی محبت نکل جائے سرد پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ایسا شعلہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کچھ ایسی آگ لگے کہ دُنیا سے انسان بالکل ہی منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے اور اس میں ہو کر اور اسی کے لئے اور اس کی اطاعت میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی کے دن گزارے۔

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے جلووں کو اس طرح نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ سوچنے والی عقل اور سمجھنے والا دل اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہی باتیں ہیں جو اس جلسہ میں بیان کی جاتی ہیں یعنی قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حُسن و احسان کے جلووں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

دُنیا کی لالچ کے لئے نہ ہم نے آپ کو یہاں اکٹھا کیا نہ آپ یہاں آئے، آپ خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس عظیم غلبہ اسلام کی مہم کی باتیں سُننے اور اس کے لئے مزید جد و جہد کا عزم لے کر واپس جانے کی تمنا لے کر یہاں آئے ہیں۔ دُنیا میں ایک انقلاب عظیم پنا ہو رہا ہے۔ جو لوگ کنوئیں کے مینڈک ہوتے ہیں انہیں تو کنوئیں سے باہر نظر نہیں آتا لیکن وہ لوگ جو دُنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دُنیا کے پردے پر ہماری سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں یعنی عیسائی انہیں بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ”قرآن کریم“ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت میں اور تعلیم میں کچھ اس قسم کا حسن اور کشش اور جذب ہے کہ ان کے لئے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

افریقہ کے دورے پر لوگوں کو میں کہتا رہا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا ایک عظیم نعرہ لگایا تھا وہی پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں انہیں

بتاتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود کہ کسی ماں نے نہ ویسا جتنا اور نہ جننے گی، وہ جو صفات باری کے جلوے اپنے اندر اکٹھے کئے ہوئے تھا، وہ جو خدا تعالیٰ کے نور اور اُس کا مظہر اتم تھا وہ جو اپنے وجود میں پوری کی پوری صفات باری انکا سر کر رہا تھا اُس وجود کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا یا:-

أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکھف: ۱۱۱)

یعنی بطور بشر کے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے۔ سب نے ہی جو کچھ پایا وہ آپ کے فیض سے پایا۔ اصل میں ہر خیر اور نیکی کا منبع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لئے وہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل روحانی مدارج کو حاصل کیا، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھے جیسے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام، یہ اور ان کے ماننے والے آپ پر کسی برتری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب میں یہ کہتا تھا تو اُس وقت پادری جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ اُچھل پڑتے تھے اور بڑے پریشان ہو جاتے تھے یہ اعلان انہیں قتل کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دلوں کو جیتنے کے لئے تھا۔

پس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس میں تمام صفات حسنہ جمع ہیں اور کوئی عیب اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام نقائص اور بُرائیوں سے منزہ ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر خیر اور خوبی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ پانی آپ لوگوں کی پیاس نہیں بجھاتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے حُسن کا ایک جلوہ ہے جو آپ کی پیاس بجھاتا ہے۔ جس وقت پانی میں وہ جلوہ نہ ہو تو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہی پانی انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ گندم یا دوسری غذائیں آپ کا پیٹ نہیں بھرتیں، خدا کے حُسن کے جلوے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ ہوا، جس پر ہماری زندگی کا مدار ہے، جس میں ہم سانس لیتے جس سے آکسیجن لیتے ہیں اس ہوا میں اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے کہ انسان کی بقا اور حیات کا سامان پیدا کرے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلوے ہیں جو اس ہوا میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس ہوا کے ذریعہ جب وہی جلوے ہمارے

پھیپھڑوں میں جاتے ہیں تو ہماری حیات اور بقا کا سامان پیدا کر دیتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے کہ پھیپھڑے کو کہتا ہے کہ ہوا سے بھلائی نہ لے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہوا سے یہ کہتا ہے کہ پھیپھڑے میں تو طاقت ہے لیکن تُو اسے طاقت نہ دے۔ آخر ہر وفات پانے والا شخص اپنی چار پائی پر ہوا سے سانس لے رہا ہے لیکن اس کی بقا کا سامان اُسے اس ہوا سے نہیں مل رہا۔

پس ہر نعمت جو ہمیں ملتی ہے ہر برکت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے ہر رحمت جس کے ہم وارث ہوتے ہیں ہر دُنویوی آرام جسے ہماری خاطر پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حُسن و احسان کے جلوے ہیں۔ کسی چیز میں اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں۔ یہ سُو رَج جو اس وقت طلوع ہے یہ روشنی بھی دے رہا ہے اور یہ گرمی بھی پہنچا رہا ہے لیکن اس سورج میں ذاتی طور پر نہ گرمی ہے اور نہ روشنی ہے یہ تو خدا تعالیٰ کی روشنی کا ایک انعکاس اور خدا تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اس کے پیار کی گرمی کا ایک جلوہ ہے جو سورج کے ذریعہ ہمیں مل رہا ہے۔

یہ ”اللہ“ ہے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ ”اللہ“ ہے جس پر ہر احمدی کو ایمان لانا چاہیے اور اکثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق ایمان لاتے ہیں۔

دیکھو! اسی سال سے ساری دُنیا کٹھی ہو کر ہماری مخالفت پرتئی ہوئی ہے۔ میں نے افریقہ میں بھی یہ کہا تھا کہ اسی سال ہوئے خدا تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی توحید کو قائم کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مطابق آپ کے حُسن کے جلوے دکھانے کے لئے اکیلی آواز اُٹھائی گئی تھی۔ جب وہ اکیلی آواز ایک چھوٹے سے غیر معروف گاؤں سے بلند ہوئی تو اس کے بعد اُس آواز کو خاموش کرنے کے لئے ساری دُنیا کٹھی ہو گئی مگر ساری دُنیا کی طاقتیں کٹھی ہو کر بھی اس آواز کو خاموش نہیں کر سکیں۔ اور پھر میں نے افریقہ والوں سے یہ بھی کہا کہ آج میں افریقہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے جو ترانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی جو آوازیں سُن رہا ہوں وہ اس اکیلی آواز ہی کی ایک گونج اور بازگشت ہے جو میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ غرض یہ زمین و آسمان تو کیا اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی اربوں زمین و آسمان پیدا کر دے (اور وہ ایسا کرنے پر قادر بھی ہے اور ایسا کرتا بھی رہتا ہے) جن میں اسی قسم کی آبادیاں پیدا کر

دے اور وہ سارے جمع ہو کر خدا تعالیٰ کی آواز کو خاموش کرنا چاہیں جو اس نے اپنے کسی بندے کے ذریعہ بلند کی ہو تو وہ خاموش نہیں کر سکتے۔

پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جلسہ کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا والہانہ عشق پیدا کیا جائے جو وفا کی چٹان پر کھڑا ہو اور جس میں کوئی لغزش نہ ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اپنے حُسن و احسان میں ایسا بے نظیر و جود ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر عقلمندوں کی عقلیں حیران اور جو اپنے آپ کو صاحبِ فراست سمجھتے تھے ان کی فراستوں کو اپنی بے مائیگی کا اعلان کرنا پڑا۔ ایک شخص جو آج سے چودہ سو سال پہلے پیدا ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اُس نے پیچھے کی طرف نگاہ کی اور آدم کو اپنی روحانی قوت اور فیض سے حصّہ دیا اور اُس نے آگے کی طرف نگاہ کی اور احمد جو آپ ہی کا ایک عظیم روحانی فرزند تھا اس کے وجود کو اور اس کے ماحول کو اس طرح منور کر دیا کہ میرے جیسا عاجز انسان جب افریقہ کے دورے پر گیا اور واپس آیا تو وہاں کے ایک پیرا ماؤنٹ چیف نے مجھے لکھا کہ آپ نے مجھ سے معافتہ کیا تھا جب لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ نے مجھ سے معافتہ کیا ہے تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے جسم کے ساتھ اپنے جسم ملے اور میرے جسم کو چوما اور اس طرح انہوں نے برکت لینے کی کوشش کی۔ لیکن میں تو جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں البتہ میں اس یقین پر بھی قائم ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جو برکتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل لائے ہیں اُن کی کوئی مثال نہیں۔ آپ کو جو بشارتیں اور وعدے دیئے گئے کہ جہاں تیرے کامل متبع رہیں گے اُن کے در و دیوار میں بھی برکت ڈال دی جائے گی یہاں تک کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگائیں گے اُس کو بھی با برکت بنا دیا جائے گا۔ وہ سچ ہیں۔ یہ وعدے اور یہ بشارتیں ہمیں ملی ہیں ان وعدوں اور بشارتوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر کامل یقین پیدا کرنے کے لئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حُسن کے اور دوسری طرف احسان کے جلوے دیکھنے کے لئے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔

پس میری یہ دُعا ہے کہ جس مقصد کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دُنیا کے کونے کونے میں یہ آواز دی تھی کہ میری طرف آؤ اور میرے سلسلہ میں داخل ہو جاؤ تا کہ تم

برکتیں پاؤ۔ خدا کرے کہ آپ اپنی کسی کمزوری کے نتیجے میں اُن برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں اور خدا کرے کہ آپ کے عمل اور آپ کا اخلاص اور آپ کی نیتیں، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ داغدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر آپ کی کمزوریوں اور داغوں کو ڈھانک دے اور اس کی قبولیت کی رحمت آپ کو قبول کر لے اور آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی آپ کو بشارت دی گئی ہے۔

پچھلے جلسہ سالانہ کی بات ہے یعنی ۲۸ ہجری شمسی کے لحاظ سے اور ۶۹ء دوسرے کیلنڈر کے لحاظ سے جو جلسہ سالانہ تھا اُس میں ایک تقریر کے دوران میں میں نے یہ کہا تھا کہ سالِ رواں فسادات اور ہنگاموں سے شروع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اُن کی بشارتوں کے مطابق اُس کی دی ہوئی ترقیات پر ختم ہو رہا ہے۔ الحمد للہ علی ذالک۔

اس کے بعد کا ہمارا یہ سال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی تھیں اُن کو کچھ اس رنگ میں پورا کیا ہے کہ ہمارے تو ذرے ذرے سے اُس کی حمد کے چشمے پھوٹ رہے ہیں ہم اس کی حمد بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے شروع میں الحمد و دفعہ خاص غرض سے پڑھا تھا لیکن بندہ کیا حمد کرے گا ہم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسانی زبان بے شمار حمد بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حمد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ وہ اپنے پیار کی گود میں بٹھالیتا ہے۔

مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں غیر ممالک کے متعلق جو بشارتیں دی ہوئی تھیں وہ پوری ہوئیں اور افریقہ کے ٹور (tour) میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے عظیم پیار کے جلوے دیکھے۔ دوسرے ہمارے اس ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ فسادات کے بعد کیا چیز نمودار ہوئی؟ خدا تعالیٰ کے وہ حسین جلوے نمودار ہوئے جنہوں نے ہمارے مخالفوں کو سٹن (stun) کر کے رکھ دیا ہے۔ انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا؟ اور اصولی طور پر یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے وہ بچے جو ان ۲۳ سال میں جوان ہو کر ووٹ دینے کی عمر کو پہنچے تھے یعنی ووٹ دینے کے لحاظ سے جوان ہوئے تھے، وہ بچے یا جو کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس ۲۳ سال میں جوان ہو کر ووٹ دینے کی عمر کو پہنچے تھے اللہ تعالیٰ نے

آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہر وہ شخص جو اُمتِ محمدیہ میں مذہب یا سیاست کے نام پر فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے ہم اس کی بات کو رد کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا اس اُمت سے یہ پیار جس کی خوشبو میں سونگھ رہا تھا اور جس کے متعلق باہر سے بھی چھوٹی چھوٹی رپورٹیں آ رہی تھیں مگر اس پیار پر نہ کسی سیاستدان کی نظر پڑی اور نہ کسی مفکر کی۔ اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ اپنے منصوبے بنا رہے تھے۔ لیکن وہ جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو خدا کی حفاظت اور امان میں ہوتا ہے اُس کو تم کس طرح ہلاک کر سکتے ہو۔ تم اپنے گھروں میں بیٹھے منصوبے بنا رہے تھے اور ہمارا پیدا کرنے والا رب تمہارے گھروں میں بچوں کے دلوں کو بدل رہا تھا۔ اس نوجوانِ پاکستان جس پر قوم کو فخر ہے اس قسم کے سارے فتنوں کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم سُننے کے لئے تیار نہیں۔

میں نے خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اُمت میں تو وہی اختلاف ہوگا جس کے نتیجے میں رحمت پیدا ہوگی۔ اس قوم کے بچوں نے کہا کہ تم تو ایسے اختلاف ہمارے سامنے رکھتے ہو جس کے نتیجے میں رحمت نہیں بلکہ اُمتِ مسلمہ کیلئے ہلاکت اور مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ ان بچوں کے دلوں نے کہا (ان کو شاید خود بھی شعور نہ ہو فرشتوں نے ان کے دل بدل دیئے تھے) کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے نتیجے میں اُمتِ محمدیہ میں رحمت کی بجائے مصیبت اور ہلاکت پیدا ہوتی ہے اسے ہمارے دل قبول نہیں کرتے۔

چنانچہ اُن کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن جو ہوا وہ اللہ نے کیا۔ نہ مجھے کوئی فخر اور نہ آپ کے دل میں کوئی غرور ہونا چاہیے۔ ہم تو خدا تعالیٰ کے نہایت ہی عاجز بندے ہیں ہم اپنے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھتے اور نہ اپنے اعمال کو ایسا پاتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکیں ہمیں جو کچھ ملا اور جو کچھ ملے گا وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے دلوں کو ہر غیر کی محبت سے خالی کر دو۔ ہم میں سے بہتوں نے کر دیا ہے اور بہت سارے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دل سے دنیا کی اور غیر اللہ کی محبت نکل جائے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دلوں کو میری محبت اور میرے محبوب اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرو ہم میں سے بہتوں نے اپنے دلوں اور اپنے

سینوں کو اس حسن سے منور کیا اور بہت سارے اس کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے متور کیا وہ اور زیادہ روشنی کے محتاج ہیں اور اس کی احتیاج محسوس کرتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قوت اور استعداد کے مطابق ایک حقیر سا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کیا ہے اس کی قیمت تو خدا تعالیٰ کے حسن کے ایک جلوے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک جلوے کی قیمت بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے عمل سے یا اپنے اخلاص سے آپ اس منڈی میں جا کر کس طرح کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بڑھیا روٹی کے چند گالے یا گندم کے چند سیر لے کر ہیروں کی منڈی میں پہنچ جائے اور ہیروں کی بھی وہ منڈی جس میں ایک ایک ہیرے کی کم سے کم قیمت ایک لاکھ روپے ہو۔ وہ بڑھیا جو متاع لے کر اس منڈی میں جاتی ہے کیا تمہاری عقل یہ باور کرتی ہے کہ وہ بڑھیا اس منڈی میں سے کوئی ہیرا خرید کر لے آئے گی؟ ہرگز نہیں! یہی حال ہمارا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیار ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی محبت کے جلوے ہیں پیار کے اس ایک ایک جلوے کی قیمت میں اگر ساری دُنیا بھی دے دی جائے تو وہ کافی نہیں ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ان جو اہرات کی منڈی میں اخلاص کے ساتھ ایک دھیلا لے کر میرا ایک بندہ آیا۔ اُس کے پاس ایک دھیلے کے سوا اور کوئی چیز نہیں میں اس کو مایوس نہیں کروں گا میں اپنا کوئی ہیرا اس کے ہاتھ میں ضرور رکھ دوں گا اگرچہ اُس مال کے مقابلے میں جو مجھے یہ دے رہا ہے اس کی قیمت کروڑ گنا زیادہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ۔

پس کوئی کبر اور غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کیا ہے اپنی کسی خوبی یا کسی عمل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، اس لئے عاجزانہ راہوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ صراطِ مستقیم پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ عاجزانہ طور پر اُس کے حضور جھکوا اور اُس سے دُعائیں کرتے رہو۔ ہر ایک کی بھلائی چاہو۔ کسی سے دشمنی نہ کرو خواہ وہ ساری عمر تم سے دشمنی کرتا رہا ہو۔ معاف کرنے کی عادت ڈالو خدا کے بندوں سے پیار کرو۔ جو مظلوم ہیں اُن کے ظلم دُور کرنے کی جہاں تک تمہیں طاقت ہے کوشش کرو۔ جو حقوق سے محروم ہیں ان کے حقوق دلانے کی سعی کرو۔ خدا کے ہو جاؤ۔ اس کی اطاعت کا جو اپنی گردنوں پر رکھ کر اپنی زندگی

کے دن گزارو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ دے گا کہ قیامت تک تمہاری نسلیں تم پر فخر کریں گی اور حقیقتاً یہ دیکھیں گی کہ تمہیں وہی ملا جو صحابہؓ کو ملا تھا۔ اور وعدہ پورا ہوا جو مہدیؑ سے کیا گیا تھا کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا

خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔

اب ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ کے لئے سامانِ خیر اور بھلائی پیدا کرے اور وہ جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یہاں نہیں آسکے حالانکہ اُن کے دل تڑپتے ہیں مگر حالات یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے اُن کو بھی اللہ تعالیٰ اُن فضلوں میں، اُن رحمتوں میں اور اُن برکتوں میں جو ہمیں محض اپنے فضل سے عطا کرے برابر کا شریک بنائے اور اُن کو توفیق دے کہ وہ بھی یہاں آ کر اس فضا کو سونگھنے اور اس روشنی سے منور ہونے کی توفیق پائیں۔

خدا کرے کہ ہم سب ساری دُنیا کو، سب کائنات کو، سارے عالمین کو، تمام اقوام کو اور تمام ملکوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حُسن و احسان کے جلوے دکھا کر آپ کے قدموں میں لا ڈالنے میں کامیاب ہوں۔ خدا کرے کہ وہ جیسا پیار ہم سے کرنا چاہتا ہے اُس کا ویسا پیار ہم حاصل کر لیں خود کو اس کا اہل بنائیں۔

پس عجز کے ساتھ زاری کے ساتھ تضرع کے ساتھ خدمت کے جذبہ کے ساتھ مساوات کا علم اُٹھاتے ہوئے کامیابیوں کی راہ پر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ دُنیا کی نوجوان نسل احمدیت کی اور اسلام کی ہے۔ نہ عیسائی اپنے بچوں کو بچا سکتا ہے اور نہ ہندو اپنے بچے کو بچا سکتا ہے یہ نسل تو اسلام کی ہے یہ تو اسلام کو ملے گی۔ یہ نسل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے باہر نہیں رہ سکتی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے گی اور آ کر رہے گی۔ دُنیا جو چاہے کرتی رہے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ دُعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ میں تو کثرت سے دعائیں کرتا رہتا ہوں آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔

اب ہم مل کر اجتماعی دعا کریں گے۔ آپ اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کریں اُٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے، سوتے جاگتے آرام کرتے اور کام کرتے غرض

جس حالت میں بھی ہوں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحہ: ۲) کا کثرت سے ورد کریں۔ ساٹھ ستر ہزار بلکہ لاکھ کے قریب مرد و زن یہاں جمع ہو جاتا ہے ایک دفعہ اگر پانچ سینکڑ میں الحمد لِلّٰہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک لاکھ الحمد لِلّٰہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جا رہی ہوگی مگر اس کا ایک تاننا بندھا رہنا چاہیے ہر وقت الحمد لِلّٰہ کا یہ ورد آسمانوں کی طرف بلند ہوتا رہنا چاہیے بیچ میں کہیں روک پیدا نہ ہو یا کوئی وقفہ نہ آئے کہ جس میں الحمد لِلّٰہ نہ پڑھ رہے ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی دلوں کی تسکین کے سامان پیدا کرے گا میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گنواؤں۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گن نہیں سکتا۔ ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ وہ تو بڑا ہی پیار کرنے والا رب ہے۔ کاش! آپ اس کی طاقتوں کو، کاش! آپ اس کے حُسن کو، کاش! آپ اس کے احسان اور دوسری صفات کو پہچاننے لگیں اور ہماری کوشش سعی مقبول بن جائے۔

پس اب اجتماعی دُعا کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا ہے آپ ہر وقت دُعا کرتے رہیں ہر وقت استغفار کرتے رہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہیں جو شخص اپنے نفس کے عجز کو پہچان لیتا ہے اس کے دل پر تکبر اور غرور حملہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو ان کے مقصدِ پیدائش کی معرفت عطا کرے اور ایسے سامان پیدا ہو جائیں کہ وہ اپنے رب کی طرف جھکنے لگیں اور جو عالمگیر تباہی دُنیا کے سر پر اس وقت منڈلا رہی ہے اس کی ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں اور وہی ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ آؤ۔

میل کر دُعا کر لیں۔

(جلسہ سالانہ کی دعائیں صفحہ ۴۵ تا ۵۸)



کتب کی کثرتِ اشاعت سے مراد یہ ہے کہ نئے سے نئے علوم نکلیں گے

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۰ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نور نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔
 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا آنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ
 لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ (القلم: ۳ تا ۲)

پھر حضور نور نے فرمایا:-

ہماری یہ مجلس ہر سال ہی بے تکلف مجلس ہوا کرتی ہے۔ جہاں ان فضلوں اور رحمتوں کا
 خصوصاً ذکر ہوتا ہے جو سالِ رواں میں اللہ کی رحمت سے جماعت حاصل کرتی ہے وہاں کچھ نئی
 کتب چھپتی ہیں کچھ کتب کے نئے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں ان کا علم میں جماعت کو دیا کرتا ہوں اور
 ان کے خریدنے کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی یہ ایک عظیم اعلان بھی کیا گیا کہ قلم اور دوات
 اور اشاعت کتب اور رسائل کا زمانہ آ گیا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ پر اس نقطہ نگاہ سے نظر ڈالیں تو
 میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ جو قریباً چودہ سو سال گزر چکے ہیں آپ کی
 بعثت سے قبل کے چودہ سو سال میں جس قدر کتب اور جتنی تعداد میں کتب شائع ہوئیں۔ ان چودہ
 سو سال کی کتب کے مقابلے، اس زمانہ میں شاید ایک ماہ میں ان سے زیادہ کتب شائع ہو جاتی
 ہوں۔ ویسے میری طبیعت کا رجحان تو یہ ہے کہ یقیناً اس سے زیادہ شائع ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ ہم
 نے اعداد و شمار اکٹھے نہیں کئے اس لئے انسان احتیاط سے بولتا ہے۔ یہ اتنا عظیم اعلان اور پیشگوئی
 ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کی گئی تھی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ صرف
 یہی اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ کتب کثرت سے شائع ہوں گی اور قلم اور دوات سے بہت کثرت سے

کام لیا جائے گا بلکہ یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ علم کے ہر میدان میں جب تحقیق ہوگی، کتب لکھی جائیں گی اور ان کی اشاعت ہوگی اور جب علم پختہ ہو جائے گا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہی کی تفسیر ہے اور قرآن کریم جس عظیم ہستی پر نازل ہوا تھا یہ کتب کی اشاعت اور کتب کے مضامین کے متعلق یہ تحقیق اور یہ علم کہ وہ قرآن کریم کی آیات ہی کی تفسیر ہیں، ہر علم کے میدان میں اس بات کو ثابت کرے گا کہ مخالفین کا یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنوں ہیں، غلط ہے۔

دوسرے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جہاں آپ کی صداقت اور حقانیت اور اللہ سے آپ کا تعلق اور معلم حقیقی کے سرچشمہ سے آپ کا علم ثابت ہوگا وہاں اس ذریعہ علم سے بنی نوع انسان پر اس قدر احسان ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ان احسانوں کو دیکھ کر آپ پر درود بھیجیں گے اور ایک نہ ختم ہونے والا اجر اس طرح بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ فرمایا تیرا جو اجر ہے وہ کاٹا نہیں جائے گا۔ اس میدان میں بھی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ہزاروں لاکھوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو آپ کی عظمت کا یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ قلم اور دوات سے بڑی کثرت سے کتب شائع ہوں گی۔ میں نے ابھی مثال میں جو بتایا چودہ سو سال میں آپ کے زمانہ سے پہلے جو کتب شائع ہوئیں اب ایک مہینے میں ان سے زیادہ تعداد میں شائع ہو جاتی ہیں۔ بات اگر یہیں پر ختم کر دی جاتی تو یہ بھی ایک عظیم پیشگوئی تھی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم نہیں کیا بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کتب کی کثرت اشاعت سے مراد یہ ہے کہ نئے سے نئے علوم نکلیں گے تبھی تو کتب کثرت سے شائع ہوں گی۔ پھر تحقیق جو نئے سے نئے میدانوں میں کی جائے گی اس کے نتیجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت ثابت ہوگی اور یہ ثابت ہوگا کہ اس میدان میں بھی انسانی زندگی کے اس شعبے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان پر بڑا احسان ہے اور انسان اس کے بدلہ میں درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے گا اور خدا سے کہے گا کہ اے ہمارے رب! تیرے اس محبوب بندے نے ہم پر کتنے احسان کئے ہیں ہم تو ان احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے تو خود ہی بدلہ اتار اور زیادہ سے زیادہ جزا دے۔

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (القلم: ۴) دوسری بات یہ ثابت ہوگی۔

ہماری جماعت بھی تحقیق کے میدان میں کام کرتی رہتی ہے اور نئی کتب شائع ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں بھی نئے سے نئے علوم نکلتے رہتے ہیں مثلاً ایک نیا علم نکلا ہے جس کو سائنس آف چانس (Science of chance) کہتے ہیں یعنی اتفاق کو مدون کر کے اس کا ایک علم بنا دیا۔ یہ جو لوگ اتفاق اتفاق کہتے ہیں۔ اس کی تدوین کر دی۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سائنس آف چانس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہر چیز اتفاقہ ہوگی۔ سورج اتفاقہ بن گیا، زمین اتفاقہ پیدا ہوگی، زمین سے سورج کا یہ فاصلہ اتفاقہ ہو گیا، جس محور اور زاویہ پر زمین چکر لگا رہی ہے یہ ایک اتفاقہ بات ہوگی، چاند سے جو فاصلہ ہے وہ اتفاقہ ہو گیا، دن رات کی جو تعیین ہے یعنی زمین کی رفتار یہ اتفاقہ ہوگی، ہر چیز ہی اتفاقہ ہوگی اور ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں اربوں اتفاق اکٹھے ہوئے تب انسان کے لئے ممکن ہوا کہ وہ اس زمین پر زندگی گزار سکے۔ پس سائنس آف چانس سے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ ہے یعنی متصرف بالا راہہ خالق اپنی منشاء سے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ اتنے اتفاق اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اور بہت سی باتیں ہیں، جو میں نے اس بے تکلف مجلس میں کہنی ہیں۔ بہر حال ایک نئی سائنس نکلی لیکن بہتوں کو اس کا علم نہیں۔

مجھے ایک پادری سیرالیون میں ملے تو سمجھے کہ مشرق سے کوئی مذہبی آدمی آ گیا ہے۔ دنیا کے علوم کا اس کو کیا پتہ ہے اُس نے کچھ ایسے ہی رنگ میں مجھ سے بات شروع کی۔ میں تو ایک عاجز انسان ہوں اُس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو حید کا نمائندہ اور یہ تثلیث کا نمائندہ ہے۔ باوجود میری عاجزی اور انکساری کے جو میری طبیعت میں ہے یہ مجھ سے سبقت نہیں لے جاسکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ہی ایک نااہل انسان ہوں اللہ تعالیٰ کے سکھائے بغیر میں کچھ جانتا نہیں اور اُس کی طاقت اور مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ یہ یورپ کا پڑھا ہوا اور وہاں کا بڑا پادری آرچ بپ ہے لیکن اس کی یہ بات کہ اسلام کا ایک نمائندہ مشرق سے آیا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں، قائم نہیں رہتی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس سے سائنس آف چانس اور گلیکسی کے نئے علم کے متعلق باتیں شروع کیں۔ یعنی بے شمار سورج اور ان کے گرد

جو ستارے ہیں، وہ ستاروں کا ایک خاندان بنتا ہے اور اس عالمین میں ایسے بے شمار خاندان ہیں۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحہ: ۲) ہم جس کے متعلق کہتے ہیں۔ ان خاندانوں میں
 بے شمار ستارے ہیں جن کو انسان گن نہیں سکا۔ یہ متوازی نہیں چل رہے بلکہ ان کی حرکت اس
 طرح ہے کہ فاصلہ دور ہوتا جاتا ہے۔ سارا خاندان مل کر اکٹھا ایک حرکت میں ہے جو متوازی نہیں
 ہے اور وہ خاندان اسی طرح چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُن کا فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ جب
 اُن دو گلیکسیز کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ ایک نئی گلیکسی بیچ میں سما سکے تو اللہ تعالیٰ کُن کہتا ہے
 اور ایک نئی گلیکسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح میں تو حید کو ثابت کرتا چلا گیا تب اس کو اپنا سر جھکانا
 پڑا۔ میں بڑا خوش تھا کہ جو متکبر دماغ تثلیث کا نمائندہ بن کر میرے سامنے اکڑا تھا تو ہمیشہ کی طرح
 آج بھی تثلیث کو تو حید کے سامنے جھکنا پڑا۔

ہر سال ہماری کتب کے نئے ایڈیشنز چھپتے ہیں اور نئی نئی کتب بھی شائع ہوتی رہتی ہیں، ان
 کے متعلق میں اعلان کیا کرتا ہوں کہ اس میں ہماری جماعت کو دلچسپی لینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا
 چاہئے کہ بے بس ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں
 ہیں، مال و دولت نہیں ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن ہمارے پاس اسی کے فضل سے وہ ہے جس نے
 کہا کہ علم کا سرچشمہ میں ہوں اور جو اپنے فضل سے وہ ہمیں دیتا ہے، ہر شخص کو شکرِ نعمت کے طور پر
 فائدہ اٹھانا چاہئے اور جو کتب شائع ہوں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، جتنی جس کو خدا توفیق اور سمجھ
 دے وہ پڑھنی چاہئیں تاکہ کہیں اسلام کی سبکی کا امکان باقی نہ رہے۔ پھر دعا کرنی چاہیے۔ اصل تو
 اسی وقت اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ دوروں میں بڑے بڑے صحافی اور دوسرے ملنے والے تیار ہو کر
 آئے کہ ہم یہ سوال کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے لیکن ان کو وہاں لا جواب ہونا پڑا۔
 افریقہ سپیکس (Africa speaks) جس کا ابھی میں اعلان کروں گا، اس میں غالباً ایک
 پریس کانفرنس کی رپورٹ ہے جو وہیں کے اخباروں نے شائع کی کہ کئی دنوں سے ہم سوال لکھ تو
 رہے تھے لیکن وہاں جا کر خاموش ہونا پڑا۔ لکھا ہے کہ آخر انہوں نے خود ہی بات چھیڑی اور ہم
 سے باتیں شروع کر دیں پھر ہمیں کچھ حوصلہ ہوا اور ہم نے سوال کئے۔

بہر حال تدبیر کرنی چاہئے اور کتب سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے اور اس

بنیادی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر سچائی اور صداقت جو انسان ڈسکوز (Discover) یا معلوم کرتا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ قرآن سے زائد ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے اسے ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا اور پیدا کیا ہے اور زندہ رکھا ہے۔

پس ہمیں دیکھنا چاہئے کہ جو علوم انسان کے ہاتھ میں آج دیئے جا رہے ہیں ان میں صداقت ہے یا ضلالت۔ اگر ان میں صداقت ہے تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ قرآن کریم کی فلاں آیت کی تفسیر ہے اور اگر ان میں ضلالت ہے تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ جھوٹ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سارے نئے علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا خادم بنایا ہے اور آپؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت کو یہ توفیق عطا کرے گا کہ ان کے اندر جو غلط باتیں ہیں ان کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ بڑے بڑے فلسفی بڑے دعووں کے ساتھ اپنے نظریات کو دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اگر وہ غلط ہوں گے تو ایک غیر معروف ساحمدی کھڑا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ تم فلسفی ہو گے اپنی جگہ، میں تو خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں، ایک عاجز خادم ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدور ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم نے باتیں کی ہیں، وہ غلط ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے۔ خدمت لینے کے یہ وعدے اور ضلالت کو دور کرنے کی قابلیت کے یہ وعدے تہی پورے ہو سکتے ہیں کہ ہم کتابوں کو پڑھیں جتنی دلچسپی ہم لے رہے ہیں جماعت کو اس سے زیادہ دلچسپی کتابوں میں لینا چاہئے۔

جو کتب شائع ہوئی ہیں یا جن کے نئے ایڈیشن اس سال نکلے ہیں ان کا میں تعارف کرادیتا ہوں۔ اصلاح و ارشاد کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کا مختصر سا خلاصہ رسالے کی شکل میں شائع کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے ”ہم مسلمان ہیں“۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ تم خدا کو نہیں مانتے، تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو یہ رسالہ پڑھ کر پتہ لگ جائے گا کہ غلط باتیں کانوں میں پڑیں اور بغیر تحقیق کے مان لی گئی ہیں۔ اس رسالے کی بھی اشاعت کثرت سے ہونی چاہئے۔ چھوٹا سا ہے اور سستا بھی ہوگا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب میں سے ’جنگ مقدس‘ اور ’آئینہ کمالات اسلام‘ دوبارہ شائع کی گئی ہیں۔ ’اسلام کے اقتصادی نظام کے اصول اور فلسفہ‘ یہ میرے خطبات ہیں، ان کو شائع کیا گیا ہے۔ ’احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک حصہ دوم‘ اور ضرورت نبوت بھی شائع کی گئی ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ ’احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک‘ اس کے لئے بڑی اچھی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ بقرہ کی آیات کی مختلف کتب یا تقاریر میں جو تفسیر کی ہے، ادارۃ المصنفین نے یکجائی طور پر اکٹھا کر کے سورۃ بقرہ کی وہ ساری تفسیر شائع کی۔ سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی اور وہ گزشتہ سال شائع ہوئی تھی جنہوں نے وہ پڑھی ہو ان کو تو سمجھ آ جانا چاہئے کہ علوم کا عظیم خزانہ ہے اور اس کی شان الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ دراصل وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے کیونکہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر سورۃ بقرہ شائع ہو گئی ہے۔ چار سو صفحے کے قریب ہے اور دس روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے۔ پیسوں میں تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تفسیر بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ اسی طرح ادارۃ المصنفین نے شرح بخاری کی گیارہویں جلد اور تاریخ احمدیت کی گیارہویں جلد شائع کی ہے۔ تفسیر سورۃ فاتحہ بیان فرمودہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ تیار ہوئی ہے ابھی شائع نہیں ہوئی اگلے سال انشاء اللہ شائع ہو جائے گی۔

میرا دورہ جو مغربی افریقہ کا تھا اس کے متعلق مختصراً انگریزی میں دو چیزیں آچکی ہیں ایک تو خدام الاحمدیہ کراچی کا سوونیر (Souvenir) جو وہ ہر سال شائع کرتے ہیں۔ اس سال کا سوونیر (Souvenir) قریباً سارا ہی مغربی افریقہ کے دورے کے متعلق تیار کیا گیا ہے جس میں تصویریں بھی ہیں۔

ایک دوسرا سالہ افریقہ سپیکس (Africa speaks) شائع ہوا ہے۔ یہ ’نصرت جہاں‘ کی سکیم ’آگے بڑھو‘ کی وساطت سے شائع ہوا ہے۔ یہ دراصل غیروں کے لئے زیادہ ہے ویسے اپنے بھی پڑھیں تو بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اپنی طرف سے سوائے ایک چھوٹے سے میرے مضمون

کے اور کچھ نہیں۔ جو وہاں کے اخباروں نے لکھا یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ آیا، ان میں سے انتخاب کر کے اور تصویریں بیچ میں لگا کر شائع کیا گیا ہے۔ اس میں دو چار غلطیاں رہ گئیں ہیں اور انسانی کام میں غلطی ہوتی ہی ہے۔ ویسے بڑا خوبصورت شائع ہوا ہے اور کثرت سے آپ دوسروں میں تقسیم کریں۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ جو کئی دفعہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مغربی افریقہ میں ایک انقلاب عظیم اسلام اور احمدیت کے حق میں پاپا ہو رہا ہے۔ آپ یہ رسالہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اور وہ چیز واضح ہو جائے گی حالانکہ ہزار تصویریں ہیں ان میں سے ساٹھ، ستر، ہم نے اس میں شائع کی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس وہاں سے ہزار تصویریں آئی ہوئی ہیں۔ اس رسالہ میں اپنا کچھ نہیں بس جو عیسائی اخباروں نے دیا ہے وہ نقل کر دیا ہے۔ اس سے بہت کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ جو انگریزی پڑھنے والا طبقہ ہے اسے خریدنا بھی چاہئے اور دوسروں تک کثرت سے پہنچانا بھی چاہئے۔

”اسلام کا ورثاتی نظام“ یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کی مقالے لکھوانے کی سکیم کے سلسلے میں لکھا گیا تھا اور اس نے اول انعام حاصل کیا تھا۔ مکرم عبدالرشید غنی صاحب لیکچرر تعلیم الاسلام کالج نے اسے لکھا ہے اور وراثت کے قریباً ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے۔ خدام الاحمدیہ کو میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف خطبات اور تقاریر جو خدام الاحمدیہ کے متعلق کی ہیں ان کو یکجا طور پر جمع کر کے شائع کرو۔ چنانچہ یہ ایک مجلد قریباً ایک ہزار صفحے کی شائع ہو گئی ہے اور یہاں مل جائے گی۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے خصوصاً خدام کو کثرت سے یہ خریدنی چاہئے اور پڑھنی چاہئے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور جو نہیں پڑھ سکتے ان کو وہ باتیں بتانی چاہئیں۔ ان کی رہنمائی کے لئے وہ خطبات اور تقاریر کی گئی تھیں۔ ایک اور بڑی مفید کتاب جو دوران سال لکھی گئی ہے۔ ہماری والدہ جن کو میں آپا صدیقہ کہا کرتا ہوں انہوں نے لجنہ اماء اللہ کی تاریخ لکھی ہے۔ یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ شروع ہی سے جو احمدی بہنیں اخلاص اور جان نثاری کے ساتھ لجنہ اماء اللہ کا کام کرتی رہی ہیں اور جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا ذکر آگیا اور ان کے نام تاریخ میں محفوظ کر لئے گئے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل کرے گا اور احمدی جہاں بھی اور جب بھی پیدا ہوں گے درود بھیجتے رہیں گے۔ بڑی محنت سے یہ کتاب تیار کی گئی ہے اگرچہ

میں سرسری طور پر دیکھ سکا ہوں کیونکہ جلسہ کے کاموں کے دوران ہی یہ میرے پاس پہنچی تھی لیکن میں نے جو سرسری جائزہ لیا ہے اس سے مجھ پر یہ اثر ہے کہ بہت مفید کتاب ہے۔ عورتوں کو خریدنی چاہئے۔ کسی ایسے مرد کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے جس کا کسی عورت کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ پس پہلے تو عورت ذمہ دار ہے اس کو خریدنے کی۔ ہاں جس کی بیوی ہے وہ بیوی کی خاطر خریدے گا، جس کی ماں ہے وہ ماں کی خاطر خریدے گا اور جس کی بیٹی ہے وہ بیٹی کی خاطر خریدے گا۔ پس براہ راست آپ کا تعلق نہیں لیکن جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توّام بنایا ہے اس حیثیت سے آپ کا بھی تعلق ہے اور آپ کو دلچسپی لینی چاہئے نہیں کر سکتے یہ اپنی جگہ غلط ہے۔ خطبات آتے ہیں، تحریریں آتی ہیں اور بہت کچھ آتا ہے جس سے بڑا فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جماعت کے ہر فرد کو یہ احساس ہونا چاہئے کہ جماعت ایک وجود ہے اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ شوق کے ساتھ وہ قربانیاں نہیں دیں سکیں گے جو اللہ تعالیٰ آج مانگ رہا ہے۔ یہ احساس دو طرح پیدا ہوتا ہے۔ یا کام کر کے پیدا ہوتا ہے یا جنہوں نے کام کیا ہو ان کے کارنامے سن کر۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں تو ظاہری چیز لے رہا ہوں اس لئے اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ پس اللہ کا فضل ہی کرتا ہے لیکن جو ظاہری چیز ہمیں نظر آتی ہے یا کنٹری بیوشن (Contribution) ہو کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہم بچے تھے خدا کا فضل ہے اس وقت سے جماعتی کام، جو عمر کے لحاظ سے ہوتے ہیں، کیا کرتے تھے۔ قادیان میں سکھ بعض دفعہ بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی ان سے لڑائی وڑائی ہو جائے یعنی اگر کبھی وہ حملہ کر دیں تو ان سے جا کر لڑا بھی کرتے تھے۔ گویا جماعت کے ہر کام میں حصہ لیتے تھے۔ اس طرح ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے ہمارے اس قسم کے بڑے شوق سے حصہ لینے والے تھے۔ میرے ساتھی، دوست اور بھائی۔ سارے احمدی بھائی ہی ہیں لیکن جو شوق سے حصہ لینے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق دی۔ پس یا تو آدمی خود کام کرے۔ خدام الاحمدیہ کی اصل اور بنیادی غرض یہ ہے کہ نوجوان احمدی کو یہ تربیت حاصل ہو کہ وہ کچھ کرے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جماعت کی جن حقیر کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کوششوں میں میری کوشش کا بھی حصہ ہے۔ یہ احساس پیدا

ہو جائے گا تو کہے گا کہ یہ نعمت خیراتی اور طفیلی نہیں ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ یہ تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو اس نے قبول کیا۔ لیکن جو جدوجہد اجتماعی کی گئی تھی اُس میں کچھ میں نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا جماعت کی جدوجہد کو قبول کر لیا اور انعام نازل کئے اور مجھ پر بھی جماعت کے ساتھ انعام نازل ہو گیا۔ یا پھر ہم بچوں کو سناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کو ان کے گھروں میں دین کی باتیں کثرت سے سنائی جاتی ہیں وہ آٹھ آٹھ سال کے بچے بھی اچھے بھلے مولوی بن جاتے ہیں۔ اب تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری احمدیت کی تاریخ پر وہ وقت گذرا ہے جب بڑے بڑے مولوی کہا کرتے تھے کہ احمدی بچوں سے بات نہ کرو ان کے بچوں کو بھی ہم سے زیادہ آیتیں یاد ہیں۔ میں نے سنایا تھا کہ عیسائی تو اب بھی بڑا ڈرتا ہے۔ اس پر پورا اسی طرح کا اثر ہے۔ غیر ملکوں میں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان سے بات نہیں کرتا۔ ان کو یہ ہدایت ہے خصوصاً کیتھولکس کو کہ احمدی بچے سے بھی بات نہیں کرنی کیونکہ وہ ایسی بات کر جائے گا جس کا تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا اور وہ اثر قبول کرنے والا دماغ رکھتا ہے جو تم جواب دو گے ہمیشہ کے لئے اس کے دماغ پر یہ اثر چھوڑ دو گے کہ عیسائیت کے پاس صداقت اور حقانیت نہیں ہے۔

پس کثرت سے پڑھنا چاہئے رسالوں اور اخباروں کو اور کثرت سے بچوں کے کانوں میں باتیں ڈالنی چاہئیں۔ الفضل ہے، انصار اللہ ہے، الفرقان ہے، خالد ہے تھیذ الاذہان ہے، ہفتہ وار لاہور ہے اور بھی رسالے کچھ اس طرح نکلتے ہیں کہ نہ وہ کتاب ہوتی ہے نہ رسالہ یعنی ہوتا وہ منٹھلی (Monthly) کے طریق پر ہے لیکن اس کی وہ شکل نہیں ہوتی جس طرح باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ رسالے یا ہفتہ وار رسالے یا روزانہ کو نکالا جاتا ہے۔ پانچویں مہینے شائع کر دیا سال بعد شائع کر دیا لیکن تسلسل اس کا قائم رہتا ہے۔

جب ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتے تھے، وہ زمانہ بڑا استھتا تھا۔ ہم نے دس دوستوں کی ایک مجلس بنائی۔ میں اور نو میرے ساتھیوں نے اپنے بچپن میں اس کا نام رکھا ”عشرہ کاملہ“۔ کامل تو آدمی کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن بہر حال نام یہی رکھا اور ایک روپیہ ماہوار ہم اس میں چندہ دیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی اقتباس لے کر دس روپے میں ایک ورقہ شائع کرتے تھے اور سارے کالجوں کے طالب علموں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے جو آپ کو والہانہ عشق اور محبت تھی وہ ایک اقتباس لے لیا۔ اس سے بڑے چڑتے تھے ہمارے مخالف کہ ہم تو شور مچا رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ حسین اظہار، اپنے احساسات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس قسم کے بھی بعض نکلتے رہتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے لیکن جو کتب شائع ہوتی ہیں وہ تو بہت ضروری حصہ ہیں۔ پھر غیروں کی کتب بھی پڑھنی چاہئیں ورنہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ جو دوسرے علوم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خادم بنایا ہے۔ آپ کو بھی پتہ لگے گا کہ وہ خادم ہیں جب آپ ان سے خدمت لینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ ان سے خدمت نہیں لیں گے تو وہ آپ کے خادم کیسے بنیں گے۔ جب آپ ان سے خدمت لینے لگ جائیں گے تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ مثلاً ہم نے تو یہ پہلو اس لئے ظاہر کئے تھے کہ شاید ہم اسلام پر وار کر سکیں۔ لیکن انہوں نے الٹا اسی ہتھیار سے ہم پر وار کر دیا۔ کاؤنٹر ایک (Counter Attack) کر دیا۔ پھر وہ اسلام کے خلاف اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں لکھیں گے۔ اب لکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ خدا کا فضل ہے دنیا کا جو عالم جو مرضی کہے ہم دو باتوں میں سے ایک ثابت کر سکتے ہیں یا اس کی بات عقلمندی اور فراست کی بات نہیں بلکہ حماقت اور ضلالت کی بات ہے یا یہ کہ جو سچی بات اس نے کی ہے وہ پہلے قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن سے باہر کوئی صداقت نہیں ہے اصولی طور پر اسی کی تفسیر ہے۔

اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اتنی تفسیر کر دی ہے کہ اس کا تو کہنا کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی صدیوں تک وہ ایک بیس (Base) بن گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے تفسیر کرنا اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ایک تفسیر کو سامنے رکھ کر ضرورت زمانہ کے مطابق پھر آگے تفسیر کرنا، اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ وہ تو اگلوں کا کام ہے وہ کریں لیکن آج کا ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے زیادہ سننے والے فائدہ اس لئے اٹھائیں کہ اسلام کی عظمت دنیا میں قائم ہو جائے، اس لئے وہ فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال دنیا پر ظاہر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے دنیا دیکھے۔ اپنے لئے کچھ نہیں ہے۔ ہم ہیں کیا اور ہماری قیمت کیا ہے اور ہماری ہستی کیا ہے؟ اور ہماری زندگی کیا ہے؟ وہ ابدی حیات لے کر اس دنیا کی طرف مبعوث ہوا تھا، دنیا کو

پتہ لگنا چاہئے کہ وہ ابدی حیات والا زندہ نبی جس طرح چودہ سو سال پہلے زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔

اس موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ اور مجلس انصار اللہ مرکزیہ کے علم انعامی تقسیم کرنے کے لئے عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا:-
کچھ علم میں انعام کے طور پر دیا کرتا ہوں۔ اس تعارف کتب کے بعد میں علم اور کچھ اسناد دے دیتا ہوں۔

اس کے بعد امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اپنے دست مبارک سے مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ اور مجلس انصار اللہ مرکزیہ کے علم انعامی اور دوران سال کارکردگی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی مجالس کو اسناد عطا فرمائیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کا علم انعامی مجلس خدام الاحمدیہ ڈرگ روڈ کراچی اور مجلس انصار اللہ لاہور کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔
بعد ازاں حضور پر نور نے درج ذیل آیات تلاوت فرمائیں:-

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمن: ۲۱)

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل: ۱۹)

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (سبا: ۱۳)

(إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا کی تلاوت حضرت امیر المومنین نے دو مرتبہ فرمائی)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۸)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

ان آیات کا میں مفہوم ہی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس کثرت سے انسان پر نازل ہوتی ہیں ان کا شمار تو ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنے ان بندوں کے لئے بھی جو پیدا کرنے والے رب کی شناخت سے محروم ہوتے ہیں اپنی نعمتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتوں سے انہیں نوازتا ہے لیکن اس نوازش میں کتے، بلیاں، جانور، پتھر وغیرہ وغیرہ اور انسان سب شامل ہیں۔ اس طرح اسے اس طرف بھی متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھ جس طرح ان نعمتوں میں

تیرے ساتھ اچھے اور پاک جانور اور بد اور ناپاک جانور شامل ہیں کچھ ایسے انعامات بھی ہیں جو تیرے لئے مخصوص رکھے گئے ہیں اور انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق اس کی حصہ دار نہیں بن سکتی۔ خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر کہ جو تدبیر، مجاہدہ اور دعا کے نتیجے میں تو حاصل کر سکتا ہے تاکہ وہ امتیاز جو فطرت انسانی اور فطرت غیر انسانی میں رکھا گیا ہے تیری عملی زندگی میں وہ امتیاز نمایاں ہو جائے اور انسان، حیوان اور دوسری مخلوقات سے علیحدہ اور ممتاز ہو جائے۔

خدا تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر وہ نازل ہوتی ہیں اور انسانی طاقت میں نہیں کہ ان کا شمار کر سکے اور خدا انسان کو یہ کہتا ہے کہ اے داؤد کی اولاد!! شکر کرو۔ ایسا شکر جو محض زبان سے نہ ہو بلکہ عمل سے کیا جائے۔

ہر سال جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے اور ہمارا سینہ اور ہمارا دل اور ہماری روح اور ہماری عقل اور ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ اور ہماری روح کا ہر پہلو خدا تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ یہ فطری جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو آنے والا سال ہے خدا کرے کہ ہم اس سے یہ توفیق پائیں کہ گزشتہ سال کی نسبت زیادہ نعمتوں کے ہم وارث بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ نعمتوں کے وارث تو تم بھی بنو گے، جب اس پر جو تمہیں ملا، شکر کرو۔ اگر جو عطا ہو چکا تم اس کو صحیح مصرف میں نہ لاؤ اور اس کے شکر گزار بندے نہ بنو تو کس منہ سے تم مزید کی اور زائد کی اور بہتر کی اور احسن کی التجا کر سکو گے۔

پس جو مل چکا ہے اس کو صحیح مصرف میں لاؤ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کی حمد سے اپنی زندگیوں، اپنے اوقات، اپنے دنوں اور اپنی راتوں کو معمور کر دو۔ تب اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ تب اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی بھی مزید توفیق دے گا کیونکہ اور کے ساتھ ہی یہ آ جاتا ہے کہ شکر کی زیادہ توفیق ملی۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سال گزشتہ میں دیا۔ ہم پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس سال میں ہوئیں جو اب ختم ہونے کو ہے، ان کا ہم شمار کیا کرتے ہیں اس بے تکلف مجلس میں لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک تو جن چیزوں کا ذکر ہے صرف وہ نعمتیں ہمیں نہیں ملیں۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ ہماری

زندگی کے جو لمحے ہم ایک سال میں گزارتے ہیں وہ محدود ہیں لیکن نعمتیں غیر محدود ہیں۔ جو چیز غیر محدود ہے اس کا شکر محدود سے کیسے کیا جاسکے۔ ناممکن ہے لیکن خدا نے ہمیں تسلی دے دی ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۷) کہ جتنی وسعت ہے اس کے مطابق کرو زیادہ پر میں گرفت نہیں کروں گا۔ میں بڑا پیار کرنے والا ہوں۔

اس وقت جو چند نعمتیں میں لیتا ہوں وہ بھی بالکل ہی چند ہیں۔ نعمتیں تو بے شمار اور غیر محدود ہیں۔ جو محدود حصے ان میں سے ہم لے سکتے ہیں وہ بھی سارے یہاں بیان نہیں ہو سکتے تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑے سے وقت میں کس کس چیز کا ہم نام لیں اور کیا بیان کریں۔ مختصراً میں بیان کر دیا کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں اب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لوں گا اس وضاحت کے ساتھ کہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندے بنائے اور یہ دعا کرتے رہیں کہ پہلے سے زیادہ نعمتیں وہ ہم پر نازل کرے۔ ہمارا ہر قدم پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہو، تاکہ ہم منزل مقصود سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رزق کی تقسیم بھی میں ہی کیا کرتا ہوں کہ ایک رزق کی تقسیم تو رزق کمانے کی اہلیت کے نتیجے میں ہوتی ہے اور وہ انسان کے اختیار میں بات نہیں۔ ایک شخص کو اللہ بڑا تجارتی دماغ دے دیتا ہے۔ وہ ایک سو دے میں ایک لاکھ روپے کما لیتا ہے۔ جیسے غالباً سعد بن ابی وقاصؓ ہی تھے انہوں نے کمایا۔ جب اسلام ساری دنیا میں غالب آ گیا تھا۔ اس وقت کی نون (Known) دنیا کہنا چاہئے کہ بڑے حصے میں پھیل گیا تھا اور بڑے مال آگئے تھے۔ انہوں نے ایک منڈی میں ایک سو دے میں ایک لاکھ اونٹ خریدا۔ پس سمجھ لو کہ کتنی دولت مدینے اکٹھی ہو گئی ہوگی۔ ایک دوست آیا، اس نے کہا میرے پاس بیچ دو۔ میرا خیال ہے باہر سے لاکھ اونٹ آئے ہوں گے تو ان کو خیال ہوا ہوگا میں اس کی تجارت کروں گا۔ انہوں نے کہا لے لو۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے میں تم سے اور نفع نہیں لیتا ہر اونٹ کی ٹیکل مجھے دے دو۔ اگر اٹھنی ٹیکل کی قیمت سمجھی جائے تو پچاس ہزار، اگر روپیہ سمجھی جائے تو ایک لاکھ روپیہ ایک سو دے کے اندر صرف ٹیکل لے کر انہوں نے کما لیا۔ کوئی ایسا بھی آتا ہے کہ ذہن تجارتی نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی خط لکھتے ہیں، شوق میں تجارت میں پڑ

جاتے ہیں پھر وہ سنبھال نہیں سکتے اور گھٹا اٹھاتے ہیں۔

پس قوت اور استعداد کی تقسیم کے نتیجے میں مال اور دولت کی جو تقسیم ہوئی وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ قوت اور استعداد انسان نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی باپ یہ حکم دے اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے کہ او بیٹا! ایسا دماغ لے کر آنا کہ بڑے اچھے ڈاکٹر بنو۔ میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ وہ تو انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ پھر اسی خواہش میں وہ آجاتے ہیں۔ میں بھی پرنسپل رہا ہوں آکر بڑا تنگ کرتے ہیں ”جی نمبر تے ایس نے دو سو نوے لے مر کے ہو یا اے پاس پر ہے بڑا ہوشیار، ایس نوں اسیں ڈاکٹر بنانا ایں“ (یعنی نمبر تو اس نے دو سو نوے لئے ہیں اور بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے لیکن ہے بڑا لائق۔ ہم نے اسے ڈاکٹر بنانا ہے)۔ وہ اس طرح تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ قوت اور استعداد ڈاکٹر بننے کی یہ میں نے اور آپ نے نہیں دینی یہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم میں کہا کہ تم ہو جو مال کو تقسیم کرتے ہو یا ہم ہیں مال تقسیم کرنے والے۔ کئی ایک کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ جو میں نے مثال دی ہے اس سے ہر شخص سمجھ جائے گا کہ قوتوں اور استعدادوں کی جو عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے نتیجے میں اموال و دولت کی جو ملکیت ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ ماہر ڈاکٹر ہے۔ پھر یہ برکت ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ میں برکت ڈال دیتا ہے وہ ایک معمولی نسخہ لکھتا ہے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔

ہمارے ماموں جان حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ جماعت کے بڑے بزرگ تھے۔ فوت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر تھے، سول سرجن تھے نسخہ لکھتے تھے جس سے مریض اچھا ہو جاتا تھا۔ آخری عمر میں کچھ کمزور ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے۔ مریض آتا تھا پیسے والا اور بڑی فیس دینے والا۔ یہ کہتے تھے میں بیمار ہوں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے کمپاؤنڈر کو لے جاؤ۔ نسخہ یہ میرے والا لکھ کر دے گا۔ وہ آگے سے جواب میں کہتے تھے۔ آپ کا کمپاؤنڈر، نسخہ بھی آپ کا۔ آپ لکھیں گے تو آرام آئے گا ورنہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آرام نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے جو انسان تقسیم نہیں کر سکتا۔ پس یہ فرق تو موجود ہے۔

ہم ایک غریب جماعت ہیں۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص

ہماری جماعت کے اندر بھی اور جہاں تک ہو سکے باہر بھی محروم نہ رہے لیکن ہم اپنی خواہش کو یا جو حق ہے اس کا، وہ پورا نہیں کر سکتے۔ حق کہا ہے اسلام نے، یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی حقیر سی ہستی ہے اور تم اس کے اوپر احسان جتاؤ۔ اسلام نے کہا کہ اس کا حق دو اور تم نے احسان نہیں لینا، شکر بھی وصول نہیں کرنا۔

لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الذہر: ۱۰) کتنا پیارا فقرہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ کہاں ہے وہ شریعت جو اس قسم کا حسین اور مؤثر فقرہ اپنی کتاب میں سے نکالے۔ نہیں، کہیں نہیں۔

یہ اعلان کرنا کہ تمہارا حق دے رہے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم اعلان تھا جو کیا گیا لیکن اتنے ہی غافل ہم ثابت ہوئے اور بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عزت اور شرف کے لئے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اسے ہی بھول گئے۔ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گیا اور اس پر حقارت کی نگاہ ڈال دی۔ یہ ویسے ایک لمبا مضمون ہے جہاں تک ہو سکے کل میں اس کے اندر جاؤں گا۔ انشاء اللہ۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم پر یہ انعام کیا کہ ہم ایک حد تک حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ اس کی شکل یہ بنی صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید اور وقف جدید نے گیارہ سو ترانوے (۱۱۹۳) خاندانوں کے پانچ ہزار دو سو پچیس (۵۲۲۵) افراد کی بصورت گندم وغیرہ ۱۵۴۶۷۹ روپے کی امداد کی۔ ایک لاکھ پچون ہزار چھ سو اور کچھ روپے اور سو (۱۰۰) لحاف تقسیم کئے گئے۔ ویسے اس کا بڑا حصہ ایک تو وہ ہے جو ہماری بہنیں بیوہ ہیں اور ان کے یتیم بچے ہیں۔ کم از کم ان کو گندم ملنی چاہیے۔ بھوکا تو کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی تو اکثریت ہی چٹنی اور گڑ اور اچار کے ساتھ روٹی کھانے والی ہے۔ کم از کم وہ تو دے دو جو ہمارا کم سے کم معیار پیٹ بھرنے کا ہے۔ اس سے زیادہ بھوکا تو نہ رکھو۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہماری نظر پڑ جائے ہم اتنی گندم اس گھر میں دے دیتے ہیں کہ وہ گھر آٹے کے لحاظ سے سارے سال کا کفیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً انجمن کے کارکن ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہے وہ تین آدمی ہیں۔ دو میاں بیوی اور ایک بچہ ہے۔ تین کھانے والے ہوئے۔ تین پیٹ ہیں جن کو ہم نے بھرنا ہے۔ ان کو سارے

سال کے لئے ساڑھے چار من کے لحاظ سے ساڑھے تیرہ من گندم چاہئے گویا روزانہ آدھ سیر فی کس ہوگی۔ ہمارا ایک اور کلرک ہے وہ وہی تنخواہ لے رہا ہے۔ اس پر اللہ نے بڑا فضل کیا ہے اور اس کو آٹھ بچے دیئے ہیں۔ کھانے والے دس جی ہو گئے۔ ان کو اس کے مقابلے میں ۲۵ من گندم چاہئے لیکن تنخواہ ہم ایک دیتے ہیں۔ دراصل تنخواہ کا اصول قائم کر کے ایک دجل چلایا ہوا ہے۔ دنیا نے ایسا گندہ اصول بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہودیوں نے بنایا ہے۔ واللہ اعلم لیکن ہے بڑا نامعقول۔ ہر شخص کی گھر میں جو اشد ضرورت ہے وہ اس کو بہر حال ملنی چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک کارکن سو روپیہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کے اگر تین کھانے والے ہیں تو ساڑھے تیرہ من کا چوتھا حصہ یعنی پچیس فیصد ہم مفت گندم دے دیتے ہیں اور جس کے دس ہیں لیکن تنخواہ وہ اتنی ہی لے رہا ہے تو 45 من کا چوتھا حصہ اس کو مفت دے دیتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ قریباً اس کی جو ضرورت تھی اس کے برابر دوسرے کو مفت مل گیا۔ جس کی ضرورت 45 من کا چوتھا حصہ ساڑھے گیارہ من بنا وہ پہلے کی ساری ضرورت ساڑھے تیرہ من تھی۔ اگر ہم مثلاً دس یا بیس یا تیس روپے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں تو جس کے زیادہ بچے ہیں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ میں تو جو باہر سے آنے والے دوست آتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ نامعقول حرکتیں کرتے ہو۔ یہ اعلان کرو کہ ہم بونس دیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ اب ایسا چکر تنخواہ کا چل گیا ہے کہ جب تک ہمارے ورکر (worker) کو، کارکن کو اور کام کرنے والے کو فیکٹری میں ہو یا دفتر میں پوری طرح علم حاصل نہ ہو جائے تو بددلی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

پس بونس کا نام دے دیں یا کوئی اور نام دے دیں۔ ہمارے ہاں ایسے کارکن جن کی تنخواہ دوسروں سے کم ہے ان کو افرادِ خاندان کے لحاظ سے سال کی ضرورت کا چوتھا حصہ ہم مفت دے دیتے ہیں باقی ہم قرض دے دیتے ہیں۔ یہ بھی یہاں سہولت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غذائی طور پر ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی مثال اور کہیں نہیں کہ ہمارے ملک کا جو کم سے کم معیار ہے یعنی روٹی گڑ سے یا شکر سے یا چٹنی سے یا اچار سے ہمارے کھانے کا یہ کم سے کم معیار ہے۔ اتنا ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا چالیس فیصد حصہ یقیناً ہمیشہ یہ کھاتا ہے اور ملک کی آبادی کا ساڑھے ستر فیصد حصہ ایسا ہے جو اکثر یہ کھاتا ہے۔ میں

باہر جا کر ہر ایک سے بے تکلف ہوتا ہوں۔ ایک لاکھ پچون ہزار کی امدادی رقم کا بڑا حصہ وہ ہے جو ان کے اخراجات کا چوتھا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سو لاکھ ایسا ہے جو لینے والوں کے اخراجات کا چوتھا حصہ ہے۔ باقی ان کی اپنی تنخواہ ہے جو وہ آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے جو اس سال بھی ہم پر نازل ہوئی اور غیروں کے لئے نمونہ بن گئی۔ پھر حضور پر نور نے بچوں اور نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

بچو! اب میں تمہاری ضرورتیں بھی بتا دیتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے تعلیم کی اگر تو ہوم ذہین تو خدا نے اپنے فضل سے مجھے جماعت میں اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ تمہارا خاندان اگر تمہیں نہیں پڑھا سکتا تو میں تمہارے پڑھانے کا ذمہ لیتا ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پڑھنے والا ذہین عطا نہیں کیا تو احمدی پیسوں کو اپنے پر ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔

اس کے علاوہ گذشتہ سال جماعت میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ کوئی احمدی بھوکا نہ رہے۔ شروع میں تو میرے پاس رپورٹیں بھی آتی رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوے فیصد مقامات پر لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا۔ میں نے بتایا تھا ایک حد تک ایک دھیلہ خرچ کیے بغیر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہے، تین کا چار کے لئے کافی اور چار کا پانچ کے لئے۔ ہر خاندان آپ کے اس ارشاد کی روشنی میں ایک شخص کا کھانا نکال سکتا ہے۔ اگر کسی محلے میں بیس پیٹ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو ایک پیسہ ایک دھیلہ خرچ کئے بغیر ان کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی وسیع اور کتنی گہرائی میں جانے والی تھی۔ ایک جگہ آپ نے یہ فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا کہ ایک کا کھانا دو کے لئے اور دو کا چار کے لئے پورا ہوتا ہے۔ ہمارے امیر گھرانوں میں تو ایک کا دو میں اور دو کا چار میں پورا ہوتا ہے۔ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ متوسط کو کہا کہ اپنے گھر سے ایک کھانا نکال دے۔ چار افراد کا ہے، پانچ کا ہے ایک کھانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی۔ جو امیر ہے اس کو کہا کہ جتنے افراد تمہارے خاندان کے ہیں اگر سات ہیں تو سات کا نکالو۔ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے، تم زیادہ کھانے پکواتے ہو، زیادہ کھانا پکواتے ہو۔ اس لئے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی۔

میں نے محدود پیمانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور اس احسان عظیم کا جو اس شعبہ زندگی میں بھی آپ نے انسان پر کیا اس کا اعلان کیا تھا کہ اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ اب اس الیکشن میں نوجوان پاکستان نے میری اسی سکیم کو بڑے پیمانے پر پورا کرنے کا عہد باندھا اور نئے الیکشن میں اعلان کیا کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ میں نے یہ اعلان ڈیڑھ سال پہلے ہی کر دیا تھا کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا چنانچہ اب نوجوان قوم نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اب جو خسیس سرمایہ دار ہے جو اسلام کی ہدایت اور تعلیم پر عمل نہیں کرنا چاہتا وہ اعتراض کر رہا ہے چنانچہ ہم پر بھی اعتراض کر دیا کہ کتابیں لکھتے ہو کیونرم کے خلاف اور خطبے دیتے ہو کیونرم کے خلاف لیکن ووٹ دے دیئے ہیں کیونرم کے حق میں۔ کس احمق نے تمہیں کہا ہے کہ ہم نے اشتراکیت کے حق میں ووٹ دیئے ہیں۔

لطیفہ یاد آ گیا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گذرا ہے ہم نے پڑھا ہے دیکھا نہیں۔ خدا کسی کو ایسا زمانہ نہ دکھائے کہ جب کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے یہودی، یہودی اور اس کو قتل کر دیتے تھے انگریزی میں محاورہ ہے Call him a Jew and hang him کہ جو (Jew) کا لعنہ لگا دو اور اس کو تختہ دار پر لٹکا دو۔

اب جو نہیں اشتراکی، جو کمیونسٹ نہیں ہیں، انہیں کمیونسٹ، کمیونسٹ کہہ کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام تباہ ہو گیا۔ نہیں ہیں وہ کمیونسٹ۔ تم کہتے ہو ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہوا۔ ہم نے بعض دوسروں کو بھی ووٹ دیئے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی حقیر سی طاقت دی ہے، اس کے بڑے حصے نے پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ بھی درست ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ احمدیوں نے (میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بات صحیح ہے) میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ احمدیوں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر اور ان کی مدد کر کے پیپلز پارٹی کو جتادیا اور ایک انقلاب عظیم اس دنیا میں پھا ہو گیا۔

پس یہ بھی سن لو کہ ہمارے ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رائج کی جائے گی۔ اگر ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو جتا سکتے تھے تو ہم میں اتنی بھی طاقت ہے کہ ہم جو چاہیں گے، آگے منوائیں گے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت یہاں قائم

ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ جس طرح ایک وقت میں کسی کو چیو (Jew) کہہ کر ہینگ (Hang) یعنی تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تھا ہم اور ہمارا نوجوان پاکستان تمہیں کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا کہ تم غلط الزام لگا کر عوام یعنی خدا کے بندوں کو ان کے حقوق سے محروم کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے ہیں اور تم اسلام کا نعرہ لگا کر وہ حقوق ان سے چھیننا چاہتے ہو۔ جو ناجائز اموال تمہارے پاس ہیں وہ تو تم سے چھین لئے جائیں گے لیکن وہ محسن حقیقی اللہ، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے اس دنیا کو اور اس کی نعمتوں کو پیدا کیا ہے اور وہ محسن اعظم انسانیت کا جس نے چودہ سو سال پہلے غریب کے حق میں نعرہ لگایا تھا۔ ان کے ناموں کو نہیں بھلایا جائے گا، ان کی عبادت کی جائے گی، ان پر درود بھیجا جائے گا، اسلام کی عظمت کو دلوں میں قائم کیا جائے گا اور اپنے عملوں سے اسے ظاہر کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

نہ اسلام خطرے میں ہے نہ اسلام کی تمہیں کچھ فکر کرنی چاہئے اپنی فکر کرو۔ وہ جن کے ذمہ اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا کام لگایا گیا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روحانی فرزند کی جماعت، وہ اپنا کام کرنے کے قابل ہے اور کرے گی تم کہتے ہو کہ پاکستان میں اسلام خطرے میں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ساری دنیا میں اور دنیا کے ہر ملک میں اسلام کے علاوہ ہر مذہب خطرے میں ہے۔ عیسائیت خطرے میں ہے۔ یہودیت خطرے میں ہے۔ ہندو مذہب اور بدھ مذہب خطرے میں ہیں۔ ان کو کسی تلوار یا ایٹم بم کا خطرہ نہیں۔ ان کو اس ہتھیار کا خطرہ ہے جو جسموں کو زندہ رکھتا اور دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسلام کا محبت کا پیغام غالب آ کر رہے گا۔ انسانی تاریخ میں یہ وقوعہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نفرت محبت کے مقابلہ میں جیتی ہو۔

ہمارے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی محبت کا پیغام دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور اسلام کے اس محبت کے پیغام سے دنیا کو گھائل کرو اور اسلام کو غالب کرو۔ یہ خدا کی تقدیر ہے یہ پوری ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ایک اور فضل جو اللہ تعالیٰ نے دورانِ سال ہم پہ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غریب جماعت کو یہ توفیق دی کہ ایک اور عیسائی ملک سویڈن میں ایک مشن کھولا گیا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

ایک دوسرا فضل یہ کیا کہ جاپان میں ایک عالمگیر مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں

جماعت احمدیہ کو بھی مدعو کیا گیا اور وہاں جماعت کے نمائندے نے شرکت کی۔ دوسرے مسلم ممالک یا مسلم مجالس کے جو نمائندے وہاں آئے تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بلا استثناء سب نے آکر ہمارے نمائندے کی تعریف کی اور اس موقف سے بہت متاثر ہوئے جو اُس نے لیا۔ جو اسلام کا سچا موقف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ الحمد للہ علیٰ ذلک۔

اس میں مکرم و محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب بھی شامل ہوئے تھے۔ بظاہر جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں ویسے جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے ہی میں کہوں گا۔ بظاہر میں نے اس لئے کہا کہ جماعت احمدیہ کے ہر فرد کو جو بھی ملا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُس برکت کے طفیل سے ملا ہے جو محمدؐ سے آپؐ نے لی اور آپؐ کی امت کو آپؐ نے دی۔

ایک اور فضل یہ ہوا کہ امریکہ کے ایک شہر کلیولینڈ (Cleveland) کی چابی جماعت کے ایک نمائندے کو دی گئی۔ وہاں دستور یہ ہے کہ جب کسی شخص کی عزت افزائی کرنی ہو تو باقاعدہ سیریمنی (Ceremony) کر کے اُس کو شہر کے دروازے کی چابی دیتے ہیں۔ یہ پرانا دستور ہے جبکہ فضیلیں ہوتی تھیں اور دروازے بند ہوتے تھے اس وقت سے یہ رسم چل رہی ہے۔ تو امریکہ کے ایک شہر، اُس امریکہ کے ایک شہر نے جو عیسائیت کا اس وقت گڑھ ہے، اپنی روایات کے مطابق باقاعدہ سیریمنی (Ceremony) کر کے اس جماعت کے نمائندے کو چابی دی جو اس واسطے کھڑی کی گئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ میں کہ میں اس لئے مجبوت ہوا ہوں کہ اس صلیب کو دلائل سے توڑ دوں جس نے مسیح کی ہڈیوں کو توڑا اور آپ کو زخمی کیا۔ الحمد للہ علیٰ ذلک۔

تحریک جدید کے مجاہدہ کے میدان میں اس وقت مختلف ممالک میں چونسٹھ مبلغین مبشرین کام کر رہے ہیں لیکن باہر سے اتنی مانگ آرہی ہے جتنا میں پریشان رہتا ہوں جماعت کو بھی پریشان کروں گا تاکہ آپ بھی سوچیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک وجود ہیں تو میرے ساتھ آپ کو بھی پریشان رہنا پڑے گا۔

تحریک جدید کے ہمارے کل چونسٹھ مبلغ کام کر رہے ہیں اور نائیجیریا کی جماعت نے وہاں کی حکومت کو یہ درخواست بھیج دی ہے کہ آپ کیتھولکس کو ایک سو پچاس کا کوٹہ دیتے ہیں ہم بھی ایک سو پچاس کا کوٹہ لیں گے۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں کس پریشانی میں ڈال دیں گے لیکن اگر ہم دعا کریں اور بے حد عاجزانہ دعائیں کریں اور تدبیر کریں اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کو پڑھتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو وقف کریں۔ آج اگر پچاس کی ضرورت ہے تو پچاس احمدیوں کو قربانی کے میدان میں نکلنا چاہئے اگر ڈیڑھ سو کی ضرورت ہے تو ڈیڑھ سو کو نکلنا چاہیے۔

یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وقت تو ہمیں ملا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کوئی اکا دکا صحابی رہ گیا ہے۔ اب دوسری نسل کے اوپر بھی کم ذمہ داری نہیں کیونکہ ابھی خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ خدا کرے کہ جماعت اسلام کی اہل رہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کتنی مدد کرتا ہے۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں تم سنا کرو اور ہنس دیا کرو۔ میں بھی ہنس دیا کرتا ہوں۔ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے میں اس تقریر کے آخر میں یا کل جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا، بتاؤں گا کہ ایک سیکنڈ میں کیا بتایا اور کیا کر دکھایا۔ پس جس کے کان میں خدا یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنے لئے چن لیا۔ جاؤ اور قربانی دو۔ اب خدا نے جو اسے چن لیا تو اس نے سب کچھ پالیا۔ اس لئے بشارت کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دے گا۔

میں سچ کہتا ہوں اگر میرے جسم کے ایک سو پچاس ٹکڑے کر دیے جائیں اور وہاں وہ کام آجائیں تو میں اس کے لئے تیار رہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن ہے تو پھر وہ جو اجتماعی وجود ہے کہ خلیفہ وقت اور ساری جماعت ایک وجود کا حکم رکھتی ہے تو اس وجود کے ٹکڑے نکلنے چاہئیں اور مختلف جگہ چلے جائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ابراہیم نہیں کہہ دیا تھا۔ آپ کو ابراہیمی پرندے بنا پڑے گا تب ہمارے کام پورے ہوں گے اور تب اپنے وقت پر اسلام جلد سے جلد غالب آئے گا۔ اس لئے تیار ہو جاؤ اور دعائیں کرو۔

پریشانیوں کو اٹھاؤ اللہ کے سامنے کیونکہ دوسروں کے سامنے تو ہم مسکراتے رہتے ہیں اور ہماری مسکراہٹیں کوئی نہیں چھین سکتا۔

ایک اور فضل یہ ہوا کہ اس سال کے دوران کانو (نائیجیریا) میں ایک نیا سکول کھولا گیا۔ یہ سکول آگے بڑھو کی سکیم سے پہلے کا ہے۔

اس وقت تک تین سو سے زائد مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ سال رواں میں جو نئی مساجد تعمیر ہوئیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔

جزائرِ عرب الہند میں، ٹرینیڈاڈ میں، تنزانیہ میں، موروگور میں نئی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں۔ ایسنس (امریکہ) میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ ”اے بو اوڈے“ (نائیجیریا) کی جس مسجد کا میں نے افتتاح کیا تھا، وہ بہت بڑی جامع مسجد ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل، ایسے سینے اور ایسی روحیں عطا کر رہا ہے کہ چھ ہزار میل دور بیٹھی ہوئی ایک افریکن احمدی عورت نے اکیلے بچپس تیس ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے ”اے بو اوڈے“ میں احمدیہ جامع مسجد تیار کر دی جس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سات لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ افریقہ سپیکس (Africa speaks) میں اس تعمیر کی تصویر بھی آئی ہے۔ یہ بھی اللہ کے فضل ہیں۔

تحریک جدید کی طرف سے جو کتب شائع ہوئیں یا زیر تیار یا زیر طباعت ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن کریم کا فرانسیسی ترجمہ ہے۔ اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کیونکہ افریقہ کے بہت سارے ممالک فرانسیسی اقتدار کے ماتحت رہے تھے اور وہاں فرانسیسی بولی جاتی ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور دیباچے کا ترجمہ کروایا جا رہا ہے۔ اب شاید ہمیں چند مہینے انتظار کرنا پڑے تاکہ دو سال بیچ جائیں کیونکہ ہمارا نیا پریس لگ رہا ہے اور یہ پریس اللہ کے فضل سے بڑا اچھا ہوگا۔ باہر جو تین سال میں کام ہوتا ہے وہ انشاء اللہ یہاں تین مہینے میں ہو جایا کرے گا۔ انگریزی کا ترجمہ لاہور میں تین سال میں تیار ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے قرآن کریم کا کام کیا ہے۔ ہم ان کے بڑے ممنون ہیں۔ ان کو ہزار کام ہیں۔ ایک تجارتی ادارہ ہے اور انہوں نے اپنے پیسے بھی بنانے ہوتے ہیں یعنی باوجود تعلق اور پیار اور قرآن کریم کے کام کو پاک اور مقدس کام سمجھنے کے پھر بھی تین سال لگ گئے۔ یہاں ہمارا پریس جیسا لگانا چاہئے اگر اللہ کی توفیق سے ویسا لگ جائے تو

میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہم تین مہینے میں تیار کر دیں گے۔ اس کے لئے ہمیں اگر ایک سال بھی انتظار کرنا پڑے تو کر لینا چاہئے کیونکہ سستا اور اچھا رہے گا اور تیار بھی جلدی ہو جائے گا۔

جب میں لندن میں رہا تو اس کا رخانہ دار کے مینجنگ ڈائریکٹر کو ملا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اتنا بڑا پریس آپ نے لے کر کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ساری دنیا میں قرآن کریم کو پھیلا دیں۔ یہ تو چھوٹا پریس ہے جو کہ ابھی اور بڑھے گا۔

مشرقی افریقہ کی یوگنڈا کی زبان میں قرآن شریف مع تفصیلی نوٹس مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے صرف پانچ پارے شائع ہوئے تھے۔ اب تو مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی مشورہ نہیں کیا۔ ان سے پتہ کروں گا کہ یہ بھی اپنے پریس میں آسانی کے ساتھ چھپ سکتا ہے یا نہیں۔ سوا حیلی ترجمہ قرآن کے دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔

جو کتب شائع کی گئی ہیں ان میں سے ایک ”افریقہ کے نام محبت و اخوت کا پیغام“ ہے۔ یہ میرا نوٹ ہے۔ میاں مبارک احمد صاحب نے ”سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام“ ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ بھی انگریزی میں پانچ ہزار میں شائع کی گئی ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ”میں اسلام کو کیوں مانتا ہوں“ دس ہزار کی تعداد میں شائع کی گئی ہے۔ ”اسلام اور عیسائیت کا موازنہ“ اٹلیں زبان میں پانچ ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی پمفلٹ ”الْكَفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ“ پانچ ہزار کی تعداد میں شائع ہوا ہے۔ اس میں عربی بولنے والے اسلامی ممالک کو یہ بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم ممالک اس معاملے میں تمہارے خلاف سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے۔ تمہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم اپنی زندگی اور بقا کی جدوجہد اور کوشش کے لئے آپس میں مل کر سیکھیں بناؤ۔ ان کے اوپر انحصار نہ کرو۔ وہ الکفر ملة واحدة ہے۔ ”امن کا پیغام اور حرفِ انتباہ“ یوگوسلاویں زبان میں پانچ ہزار شائع کیا گیا ہے یہ ایک مختصر سی تقریر ہے جو میں نے اپنے ۱۹۶۷ء کے دورے کے دوران لندن میں کی تھی۔ اس میں ان کو پہلے مثالیں دی تھیں پھر میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے لئے دو راستے کھلے ہیں یا اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف

واپس لوٹو یا تمہارا اللہ ناراض ہو کر تمہیں دنیا میں تباہ کر دے گا۔ Total annihilation (یعنی مکمل تباہی) تم پر آئے گی۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشین گوئیوں میں ہے۔ اس کے مختلف زبانوں میں تراجم پہلے ہو چکے ہیں یوگوسلاویہ ایک کمیونسٹ ملک ہے جہاں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے۔

زیر طباعت لٹریچر

دعوة الامیر ٹرکشن زبان میں۔ اس کے متعلق میں بتا دوں کہ ٹرکی کے ایرپورٹ پر ہمیں بہت شرمندہ ہونا پڑا۔ ایک ترک دوکاندار کی طبیعت پر کچھ اثر ہوا۔ وہ چوہدری محمد علی صاحب سے پوچھنے لگی کہ یہ کون شخص ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امام مہدی آگئے ہیں اور یہ ان کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اس کا اُس نے جواب دیا میرے تو روٹنگٹے کھڑے ہو گئے۔ بڑا شرمندہ کرنے والا جواب تھا۔ کہنے لگی۔ اگر امام مہدی آگئے ہیں تو ہمیں کیوں پتہ نہیں لگا۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارا فرض تھا پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری رپورٹیں ہیں۔ پس وہ لوگ بڑی جلدی مائل ہو جائیں گے۔

وہاں کے ایک عالم سے ایک احمدی نے ان الفاظ میں کوئی بات کی تو وہ کہنے لگا۔ تم ان مرزا غلام احمد کی بات کر رہے ہو جو نبی تھے۔ پھر وہ ترک عالم کہنے لگا وہ نبی تو تھے مگر تمہاری جماعت نے ان کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہئے تھی۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا کا ایک پیارا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب ترین فرزند آیا لیکن تم نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، ہمارے پاس نہیں آئے۔

پس دنیا تو ہمیں پکار رہی ہے۔ ہمیں تو پنجابی محاورہ کے مطابق ’’لنگوٹے ٹے کس لینے چاہئیں۔‘‘ جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے ہمیں آرام نہیں آنا چاہئے۔ پوری تندہی سے کام کرنا پڑے گا۔

تو دعوة الامیر کا ترجمہ ٹرکشن زبان میں ہو رہا ہے۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ترجمہ عربی اور فرانسیسی زبان میں پانچ ہزار کی تعداد سے شائع کیا جا رہا ہے۔ ادعية الرسول

سواحلی زبان میں تین ہزار کی تعداد میں شائع کی جا رہی ہے۔ حیات احمد عربی میں تین ہزار۔ ”الحمد لله ما مسلمانیم“ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فارسی زبان میں اقتباسات ہیں ایک ہزار کی تعداد میں شائع کیا جا رہا ہے۔ (غالباً ایک ہزار غلطی سے لکھا گیا ہے۔ دس ہزار شائع ہونا چاہیے۔ تحریک نوٹ کر لے)۔ قبر مسیح انگریزی میں تین ہزار۔ کفارہ انگریزی میں تین ہزار۔ عیسائیت پر ریویو انگریزی میں تین ہزار۔

جو مختلف کتب کے تراجم تیار ہو رہے ہیں۔ ان میں ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ کا ڈینش زبان میں ترجمہ، دعوت الامیر کا عربی اور فارسی زبان میں۔ ”ہم مسلمان ہیں“ کا ترجمہ انگریزی زبان میں۔ ”امن کا پیغام اور حرفِ انتباہ“ کا سپینش زبان میں اور اسلامی نماز کا سپینش میں۔

وقف جدید

وقف جدید کا سال یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد کے ترانے گاتے ہوئے اور اسی پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے میں اگلے سال کے افتتاح کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جماعت کو بھی ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبانے کی توفیق عطا کرے جو مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیاری تحریک ہم پر ڈالتی ہے۔

معلمین وقف جدید کی تعداد ایک سو تین ہے۔ جن میں سے سولہ معلمین مشرقی پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ شعبہ ارشاد و وقف جدید کے تحت چونتیس ہزار تین سو پچھتر کتب اور رسائل وغیرہ مختلف علاقوں میں تقسیم کئے گئے ہیں۔ یعنی پاکستان کی مختلف زبانوں میں۔

علاقہ نگر پارکر میں ہندو جن لوگوں کو اچھوت کہا کرتے تھے اور جب وہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمان ان کو بھائی کہتے ہیں۔ خدا کا بڑا فضل ہے۔ اس علاقے میں بڑی اچھی تبلیغ ہو رہی ہے اور بڑی کثرت سے لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اچھوت ہندو، مسلمان بھائی بن چکا ہے۔ آٹھ معلم وہاں کام کر رہے ہیں۔ وہاں جو ہمارا نیا مسلمان بھائی بنتا ہے، وہ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی برکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے

بچے پھر ہندو بنیں یا ہندوؤں کا اثر قبول کریں۔ اس واسطے تم ان کو پڑھاؤ۔ وہ ہم سے بڑے آدمی مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ اور اسلام کی تعلیم دو۔

فضل عمر فاؤنڈیشن

فضل عمر فاؤنڈیشن کا افتتاح ۱۹۶۵ء کے جلسے میں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا۔ ایک بات اس وقت تو میں نے ظاہر نہیں کی اب بتا دیتا ہوں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے مقام پر کھڑے کئے گئے تو سارے مخالف اندرونوں نے کہا۔ ایک بچے کو بٹھادیا ہے۔ اس نے کیا کام سنبھالنا ہے۔ پھر وہی بچہ جب الہی تقدیر کے مطابق ۱۹۶۵ء میں ہم سے جدا ہوا تو کہنے لگے بڑا ذہین، بڑا صاحب فراست، بڑا عالم، بڑا مدبر اور بڑا انتظم جماعت سے علیحدہ ہو گیا، اب دیکھنا ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ۱۹۱۴ء میں وہ ناقابل اعتناء بچہ تھا اور ۱۹۶۵ء میں وہ ایک ایسا بت بن گیا تھا (غیروں کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں نہیں) کہ وہ خیال کرتے تھے کہ اب وہ بت نہیں ہے تو جماعت ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے اور اپنی رحمتوں کے جلوے دکھا کر جماعت کو کہا کہ ۱۹۱۴ء کا بچہ بھی میری انگلیوں میں ہتھیار بن کر اٹھایا گیا تھا اور ۱۹۶۵ء میں بھی وہ میرا پیارا تھا جس کو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر میں نے ایک اور ذرہ ناچیز کو پکڑا، وہ بھی میری انگلیوں میں ہے۔ ۱۹۱۴ء میں بھی تم ایک کو نااہل کہتے رہے تھے ۱۹۶۵ء میں بھی کہہ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کو دکھانے کے لئے چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ذہن میں یہ تجویز بیج کے طور پر آئی اور اعلان ہوا۔

اب خدا تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھانا تھا کہ تم کہتے تھے جماعت بت پرستی کے اصول پر قائم ہے اور بڑا شور مچا رہے تھے کہ گدی بن گئی، گدی بن گئی۔ آؤ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جماعت ہماری محبت کی بنیاد پر قائم ہے۔

اس وقت انگلستان کی جماعتوں نے جو وعدے کئے اور بعد میں جو وصولیاں ہوئیں وہ اکیس ہزار کی تھیں۔ پھر میں نااہل، میں نے تو اہلیت کا دعویٰ ہی کبھی نہیں کیا کبھی مجھے کچھ کہتے ہیں تو ہنسا کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہوتا پھر تم الزام لگاتے تو مجھے فکر اور تشویش ہوتی۔ میں

نے دعویٰ کبھی کوئی کیا نہیں، مجھے تو فکر نہیں۔ تو وہی نا اہل اور واقعی میں تو نا اہل تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر اہلیت نہ دے اور اتنی نہ دے جتنی اسے چاہئے تھی تو آدمی کیا کر سکتا ہے۔ وہ جماعت جن کے اوپر اتنے اور بار ہیں۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے چندے ابھی ختم ہوئے تھے۔ دو گھنٹے میں ان کے پاس ٹھہرا اور ان کو کہا پچاس ہزار کے مقابلے میں تیس ہزار سے زائد وعدے ان دو گھنٹوں میں آچکے تھے۔ اس وقت وہ اڑتالیس ہزار سے اوپر نکل گئے ہیں اور اٹھارہ ہزار سے اوپر نقد جمع ہو چکا ہے۔ تین سال میں فضل عمر فاؤنڈیشن کا اکیس ہزار ہوا تھا۔ اس وقت جماعت میں اتنی طاقت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال میں برکت ڈالی۔ چار پانچ سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ مالوں میں اس نے بے شمار برکت ڈالی۔ اس لحاظ سے بھی ان کو کہیں کا کہیں لے گیا۔ قربانی دینے والے دلوں کے احساس میں بھی برکت ڈالی اور انہوں نے کہا اکیس ہزار پر ہم نے نہیں ٹھہرنا۔ چنانچہ اب اڑتالیس ہزار تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا چلنے سے پہلے چند دنوں میں دس ہزار نقد دیکھو کہ میں افریقہ والوں کو اس عرب شاعر کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہارے ہاں میڈیکل سنٹر اور سکول کھولنے ہیں۔ میں ہوں بڑا امیر مگر میری ساری دولت وعدوں پر مشتمل ہے، نقد کوئی نہیں۔ ان وعدوں کے ساتھ میں میڈیکل سنٹر تو نہیں کھول سکتا نہ سکول کھول سکتا ہوں۔ مجھے نقد چاہئے۔ پس چند دنوں میں مجھے دس ہزار نقد دوتا کہ جب خدا میرا یہ کام شروع کرنا چاہے تو میں ادھر ادھر نہ دیکھوں۔ میرے پاس رقم ہونی چاہئے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد جب میں نے لندن کو چھوڑا تو وہاں دس کی بجائے ساڑھے گیارہ ہزار نقد جمع ہو گئے اور اب نقد اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئے ہیں۔ اتنے پیارے ہیں آپ، آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ دنیا کے سارے جواہر ایک مخلص احمدی کے دل کو نہیں خرید سکتے۔ یہ میں پاؤنڈوں میں بات کر رہا ہوں۔ اکیس ہزار پاؤنڈ، پچاس ہزار پاؤنڈ۔ اٹھارہ ہزار پاؤنڈ جمع ہو چکا ہے۔

مجھے ایک دوست نے لکھا کہ میں نے اپنی شادی کے لئے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی ادھر آپ کا خط آ گیا۔ (اب میں نے کچھ خط لکھے تھے کہ جو وعدے کئے ہیں، وہ پورے کرو۔ مجھے پیسوں کی خدا کے لئے ضرورت ہے۔) لکھتا ہے۔ آپ کا خط آیا تو میں نے وہ رقم جو شادی کے لئے جمع کی تھی، نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں دے دی اور اپنی شادی ملتوی کر دی۔

گورنمنٹ کو ان کے اداروں پولیس وغیرہ نے رپورٹ کی کہ نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں سے بھٹو صاحب کی پارٹی کو دے رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نصرت بھٹو کے نام پر یہ فنڈ جاری کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقلیں تیز کرے۔ میں گورنر صاحب سے ملنے گیا ان کو میں نے کہا آپ کے پاس ایسی رپورٹیں آئیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پرسوں میرے پاس یہ خط آیا کہ میں نے اپنی شادی ملتوی کر دی ہے اور پیسے فنڈ میں دے دیئے۔ جو اتنے مخلص اور اسلام کا درد رکھنے والے دل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم احق اور بے ایمان اور ظالم لوگ ہیں جو ان کا پیسہ سیاست کے اوپر خرچ کر دیں گے۔ کہنے لگے میرے پاس رپورٹ تو آئی تھی۔ میں نے کہا پھر غلط آئی تھی۔

میں بڑی عاجزی کے ساتھ حکومت کے کانوں اور آنکھوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آنکھیں کھلی رکھو اور کان بھی کھلے رکھو۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو صحت مند رکھو۔ آنکھ اور کان کی دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں کبھی تو آنکھ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتی، کبھی دن رات کو نہیں دیکھتی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر کمزور ہوگئی۔ کبھی صرف رات کو نہیں دیکھتی۔ اس کو لوگ اندھراتا کہتے ہیں۔ ایک آنکھ کی بیماری یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آرہی ہوتی وہ ان کو نظر آتی ہے مثلاً ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک چیز کو وہ دو دیکھیں گے۔

کان کبھی بہرا ہوتا ہے اور وہ سنتا ہی نہیں۔ کبھی اس میں بیماری ہوتی ہے۔ آوازیں نہیں ہوتیں مگر کان شواؤں شواؤں بول رہے ہوتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو صحت مند آنکھ اور کان ہونا چاہئے تھا۔ ہر دو لحاظ سے یہ دونوں چیزیں بیمار پڑ گئی ہیں اور چار بیماریوں سے ملوث ہیں۔ ہم تو حقیر جماعت ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چاروں بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماوے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن اس خیال کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک تازیانہ تھا جو کہتے تھے کہ اب جماعت مر جائے گی۔ خدا نے کہا کہ جماعت اتنی قربانیاں پہلے دے رہی ہے۔ آؤ تمہیں ایک نظارہ دکھاؤں۔ یہاں پاکستان میں فضل عمر فاؤنڈیشن کی پچیس لاکھ کی تحریک تھی لیکن ستائیس لاکھ ہو گئے۔ وہاں انگلستان میں اکیس ہزار پاؤنڈ وعدے اور وصولی ہوئی۔ اب میں نے تحریک کی تو

پچاس ہزار پاؤنڈ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ تو خیر بعد کی بات ہے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جماعت مری نہیں۔ جس کے جسم میں خون نہیں ہوتا وہ بلڈ بنک میں جا کر خون کا عطیہ نہیں دیا کرتا۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمتوں کا خون ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نظام اپنے بلڈ بنک کے لئے ان سے خون طلب کرے گا۔ یہ خون دیں گے۔ یہ تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ جماعت مرگئی کیونکہ ان کا وہ امام نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ زندہ تھے۔ پھر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جماعت مر جائے گی کیونکہ ایک نا اہل امام بنا دیا گیا۔ ان کے لئے خدا نے اب میرے دماغ میں نصرت جہاں ریزرو فنڈ کی تحریک ڈالی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس وقت جبکہ کہا گیا تھا کہ جماعت مرگئی تو انگلستان کی چھوٹی سی جماعت نے اکیس ہزار پاؤنڈ یعنی چار لاکھ روپے سے اوپر چندہ دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے خون کا عطیہ دیا اور جس جماعت کو کہا تھا کہ یہ مر جائے گی کیونکہ امام نا اہل اور بالکل ناکارہ ہے، اس جماعت کو پانچ سال کے بعد اس شکل میں دکھایا کہ اکیس ہزار پاؤنڈ سے چھلانگ لگا کر وہ پچاس ہزار پاؤنڈ تک اپنی قربانی میں علاوہ لازمی چندوں کے پہنچی ہوئی تھی۔

خدا نے کہا کہ میں حیسی و قیوم ہوں۔ میں زندہ کرتا، زندہ رکھتا اور قائم رکھتا ہوں۔ میں نے تمہیں یہ طاقت نہیں دی کہ تم کسی کو زندہ کر سکو یا زندہ رکھ سکو۔ میں نے اپنے مسیح کو ان بشراتوں کے مطابق کہا جو میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں کہ ایسی جماعت دوں گا جن کی زندگی میں خود بنوں گا اور جن کا سہارا میں ہوں گا۔

انسان تو عاجز ہے۔ اس کو اپنے عجز کا ہی اقرار کرنا چاہئے لیکن اس عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کو عاجز قرار نہیں دینا چاہئے نہ اس کو عاجز ہونے کا اعلان کرنا چاہیے۔ جب دنیا یہ کہتی ہے کہ خدا عاجز ہے تو خدا اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے۔ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن: ۳۰) ہر روز ایک نئی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ غیر محدود قدرتوں کا مالک ہمیں غیر محدود جلوے دکھاتا ہے۔

ہم نے تو اپنی ان آنکھوں سے اپنے پیدا کرنے والے رب کو دیکھا ہے اور اس کی عظمت اور جلال کو اپنے خون کی رگوں میں بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ دنیا کے نعروں کا جماعت پر کیا فرق پڑا یا کیا پڑ سکتا ہے۔ جب کہ میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی اس مقام پر کھڑا کرے۔ میں

یہ مبالغہ نہیں کر رہا۔ خلیفہ تو میں اب بنا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو گیا۔ پچھلے تیس سال سے میرے سوچ و بچار میں یہ ہے اور میں اُس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا کی دولت ایک احمدی کی قیمت بھی نہیں بنتی۔ دنیا تمہیں نہیں پہچانتی اور تمہیں اس کا کوئی فکر نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ جس نے تمہیں وہ بنایا جو تم ہو، جب اس کی محبت تمہیں مل جاتی ہے تو اور کا خیال کوئی نہیں۔ لیکن دنیا تمہیں پہچانے گی، اس لئے نہیں کہ دنیا کی عزتوں کی خواہش تم رکھتے ہو، نہ اس لئے کہ دنیا کا اقتدار تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دنیا اس لئے تمہیں پہچانے گی کہ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کا خادم بنایا اور کوئی آقا ہے جو اپنے خادم کو نہیں پہچانتا پھر اچھے خادم کو۔ تم تو دنیا کے اچھے خادم ہو۔ آج نہیں تو کل دنیا تمہیں پہچانے گی۔ اس واسطے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا تم سے جو مرضی ہے دشمنی کرتی رہے، تم کسی کے دشمن نہیں ہو۔ تم تو خادم ہو اور خادم کو آقا بہر حال پہچانتا ہے اور اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں لیکن اپنے وقت پر یہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فضل عمر فاؤنڈیشن کی ساری دنیا کی وصولی بتیس لاکھ چونسٹھ ہزار تھی۔ کل نفع نقدی کی صورت میں چار لاکھ چھ ہزار ہے کیونکہ بہت ساری رقم یہ نفع آور کاموں پر لگاتے ہیں۔ کپیٹل اپریٹیشن (Capital Appreciation) یعنی بعض چیزیں جو خریدی گئیں اور ان کی اس وقت قیمت بڑھ چکی ہے یا کچھ شیئر (Share) خرید کے اور ان کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اس لحاظ سے نفع چار لاکھ ستاسی ہزار ہے۔ لندن میں وہاں کے چندے کی ان ویسٹ منٹ (Investment) کی گئی تھی۔ دو مکانات خریدے جا چکے ہیں اور ایک کے خریدنے کا انتظام ہو رہا ہے۔

لابریری کی سکیم تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی خوبصورت بن رہی ہے اور اس کے لئے ہم کتابوں کا بھی سوچ رہے ہیں۔ جو آیات قرآنی میں نے پڑھی تھیں۔ ہمیں اس طرف بڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ اتنا تو ہمارے پاس ابھی مال نہیں اس واسطے جن دوستوں کو میں نے کتابوں کی فہرستیں بنانے پر لگایا ہے ان کو میں نے کہا ہے کہ ایک یا دو مضمون لے لو۔ اُن مضامین سے متعلق دنیا کی بہترین اور اس کثرت سے کتابیں ہوں کہ پاکستان میں اس مضمون میں جو بھی دلچسپی لے اُس کو مجبور ہو کر ہمارے پاس آنا پڑے اور پاکستان میں اور کہیں وہ کتاب نہ ملے۔ انشاء اللہ ایسا

ہو جائے گا اور ہر سال ترقی ہوتی چلی جائے گی۔

عیدین کے خطبات کی پہلی جلد شائع ہو چکی ہے، یہ بھی دوست خریدیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کا مسودہ قریباً تیار ہے۔ علمی اور تحقیقاتی تصانیف کا مقابلہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال کے انعامی مقابلہ میں گیارہ مقالہ جات کے وعدے ہیں جن میں سے تین مقالے موصول ہو چکے ہیں باقی کو بھجوانا چاہیے۔ زیادہ دوستوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دوست صرف اس خیال سے اس میں حصہ لیتے ہیں کہ شاید ہمیں انعام مل جائے۔ ایک ہزار روپیہ انعام کی لالچ نہ کریں۔ جو اس طرف متوجہ ہوں گے ان کا علم بہت بڑھے گا۔ کئی ہزار احمدی بی۔ اے ہے۔ یعنی بی۔ اے یا بی۔ اے سے اوپر جس کی تعلیم ہے مثلاً ایم۔ اے یا ڈاکٹر وغیرہ یا جو اس سے زیادہ تعلیم سمجھی جاتی ہے، ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ انعام ملے یا نہ ملے۔ تحقیق کے بعد، بڑی محنت سے راتوں کو جاگ کر اور کتب پڑھ کر مقالہ لکھنا یہ خود ایک انعام ہے۔

وقف عارضی

وقف عارضی کے نئے فارم دو ہزار تین کے پہنچ چکے ہیں۔ یہ بڑی مفید اور اچھی سکیم ثابت ہوئی ہے۔ بڑی مؤثر ہے اور اس کے بڑے اچھے اثر نکل رہے ہیں۔ گذشتہ سال مردوں کے بائیس سو چوہن و فود بھجوائے گئے (یعنی پینتالیس سو افراد پر مشتمل)۔ ایک و فود دو واقفین پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک رہ جاتا ہے لیکن دو ہی جاتے ہیں اور بنائے بھی دو ہی جاتے ہیں۔ مستورات کے پانچ سو سات و فود بھجوائے گئے۔ مستورات کے لئے ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ ان کو اکیلے نہیں بھیجنا، نہ ایک نہ دو، وقف عارضی پر یا تو عورت اپنے بھائی کے ساتھ جائے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ جائے یا ہم ان کو ان کے اپنے شہر اور حلقے میں لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں۔ مرد و زن ہر دو کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔

وقف بعد ریٹائرمنٹ

ایک سو چودہ دوستوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد وقف کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے اکثر نوجوان ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد آج سے پندرہ یا بیس سال بعد وہ

ہمیں ملیں گے۔ جو جلدی ریٹائر ہونے والے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں اور جو فوری ضرورت ہے اس کی تعداد زیادہ ہے۔ بہت سے تو ایسے مخلص ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں ہم استعفیٰ دیں گے اور کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے دل دیئے ہیں لیکن سوائے اشد ضرورت کے میں نہیں چاہتا کہ ان کو اکھیڑوں کیونکہ وہ بھی جماعت کے لئے خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ دس فیصد حصہ وصیت کا دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے چندے بھی دیتے ہیں۔ اپنے شہر، گاؤں قصبہ اور ضلع کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہر حال آدمیوں کی بہت ضرورت ہے۔

تعلیم القرآن

کچھ جماعتیں روپڑ میں بھجور ہی ہیں، کچھ سست ہیں۔ ہفتہ قرآن مجید بھی منایا گیا جس سے کافی فائدہ ہوا۔ تعلیم القرآن کلاس منعقد کی گئی جس میں صرف پانسو تیرہ طلبہ اور طالبات شریک ہوئیں۔ میں نے امرائے اضلاع کو کہا تھا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ شاید میں نے امرائے اضلاع کی میٹنگ میں کہا ہو۔ اب میں جماعت کے سامنے ان کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ اس کلاس میں باقاعدہ سکیم کے ماتحت نمائندے آنے چاہئیں مثلاً چاہے آپ شروع میں دس قریب قریب کی جماعتوں کا ایک نمائندہ بھیجیں اور وہ وہاں جا کر کام کرے۔ اول تو یہ ہے کہ ہر گاؤں کا آئے یہ ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ہزار مرد آئے گا۔ اس دفعہ کل تعداد پانچ سو سے اوپر تھی۔ مرد سوا دو سو کے قریب تھے اور لڑکیاں زیادہ تھیں وہ آپ سے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ شرم کی بات ہے کہ مردوں سے لڑکیاں آگے بڑھ جائیں۔ بہر حال آگے بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اگر ہر جماعت سے ایک نمائندہ بھی آئے تو ایک ہزار آنا چاہیے لیکن لاہور سے ایک کا کیا مطلب؟ راولپنڈی، پشاور سے ایک کا کیا مطلب؟ وہاں کے تو ہر محلے سے ایک دو آ بھی سکتے ہیں اور آنے بھی چاہئیں۔ اس طرح یہ پندرہ سو کی تعداد بن جائے بیس سو کی بن جائے۔ سوا دو سو تو کچھ بھی نہیں۔


اے امرائے اضلاع! اگر آپ نے ہی کیا ہے تو میں آپ کے ذریعہ آپ کو سزا دوں گا اور آپ کی ساری جماعت کو بھی۔ سزا یہ دوں گا کہ جب وہ کلاس ہوگی تو میں کہیں ادھر ادھر ہو جایا

کروں گا اور ان سے نہ ملوں گا۔ میں اس رنگ میں بھی غصے کا اظہار کر سکتا ہوں اور بعض دفعہ کیا کرتا ہوں لیکن میری خواہش یہ ہے اور اسی کے لئے جماعت کو پیدا کیا گیا ہے اور یہی حقیقی ذمہ داری ہے جو ان کمزور کندھوں پہ ڈالی گئی ہے کہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلا یا جائے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی اور بہنیں قرآن کریم سے واقف ہوں۔ محض ترجمہ بھی کافی نہیں، محض پرانی تفسیروں کو تھوڑا سا پڑھ لینا کافی نہیں۔ بعض دفعہ جب پوری توجہ ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک صفحہ بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اُس صفحے میں دو سو نیا مضمون دماغ میں آ جاتا ہے۔ ہر سطر میں دو دو مضمون ہوتے ہیں۔ عجیب انسان تھے۔ اصل، اصل شاگرد تھے۔ کتابیں پڑھ کر ہمارا ذہن ایک اور فیصلہ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور سچے اور اصل شاگرد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی تھے۔ دوسری کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔

میں صبح اٹھا ہوں تو میری طبیعت میں کچھ کمزوری تھی۔ دراصل نومبر میں میں بہت بیمار رہا پہلے فلوائڈ اور پھر نقرس کا حملہ ہوا۔ اللہ نے فضل کیا۔ پرسوں تو میری صحت اتنی اچھی تھی کہ میں سمجھتا تھا بہت ہی اچھی ہے لیکن یہ کمزوری کوفت کا اثر ہے۔ اب ایک حصہ رہ گیا ہے۔ میرے دماغ نے فیصلہ کیا تھا کہ یا آج کہہ جاؤں گا یا کل کی تقریر میں اس کا حصہ بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی منشاء یہی معلوم ہوتی ہے کہ کل کی تقریر کا حصہ بنا لیا جائے۔

(رجسٹر خطابات ناصریہ غیر مطبوعہ)





آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان اور ہر زمانہ کے لئے رحمت بن کر مبعوث ہوئے

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۷۰ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے درج ذیل آیات تلاوت فرمائیں:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸)

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

(بنی اسرائیل: ۸۳)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

ہمارے محبوب! ہمارے آقا!! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لئے اور ہر زمانہ کے لئے رحمت بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کی نظر محدود نہیں تھی۔ آپ کی توجہ محدود نہیں تھی۔ آپ کی دعائیں کسی خاص قوم یا زمانہ تک محدود نہیں تھیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مکان کے لحاظ سے ان حدود سے باہر نہ دیکھ سکے، جن حدود کے اندر بنی اسرائیل قیام کرتے تھے اور نہ اس زمانہ سے پرے ان کی نگاہ جاسکی، جس زمانہ سے یا جس وقت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے۔ آپ کے زمانہ سے ورے ورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر رہی۔

مگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے تھے۔ انسان کے زمین پر پیدا ہونے سے قبل، بلکہ جب سے کہ یہ عالم بنا اس وقت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض جاریہ دوسری مخلوق پر بھی اپنا اثر کر رہے تھے اُن پر بھی برکتیں نازل کر رہے تھے۔ کیونکہ دوسری ساری مخلوق انسان کے لئے بنائی گئی تھی۔ یہ چاند، سورج، ستارے اور ستاروں کا یہ خاندان اور جو کچھ اس عالمین میں ہے، وہ اس لئے بنا کہ اس زمین پر اچھے، نیک اور مفید اثر ڈالے

تاکہ انسان اُن سے فائدہ اُٹھائے انسانیت انسانوں کے سرتاج اور انبیاء کے فخر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حسن و احسان کے جلوے دیکھنے کے قابل ہو جائے۔

چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض روحانیہ کسی ایک قوم کے لئے یا کسی ایک زمانے کے لئے نہیں تھے بلکہ تمام بنی نوع انسان نے آپ کے فیوض سے حصہ لینا تھا۔ اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشر کی حیثیت سے تو آپ نے اس زمین پر ایک محدود وقت میں یہ زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار سے آپ کو ہم سے واپس لے لیا اور عرش پر اپنی دائیں جانب پوری عظمت اور جلال کے ساتھ بٹھا دیا کیونکہ آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی عظمت اور جلال کا کامل انعکاس تھا۔ وہ جس کا تھا اُس کے پاس چلا گیا لیکن وہ جہاں بھی تھا اور جس کے لئے پیدا کیا گیا تھا یعنی انسانیت اس کو وہ بھولا نہیں بلکہ ہر قوم تک ہر زمانے تک اس کی محبت اور اس کی رحمت کی موجیں جوش مارتی ہوئی پہنچیں اور انسان نے اُن سے فائدہ اُٹھایا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ کے ذریعہ تمام اقوام عالم تمام بنی نوع انسان وحدت اجتماعی کی شکل اختیار کریں گے اور ایک خاندان بن جائیں گے۔ یہ دُنیا ملتِ واحدہ بن جائے گی۔ پاکستان اور ہندوستان اور چین اور روس اور یورپ اور امریکہ اور جزائر کے رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مثلاً ایک خاندان کے افراد مختلف جگہوں پر رہتے ہیں مگر بوجہ اس کے کہ وہ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، وہ مختلف خاندان نہیں بن جاتے۔ افراد تو وہ اسی ایک خاندان کے ہوتے ہیں۔

غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتِ واحدہ کا وعدہ دیا گیا تھا لیکن آپ کی نشاۃ اولیٰ میں، پہلے زمانہ میں، جو اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، اس میں ایسے اسباب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ تمام بنی نوع انسان ایک قوم بن جائے۔ اس وقت نہ تاریخ، نہ ڈاک تھی نہ کتب کے شائع ہونے کا انتظام تھا، نہ انسان چند گھنٹوں میں ساری دُنیا کا چکر لگا سکتا تھا۔ اس واسطے اس زمانے کو ہمارے اسلامی لٹریچر نے (یعنی ہمارے علماء اور اولیاء نے جو کتب لکھی ہیں اور آراء ظاہر کی ہیں، اس میں انہوں نے) اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ کا وہ زمانہ تکمیل ہدایت کا تھا۔ قرآن کریم ایک رحمت اور شفاء کی حیثیت میں، ایک کامل اور مکمل شریعت کا حامل بن کر دُنیا کی

طرف نازل ہوا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کر کے ایک حسین اسوہ بنی نوع کے ہاتھ میں دیا لیکن امریکہ کے رہنے والوں تک اُس وقت وہ آواز نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ اُس وقت ایسے وسائل اور ذرائع نہیں تھے لیکن وعدہ تھا کہ انسانیت کو ایک خاندان بنا دیا جائے گا۔ ایک قوم بنا دیا جائے گا۔ یہ دنیا ملت واحدہ بن جائے گی۔ دوسرے تمام ادیان جو ہیں اُن کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹ جائیں گے۔ اُن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جس طرح کھنڈرات ہوتے ہیں اس طرح شاید ان کے نشان باقی رہ جائیں گے۔ شاید ہزاروں کی تعداد میں عیسائیت پر ایمان لانے والے باقی رہ جائیں یا ہزاروں کی تعداد میں یہودی باقی رہ جائیں یا ہندو یا دھرتیت پر دھریہ قائم رہیں۔ دھرتیت اگرچہ لامذہبیت کا نام ہے لیکن بہر حال ان کے کچھ اصول ہیں جن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں تھا کہ بطور مذہب کے صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اگر محض یہ وعدہ ہوتا تو اس صورت میں بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب ختم ہو جاتے۔ ان کا اثر و رسوخ قائم نہ رہتا لیکن دھرتیت قائم رہتی۔ دھرتیت اس معنی میں تو مذہب نہیں ہے۔ یہ وعدہ نہیں تھا۔ یہ بشارت نہیں تھی بلکہ بشارت یہ تھی کہ اتنی بھاری اکثریت انسانوں کی جن میں امریکہ میں بسنے والے، افریقہ میں بسنے والے، یورپ میں بسنے والے، ایشیا میں بسنے والے، روس میں بسنے والے، چین میں بسنے والے، جاپان میں بسنے والے، آسٹریلیا میں بسنے والے، نیوزی لینڈ میں بسنے والے اور دیگر جزائر میں بسنے والے سارے شامل ہیں۔ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بد مذہب ہوں یا لامذہب دھریے ہوں ان سب کے متعلق یہ بشارت تھی کہ کسی عقیدے یا خیال یا مذہب یا اصول کا انسان یا گروہ یا جماعت جو اسلام کے مخالف ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ کھنڈر باقی رہتے ہیں قلعہ تو باقی نہیں رہتا۔ جو کھنڈر باقی ہوتا ہے اس کو شہر تو کہہ سکتے ہیں آباد نہیں کہہ سکتے۔ غرض نشان کے طور پر جہاں لوگوں کے لئے عبرت کا مقام بننے کے لئے کچھ نشان رہ جائیں گے سینکڑوں کی تعداد میں شاید ہزاروں کی تعداد میں ممکن ہے لاکھ ڈیڑھ دو لاکھ بھی ہوں مگر لاکھ ڈیڑھ دو لاکھ دنیا کی آبادی میں کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی۔

پس یہ بشارت تھی نشاۃ اولیٰ میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو مکمل کر کے

اس کی اشاعت کے کام میں مصروف ہوئے (اشاعت کے کام میں تو شروع سے مصروف تھے لیکن تکمیل دین آپ کی زندگی کے آخری حصے میں ہوئی) اور پھر آپ کے خلفاء نے اس کام کو جاری کیا جس کے نتیجے میں اسلام اس وقت کی معروف دنیا میں پہنچ گیا لیکن چونکہ وسائل اور ذرائع نہیں تھے۔ دنیا میں بہت سی جگہوں پر انسان بستے تھے اور دوسری جگہوں پر بسنے والے انسانوں کو اسلام کا علم ہی نہ تھا۔ انسان یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ امریکہ اور آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں اور افریقہ کے ان جنگلات میں (جہاں لوگ بالکل غیر مہذب زندگی گزار رہے تھے) انسان بس رہے ہیں۔

غرض تکمیل ہدایت تو ہو گئی لیکن اشاعت تکمیل ہدایت کا جو وعدہ تھا وہ عملاً اُس وقت پورا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اُس وقت ذرائع نہیں تھے لیکن یہ وعدہ تھا کہ قیامت سے پہلے اسلام کے ذریعہ تمام بنی نوع انسان کو ملت واحدہ میں جمع کر دیا جائے گا۔

ہمارے بزرگوں نے آیت کریمہ **لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** (الصف: ۱۰) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ اسلام کو تمام خیالات اور ادیان پر غالب کریں اور دہریت بھی اور مختلف مذاہب بھی قریباً ختم ہو جائیں یا جن کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو گے۔ میں کہوں گا ختم ہو جائیں اور صرف اسلام باقی رہ جائے **وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ كَمًّا يَلْحَقُوا بِهِمُ** (الجمعة: ۴) میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسیح کے نزول کے ساتھ اور مہدی موعود کے آنے کے ساتھ پیشگوئی پوری ہوگی۔ ہماری اسلامی کتب اس چیز سے بھری پڑی ہیں۔ اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔

غرض پہلوں نے بھی مانا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو وحی نازل کی اس کے ذریعہ بتایا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ اسلام تمام انسانوں کے دلوں کو جیت لے گا اور بنی نوع انسان بحیثیت نوع کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع ہو جائیں گے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا زمانہ مہدی موعود اور مسیح موعود کا زمانہ ہے پھر اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا چنانچہ آپ نے اس مسئلہ پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

یہ جو پہلے حوالے ہیں یا اب حوالے ہیں ان کی تفصیل میں میں اس لئے جانا نہیں چاہتا کہ میں اس بات کو بطور تمہید کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک دو حوالے میں بتا بھی دیتا ہوں تاکہ بعض جستجو کرنے والے دل جو ہیں ان کی تسلی بھی ہو جائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی اور اس کی عام غم خواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا بلکہ کیا باعتبار زمان اور کیا باعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی اس لئے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے۔“ (حقیقۃ الوحی روحانی خزائن جلد نمبر ۲۲ صفحہ ۲۹)

ہماری جامع البیان عربی کی مشہور تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لَيْطُظْهُرُهُ عَلَيَّ الدِّينِ كَلِمًا کے معنی یہ ہیں کہ لیظھر دینہ الحق الذی ارسل بہ رسولہ علی کل دین سواہ و ذلک عند نزول عیسیٰ ابن مریم و حین تصیر الملة واحدة فلا یكون دین غیر الاسلام“ (جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد ۲۸ صفحہ ۸۸ زیر تفسیر سورۃ الصف آیت ہو الذی ارسل رسولہ.....) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوگا کہ تمام بنی نوع انسان ایک وجود بن جائیں ایک ملت واحدہ بن جائیں۔

بخارا انوار جو شیعہ حضرات کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ابن مریم جو حکم اور عدل بن کر آئے گا اس کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا۔ (بخارا انوار جلد ۵۲ صفحہ ۳۸۳، ۳۸۴)

انہوں نے یہ (کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم) حدیث دی ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے۔ بخاری کی دو مشہور شرحیں ہیں۔ ایک عینی کی اور دوسری فتح الباری۔ عینی کی شرح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کسر صلیب سے مراد نصاریٰ کے جھوٹ اور بطلان کا اظہار ہے یعنی ہر شخص کو بتا دیا جائے گا اور ان کے ذہن نشین کر دیا جائے گا کہ جو عقائد نزول مسیح محمدی کے وقت نصاریٰ کے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ باطل ہیں۔ فتح الباری میں لکھا ہے:-

”ای یبطل دین النصرانیة“ (فتح الباری جلد ۶ کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ علیہ السلام صفحہ ۴۹۱) کہ وہ عیسائی مذہب کو باطل قرار دے گا اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ایک جگہ بڑے ہی لطیف پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے۔ کسی عیسائی نے پوچھا کہ آپ کس غرض کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس صلیب کو دلائل کے ساتھ توڑ دوں جس صلیب نے حضرت مسیحؑ کی ہڈیوں کو توڑا اور زخمی کیا تھا۔

بحار الانوار کی جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ کسر صلیب کا تعلق مہدی سے ہے اور مہدی صلیب کو توڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا۔ اگرچہ مشرک اسے پسند نہ کریں۔

غرض بحار الانوار نے کسر صلیب اور قتل خنزیری کی حدیث کو آئیہ کریمہ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ مُكْلَمًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصَّف: ۱۰) کی تفسیر قرار دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے متعدد بار بتایا ہے چونکہ قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے اس لئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ایسا نہیں جو قرآن کریم سے باہر ہو آپ کا ہر ارشاد اور ہر قول قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ اگر آپ ایک بات کے متعلق بھی غلط طور پر یہ سمجھنے لگیں کہ آپ نے قرآن کریم سے کوئی زائد بات کی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس حد تک آپ نے قرآن کریم کو غیر کامل قرار دے دیا لیکن چونکہ قرآن کریم کس ایک کامل اور مکمل کتاب ہے اس لئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات اور اقوال قرآن کی تفسیر ہیں خواہ ہمیں ان کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔

میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ مدتوں یعنی سال دو سال تک ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی عبارت پڑھتے رہتے ہیں یا کوئی حدیث یا تفسیر پڑھی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ اس کا قرآن کریم کی کس آیت کے ساتھ تعلق ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اور اس کا مضمون ذہن میں آجاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے وہ فلاں آیت کی تفسیر ہے۔

پس یہ تو اصولی طور پر انسان کا دماغ یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی قرآن کریم سے زائد کہا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اسی واسطے

بحار الانوار کے مصنف کے دماغ میں آیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ مہدی خنزیر کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑے گا۔ تو انہوں نے اپنے دماغ میں ہماری طرح سوچا ہوگا کہ کون سی آیت کی یہ تفسیر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھا دیا ہوگا کہ یہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی تفسیر ہے اور یہ بشارت مہدی اور مسیح کے زمانہ میں پوری ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے متعلق فرماتے ہیں:-

”چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب آیت وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ دُوبَارَهٗ تَشْرِيفِ لَانَا بجز صورت بروز غیر ممکن تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جو خلق اور خواہر ہمت اور ہمدردی خلاق میں اس کے مشابہ تھا اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تا یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور بعینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا۔“ (تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد نمبر ۷ صفحہ ۲۶۳)

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھ میں اور میرے محبوب روحانی فرزند مہدی میں کوئی فرق نہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی وحی کے ذریعہ یہ بتایا ہے کہ آپ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں۔ ایک بالکل صاف اور مصفا آئینہ ہو اور آپ اس میں شکل دیکھیں تو آپ کا چہرہ ہو بہو اس کے اندر منعکس ہو گا۔ کوئی فرق نہیں ہوگا اسی حقیقت کو ہم مختلف محاوروں میں ادا کرتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں بروزی رنگ میں، کبھی ہم کہتے ہیں ظلی طور پر، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ کا عکس۔ بہر حال جب رنگ پورے کا پورا اور کھل کر اور روشن ہو کر چڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس رنگ میں رنگین ہو گیا ہے۔ جو لوہا آگ میں سُرخ کیا جاتا ہے وہ آگ نہیں بن جاتا لیکن اس پر آگ کا اتنا رنگ چڑھ جاتا ہے اور آگ کی اتنی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنی تاثیرات کے لحاظ سے آگ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ یہی کیفیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس روحانی فرزند کی جو آپ کو اتنا عزیز تھا کہ اس امت محمدیہ میں اس قدر پیار کا اظہار آپ نے اور کسی سے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم مہدی کو ملو، اس کے زمانے میں پیدا ہو تو میرا سلام اُسے پہنچا دینا۔ بڑے پیار کی یہ بات ہے۔ بڑے بڑے بزرگان امت محمدیہ میں پیدا ہوئے

ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا مگر کوئی بزرگ بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلام کے لئے منتخب کیا ہو یہ ایک بڑا فرق ہے۔

پس اُس زمانے سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوض کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ وہ نہ مکان کو دیکھتا ہے اور نہ زمانے کو دیکھتا ہے وہ جو عالمین کے لئے رحمت بن کر آیا وہ ہر ایک کے پاس پہنچا اور انہیں محبت اور پیار کے ساتھ گلے لگایا اور خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں اُن کے اوپر کھول دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قدر عظیم کام کیسے کیا گیا؟ اس کے لئے کیا وسائل اور ذرائع اختیار کئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں عالمین کے لئے ظاہر ہوتی ہے وہ عالمین تک پہنچ جائے۔ اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا تھا۔ وہ کون سی قوتیں تھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے حصول کے لئے دی گئیں اور فطرت کے وہ کون سے تقاضے تھے جو اس لئے پیدا کئے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ جب اُس رنگ یا اس رنگ میں جلوہ دکھائے تو انسانی فطرت اُسے قبول کر لے۔

اس جلسہ کے لئے میں نے بہت سا کچھ سوچا تھا اور بہت سے حوالے جمع کئے تھے لیکن جس کو انگریزی میں melting point کہتے ہیں وہ سارا مضمون غیر معین طور پر میرے دماغ میں چکر لگا رہا تھا۔ اپنی شکل نہیں اختیار کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ گزشتہ رات کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا (ویسے الہاماً نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا) اور اس سے ایک واضح شکل میرے سامنے آگئی اور اس کے مطابق میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں۔

ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے ذرائع بتائے گئے ہیں جن کے نتیجے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ملک ملک، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں اور گلی گلی پہنچ گئی۔ اس مادی دنیا میں کوئی وسیلہ ہونا چاہئے اور اس مادی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہونا چاہئے ورنہ تو خالی رحمتہ للعالمین کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں کہنے والے تو ان کے حق میں مبالغہ کرتے ہوئے کچھ کچھ کہہ جاتے ہیں مگر نتیجہ

صفر ہوتا ہے مگر اسلام نے ایک حسین نعرہ لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نسل کو مخاطب ہو کر کہا کہ رحمة للعالمین تمہاری طرف مبعوث کیا جا رہا ہے اور پھر اس رحمت کو ہر فرد تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ یہ انتظام کیا تھا؟ اس کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہر ذہن کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس وقت میں جو باتیں بیان کروں گا آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

غرض ایسے ذرائع ہونے چاہئیں کہ ہر قوم کے دل اور ہر قوم کی فطرت اور ہر زمانے کے لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ہر نسل اور ہر قوم کی فطرت صحیحہ انسانیہ ایک ہی ہے۔ یہ فطرت صحیحہ انسانیہ کہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ واقع میں ایسی ہے کہ یہ ہمارے دلوں کو موہ لیتی ہے۔ ایسے مضبوط روحانی اور اخلاقی بندھن ہیں کہ جن سے باہر نکلنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا اور ان بندھنوں میں جکڑ کر سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس زمانے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ذمہ داری ہم پر ہے (اس کے متعلق تو میں بعد میں بیان کروں گا) لیکن کیا ذمہ داری ہے اور کیا وسائل اختیار کئے گئے ہیں پہلے میں ان کو لیتا ہوں۔

پہلی چیز کہ کوئی شخص (سوائے کسی پاگل کے) یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے دل نہیں جیتے جاسکتے اور تمام اقوام عالم کو ملتِ واحدہ نہیں بنایا جاسکتا اور یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ جو اختیار کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے کوئی عقلمند یہ نہیں کہے گا۔ سارے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر یہ ذریعہ اختیار کیا جائے تو یقیناً ہر انسان کا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیتا جاسکتا ہے پس پہلا وسیلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے ذریعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ شرف انسانیت کا ہے ہر انسان کی عزت اور اس کے احترام کو قائم کرنے کا نعرہ لگا دیا۔ جہاں بتوں کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہاں بت پوجنے والوں کے خلاف نعرہ لگا دیا کہ ایک عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے ہر انسان کو بحیثیت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ وہ شرف اور عزت بخشی گئی جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا تھا اور جس کے متعلق خدا چاہتا تھا کہ ان کو ملے۔

اب دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی! اگر تمام بنی نوع انسان کو عزت و شرف کے ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس سے اقوام عالم کے دل نہیں جیتے جائیں گے۔ یہ کوئی نہیں

کہہ سکتا۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ تم ہمیں یہ عزت دو ہم تمہاری طرف آجائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کیا کہیں ہماری زبان تو آپ کی شان بیان نہیں کر سکتی اس کے ساتھ بھی پیارا آجاتا ہے عزت اور شرف اور احترام اور پیار بھی بیچ میں آجاتا ہے۔ میں اس وقت ایک ہی مثال دیتا ہوں کیونکہ آج کا مضمون کچھ لمبا ہو گیا ہے کل کا بھی بیچ میں چھوٹا ہوا ہے۔ اس لئے تفصیل میں میں جا نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ پر اس بات کا اظہار کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتا ہے:-

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ (الزخرف: ۴۵)

اس آیت میں امت محمدیہ کی ذمہ داری کی طرف بڑے زور سے توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد! یہ کلام جو تیرے اوپر اتارا جا رہا ہے وہ تیرے لئے بھی شرف اور عزت کا موجب ہے اور تیری قوم کے لئے بھی ”وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ“ اور اے امت محمدیہ! تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ہدایت اور تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا ہے یا نہیں۔ ”وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ“ (القلم: ۵۳)

یہ دراصل ولقوومک کے متعلق ہے کیونکہ کوئی معاند اور مخالف کہہ سکتا تھا کہ اس کے مخاطب صرف عرب ہیں کیونکہ وہ آپ کی قوم ہیں اس لئے دوسری جگہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عرب نہیں بلکہ عالمین میں بسنے والے باختیار اور بالارادہ کام کرنے والی مخلوق ہے اس لئے فرمایا ”وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ“ قرآن کریم ساری دُنیا کے لئے شرف لے کر آیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو جھنجھوڑنے کے لئے انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے

بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ (المؤمنون: ۷۲)

ہم ان کے پاس ان کی عزت کا سامان لے کر آئے تھے اور دُنیا میں کوئی عقل مند انسان اپنی عزت اور شرف کے سامان کی وصولی میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا یا لینے سے انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ جو سامان ہم ان کی عزت یا شرف کا لے کر آئے تھے وہ اپنی عزت کے ان سامانوں سے اعراض کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

پس پہلا ذریعہ ملت و احدہ کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ہاتھ میں یہ دیا ہے کہ

تمام انسانوں کو ایک جیسی عزت اور شرف حاصل ہے ابھی میں مساوات کی بات نہیں کر رہا یہ اس سے بڑھ کر ہے یہاں سے ابتداء ہوتی ہے۔ ہر انسان Potentially یعنی اگر وہ اپنے قویٰ کی صحیح نشوونما کرے تب اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت کا مقام حاصل کرے۔ جو انسان یا جو فرد واحد اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت کا مقام حاصل کر لیتا ہے وہ بنی نوع انسان کے لئے معزز اور قابل احترام بن جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بڑے ہی حسین نمونے ہمارے لئے چھوڑے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔

ایک صحابی تھے وہ مزدوری کیا کرتے تھے پتھروں کی کٹائی کیا کرتے تھے۔ پتھر کوٹ کوٹ کر ان کے ہاتھ جسم کے رنگ سے زیادہ کالے ہو گئے تھے۔ عام طور پر ہاتھ سے کام کرنے والوں کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں خصوصاً جو مٹی میں کام کرنے والے پتھر کی کٹائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم پر سیاہی کا زیادہ رنگ آ جاتا ہے۔ غرض وہ رنگ میں بالکل سیاہ ہو گئے تھے۔ ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہ ہاتھ کیوں کالے ہو گئے ہیں۔ تو اس صحابی نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دن بھر پتھر پر پھاؤڑا چلاتا ہوں اور اس سے اپنے اہل و عیال کی روزی کماتا ہوں جب اس نے یہ کہا تو غالباً اس رنگ میں کہا ہو گا یا اظہار کیا ہو گا کہ میں ہوں تو انسان مگر دنیا میں میری عزت اور احترام کوئی نہیں۔ لیکن آپ تو لوگوں کی عزت و احترام کو قائم کرنے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے جب آپ نے یہ سنا تو اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرط محبت سے چوم لیا۔ یہ عزت اور احترام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب سے غریب مزدور کو دیا اور یہ عزت اور شرف کا مقام یا عزت و شرف دینے کی تعلیم ہے جس کے ذریعہ سے ہم آج دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیت کے چھوڑنا ہے۔ عزت و شرف کے بیان کرنے کے بعد اب میں مساوات کو لیتا ہوں۔

مساوات، انسانی عزت یا شرف انسانی کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ شرف انسانی تو یہ ہے کہ ہم نے دوسرے آدمی کی عزت کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ہم نے دوسرے انسانوں سے اُسے برابر سمجھنا ہے۔ عزت کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی تمہیں ملنے کے لئے آتا ہے اس کی عزت اور احترام کرو خواہ وہ بہترین سوٹ

میں ملبوس ہو خواہ چھپتھڑوں میں لپٹا ہوا ہو۔

مساوات کا عظیم نعرہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے سو چو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وجود کہ جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ (موضوعات کبیر زیر حرف لام)

اے رسول!! تیری یہ شان ہے کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرنا چاہتا تو اس دُنیا کو نہ پیدا کرتا۔ پھر میں نے اس دُنیا کو کیوں پیدا کرنا تھا؟ میں نے تیری خاطر اس عالمین کو پیدا کیا ہے۔ اس افلاک کو پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے آپ کا پاک اور مطہر وجود مبتداء ہے مزدور کا بھی اور انبیاء کا بھی سب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (یہ محاورہ ہے ویسے تو ہاتھ جوڑنے کی ہمیں تعلیم نہیں دی گئی۔ لیکن سمجھانے کے لئے میں نے یہ محارہ استعمال کیا ہے۔) ہم سب اس کے سامنے پیار سے جھکتے ہیں اس پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے میں بھی غریب۔ اور سب سے بڑے نبی کا (آپ کے بعد جو ہیں) ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے پاک و مطہر اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس قدر معزز اور محبوب وجود کے منہ سے دنیا کو مخاطب کر کے یہ اعلان کروایا۔ قُلْ سَارِي دُنْيَا مِيں يَه اعلان کر ”اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الكهف: ۱۱۱)“ کہ بشر ہونے کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے میں تمہاری طرح ایک بشر اور تم میری طرح ایک بشر ہو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو کہیں فرق نظر نہیں آئے گا۔

حج کے موقع پر روسائے قریش اپنے لئے بعض امتیازی نشان قائم کیا کرتے تھے مثلاً اچھی جگہوں پر خیمے لگا لیتے۔ آپ کے صحابہ کے دماغ میں یہ پرانی بات تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ تربیت حاصل کی تھی۔ کسی کے منہ سے نکل گیا کہ آپ کے لئے خاص جگہ خیمہ لگتا ہے فرمایا بالکل نہیں۔ جو لوگ پہلے آگئے ہیں انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے جو بعد میں آئے ہیں انہیں جہاں جگہ ملی وہاں خیمہ لگائیں گے۔ غرض زندگی کے کسی شعبہ کو لے لیں۔ آپ نے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا۔ یہ امتیاز نہیں ہے (اگر کوئی عیسائی یہ اعتراض کر دے گا) کہ نماز میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں امام نے تو بہر حال آگے کھڑے ہونا ہے۔ وہ جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے وہ بشر کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوتا بلکہ وہ امام کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے وہاں یہ سوال نہیں ہوتا کہ بشر بشر میں کوئی فرق کرنا ہے

وہ تو امام ہے۔ اُس نے تو بہر حال آگے کھڑا ہونا ہے اور جو اس کے پیچھے پہلی صف ہے اس میں مٹی سے اٹا ہوا ایک مزدور آدمی بھی کھڑا ہوتا اور امیر بھی اور پیچھے جو آئے گا وہ بعض دفعہ مزدور کے پاؤں میں اپنا سر رکھ رہا ہوگا۔ غرض عمل سے بتا دیا کہ بشر ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔

اب مثلاً یہ عیسائی ہیں یہ جب افریقہ میں گئے تو انہوں نے مساوات قائم نہیں کی۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس وجہ سے اب وہ Retreat یعنی وہاں سے ان کی واپسی ہے اور اس طرح ہمارے لئے آگے بڑھو کا پروگرام ممکن ہو گیا ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک لطیفہ بتا دوں بعض مبلغین نے مجھ سے ذکر کیا کہ پہلے ان کا شہروں میں زور تھا پھر ان کا قبضوں میں زور ہوا۔ جہاں ہمارے مبلغ جاتے تھے وہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے اور اب وہ Bush (بُش) میں چلے گئے۔ وہاں Bush کا مطلب ہے وہ علاقہ جہاں سڑکیں کوئی نہیں جنگل ہیں وہ جہاں ان ملکوں کی آبادی کے وحشی حصے آباد ہیں۔ ابھی تک وہ علاقہ اوپن نہیں ہوا یعنی کھلا نہیں ہے۔ نہ سڑکیں بنی ہیں نہ سکول اور اس لیے ان کی زندگی بڑی غیر مہذب ہے چنانچہ عیسائی پیچھے ہٹتے ہٹتے اب بش Bush میں چلے گئے ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا follow them to the bush ان کے پیچھے جاؤ bush میں۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟

دراصل بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے مساوات کو قائم نہیں کیا۔ میرے لیے تو یہ حیرت کا مقام تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب میں نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں پہلی دفعہ ایک بچے کو اٹھا کر پیار کیا تو اس سے ایک عجیب سماں پیدا ہوا۔ ان کے چہروں سے اس قدر خوشی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی کہ اس خوشی سے ہوا میں ایک ایسا ارتعاش پیدا ہوا جسے میرے کانوں نے بھی سنا۔ اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی لیکن مجھے بڑا رنج اور صدمہ بھی ہوا کہ یہ بچارے آج تک پیار سے محروم ہیں دو سو سال سے عیسائیت انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مساوات کا پیغام لے کر آئی ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہی تھی۔

چنانچہ جب میں نے ایک افریقن بچے سے پیار کیا تو یہ انہوں نے ان کی زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ میں نے بعض دوستوں سے پوچھا کہ میں نے آج یہ کیا نظارہ دیکھا ہے؟ بہر حال اس سے مجھے خوشی بھی ہوتی کہ ہم اسلام کا پیغام لے کر گئے ہیں لیکن رنج بھی ہوا کہ وہ آج تک پیار سے

محروم رہے ہیں۔ اس حد تک کہ وہ تو اپنے تصور میں بھی یہ بات نہیں لاسکتے تھے کہ کوئی ایسا شخص بھی افریقہ سے باہر پیدا ہو سکتا ہے جو ان سے پیار کرے ان کے بچوں سے پیار کرے۔

قرآن کریم کے مطابق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (الکہف: ۱۱۱) اور صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا میں اعلان کر دو کہ بشر ہونے کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ بشر ہونے کے لحاظ سے دنیا میں اس وقت کتنے فرق پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں کتنی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ کتنے اطمینان اور سکون تھے دلوں کے جو چھین لیے گئے۔ حقارت کی ایک نگاہ ڈال دی اور بے چین کر دیا جس پر یہ نگاہ پڑی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو ہمیں بڑے زور اور شدت کے ساتھ یہ سبق دیا ہے کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت اور پیار اور رضا کی نگاہ سے دیکھے تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ہر ایک کو پیار اور محبت اور رضا کی نگاہ سے دیکھیں ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیسے رضا اور پیار کو دیکھ سکتے ہیں۔

پس دوسرا ذریعہ بنی نوع انسان کے دلوں کے جیتنے اور تمام اقوام عالم کو ملت واحدہ بنا دینے کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور آپ کے طفیل ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے مساوات انسانی کا وسیلہ دیا ہے۔

اب جیسا کہ میں نے بتایا ہے مختلف ممالک اور مختلف نسلیں اور مختلف دور اور مختلف زمانے گزرے ہیں لیکن کسی جگہ کسی زمانے میں کوئی شخص پیدا ہو، اگر وہ مجنون نہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا جو نعرہ ہے یہ انسانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے گا انہیں جیتے گا نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اگر کوئی کہے گا تو دوسرا یہ سمجھے گا یہ پاگل ہو گیا ہے یہ تو کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ کیسا زبردست ہتھیار ہے۔

میں اس وقت اصولی ہتھیاروں کو لے رہا ہوں جو ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانے میں ایک جیسے کارگر وار کرنے والے ہیں۔ اب یہ نعرہ ایسا ہے کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں سے کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے دل جیتنے کے لئے ہمیں یہ

نعرہ دیا ہے:-

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکہف: ۱۱۱)

اس کے ذریعہ ہم تمہاری قوم کے دل جیت لیں گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اگر اخلاص سے اور عملی نمونے کے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ گے تو تم ہمارے دل جیت لو گے اور عملاً ان مکہ والوں کے دل جیتے، جو تیرہ سال تک ہر قسم کا دکھ دیتے رہے تھے۔ ان عرب قبائل کے دل جیتنے جن کی قدر کسری اور قیصر جو اس وقت کی دو بہت بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں یعنی جس طرح آج امریکہ، روس یا چین ہے اس طرح وہ سلطنتیں تھیں ان کی نگاہ میں عرب کی قیمت یہ تھی کہ جب پہلی دفعہ مسلمان وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں۔ پتہ نہیں شاید تیس چالیس روپے فی کس کے حساب سے تھے یہ انہیں دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تم جاؤ اپنی عیش کرو یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ یہ ان کی نگاہ میں عربوں کی قیمت تھی لیکن اسلام نے اس ذلیل سمجھے جانے والی اور حقیر سمجھے جانے والی قوم کے دل پیار سے جیت لیے۔ انہوں نے جواب میں یہی کہا اور اپنے عمل سے بھی یہی ثابت کیا۔ میں نے اسی جلسہ میں بتایا تھا کہ مسلمان ان کو کہتے تھے کہ جو لوگ تمہارے ملک میں داخل ہوتے ہیں وہ موت سے، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو۔ اس واسطے بچ کے رہنا۔ موت سے زندگی کی نسبت کون زیادہ پیار کرتا ہے؟ سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے رب کی نگاہ میں پیار اور محبت دیکھی ہو۔ کوئی شخص موت سے زندگی کے مقابلے میں زیادہ پیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے رب کی نگاہوں میں پیار دیکھا، رضا دیکھی، محبت دیکھی، اس کی عظیم قدرتوں کے جلوے اپنی حفاظت کے لیے اپنی تکالیف کے دور کرنے کے لیے دیکھے۔ اس کی پیار بھری آواز کو سنا۔ اس کے بعد کیا وہ موت سے ڈر سکتے تھے۔ موت تو ان کے لیے ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔

پس دوسرا عظیم وسیلہ جو ایک احمدی کے ہاتھ میں آج تمام دنیا کے دل جیتنے کے لیے دیا گیا ہے وہ مساوات انسانی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور یہ شرف انسانی کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اور تیسرے نمبر پر آجاتا ہے دکھوں کو دور کرنا یعنی ہمدردی اور غم خواری کرنا۔

دراصل دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں جن کو دور کیا جاتا ہے اور آگے ان کا طریق بھی مختلف ہو

جاتا ہے۔ ایک دکھ اور درد اور مصیبت، حق کے غضب ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً میں نائیجیریا میں گیا تو ابھی دو تین دن ہی ہوئے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نائیجیریا میں بسنے والوں کو ضرورت کی ہر چیز دے دی تھی لیکن وہ جو عیسائیت کا پیغام لے کر اور اپنی فوجوں کو پوری طرح مسلح کر کے داخل ہوئے تھے انہوں نے ان بچاروں سے ہر چیز چھین لی۔ میں نے اپنے ایک افریقین دوست سے کہا کہ میں نے تو یہ محسوس اور مشاہدہ کیا ہے کہ خدا نے تمہیں ہر چیز دی تھی مگر تم ہر چیز سے محروم کر دیئے گئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ان کا جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے یقیناً بوگوون اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑا اچھا آدمی ہے عیسائی ہے لیکن دل کا بڑا نیک انسان ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ باتوں باتوں میں میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ملک میں آ کر اور آپ کے حالات دیکھ کر میرے دل پر جو پہلا اور بڑا گہرا اثر پیدا ہوا ہے اور جس کا کل میں نے اپنے ایک افریقین دوست سے اظہار بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی تھی مگر آپ کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ تو وہ میری بات سن کر کہنے لگا:-

How true you are! how true you are!

اس نے دو دفعہ یہ کہا۔ کتنی سچی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ کتنی سچی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ غرض ایک محرومی اور دکھ اور درد اور پریشانی اور مصیبت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی شخص کے حقوق غضب کر لئے جاتے ہیں اور ایک دکھ اور درد اور تکلیف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے مثلاً حوادث زمانہ ہیں۔ حادثہ ہوا کوئی عزیز فوت ہو گیا یا کوئی بچہ مر گیا یا خاندان حادثہ کا شکار ہو گیا یا قحط آ گیا یا زلزل آ گئے یا جس طرح مشرقی پاکستان میں ہوا ہے وہاں طوفان آ گیا ہے۔

پس دو قسم کے دکھ اور درد ہوتے ہیں جن میں بنی نوع انسان مبتلا نظر آتے ہیں جو محروم کیے جانے کے نتیجہ میں دکھ اور درد پیدا ہوتا ہے اس کا یہ علاج ہے کہ جو غاصب ہے اس سے مال لے کر جو حق دار ہے اسے پہنچا دیا جائے۔ تو اس طرح یہ دکھ دور ہو جائے گا۔ اسلام نے اس سلسلہ میں جو حسین تعلیم پیش کی ہے اور پہلے زمانہ میں لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ ہم نے انشاء اللہ ساری دُنیا میں اس کے مطابق عمل کرنا اور کروانا ہے اسلام کی اس حسین تعلیم پر میں نے بڑا غور کیا ہے میں

یہ علیٰ وجہ البصیرت پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسانی دماغ اس جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے یہاں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی کہا کہ دیکھو یہ تعلیم اپنے حسن کی انتہاء اور اپنے احسان کی انتہاء کے نتیجے میں ایسی ہے کہ کوئی انسانی دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب تم سوچو کہ جس کتاب میں یہ نازل ہوئی ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی بھی ایک دلیل ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی تعلیم ہے ہر انسان کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا مثلاً یہ کمیونزم ہے۔ آج کل اس کے بھی نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کمیونزم بھی وہاں تک نہیں پہنچا۔

کمیونزم یعنی اشتراکیت نے جو نعرہ لگایا ہے وہ بظاہر بڑا حسین ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے ہم وہ پوری کر دیں گے۔ یہ نعرہ بظاہر کان میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جب میں نے مثلاً (شاید کسی اور نے بھی غور کیا ہوگا۔) غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں جو خرابی اور نقص ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کی تعریف نہیں کی گئی۔ صرف یہ کہہ دیا:

"To each according to his needs."

لیکن نیڈز (needs) کو ڈیفائن (Define) نہیں کیا یعنی اس کی تعریف نہیں کی۔ میں نے کارل مارکس کی کتابیں پڑھی ہیں۔ داس کا پٹیل (Das Capital) اس کی مشہور کتاب ہے۔ اسے میں نے ایک سے زائد بار پڑھا ہے، انجیل، لینن اور سٹالن ان سب کے original works (یعنی اصل کتابیں) پڑھی ہیں۔ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں خالی اقتباس سے تسلی نہیں پاتا۔ اصل کتاب پڑھتا ہوں۔ جس شخص نے کچھ لکھا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کے خلاف تنقید کرنے سے پہلے اس کی کتاب پڑھ لی جائے صرف لوگوں کی تنقید پر انحصار نہ کیا جائے۔ لیکن مجھے ان کی کتابوں میں کہیں بھی نیڈز (needs) یعنی ضرورت کی تعریف نظر نہیں آئی۔

اب اسی افریقہ کے سفر سے واپسی پر ہم ہالینڈ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک موقع ایسا میسر آیا کہ چائے کی ایک پیالی پر انٹرنیشنل کورٹ کے چند ججز کے ساتھ اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ ان میں روسی جج بھی تھا یعنی انٹرنیشنل کورٹ میں جو جج روس کی نمائندگی کر رہا ہے وہ بھی وہاں موجود تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے سوچا کہ آج اس سے پتہ کریں یہ نیڈز (needs) یعنی

ضرورت کی کیا تعریف بتاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے یہ کہا کہ تم نے نعرہ تو بڑا اچھا لگایا ہے کانوں کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کی ضرورت پوری کر دی جائے لیکن مجھے اس میں خرابی یہ نظر آ رہی ہے کہ تم نے needs یعنی ضرورت کی تعریف نہیں کی۔ اگر آپ مجھے needs کی تعریف بتادیں تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ خیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور چار پانچ منٹ باتیں کرتا رہا لیکن اس نے ”ضرورت“ کی تعریف نہیں بتائی اور جو دوسرے ججز سن رہے تھے وہ اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ میرا مقصد حل ہو گیا ہے۔

پس ایک غریب آدمی کو یہ غلط فہمی ہے ایک محروم اور دکھیا کو یہ غلط اطلاع دی گئی ہے کہ اشتراکیت اس کے دکھوں کا مداوا اور اس کی مصیبتوں کا علاج ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے ہم نے ۱۹۶۷ء میں جب یورپ کا ٹور (tour) کیا تھا اس سفر پر جانے کا جو راستہ لیا تھا وہ کراچی، تہران، ماسکو اور فرانکفرٹ تھا۔ فرانکفرٹ میں ہماری مسجد اور مشن ہے میں نے وہاں سے دورہ شروع کرنا تھا چنانچہ جب ہمارا جہاز ماسکو پہنچا تو وہاں ہمیں قریباً پون گھنٹہ ٹھہرنا پڑا۔ ہم جہاز سے نیچے اترے۔ میری آنکھ نے بہت سی چیزیں مشاہدہ کیں۔ ان میں سے دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں۔

ایک یہ کہ ماسکو ایئر پورٹ پر ساری دنیا کے ہوائی جہاز آ کر اترتے ہیں اس لحاظ سے یہ ہوائی اڈہ ساری دنیا کے لئے Show window یعنی نمائش گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں روسی تہذیب اور ان کی سوشلزم کا بہترین نمونہ نظر آنا چاہئے لیکن مجھے وہاں کے کسی ایک شخص کی جسمانی حالت ایسی نظر نہیں آئی جس کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ اُسے پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہوگا۔ کلے چپکے ہوئے اور سفید سے داغ کلوں پر پڑ جاتے ہیں کمزوری کے نتیجہ میں وہ پڑے ہوئے لیکن اس سے بھی زیادہ جس چیز سے مجھے دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ کسی ایک شخص کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا اگر ساری عمر رو کر ہی گزارنی ہے تو پھر اشتراکیت کا ہمیں کیا فائدہ؟

اب مثلاً ہماری جماعت ہے پہلے بھی میں نے بتایا ہے اس جلسہ پر بھی بتایا ہے کہ ۸۰ سال سے ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں جو جس کی زبان میں آئے وہ بول جاتا ہے۔ ہمیں گالی دینا اسی طرح فیشن بن گیا ہے جس طرح ہماری عورتوں میں لپ اسٹک لگانا فیشن ہے ہمارے مردوں میں

گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں لیکن ۸۰ سالہ گالیوں اور کفر کے فتوؤں نے ہمارے چہروں سے مسکراہٹیں نہیں چھینیں۔ اس واسطے کہ مسکراہٹ کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے جس کو وہ پیار حاصل ہو اس کے چہرے سے مسکراہٹ کون چھین سکتا ہے؟ کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ یہ ناممکن بات ہے۔ یہ مسکراہٹ اور بشاشت جس کا ذکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، کمیونزم نے جہاں اپنا اثر و نفوذ پیدا کیا ہے وہاں ہمیں نظر نہیں آئی۔ البتہ یہ درست ہے کہ میں صرف پون گھنٹہ وہاں ٹھہرا۔ یہ بھی درست ہے کہ میں نے چند سو روسی آدمیوں سے زیادہ نہیں دیکھے لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئر پورٹ ہونے کے لحاظ سے جسے انگریزی میں Show Window کہتے ہیں یعنی اس کی نمائش کہ کیا کیریئر ہے وہاں نظر آنا چاہیے۔

لیکن اس کے مقابلہ میں اسلام نے اس دکھ کو جو محرومی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے یاد رکھ اور درد اور تکلیف اور بے چینی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے مثلاً کسی کو اس کا حق نہیں ملا اس لئے وہ پریشان ہے یا مثلاً لڑکا ذہین ہے مگر وہ اُسے پڑھا نہیں سکتا۔ ماں باپ کے لئے تو وہ ساری عمر کا دُکھ ہے۔ ایک بچہ یونیورسٹی میں فرسٹ آجاتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ اُسے کالج میں نہیں داخل کروا سکتے۔ اگر وہ بچہ نہ پڑھ سکے تو ساری عمر اس کے ماں باپ اور دوسرے بھائی بہن کہیں گے کتنی ظالم ہے یہ دُنیا کہ ہمارا بچہ یا بھائی میٹرک میں فرسٹ آیا تھا لیکن اسے پڑھایا نہیں ہے اور یہ میں محض فلسفیانہ مثال نہیں دے رہا بلکہ امر واقعہ ہے ہمارا کالج جب لاہور میں تھا۔ ایک اخبار میں یہ آ گیا کہ جو بچہ اس دفعہ میٹرک کے امتحان میں یونیورسٹی میں فرسٹ آیا ہے وہ اتنے غریب خاندان کا ہے کہ آگے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اس لئے کوئی آدمی اس کی مدد کرے میں نے اس اخبار کو خط لکھا کہ ہمارا کالج اُس کے سارے اخراجات برداشت کرے گا وہ بچہ ہمارے کالج میں آجائے۔ ادھر اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ یہ بچہ پڑھ گیا۔ یا اسے میں نے پڑھا دینا ہے یا کسی متعصب امیر دل میں جو اس کے لئے پہلے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا اب وہ ہمارے تعصب کی وجہ سے خرچ کرے گا اور بچہ پڑھ جائے گا اور ہماری جو غرض ہے وہ پوری ہو جائے گی۔

مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس بچے کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے بلکہ مجھے تو اس سے غرض ہے کہ وہ بچہ پڑھ جائے تو میری غرض پوری ہو جائے گی پندرہ دن کے بعد مجھے اس لڑکے کا خط آیا جس میں اس نے بڑے پیار سے لکھا کہ میرا باپ اُن پڑھ ہے وہ ان چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتا آپ نے مجھ سے جو پیار کا سلوک کیا ہے میں اس کی قدر جانتا ہوں۔ جب آپ نے اخبار میں یہ اعلان کیا تو کئی امیر آدمیوں نے کہا کہ نہیں! نہیں۔ احمدیوں کے کالج میں نہیں جانا ہم تمہارا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ اس وظیفہ کے باوجود میرے دل میں یہی خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں لیکن چونکہ والد کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ میرا والد کہہ دے گا کہ وہاں نہیں جانا اس لئے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر ہمارے علم میں نہ آتا اور اس قسم کا واقعہ نہ ہوتا تو آپ سوچ لیں کہ اس خاندان کو ساری عمر یہ دُکھ پہنچتا رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو اتنی سمجھ اور عقل دی تھی مگر وہ آگے نہیں پڑھ سکا۔

پس یہ دُکھ تو لمبے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ بہر حال محرومی ایک لعنت ہے اور مظلوم ہونا لعنتی بنانے کا ایک آلہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی مظلوم کو دیکھتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے دُور اور ملعون ہے۔ اسلام نے جس حق کو قائم کیا ہے اور میرے نزدیک جہاں تک انسانی دماغ نہ پہنچا اور نہ پہنچ سکتا تھا وہ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے بندے! میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اپنے جسم اور ذہن اور روح میں جو قوت اور استعداد دیکھ رہا ہے یہ بھی میں نے پیدا کی ہے۔ لیکن اس دُنیا میں میں نے تدریج کا اصول رائج کیا ہے۔ ایک قوت دی ہے اس کی نشوونما ہونی چاہیے۔ ایک قابلیت عطا کی ہے اس کو پروان چڑھنا چاہئے تمام قوتوں اور استعدادوں کی نشوونما کے لئے اور اس کی نشوونما کو کمال تک پہنچانے کے لئے جس مادی اور غیر مادی چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے یعنی رب العالمین نے پیدا کر دی ہے دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص نے اپنی قوتوں اور استعدادوں کی نشوونما اس لئے نہیں کی کہ اُس کے رب نے اُسے بھلا دیا تھا۔

یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے رب نے وہ اشیاء پیدا کر دی تھیں۔ اگر اس کو نہیں ملتیں جو اس کی قوتوں اور استعدادوں کی نشوونما کے لئے ملنی چاہئیں تھیں تو کوئی غاصب ہے، کوئی ظالم ہے جس

نے اس کی مادی اشیاء یا غیر مادی چیزیں غصب کر لیں ہیں اور اس کو نہیں مل رہی ہیں اور اس کے لئے دکھوں کا سامنا پیدا کر دیا ہے۔

پس یہ دکھ جو محرومی اور مظلومی کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسین تعلیم ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کی قوت اور استعداد کو اس کی نشوونما کے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے فرماتا ہے اے مسلمانو! تم نے فردِ واحد کی چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم، ان قوتوں اور استعدادوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عطیے ہیں مثلاً بیج عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ درخت بن جاتا ہے اس کو پھل لانا چاہئے، اسی طرح قدرت کے عطیے جو ہیں ان کی نشوونما ہونی چاہئے اور یوں اللہ تعالیٰ کے حسن کے خوبصورت جلووں کا پھول کھلنا چاہئے تاکہ دنیا دیکھے۔

اب میرا اندازہ یہ ہے کہ مثلاً علم کے میدان میں ہمارے پاکستان نے ایک لاکھ ذہن اپنی غفلت اور بے توجہی کے نتیجہ میں ضائع کر دیئے ہیں۔ خدا تعالیٰ پاکستان کو نہیں بھولا تھا ہم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول گئے اور اس کے ناشکر گزار بندے بن گئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائنسدان کافی نہیں ہیں۔ تم نے سائنسی دماغ کا گلا گھونٹ دیا اس لئے کہ وہ دماغ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوتا تھا اور اب تم رو رہے ہو کہ ہم ترقی کیسے کریں؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک بے وقوف بچے کو اس کے ماں باپ دس پندرہ روپے دے دیں اور وہ پھاڑ پھوڑ کر ٹوکری میں پھینک دے اور باپ کے ساتھ چیزیں خریدنے چلا جائے اور وہاں جا کر کہے کہ میں چیزیں کیسے خریدوں گا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر تمہارے پاس اس لئے پیسے نہیں ہیں کہ جہالت کی وجہ سے یا اپنے بچپن اور نالائقی کی وجہ سے جو تمہیں پیسے دیئے گئے تھے وہ تم نے ضائع کر دیئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے انعامات کی شکل میں جو ذہن عطا کئے تھے وہ تم نے ضائع کر دیئے شکوہ کس سے؟ اپنے ظلم سے جا کر شکوہ کرو۔ اپنی درندگی سے جا کر شکوہ کرو۔ اپنے رب سے تم شکوہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا رب تو تمہیں نہیں بھولا تھا تم اُسے بھول گئے۔ تم اس کے ناشکرے بندے بن گئے۔

پس جہاں تک اقتصادیات کا تعلق ہے اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں ان کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاسکتا، دیر ہو رہی ہے۔ اسلام نے جو تعلیم پیش کی ہے اور حضرت نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو اسوہ رکھا ہے اس کی مثال دُنیا پیش نہیں کر سکتی۔ انسانی عقل میں وہ چیزیں آہی نہیں سکتی تھیں اور اس سے بہتر نمونہ کوئی دکھا ہی نہیں سکتا تھا۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا اور قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کا خیال رکھتے تھے اور صرف آپ ہی خیال رکھ سکتے تھے مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيَت: ۲۰)

کہ کچھ امیر اور دولت مند لوگ ایسے بھی ہیں جن کے سارے مال ان کے نہیں بلکہ کسی اور کا حق مارا گیا ہے جس نے ان کے اموال میں اضافہ کیا ہے اس لئے ”وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“ محروم اور سائل کا حق ان کے مالوں کے اندر ہے وہ نکالنا چاہئے اور حق دار کو حق پہنچنا چاہیے۔

قرآن کریم کی ایک آیت میں اتنا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حشر کے دن ایک گروہ ایسا ہوگا کہ میں فرشتوں سے کہوں گا۔ جاؤ اور اس گروہ کو جہنم میں جھونک دو اور وہاں جہنم میں جھونکنے کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اس لئے کہ وسیع حکمتوں والے رب پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے تھے اور نہ خود ان کو کھلاتے تھے۔ لوگ بھوکے مر رہے تھے اور یہ ان کا خیال نہیں رکھتے تھے اور حکمتوں سے پُر یہ ایک Universe ایک عالمین پیدا کیا گیا تھا اور یہ اس پر غور نہیں کرتے تھے۔

پس یہاں صرف دو وجہیں بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ وسیع حکمتوں والے رب پر ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسرے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لئے انہیں جہنم میں جا کر جھونک دو۔ پس جس مسلمان نے جہنم سے بچنا ہو یا جہنم سے بچا ہوا ہو تو وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرتا اور اس کی ذات و صفات کی معرفت رکھتا ہے اور جس حد تک اس کے پاس مال ہے وہ اس کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے اور کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ بھوک دور کرنے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کھیتیاں پیدا کرتے ہو؟ تم نہیں پیدا کرتے، میں پیدا کرتا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک جانور کے اوپر رحم کر کے پیاس کے وقت میں پانی دیا تھا۔ اس نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اُس فاحشہ عورت کے گناہ معاف کر دیئے اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے۔

قرآن کریم اس بات سے بھرپور ہے ایسی متعدد آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ مسکین کا خیال رکھو، جائع (بھوکے) کا خیال رکھو۔ معتر کا خیال رکھو۔ سائل کا خیال رکھو۔ محروم کا خیال رکھو۔ دکھوں کی مختلف وجوہات کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان دکھوں کو دور کرو۔ اسلام نے استعدادوں کی نشوونما کے کمال تک پہنچانے کے لئے ایک اعلیٰ نظام قائم کیا ہے اسلام کی نشاۃ اولیٰ میں اس پر اس رنگ میں عمل ہوا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اس سے بہتر اشتراکیت ہے اس لئے ہم اپنے دکھوں کے علاج کے لئے اسلام کی بجائے اشتراکیت کو رائج کریں گے۔ کوئی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔

جیسا کہ میں نے ابھی مختصراً بتایا ہے اس اختصار سے بھی آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے کہ انسانی دماغ و ہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب جو غلط فہمیاں ہیں یا بعض لوگ شرارت سے بھی اس سے اُلٹ نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ غلطی خوردہ ہیں۔ ہم تو کسی کے دشمن نہیں۔ دنیا ہماری دشمن ہوتی رہے۔ ان کے لئے دعا کرنی چاہئے اور کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگا کر اس پر گرفت نہیں کی جاسکتی۔ یہ بڑی معقول بات ہے کیونکہ جھوٹا الزام لگا کر یہ کہنا کہ سزا دے دو۔ یہ تو نہ قانوناً جائز ہے اور نہ عقلاً اور شرعاً ورنہ تو دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ قانون نے یہ تو کہا ہے کہ اگر سچا الزام بھی ہو مگر ثابت نہ ہو تو سزا نہیں دینی۔ بہت احتیاط برتی ہے۔ لیکن کیا کسی قانون، کسی شریعت اور کسی عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ جھوٹا الزام لگاؤ۔ جھوٹے گواہ پیش کرو اور سزا دے دو اور کہہ دو اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اس طرح تو امن اُٹھ جائے گا اور اطمینان قلب باقی نہیں رہے گا اس لئے غلط الزام نہیں لگانے چاہئیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بعض لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اسلام کے متعلق کچھ علم حاصل ہی نہ کیا ہو اور وہ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہوں کہ اس ملک میں دکھوں کا علاج اشتراکیت ہے۔

ان کو ہم ہیں سمجھانے والے۔ میں بہتوں سے ملا ہوں۔ اس لحاظ سے میں نے بہت سے کمیونسٹ مسلمان بنائے ہیں۔ اکثر لوگ غلطی خوردہ ہیں یعنی اسلام سے پیار بھی ہے اور اسلام سے بُد بھی۔ ایک ہی وقت میں ان میں متضاد چیزیں تھیں۔ چنانچہ جب میں نے ان کو بتایا تم کدھر جا رہے ہو۔ اس سے حسین تعلیم کی طرف تو خدا تمہیں بلاتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آگئی۔ لیبل ہی تھانا لگا ہوا،

پکڑ کر اتار کر پھینک دیا۔ جس طرح جرابوں پر لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ لیبل ساتھ لگا رہنے دیتے ہیں؟ نہیں، پہننے سے پہلے آپ لیبل اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح لیبل اتار دیا تو مسلمان بن گئے۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض پکے بھی ہوں۔ تاہم اول تو وہ تعداد میں زیادہ نہیں دوسرے اُن کے متعلق بھی مجھے تو حُسن ظن ہے۔ میں انہیں احمق تو نہیں سمجھتا کہ اگر ان کو پوری طرح سمجھایا جائے اور وہ نہ سمجھیں۔

غرض یہ ہتھیار ایک اور وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اب دُنیا کی کوئی عقل اور کوئی قوم اور کوئی ملک اور کوئی زمانہ اور کوئی نسل یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تعلیم کہ ہر شخص کی تو توتوں اور استعدادوں کی نشوونما کمال تک ہونی چاہئے یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمارے دلوں کو جیتے گی نہیں بلکہ اسلام کے خلاف اور زیادہ نفرت پیدا کر دے گی۔ کوئی عقلمند یہ نہیں کہے گا۔ یہ ایک بڑا زبردست ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح خدمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱)

تم بہترین امت ہو۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے حسن میں اور نہ اپنی خوبی میں اور نہ اپنے احسان میں تمہارے برابر ہے نہ کوئی اور امت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر (کہنے والے کہتے ہیں کہ) ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں تو ان میں سے بیس تیس ہزار تو شرعی پیغمبر ہوں گے ہی۔ غرض اتنی امتیں بن گئیں اتنی ان کی شریعتیں بن گئیں کوئی شریعت کسی پیغمبر کے ماننے والوں کی اور کوئی کسی پیغمبر کے ماننے والوں کی لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں، امت محمدیہ کے مقابلے میں خیر نہیں ہیں۔ بہتر نہیں ہیں زیادہ حسین نہیں ہیں۔ زیادہ احسان کرنے کی قوت رکھنے والے نہیں ہیں۔ (یہ دوسرا فقرہ تو میں جلدی میں کہہ گیا ہوں) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس لئے بہترین امت ہو کہ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم لوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا کئے گئے ہو یہ حسن تم میں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ دُنیا اس حُسن کے نتیجے میں احسان کے عظیم جلوے دیکھے۔ فرمایا: اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تمہارا اپنا وجود ہی کوئی نہیں رہا۔ اب اگر دُنیا ملت واحدہ بن جائے گی تو امریکہ والے روس کی خدمت کر رہے ہوں گے روس چین کی خدمت کر رہا ہوگا۔ یہ سارے فساد اور لڑائیوں کے خطرے اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے نتیجے میں انسانیت کی تباہی

اور ہلاکت کا جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے یہ دُور ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کو حاکم نہیں بنایا گیا، کسی کو ظالم نہیں بنایا گیا کسی کو سپریمیر (Superior) یا برتر نہیں بنایا گیا۔ کسی کو برائی کا حق نہیں دیا گیا بلکہ ہر فرد کو خادم بنایا گیا ہے۔ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ بنایا گیا ہے۔ ہر فرد دوسرے کی بھلائی کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

یہ ایک عظیم ہتھیار ہے دُنیا کی کون سی قوم ہے جو یہ کہے کہ تم ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو لیکن اپنی خدمت کے نتیجے میں تم ہمارے دل نہیں جیت سکتے۔ میں افریقہ والوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ پچاس سال سے ہم تمہارے پاس ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہمیں نہ تمہاری سیاست میں کوئی دلچسپی ہے نہ تمہارے مال میں کوئی دلچسپی ہے۔ باہر سے پیسے لاتے ہیں تم پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تمہارے ملک میں کماتے ہیں (ہمارے کلینک ہزاروں پاؤنڈ کما چکے ہیں) وہ بھی تم پر خرچ کر دیتے ہیں۔ پچاس سال میں ایک دھیلہ تمہارے ملک سے باہر لے کر نہیں گئے ہم لاکھوں روپے باہر سے لائے اور تم پر خرچ کر دیئے۔ پس اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ہمیں (یعنی زبان تو میں ایسی بولتا تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے اور تفصیل اسی فقرہ کی ہوتی تھی جو کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے اور دیکھ لو ہم خدمت کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نہ ہمارے مال میں کبھی دخل دیا نہ ہماری سیاست میں دلچسپی لی۔ ان کی حکومت کو بھی پتہ ہے اور اسی وجہ سے ہم ان کے دل جیتنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی خدمت کرنے کی وہاں جو توفیق پاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اتنی خوشی اور مسرت اور پیار کے خط لکھتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ سارا پیار تو دراصل حضرت نبی اکرم کی طرف رجوع کرتا ہے جن سے ہم نے یہ تعلیم حاصل کی اور جن کا رنگ چڑھا کر ہم عملاً اس قابل بنے کہ دنیا کو یہ نمونہ دکھا سکیں۔ اتنا اثر ہے میں ابھی آگے اس حصہ کو لوں گا۔ کچھ نمبر ۲ جو حصہ تھا میری تقریر کا اس سلسلہ میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں لیکن جو میں نے کہا ہے وہ کافی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم کو تمام جہانوں کا دل خدا کے لیے جیتنے کی خاطر مبعوث کیا تھا اور نہ صرف اس مکان کے لوگ جہاں آپ پیدا ہوئے یعنی نہ صرف عرب کے دلوں کو جیتنا تھا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر نسل کے دلوں کو جیتنا تھا یہ ایک بشارت تھی اور

آپ کی بعثت کی ایک بڑی غرض تھی۔

پہلے زمانے میں یعنی آپ کی نشاۃ اولیٰ میں ابھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکے (گو انسانی ذہن اتنی ترقی کر چکا تھا کہ وہ ایک کامل اور مکمل شریعت کا حامل بن سکے) اور بشارت یہ دی گئی تھی کہ مہدی معہود کے زمانے میں اور آپ کی جماعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بشارت کو پورا کرے گا۔ تو سوچا آپ پر کتنی ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیتنے ہیں اور جیتنے بھی ان وسائل سے اور ان ذرائع سے اور اگر مثال کے طور پر ایک اور لفظ استعمال کروں تو کوئی حرج نہیں ان ہتھیاروں کے ساتھ (میں یہ الفاظ بولنے سے ہچکچاتا ہوں اس لیے کہ عیسائی پادریوں نے عیسائیوں کے دل میں یہ بات میخ کی طرح گاڑھی ہوئی تھی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے) اس لیے جب میں ہتھیار کہتا ہوں تو اس سے میری مراد تلوار نہیں ہے بلکہ اس سے میری مراد روحانی ہتھیار ہیں، اخلاقی ہتھیار ہیں، حسنِ تعلیم کے ہتھیار ہیں۔ احسانِ ہدایت کے ہتھیار ہیں۔ ہم نے ان کے ذریعہ دنیا کے دلوں کو جیتنا ہے اور ہمیں یہ جو ہتھیار دیئے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہتھیار ہیں کہ ہر شخص جو اپنی Senses میں ہو، ہر شخص جو مجنون نہ ہو، ہوش و حواس میں ہو وہ یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر یہ ہتھیار، اگر یہ ذرائع استعمال کیے جائیں تو واقع میں نوع انسان کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیت لیے جائیں گے۔

ان ہتھیاروں میں سے جن کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے ایک تو شرفِ انسانی ہے دوسرے انسان انسان کے درمیان مساوات ہے تیسرے اقتصادی لحاظ سے ضروریات زندگی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی ادائیگی ہے اور دکھوں کو دور کرنا ہے۔

یہاں مجھے یاد آ گیا۔ ایک حصہ میں اس کا چھوڑ گیا ہوں جو حادثہ زمانہ کے لحاظ سے دکھوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حادثہ زمانہ کے لحاظ سے جو دکھ انسان کو پہنچتے ہیں یا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی سامان دیئے ہیں اور وہ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں مثلاً ذکر الہی ہے استغفار ہے لاجول پڑھنا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بہت سارے ہتھیار ہیں لیکن یہ اشارہ ہی اس کی طرف اس وقت کافی ہے۔

بہر حال جو محرومی کے نتیجے میں اور مظلوم ہونے کے نتیجے میں فرد کے لئے یا خاندان کے لئے یا

علاقے کے لئے یا ملک کے لئے یا دُنیا کے بہت سے حصوں کے لئے دُکھ اور درد مصیبت اور پریشانی اور انتشار کے حالات پیدا ہوتے ہیں ان کو دُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے جو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں پکڑا یا ہے اس کی تو نظیر کہیں نہیں ملتی اور ہم فتنہ و فساد کئے بغیر اس کے سوا دُنیا کے دکھوں کو دُور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس حصے سے دُکھ دُور کر کے اس حصے میں دُکھ بڑھا دیئے جائیں مثلاً انگریز نے اپنے ملک کا دُکھ دُور کر دیا مگر ہمیں لوٹ کر لے گئے، افریقہ کو لوٹ کر لے گئے کہنے کو وہ بڑا امیر ملک ہے لیکن ان کی دولت تو چور کی دولت تھی اب وہ دولت کم ہو رہی ہے اور وہاں مصیبت آ رہی ہے جو لوگ جا کر دیکھتے ہیں ان کو اس کا ردِ عمل معلوم ہوتا ہے عادتیں گندی پڑی ہوئی تھیں اس لئے اب اخلاقی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی دولت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے پیدا کی تھی اور صرف اس حد تک ہے اور اسی تعریف کے ماتحت ہے کہ آپ کو اپنی تمام قوتوں کی کمال نشوونما کے لئے جتنی ضرورت ہے وہ آپ کی دولت ہے اس سے بڑھ کر آپ کی دولت نہیں ہے۔ اب یہ نعرہ لگانا کہ جس کی وہ دولت نہیں ہے وہ اس سے چھین لی جائے گی۔ اس نعرے کے مترادف نہیں کہ اشتراکیت کہتی ہے (صرف کتابوں کا کہنا نہیں بلکہ انہوں نے ۱۹۱۷ء میں جو عمل کر کے دکھایا ہے) کہ ہم نے امیر کی دولت بھی لینی ہے اور ہم نے اس کی جان بھی لینی ہے پہلے ایک محروم تھا اب دوسرا محروم بنا دیا گیا۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پہلے زیادہ محروم تھے اب تھوڑے ہو گئے۔ لیکن ایک محرومی کو ایک اور محرومی پیدا کر کے دُور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔

اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتا ہے کہ امیر ہو یا غریب خدا کا بندہ ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی ذہنی قوتوں کی نشوونما کمال تک پہنچے اگر ایک ذہین بچہ امیر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے کہ اس کی ذہنی قوتوں کی نشوونما کمال تک پہنچائی جائے جتنی اس بچے کی ذہنی قوتوں کی نشوونما کو کمال تک پہنچانا ضروری ہے جو ایک غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ غرض جتنا حق ایک غریب ذہین بچے کا ہے کہ اس کی قوتوں کو نشوونما کے کمال تک پہنچا دیا جائے اتنا ہی حق ایک امیر گھرانے میں پیدا ہونے والے ذہین بچے کا ہے۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ظلم کو مٹا کر دوسرا ظلم نہیں کرنا ایک محرومی کو دُور کر کے کسی دوسری جگہ محرومی پیدا نہیں کرنی۔ دکھوں کا علاج کسی اور دُکھ کو پیدا کرنے سے نہیں کرنا بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے سارے دکھوں کا جو محرومی کے نتیجہ میں یعنی جو انسان نے خود اپنے لئے پیدا کئے ہیں ان دکھوں سے اُسے نجات دلائی جائے۔

کتننا پیار کرنے والا ہے ہمارا رب، اور کتنا محسن ہے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بعثت سے چودہ سو سال بعد ہم اپنے لئے خود اپنے ہاتھوں سے دکھ پیدا کر رہے تھے مگر آپ جو خدا کے محبوب اور ہمارے محبوب اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے اور ہم سے بے اختیار پیار کرنے والے تھے وہ ہمارے ہاتھوں سے پیدا کردہ دکھوں کو دور کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔

پس اسلام تو دُنیا کے دُکھ کو مٹانا چاہتا ہے اور یہ دکھ اور درد اور مصیبت وہ ہے جو انسان کے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کی جاتی ہے لیکن جو حوادثِ زمانہ ابتلاء اور امتحان کے طور پر آتے ہیں دراصل ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔

میں ایک بات مختصراً بتا دوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ انبیاء اور دوسرے مقربین الہی کو دُکھ کیوں پہنچتا ہے آپ نے اس کا بڑا ہی حسین جواب دیا ہے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو ان کو دُکھ پہنچتے ہیں اُن سے تو جا کر پوچھو وہ ان کو دُکھ سمجھتے ہیں یا وہ راحت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو زخم لگتا ہے، وہ اس کے پیارے بندے کے لئے راحت کا باعث بنتا ہے دُکھ کا باعث تو نہیں بن سکتا۔

بہر حال اس وقت میں اس تفصیل میں تو نہیں جا رہا لیکن جو انسان نے اپنے ہاتھ سے دُکھ اور تکلیف پیدا کی ہے دوسرے کو لوٹا، چوری کی، غصب کیا، حاکم بن کر آیا اور قرآن کی رو سے إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَۃَ أَهْلِهَا آذِنًا ؕ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ (النمل: ۳۸)

اس پروگرام اور پالیسی پر عمل کیا عزتیں دی نہیں بلکہ عزتیں چھین لیں۔ لیکن جب اسلام یہ کہتا ہے کہ میں شرفِ انسانی کو قائم کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اس وقت معزز ہیں ان کو ذلیل کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کو جو اس وقت جھوٹی عزتوں میں محو ہیں ان کو

بھی حقیقی عزتیں عطا کروں گا اور جن کو دُنیا نے دھتکار دیا ہے اور حقیر سمجھا اور ذلیل جانا ان کی عزتوں کو بھی قائم کرتا ہوں۔

پس اسلام دُکھ پیدا کر کے دُکھ دور نہیں کرتا بلکہ دُکھوں کو دور کر کے ساروں کے دُکھ دور کر دیتا ہے کہاں ہے ایسی تعلیم؟ کس کے پاس ہے تو وہ آئے ہمارے پاس ہم اُسے خدا کے فضل سے قائل کریں گے۔ میں علی وجہ البصیرت یہ اعلان کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اسلامی تعلیم کے مقابلے میں اگر کسی اور چیز کو اقتصادی میدان میں یا کسی اور میدان میں (لیکن میں اس وقت اقتصادی میدان کی بات کر رہا ہوں) کسی اور تعلیم یا ازم یا اصول کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہو تو وہ میرے پاس آئے میں اُسے قائل کر دوں گا کہ وہ غلطی پر ہے اور اسلام نے جو حسین تعلیم دی ہے وہی صداقت اور وہی حق ہے اور وہی دُکھوں اور دردوں کا صحیح علاج ہے۔

میں اسی کے تسلسل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انہی ہتھیاروں میں سے اور انہی ذرائع میں سے بعض کو لے کر افریقہ کے ٹور (tour) پر گیا تھا یعنی میں نے مغربی افریقہ کا سفر اختیار کیا تھا میں وہاں عام طور پر یہی اصولی باتیں بیان کرتا رہا اور اسی طرح ان کی روحوں کو گرماتا رہا۔ میں نے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب نظارے دیکھے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ یہ ہجری شمسی ۱۳۹۷ھ سے اُن کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیں۔

۱۳۴۶ھ (۱۹۶۷ء) میں جب میں نے یورپ کا دورہ کیا تھا اس کے بعد ان کے مطالبے آنے شروع ہو گئے تھے چنانچہ ہم نے ۲۸ھ یعنی ۱۹۶۹ء میں وہاں جانے کا پروگرام بنایا لیکن ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئے اور جیسا کہ میں نے پچھلے جلسے پر بیان کیا تھا کہ فسادات سے سال شروع ہوا تھا اور الہی بشارتوں اور فضلوں پر سال ختم ہو رہا ہے۔ غرض اُس وقت فسادات ہو گئے اور مجھے سفر ملتوی کرنا پڑا۔ جس کے نتیجے میں میرے ان بھائیوں کو جو آپ کی طرح وہ بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔

ہمارے ایک بہت پرانے افریقن احمدی ہیں سفر کے ملتوی ہونے پر انہوں نے مجھے خط لکھا کہ ساری عمر دل میں یہ خواہش رہی کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے۔ کوشش کرتے رہے (لکھنے والے کہ) رقم جمع کر لیں کرایہ مل جائے تو زیارت کریں۔ لیکن آپ کی

زندگی میں خدا نے مجھے توفیق نہیں دی کرا یہ بھی نہیں ملا اور یہی حسرت میرے دل میں رہی اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اب میں نے سنا تھا کہ آپ آرہے ہیں۔ میں نے سوچا میرے پاس کرا یہ نہیں تھا۔ میں مہدی معہود کے خلیفہ کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب خلیفہ خود آ رہا ہے تو یہاں زیارت ہو جائے گی آپ نے یہ سفر ملتوی کر دیا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں۔ میں ہر وقت یہ سوچ کر غم زدہ رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے اور قسم کی حسرت رہی۔ اب اگر میں آپ کے آنے سے پہلے مر جاؤں تو یہ حسرت دل میں لے جاؤں گا کہ میں نے مہدی معہود کے خلیفہ سے ملاقات نہیں کی۔ خیر میں نے اُسے تسلی کا خط لکھا۔ دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے زندگی بخشے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی اور جب ہم وہاں گئے تو اُس نے بڑے پیار سے اور بڑے شوق سے اور بڑے اخلاص سے مجھ سے ملاقات کی۔

اس سال کے شروع میں کہنا چاہئے ۴ اپریل کو یہاں سے روانہ ہوئے اور دس یا گیارہ اپریل کو وہاں پہنچے۔ پہلے نائیجیریا میں گئے۔ پھر اس کے بعد غانا میں گئے۔ پھر آئیوری کوسٹ اور پھر یہاں سے لائبیریا گئے۔ اس کے بعد سیرالیون جہاں ہماری بہت بڑی جماعتیں ہیں اس کے اوپر سے پرواز کر کے پہلے گیمبیا میں پہنچے اور پھر سیرالیون میں آئے کیونکہ وہیں سے ہمیں واپسی کا جہاز ملتا تھا ورنہ دو دفعہ وہاں آنا پڑتا۔ بہر حال ان ملکوں کے سربراہوں سے بھی ملے۔ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے بھی ملے اور جو عیسائیت پھیلانے کے لئے باہر سے پادری گئے ہوئے تھے ان سے بھی باتیں ہوئیں۔ جو عوام ہیں اور جن کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ان میں تلاش کرو ان عوام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کو بھی تلاش کیا۔ ان کو گلے لگایا ان کے بچوں کو بھی تلاش کیا۔ ایک ایک وقت میں پانچ پانچ چھ چھ ہزار دوستوں سے مصافحے کئے ان کے جذبات کو دیکھا۔ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ پانچ سات ہزار میل دور ہیں۔ اتنی دور کے فاصلے پر سے وہ نہ کبھی یہاں آئے لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کو اتنا عشق ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور وہ اتنے دلیر ہیں کہ (یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ماحول میں ان کی یہ دلیری انہیں زیادہ پریشان نہیں کرتی) اپنی کاروں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر سارے شہر کی گلیوں میں پھر کر یہ ندا بلند کرتے تھے کہ

جس مہدی کی بشارت دی گئی وہ آچکا ہے اور اس مہدی کا ایک خلیفہ آج تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ اس لیے تم آ کر اس سے برکتیں حاصل کرو اور بعض شہر تو دس دس لاکھ کی آبادی کے ہیں ان میں انہوں نے یہ منادی کروائی۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ان کو بڑا پیار ہے اور اس لیے پیار ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو پہچانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو اور آپ کی قوت احسان کو پہچانا۔ اس وجہ سے وہ مہدی معبود سے پیار کرتے ہیں۔

سیرالیون کے ایک سابق نائب وزیر اعظم نے پیچھے پڑ کر ایک ری سپشن (Reception) دی اور اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے پہلے یہ کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں لیکن جو بات سچ ہے وہ کہنے سے میں نہیں رہ سکتا اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس صدی کے شروع میں ہم غیروں کے سامنے اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے پھر احمدی آگئے اور اب ہم فخر سے گردن اونچی کرتے ہیں اور اسلام کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے اور بھی بہت سی باتیں کیں لیکن جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کنٹیکسٹ (context) میں یہی اتنا حصہ ہی ہے۔

غرض جنہوں نے احمدیت کو پہچانا یا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہچانا ان کے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ کے طفیل وہ حسن جو چھپا ہوا تھا وہ ان کی نظروں کے سامنے آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے جلال اور اس کی زندہ قدرتوں کا زندہ نشان دیکھنے لگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑی کثرت سے نشان دکھا رہا ہے۔

آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہماری ایک احمدی بہن کی شادی کو چالیس سال ہو چکے تھے مگر اس کے ہاں لڑکا کوئی نہیں تھا غالباً بچہ ہی کوئی نہیں تھا۔ مجھے صحیح یاد نہیں رہا لیکن لڑکا بہر حال کوئی نہیں تھا اور شادی کو چالیس سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اب اس نے میرے جانے سے دو تین سال پہلے بلکہ ۱۹۶۶ء سے ہی کسی نے اسے توجہ دلائی۔ اس نے مجھے خط لکھنے شروع کیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ۲۰-۲۲ سال کے بعد اسے لڑکا دے دیا۔ اب بوڑھی عورت ساری عمر اس کے دل میں یہ حسرت رہی کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دیا۔ پھر

احمدیت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اسے یہ نشان دکھایا۔ وہ تو منصورہ بیگم کے ساتھ ہر وقت چمٹی رہتی تھی۔ جتنے دن ہم وہاں رہے بچہ اس کی گود میں ہوتا تھا کہ اس سے پیار کرو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بخشے کیونکہ یہ اس کی قدرت کا ایک نشان ہے۔

غرض انہوں نے مہدی معبود کے طفیل خدا تعالیٰ کی ان قدرتوں کے نظارے دیکھے اور وہ اس طرح مہدی معبود سے بھی پیار کرنے لگے اور جس منبع سے مہدی معبود نے برکت حاصل کی تھی اس منبع سے بھی ان کے دل میں عشق پیدا ہو گیا وہ اتنے جذباتی تھے کہ میری تو شرم سے گردن جھک جاتی تھی۔ پیار سے دیکھتے تھے مگر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں کہنے والی۔ صرف چہرہ دیکھے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے جولان میں کھڑا ہے وہ پیچھے سے ٹھونگے دے رہا ہے کہ آگے بڑھو مگر اگلے آدمی کو کوئی پروا نہیں۔ پھر جو پچھلا آگے آ جاتا تھا وہ بھی وہاں کھڑا ہے۔ پھر اور پیچھے سے اسے دوسرے ٹھوکریں لگا رہے ہوتے تھے کہ چلو آگے۔ وہ اس قسم کے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ میں شرم سے آنکھیں نیچی کر لیا کرتا تھا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔

وہاں جا کر جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا اور جو مشاہدہ کیا اس کے نتیجے میں بہت کچھ سوچنا پڑا۔ ابھی میں نائیجیریا میں تھا تو میری طبیعت پر یہ اثر ہوا کہ ہم نے ان کی خدمت تو بڑی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جتنی خدمت کرنی چاہئے تھی اتنی نہیں کی اور جتنی ہم کر سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ توفیق دی ہے اتنی ہم نہیں کر رہے اس لئے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنے دماغ سے ایک سکیم بنا کر دی کہ سات سال کے عرصہ میں سولہ نئے سکول کھولو۔

علاوہ ازیں میں نے کہا ہم ایک دو میڈیکل سنٹر بھی کھول دیں گے لیکن میں دعاؤں میں لگا رہا اور غور کرتا رہا۔ پانچواں ملک جس میں میں گیا وہ گیمبیا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے خود میرے لئے سکیم کو تیار کیا۔ یہ اس کی شان ہے وہ تو وقت سے بھی بالا ہے اس کے لئے سیکنڈ کہنا بھی غلط ہے بس آن واحد میں ساری تفصیل دماغ میں آ گئی۔ مجھے یہ کہا گیا کہ کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ فوری طور پر یہاں Invest کرو ایک تو وہ سات یا پانچ سالہ منصوبہ ختم ہو گیا۔ دوسرے میں ان سے کہتا تھا سکول کھولیں گے (یعنی میں اپنی سکیم بنا رہا تھا۔) میڈیکل سنٹر کھولیں گے تو یہ کہنے کے بعد میں فکر مند ہو جاتا تھا کہ وعدہ کر لیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے لئے سامان بھی میسر آئے گا یا نہیں

لیکن جب گیمبیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ فوری طور پر یہاں خرچ کرو تو میں مطمئن ہو گیا۔ پہلے میں دس ہزار پاؤنڈ کے لئے متفکر ہو جایا کرتا تھا۔ اب میں مطمئن ہو گیا کہ جب خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ خرچ کرو تو مال ہمارا تو نہیں اسی کا ہے وہ دے گا اور ہم خرچ کریں گے مجھے ثواب پہنچانا چاہتا ہے پھر اس سکیم کی شکل بدل گئی اور "Leap forward" کی شکل میں ایک جامع منصوبہ سامنے آ گیا (ویسے تو اس کو پہلوں نے بھی استعمال کیا ہے) لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نقل نہیں کی تھی اس وقت ایک ضرورت کے مطابق یہ فقرہ ذہن میں آ گیا تھا کہ (آگے بڑھو کی سکیم اس کا نام رکھ دیا جائے لیکن اب اس کا پورا نام "نصرت جہاں آگے بڑھو کی سکیم" ہے۔ یہ سکیم بڑی پھیل گئی ہے اس کے اندر وسعت پیدا ہو گئی ہے۔

چنانچہ جب میں افریقہ کا سفر ختم کر کے انگلستان میں آیا تو وہاں میں نے نصرت جہاں ریزرو فنڈ کا اعلان کیا اور جیسا کہ کل میں نے مختصراً بتایا تھا میں نے انگلستان کی جماعت سے کہا کہ میرے جانے سے پہلے دس ہزار پاؤنڈ نقد جمع ہو جائے اور دوست وعدے کرتے رہیں۔ پہلے میرے دماغ میں شاید ۲۵ ہزار پاؤنڈ تھا پھر شاید ۳۰ ہزار پاؤنڈ اور اس طرح بڑھتے بڑھتے آخر میں میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے ذمہ میں نے اب پچاس ہزار پاؤنڈ کی رقم لگا دی ہے اور یہاں سے میں نے ان کو لکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں (امام رفیق واپس آ رہے ہیں ان کی جگہ ایک دوسرے دوست جارہے ہیں) کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے چند مہینوں میں ۲۱ ہزار پاؤنڈ (جو تین سالہ فضل عمر فاؤنڈیشن کی رقم ہے) اتنی جمع ہو جائے یہ بھی ایک غیر کے لئے بہر حال نشان ہے۔ ابھی وہ آئے نہیں۔ اٹھارہ ہزار پاؤنڈ جمع ہو چکا ہے اور اڑتالیس ہزار پاؤنڈ کے ان کے وعدے ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو جو ٹارگٹ دیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ خیر وہ تو پورا کیا لیکن میں نے پہلے دن ان کو کہہ دیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ یہاں ان ملکوں میں خرچ کرو۔ اس لئے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے جو ساری دولتوں کا مالک ہے اس نے فرمایا ہے کہ خرچ کرو تو وہ خود ہی دے گا۔ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دس روپے خرچ کرو تو کبھی آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ جا کر چوری کر کے لاؤ اور خرچ کرو۔ بچہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس میں تم سے خرچ کرواؤں گا

اور جیب سے نکالیں اور دس روپے خرچ کریں۔ تو خدا تعالیٰ کے مقابلے میں تو ایک بندے کی حیثیت بلکہ جو ہمارے ذہن میں خدا ہے اس سے بھی کہیں کم حیثیت ہے انسان کی۔ پس ایک باپ بچے کو جب کہتا ہے تو وہ خرچ کے لئے پیسے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیسے خرچ کرو تو کیا وہ پیسے نہیں دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، پیسہ تو آئے گا، نہ مجھے یہ فکر ہے کہ اُستاد کہاں سے آئیں گے اور ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے۔ مجھے انشاء اللہ استاد اور ڈاکٹر بھی ملیں گے لیکن جس چیز کی مجھے فکر ہے اور آپ کو بھی فکر کرنی چاہئے وہ یہ ہے کہ محض مالی قربانی ظاہر میں یا جانی قربانی وقف کے طور پر پیش کر دینا خدا تعالیٰ کے حضور کافی نہیں ہے انسان اپنے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نہ اپنی کسی قربانی کے نتیجے میں پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پیشکش کو مقبول کرے تو تب اللہ تعالیٰ کی رضائل سکتی ہے اس کی مجھے بھی فکر ہے۔ اور تمہیں بھی فکر ہے۔ اس لئے دعائیں کیا کرو کہ اے اللہ! ہم حقیر سی قربانی تیرے حضور پیش کر رہے ہیں تو اسے قبول فرماتا کہ تیری رضا کی جنت ہمیں مل جائے۔

چنانچہ یہاں آ کر میں نے اعلان کیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا رد عمل بڑا اچھا رہا ہے۔ نصرت جہاں ریزرو فنڈ کے جو وعدے ہیں وہ (کم سے کم ایک لاکھ پاؤنڈ کا کہا گیا تھا) تین لاکھ پاؤنڈ تک پہنچ گئے ہیں (روپے نہیں میں کہہ رہا) یعنی تین گنا زیادہ۔ ویسے میرے اندر یہ عادت ہے اور بہتوں میں یہ عادت ہوگی کہ جس کو میں نے زیادہ دینا ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں تھوڑا تاکہ ہاتھ میں اصل نقد رقم زیادہ آجائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید پیار کا اظہار کرنا تھا۔ کہا تھا لاکھ پاؤنڈ اور دے دیئے تین چار لاکھ پاؤنڈ۔ انشاء اللہ اتنے جمع ہو جائیں گے۔

اس وقت تک ۲۶ لاکھ ۳۶ ہزار روپے پاکستان کی جماعتوں کے وعدے ہیں اور ۱۹ لاکھ ۶۳ ہزار روپے (اگر پاؤنڈ کو روپوں میں منتقل کیا جائے) باہر کے وعدے ہیں۔ یہ کل ۴۶ لاکھ روپے کے وعدے بن جاتے ہیں۔ ابھی وعدے انشاء اللہ اور بھی آجائیں گے۔ اندرون پاکستان ۹ لاکھ ۳۰ ہزار چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ نے جماعت پر جو رحمتیں کی ہیں ان کے نتیجے میں نقد وصول ہو چکا ہے اور کل وصولی اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان ملا کر ۱۶ لاکھ دو

ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ کیونکہ باہر کی جو پاؤنڈ کی رقمیں ہیں وہ تو روپے میں نہیں وہ تو پاؤنڈ ہی میں ہیں۔

غرض جو ایک لاکھ پاؤنڈ خرچ کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا منشاء معلوم ہوا تھا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دو لاکھ دے دیا ہے۔ یہ تو نصرت جہاں ریزرو فنڈ کی شکل ہے۔ اس میں انگلستان میں ۴۸ ہزار پاؤنڈ کے وعدے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان کو تار دلوائی تھی انہوں نے بذریعہ تار جواب دیا کہ ۴۸ ہزار پاؤنڈ کے وعدے ہو چکے ہیں یہ دفتر کی رپورٹ up to date نہیں ہے۔ امریکہ نے ۲۶ ہزار ڈالر اور غانا میں ۱۰ ہزار پاؤنڈ کے وعدے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ تمہیں بھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ صرف باہر سے منگوا کر تمہیں منگنا نہیں بنانا چاہتا۔ پس غانا کی جماعتوں نے وعدے کر دیئے ہیں وصولی بھی خاصی ہو چکی ہے اور اب تک ہو رہی ہے۔ سیرالیون میں سات ہزار (ان کی کرنسی ہے یہ بھی کوئی دس شانگ کے قریب ہوتی ہے) قریباً چار ہزار پاؤنڈ بنتے ہیں۔ نائیجیریا میں ۶ ہزار پاؤنڈ کے وعدے ہیں۔ ان کے پاؤنڈ کی قیمت انگلستان کے پاؤنڈ کی قیمت سے کچھ بڑی ہے اس لئے عملاً اسے سات ہزار پاؤنڈ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح مارشس میں ۵۰ ہزار، تنزانیہ میں ۳۰ ہزار، مغربی جرمنی میں ۱۲ ہزار مارکس یعنی چوبیس ہزار روپیہ۔ کینیڈا میں قریباً ۳ ہزار ڈالر۔ ہندوستان میں قریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ یہ رقمیں ہیں۔ جتنا خرچ کرنے کو کہا گیا تھا اس سے دگنی رقم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے بعض ممالک جن میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے روپیہ باہر بھیجنے پر بہت بھاری پابندیاں ہیں اجازت نامے لینے پڑتے ہیں کئی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں۔ کسی انسان کو کسی انسان کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ اصول ہے اور ہر احمدی کا یہی اصول ہونا چاہئے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے تو ہم ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ ویسے ہی خالی کھوکھلا نعرہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت کو خدا تعالیٰ کے لئے قربان کریں گے۔ عزتیں اسی طرح قربان ہوتی ہیں کہ گالیاں سنیں اور ہنس پڑے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت قربان کر دی۔ عزت کہاں قربان ہوئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا یہ ہے کہ اگر خدا کے لئے پیسے لینے کے لئے خوشامد کرنی پڑے تو خوشامد کر دینی چاہئے اگلے کو خوش کر دینا چاہئے اس لئے یہاں یہ کرنا پڑتا ہے اور آئندہ بھی خدا تعالیٰ کے لئے کرتے رہیں گے۔

بہر حال پابندیاں ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انگلستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ وہاں اٹھارہ ہزار پاؤنڈ رقم جمع ہو چکی ہے۔ اسی طرح سوئزر لینڈ میں بالکل پابندی نہیں۔ امریکہ میں بھی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ملکوں میں پابندی نہیں ہے۔ وہاں ہم غیر ملکوں میں دو تین سنٹرز بنائیں گے۔ یہاں سے اگر اجازت مل جائے تو اجازت لینے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ثواب دے گا اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی اور اگر جلدی اجازت نہ ملے۔ البتہ ملے گی تو سہی آج نہیں توکل۔ حالات اور ذہنیت پر اس کا انحصار ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہے یہاں بھی بڑے خرچ کرنے ہیں۔ مبلغ بنانے ہیں، یہاں سے جو ڈاکٹر جاتے ہیں ان کا کرایہ دینا ہے اور بعض کتب ساتھ لے جانے کے لئے یہاں سے خرید لیتے ہیں۔ کتابیں یہاں سے شائع کرنی ہیں۔ قرآن کریم کے تراجم شائع کرنے ہیں۔ یہ چھ ممالک جن میں میں گیا ہوں ان میں سے ایک ملک میں فرانسیسی بولی جاتی ہے وہاں فرانسیسی ترجمہ قرآن کی ضرورت ہے۔ ہمارے مراکش اور مالی کے سفراء ایک جگہ ملے تھے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ وہ احمدی نہیں لیکن وہ بہت متاثر ہیں وہ کہنے لگے آپ قرآن کریم کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لئے ایک نعمت عظمیٰ ثابت ہوگا پھر مراکش کا جو سفیر تھا اس نے ایک لطفہ سنایا وہ کہنے لگا کہ ہمارے مراکش کے مفتی اعظم نے ایک دفعہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن کریم کا ترجمہ شائع کرنا کفر ہے جو شخص قرآن کریم کا ترجمہ شائع کرے گا وہ کافر ہو جائے گا ایک تقریب کے موقع پر وہاں مفتی اعظم صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے میں ان کے پاس گیا۔ میں نے بڑے ادب اور ان کو خوش کرنے والے الفاظ استعمال کر کے ان سے کہا کہ مولانا! آپ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں کہ ہاں جناب میں قرآن کریم پڑھاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ بچوں کو مقامی زبان میں ترجمہ بھی سکھاتے ہوں گے وہ کہنے لگے ہاں! میں بچوں کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ بھی سکھاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم زبانی ترجمہ سکھاؤ تو کفر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی عالم ترجمہ شائع کر دے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا ہے۔

غرض دنیا تو خالی پڑی ہے ہم تو جب سوچتے ہیں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اتنی ذمہ داریاں کس طرح ادا ہوں گی۔ یہاں جو پریس لگے گا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹرز سے میں

اس سفر میں لندن میں ملا تھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ اتنا پڑا پریس تم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے انہیں کہا یہ تو بڑا نہیں ہے ہم نے قرآن کریم کے تراجم ساری دُنیا میں پھیلائے ہیں۔ یہ تو ابھی چھوٹا ہے اس کو آگے اور بڑھائیں گے وہ عیسائی لیکن تاجر تھا اس لئے عیسائی ہونے کے لحاظ سے تو اس کے جذبات یہ تھے کہ اس کا منہ چقندر کی طرح سرخ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری دُنیا میں قرآن کے تراجم پھیلائیں گے لیکن تاجر ہونے کی حیثیت سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کیونکہ اس نے بہر حال اخلاق سے بات کرنی تھی۔

پس وہ جو خرچ ہے وہ بہر حال یہاں سے ہوگا اس واسطے وہ انشاء اللہ ہمارا خرچ ہوگا یعنی صحیح مصرف ہوگا۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح کسی سادہ لوح قابل رحم حضرت نے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ”نصرت جہاں ریزرو فنڈ“ نصرت بھٹو کے نام پر سیاسی پیسے جمع کئے جا رہے ہیں دُعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے اور بھی بہت کچھ دے ہم تو دُعا کرنے کے لئے ان کے خادم ہیں۔ یہ سب بولتے رہتے ہیں لیکن ہم تو ان کے خادم ہیں۔ دُعا بھی ایک بڑی اور ضروری خدمت ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ یہ رقم دے رہا ہے میں نے جو ایک سکیم بنائی تھی اس کے مطابق میں نے سوچا تھا ۱۶ ڈاکٹر چھ ملکوں میں بھیجوں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سکیم بنا کر دی تو وہ ۴۰ سے اوپر ڈاکٹروں کی سکیم بن گئی۔ پھر ڈاکٹروں کی طرف سے وقف کا یہ حال ہے کہ لندن سے ہمارے ایک ڈیٹمنٹ ڈاکٹر ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ۴،۳ ہزار پاؤنڈ ماہانہ مکار ہے ہیں لیکن جب میں نے ڈاکٹروں میں وقف کی تحریک کی تو انہوں نے ساٹھ پاؤنڈ ماہوار پر اپنی زندگی وقف کر دی۔ یعنی ۴،۳ ہزار پاؤنڈ کمانے والا وقف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کام کرو۔ میں نے کہا تھا مجھے تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کام کرنے والے آدمی بھی دے گا میں نے مٹی کے بُت گھڑ کر تو افریقہ میں نہیں بھیجئے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ مالک ہے وہ مجھے پیسے دے گا اور آدمی بھی دے گا۔

وہاں میرا تو یہ خیال تھا کہ پہلے سال شاید ہمیں تھوڑے سے ٹیچرز کی ضرورت پڑے مگر جب ٹیچرز کے لئے میں نے تحریک کی تو کوئی ڈیڑھ سو کے قریب ایم اے۔ ایم ایس سی۔ بی اے۔ بی ایس سی ٹرینڈ نے زندگی وقف کر دی ہے بہت سارے دوست غلط فہمی میں مجھے خط لکھ دیتے ہیں کہ ہم میٹرک پاس ہیں یا ہمیں میٹرک پاس ہی سمجھیں کیونکہ ہم میٹرک میں اچھے نمبر لے کر فیمل ہوئے تھے اس لئے

ہمیں بھی افریقہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں زیادتی بخشے۔ وہ حکومتیں اپنے ملک کے سکولوں میں کام کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دیتیں۔ یہاں پاکستان میں تو اجازت مل جاتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں مگر وہاں کی حکومتیں اجازت نہیں دیتیں۔ اس واسطے یہ خیال دل میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے اور علم میں بھی برکت ڈالے۔

اب ”نصرت جہاں آگے بڑھو“ کے منصوبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے۔ میں کچھ حقائق اور واقعات بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فضلوں اور رحمتوں سے اپنی جماعت کو نوازا رہا ہے۔

ابھی سال نہیں ہوا۔ چند مہینے ہوئے ہیں۔ ہم نے شاید ۱۴ مئی کو افریقہ چھوڑا تھا چھ مہینے کے اندر وہاں کام شروع ہو گیا ہے بریگیڈ ریڈاکٹر غلام احمد صاحب جو یہاں سے یکم نومبر کو گئے تھے انہوں نے کوکوفانا میں ہیلتھ سنٹر کھول کر کام شروع کر دیا ہے۔ تو گویا نومبر کے شروع میں ہمارا ایک ہیلتھ سنٹر کام کرنے لگ گیا ہے اس ہیلتھ سنٹر کے لئے وہاں کے ایک پیراماؤنٹ چیف نے جو احمدی نہیں ایک نہایت اچھی اور وسیع سیمنٹ والی عمارت ہمیں مفت دی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی رہائش کے لئے مکان بھی دیا ہے۔

اور اس ہیلتھ سنٹر کے ارد گرد نصف میل کا علاقہ ہمارے مشن کو دے دیا ہے کہ آگے تم نے ترقی کرنی ہے کیونکہ تم یہاں آئے تو تم ترقی بھی تو کرو گے تم یہاں سکول بھی کھولو گے اس لئے میں تمہیں یہ زمین دے دیتا ہوں۔ تم اس پر قبضہ کر لو۔ غرض اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا فضل کرتا ہے۔

ان سارے ملکوں کے شمال میں مسلمان آبادیوں کی بڑی بھاری اکثریت ہے۔ نارٹھ نائیجیریا، نارٹھ غانا وغیرہ نارٹھ کے جو حصے ہیں وہ مسلم ایریاز کہلاتے ہیں لیکن جس طرح شروع میں یہاں بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریزی پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی مولویوں نے عورتوں میں تعلیم رائج نہیں ہونے دی۔ مرد تو کچھ باغی بن گئے اور ان فتوؤں کی کچھ پرواہ نہیں کی لیکن عورتیں تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئیں اور مجھے یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عورت تعلیم میں پیچھے رہ گئی اور دوسرے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے دُنیا کو دیکھا اور بدلے ہوئے حالات کو دیکھا تو انہیں بھی تعلیم کا شوق پیدا ہوا لیکن چونکہ وہاں مسلمانوں کا

کوئی سکول نہیں تھا اس لئے مسلمانوں کے علاقوں میں عیسائی گھس گئے اور انہوں نے مسلمان بچیوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ میں نے اپنے مبلغوں کو کہا تھا کہ مسلم نارتنہ یعنی جو مسلمانوں کا شمالی علاقہ ہے وہاں بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں ننانوے فیصد مسلمان ہیں اور تعلیم میں پیچھے ہیں وہاں لڑکیوں کے سکول کھولنے کی طرف توجہ کریں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور غانا کے شمال میں وا کا علاقہ ہے وہاں ہماری جماعتیں بھی بڑی ہیں۔ وہاں نصرت جہاں گرلز اکیڈمی وا کے نام سے ہمارا ایک سکول کھل گیا ہے۔ غانا کی حکومت نے ہماری کافی مخالفت کی لیکن مخالفت متعصبانہ نہیں۔ وہاں کی حکومتیں عقلی دلیل ضرور نکال لیا کرتی ہیں۔ انہوں نے انگریز سے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔

بہر حال وہ کہنے لگے کہ کئی سال ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکیاں سکول میں داخل ہوں مگر چار پانچ سے زیادہ داخل نہیں ہوئیں۔ ہم تمہیں خواہ مخواہ اجازت دے دیں۔ تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ ہم پر اٹھا احسان جتا رہے تھے کہ پیسے خرچ کرو گے لڑکی کوئی نہیں آئے گی۔

چنانچہ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم اپنے پیسے ضائع کرنے کے لئے تیار ہیں۔ تمہیں کیا ہے؟ پیسے ہمارے ضائع ہوں گے۔ تم ہمیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت مل گئی تو پہلے سال کے پہلے داخلے میں (جو ان کے کئی سالوں میں چار پانچ تک پہنچا تھا) دس لڑکیاں منتخب ہو کر داخل ہوئیں۔

نصرت جہاں آگے بڑھو کے منصوبہ کے ماتحت غانا میں ایک دوسرا لڑکوں کا سکول بھی کھولا جا چکا ہے۔ اس میں لڑکیوں کے لئے بھی پہلی کلاس ہے چھوٹی بچیاں ہیں اور پہلی کلاس ہے ان کو پڑھانے کے لئے میاں بیوی کو ایفائیڈ ٹیچرز جو اہل ہیں وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی دیئے آدمی بھی دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میاں بیوی استاد تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ جو دونوں استاد بننے کے اہل ہوں۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ضرورت پڑے گی۔ جب ضرورت پڑی تو اللہ میاں بنی بنائی چیز سامنے لے آیا کہ یہ لو مجھے تو پتہ تھا اور یہاں بھی جو دوسرا لڑکوں کا سکول ہے وہاں بیوی پڑھی ہوئی کی ضرورت نہیں تھی وہاں مرد چلا گیا ہے۔ غرض یہ دو سکول فوری طور پر تھوڑے سے عرصہ میں کھل گئے ہیں۔

اس وقت تک ان ملکوں میں چودہ ڈاکٹروں کی تقریری ہو چکی ہے اور مزید اٹھارہ ڈاکٹروں کے لئے ہم انتظام کر رہے ہیں۔ اس طرح یہل کر بتیس ہو جائیں گے۔ جو میں نے سوچا تھا وہ پانچ اور سات سال کے درمیانی عرصہ کا منصوبہ تھا جس طرح پانچ سالہ پلاننگ یہاں ہوتی ہے کچھ ویسا ہی غلط دماغ میں آیا تھا لیکن اللہ میاں تو فوری کام کرتا ہے ایک سال میں ۳۲ ڈاکٹروں کا انتظام کر دیا۔ فالحمد لله علیٰ ذالک اب تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ پہلے سال میں ہم اس سے زیادہ کام کر چکے ہوں گے جو میرا اپنا منصوبہ تھا سات سال میں کام کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس وقت تک ۳۷ ڈاکٹروں نے وقف کیا ہے۔ باقی اور بھی نکل رہے ہیں اور وقف کر رہے ہیں۔ ایک تو لاہور میں ڈاکٹر بنانے کا انتظام ہے اور ایک نشتر کالج ملتان ہے جو لاہور کے کالج میں فرسٹ آیا ہے وہ ہمارا ایک واقف احمدی پچر ہے جس نے اپنی زندگی نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی وقف کر دی تھی۔

غانا میں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ چار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اب وہ چھ ڈاکٹروں کا مطالبہ کر رہے ہیں انشاء اللہ اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ وہاں ٹیچی مان ایک جماعت ہے جہاں کے مبلغ انچارج ایک افریقن ہی ہیں۔ وہ بڑا مخلص اور پیارا نوجوان ہے وہاں ایک دوست نے بارہ کمروں پر مشتمل ایک مکان میڈیکل سنٹر کے لئے دے دیا ہے۔ وہ ایک بڑا اچھا مکان ہے۔ میں اس مکان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ انشاء اللہ وہاں بھی ایک ڈاکٹر جنوری فروری تک پہنچ جائے گا۔ ہاں جو کوفوفا میں ہیلتھ سنٹر کھل چکا ہے وہاں انہوں نے اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی۔ باہر سے اور بھی پیراماؤنٹ چیف آئے ہوئے تھے وہاں روایتی مجالس بھی ہیں یعنی جس طرح مثلاً بی بی سی یا شہروں میں کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس قسم کا طریق انہوں نے پیراماؤنٹ چیف کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے اس کو روایتی مجالس کہتے ہیں۔ اس روایتی مجلس کا جو سیکرٹری تھا اس نے اس موقع پر ہزاروں کے مجمع میں کہا کہ میں احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل بھی کیا ہے ویسے انشاء اللہ یہ سارے چیف بھی آجائیں گے۔

غانا میں تیسرا اسکول بھی بڑی جلدی کھل رہا ہے اور پانچ چھ ہیلتھ سنٹر بھی انشاء اللہ کھل جائیں گے۔ میرے دورے کے اختتام سے ایک سال کے اندر اندر مجھے اُمید ہے یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ تو کجا یہ کہ ہم سات سال کے اندر یہ انتظام کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو یہ

توفیق دے رہا ہے کہ وہ ایک سال میں اس سے دگنا کام کرے۔

سیرالیون میں چار ہیلتھ سنٹرز منظور ہو چکے ہیں۔ یعنی جوڑو، بوآچے بوہ، روکریو اور فری ٹاؤن میں۔ ایک پانچویں کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے وہاں بعض نام ہیں میلوں کے نام پر۔ فری ٹاؤن سے جو راستہ بوکی طرف جاتا ہے اس پر ایک جگہ ہے ۴۷ میل اس کا نام ہے یعنی وہ جگہ فری ٹاؤن سے ۴۷ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کا نام بی ۴۷ میل ہے۔ وہاں بھی ہماری جماعت اور ایک چھوٹا سا سکول ہے ایک جگہ کا نام شاید چورانوے میل ہے وہاں بھی ہمارا ایک سکول ہے۔ وہاں سے لڑکے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جگہ پر تو چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ پانچ چھ سال کی بچیوں سے مصافحہ کرنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن میں عام طور پر بچتا ہوں اور یہ کہا کرتا ہوں کہ بڑے ہو کر اگر تم نے یہ کہا کہ میں نے مہدی معبود کے تیسرے خلیفہ سے مصافحہ کیا تھا۔ تو کسی نے تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس وقت تمہاری عمر کیا تھی؟ تو غلط فہمی پیدا ہو جائے گی اس لئے میں احتیاط بچتا ہوں۔

غرض وہاں پرائمری سکول کے چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ سٹرک پر مجھے ملنے کے لئے جمع تھیں۔ مجھے مبلغ صاحب کہنے لگے کہ موٹر چلتی رہے گی آپ انہیں سلام کر دیں ان کے لئے کافی ہوگا۔ میں نے کہا ان کے لئے کافی ہوگا میرے لئے کافی نہیں ہے میں تو موٹر سے اُتروں گا۔ خیر میں موٹر سے اُترا۔ وہاں چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے میں ایک چکر لگا کر لڑکوں کی طرف آیا اور لڑکوں نے مجھ سے مصافحہ کرنے شروع کئے شاید ایک لمحہ کے لئے میری نظر اپنی کار کی طرف گئی یا کسی اور چیز کی طرف گئی (جواب مجھے یاد نہیں رہا) تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہاتھ ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہر دوسرا مصافحہ اس کے اُوپر ہو رہا ہے وہ تین مصافحے اس عرصہ میں ہو گئے مگر اس ہاتھ نے میرا ہاتھ تو نہیں چھوڑا۔ اگلا جو آیا اس نے دونوں ہاتھوں پر مصافحہ کیا میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹی بچی۔ مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس میں زور بڑا تھا۔ اس نے سارے مصافحے ہم دونوں کے ہاتھوں پر کروائے بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑوایا۔ غرض وہ بڑا پیار کرنے والے تھے۔ میں نے بتایا تھا ایک جگہ یہ بھی نظارہ ہوا۔ وہاں مصافحے نہیں کرتے تھے پروگرام کچھ ایسا تنگ بنایا ہوا تھا مجھے تکلیف بھی بڑی تھی لیکن کوئی

چارہ نہیں تھا۔ وقت ہی نہیں تھا لیکن وہ ہلہ کر کے آئے اور ہمارے چوہدری محمد علی صاحب، ظہور باجوہ صاحب اور جو نیئر صاحب جو میرے ساتھ قاصد بن کر گئے ہوئے تھے ان کو دھکا دیا تو یہ کوئی پندرہ فٹ ادھر اور کوئی ادھر۔ اور آگے بڑھ کر مجھے گھیر لیا جو دوست مصافحے کرنے کے لئے میرا ہاتھ پکڑے وہ چھوڑے ہی نہ۔ اب یوں ہاتھ پکڑا ہوا ہے جو دوسرا آئے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے اور زور لگا کر چھڑوانے کی کوشش کرے اور پھر وہ بھی میرے ہاتھوں کو اسی طرح پکڑے اور پھر اسی طرح کرتا رہے۔ بڑی مشکل سے ہم کار تک پہنچے۔

غرض یہ ۴۷ جگہ کا نام ہے۔ جہاں ہماری جماعت ہے اور چوتھی جماعت تک کا ایک پرائمری سکول بھی ہے یہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ bush ہی ہے وہاں پر بُنٹن محاورہ ہے ایسی جگہ کے لئے جہاں تہذیب و تعلیم نہیں گئی۔ نہ وہاں سکول ہیں اور نہ کوئی میڈیکل سنٹر ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے بُنٹن ایریا میں جتنے زیادہ سکول اور ہیلتھ سنٹر بن جائیں اتنے زیادہ اچھے ہیں۔ جو رو میں بھی (یہ سیرالیون میں ہے۔) وہاں کے پیراماؤنٹ چیف نے ہیلتھ سنٹر اور ڈاکٹر

کے لئے مکان اور زمین دینے کا وعدہ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو capital investment ہوتی ہے یعنی سرمایہ جو ہے یہ میں خرچ کرتا ہوں ڈاکٹر آپ بھیجیں اور کمائیں آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو کمائیں گے اس میں سے ان کا حصہ نہیں ہوگا مفت دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مکان بنا کر دیں گے۔ زمین دیں گے۔

وہاں سے خط آتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک پیراماؤنٹ چیف نے لکھا (شائد وہ کما سی کا تھا) کہ میرے چیف ڈم یعنی میرے علاقے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اُسے طبی امداد کے لئے ۲۰، ۲۰، ۲۵، ۲۵ میل دور جانا پڑتا ہے۔ اس لئے مکان اور زمین کے سلسلہ میں خرچ ہم برداشت کریں گے۔ آپ ڈاکٹر کا انتظام کریں۔ غرض اس قسم کے بھی وہاں علاقے ہیں۔ خدمت کے جذبہ کے ساتھ ہم انشاء اللہ وہاں جائیں گے اور اپنی ہتھیلیاں پیارے دلوں کے ساتھ بھر کر واپس لے آئیں گے آپ پوچھیں گے کہ انہیں آپ رکھیں گے کہاں؟ تو اس قسم کا سوال پہلے بھی مجھ سے ہو چکا ہے ۱۹۶۷ء میں ڈنمارک میں پریس کانفرنس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صحافیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ہمارے ملکوں میں اسلام کیسے پھیلائیں گے؟ مطلب

یہ تھا کہ اسلام تو صرف تلوار سے پھیل سکتا ہے۔ تلوار ہم نے آپ کے ہاتھ سے چھین لی ہے۔ اس لئے تم ہمارے ملکوں میں اسلام کیسے پھیلاؤ گے؟ میں نے کہا ہم آپ کے دل جیتیں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے۔ وہ حیران ہو کر میرے منہ کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ سوائے تلوار کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اسلام کے پھیلانے کا۔ چنانچہ اس وقت وہاں ایک ادھیڑ عمر کی صحافیہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی خاموش اور سلجھی ہوئی طبیعت کی تھیں وہ کوئی سوال وغیرہ نہیں کر رہی تھیں۔ اپنے نوٹ لکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر جب میں نے کہا کہ ہم تمہارے دل جیتیں گے اور اسلام پھیلائیں گے تو اس نے آرام سے مجھ سے یہ سوال کر دیا آپ ان دلوں کا کیا کریں گے۔ میں نے اس سے کہا (اللہ فضل کرتا ہے اس وقت جواب سمجھ میں آ جاتا تھا) تمہارے دل جیتیں گے اور تمہارے پیدا کرنے والے رب کے قدموں میں جا کر رکھ دیں گے۔

نائیجیریا پہلا ملک تھا جہاں ہم گئے وہاں اب چار نہیں بلکہ دس میڈیکل سنٹر کھولنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ سولہ سکولوں کا میں کہہ کر آیا تھا تو انشاء اللہ سولہ سے زیادہ کھلیں گے وہاں حکومت بھی اور چیف بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ یہاں تو ہمیں بعض دفعہ گورنمنٹ کے ادارے مسجد کے لئے زمین نہیں دیتے۔ اگرچہ اس کی گورنمنٹ تو ذمہ دار نہیں تو میونسپل کمیٹیاں یا قبضوں کی جو ٹاؤن کمیٹیاں ہیں وہ تعصب سے کام لیتی ہیں مگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہر حال حکومت کو پوچھنا تو چاہئے لیکن اس سلسلہ میں حکومت پر الزام نہیں لگا سکتے۔ غلط جگہ پر الزام بھی نہیں لگانا چاہیے۔ مسجد بنانی ہوتی ہے مگر خدا کا گھر بنانے کے لئے زمین نہیں مل رہی ہوتی اور وہاں بندوں کا گھر بنانا ہو تو یوں بڑی فراخ دلی کے ساتھ زمین دے دیتے ہیں۔

نائیجیریا کے شمال سے ایک گورنر اور وزیر لیگوس میں کینٹ میٹنگ attend کرنے کے لئے آئے۔ نائیجیریا کا شمال مسلمانوں کا علاقہ ہونے کی وجہ سے مسلم ناتھ کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ گورنر صاحب خود بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے لیگوس ایریپورٹ پر صحافیوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میرا علاقہ تعلیم میں بہت پسماندہ ہے اور میں نے اس سلسلہ میں emergency declare کر دی ہے یعنی تعلیمی محاذ پر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے اور جہاں تک مسئلہ تعلیم کا تعلق ہے اسے ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ عوام میرے ساتھ تعاون کریں گے۔

اگلے دن یہ اخبار میں بھی آ گیا۔ اسی وقت میں نے ایک افریقن دوست کو بلایا۔ وہ وہاں کے کسی محکمہ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور بڑے دلیر آدمی ہیں۔ میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم گورنر کے پاس جاؤ اور اُسے میری طرف سے یہ پیغام دو کہ آج کے اخبار میں یہ خبر آئی ہے کہ میں آپ کے علاقہ میں (وہ سٹیٹس نئی بنی ہیں ان میں ایک سٹیٹ سکول کے نام سے ہے۔) یعنی سکول سٹیٹ میں فوری طور پر چار سکول کھولتا ہوں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ دو چیزوں میں ایک یہ کہ ہمیں زمین دیں کیونکہ میں پاکستان سے زمین نہیں لاسکتا اور دوسرے یہ کہ آپ ہمیں ٹیچرز پرمٹ دیں کیونکہ اس کے بغیر ہم یہاں آ اور پھر نہیں سکتے۔ چنانچہ جب ہمارے یہ دوست اس گورنر سے ملے تو وہ یہ سُن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ریڈ ٹپ ازم (Red Tapism) تو ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میرا شکر یہ ادا کر دیں اور تسلی رکھیں کہ آپ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے گا ہمارے واپس آنے کے بعد غالباً سکولوں کے لئے زمین مل چکی ہے۔

ایک ایک سکول کے لئے حکومت نے ۴۰، ۴۰ ایکڑ زمین دی ہے۔ یہاں چالیس مرلے لیتے ہوئے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھی قیمتاً لیکن یہ ۴۰ ایکڑ زمین مفت دی گئی ہے اور وہاں میں نے کہا تھا کہ دولٹریوں کے اور دولٹروں کے سکول کھولنے ہیں۔ کچھ تو ہمارے مبلغ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جہاں لڑکوں کا سکول ہوگا وہیں لڑکیوں کا سکول ہوگا اس لئے کہ ہم نے یہاں سے میاں بیوی استاد بھجوانے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ افریقہ کے ممالک میں خاوند ایک جگہ ہو اور اس کی بیوی پانچ سو میل دور کسی اور جگہ کام کر رہی ہو۔ اس لئے لڑکیوں کا سکول بھی وہیں کھولیں گے۔ انشاء اللہ یہ بھی کھل جائے گا اور زمین بھی مل جائے گی۔ چنانچہ اب یہ اطلاع بھی آ چکی ہے کہ حکومت نائیجیریا نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے سکولوں کے لئے بھی آپ کو زمین دیں گے لیکن پہلی کلاس میں ابھی بہر حال چھوٹی کلاس کی لڑکیاں ہیں۔ اگلے سال تک لڑکیوں کا الگ انتظام ہو جائے گا۔ غرض اس طرح وہ تعاون کر رہے ہیں۔ نہ صرف حکومت بلکہ وہاں کے پیراماؤنٹ چیف بھی تعاون کر رہے ہیں۔ گیمبیا میں بھی ابھی چند دن ہوئے ہیں اطلاع آ گئی ہے۔ میرا یہ نوٹ تیار کرنے کے بعد ہی یا شاید انہی دنوں میں۔ وہاں میں نے ان کو کہا تھا کہ میں چار میڈیکل سنٹر اور ایک میڈیکل ہاسپٹل یہاں کھولنے کے لئے تیار ہوں۔

وہاں ایک راز کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کسی کو نہ بتائیں ہمارے میڈیکل سنٹر مستحقین کا مفت علاج کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر فیس نہیں لیتا بلکہ دوائی بھی مفت دی جاتی ہے۔ خدمت کے لئے ہم وہاں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے۔ اپنی جیب میں سے تو کچھ نہیں دیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہماری راہبری کے لئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ پیدائش کے وقت کون ایسا شخص ہے جو سونے سے جیب بھر کر لایا کرتا ہے۔ اُسے تو اپنی ہوش نہیں ہوتی۔ غرض ہم مستحقین کا علاج مفت کرتے ہیں مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے فیس نہیں لیتے البتہ دوائی کی قیمت دو آنے چار آنے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ دے سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں اُن سے ہمارا ڈاکٹر خوب کھل کر فیس بھی لیتا ہے اور دوائی کی قیمت بھی لیتا ہے اور مریض اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ ہمارا ایک میڈیکل سنٹر سال میں اوسطاً اڑھائی ہزار پاؤنڈ بچاتا ہے۔ یہ گویا اس کی بچت ہے۔ اگر چار سنٹر ہوں تو دس ہزار پاؤنڈ سالانہ بچت ہے۔

ہائی سکول کھولنے کے لئے ہمیں پہلے سال تقریباً ۳ ہزار پاؤنڈ کی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے سال بھی اتنی ہی رقم اور تیسرے سال بھی یہی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔

میں نے گیمبیا میں اُن سے کہا کہ آپ چار میڈیکل سنٹر کھولنے میں میری مدد کریں۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ہر سال ایک ہائی سکول کھولتا چلا جاؤں گا۔ انشاء اللہ۔ ہم نے وہاں جو پیسے کمانے ہیں۔ وہ یہاں گھر تو نہیں لانے۔ انہیں پر خرچ کرنے ہیں۔ غرض اُن کے امیر سے لے کر ان کے غریب پر خرچ کر دیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اقتصادی تعلیم اس لئے دی ہے کہ دولت صرف امراء میں چکر نہ لگاتی رہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جو امیر کہتے ہیں کہ ظلم ہوگا اگر ہم سے دولت لے لی جائے مگر قرآن کہتا ہے کہ یوں عمل ہونا چاہئے اس پر عمل کر کے تم پر ظلم کیسے ہو گیا تم پر بڑا احسان ہوگا۔ تمہارے ملک میں کمیونزم نہیں آئے گا۔ کیونکہ کمیونزم نے جائز حقوق دے کر زائد نہیں لیا تھا بلکہ سب کچھ لے لیا تھا جان بھی لے لی تھی۔ اس لئے تم اپنی جان بچاؤ۔ کمیونزم آ گیا تو تمہاری جانیں

بھی خطرے میں ہیں۔ مال بچانے کا نعرہ لگا کر اپنی جانیں تو نہ گنواؤ۔ یہ تو عقلمندی کی بات نہیں۔ جتنا حق کسی اور کا تمہارے پاس ہے وہ تم سے مانگتے ہیں۔ اگر ہر پاکستانی کی پڑھائی کا انتظام ہو جائے، اس کے کھانے کا، اس کی مناسب رہائش کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے علاج کا اور اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ تو پھر اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپیہ بھی اپنا ہے تو غریب لپچاتی ہوئی نظروں سے ایک امیر کی طرف نہیں دیکھے گا۔ میری عقل اس بات کی ذمہ داری لیتی ہے کہ انشاء اللہ یہ نہیں ہوگا۔

غرض وہاں ہم اُن کے امیر سے لیتے ہیں اور غریب پر خرچ کر دیتے ہیں ہمارے کانوں کے میڈیکل سنٹر میں کئی سالوں میں ۲۰ ہزار پاؤنڈ کی بچت ہوئی تھی۔ اب ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا ہم نے انہیں کہا کہ یہ ساری رقم اسی سنٹر پر لگا دو اور ایک ہسپتال بنا دو۔ چنانچہ اب وہ ہسپتال کی ایک نہایت خوبصورت بلڈنگ بن گئی ہے جس پر کم و بیش تیس ہزار پاؤنڈ خرچ ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ بچت ہوئی ہوئی تھی۔ ایک دھیلہ نہیں لے کر آئے سب وہاں خرچ کر دیا اور اس کا نتیجہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا خوشگن نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونہی تو نہیں فرمایا تھا کہ ان وسائل اور ہتھیاروں کے ذریعہ جو میں نے تمہیں دیئے ہیں تم لوگوں کے دل جیتو گے۔ ان میں ایک ذریعہ کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ کانو خاصہ بڑا شہر ہے۔ وہاں حکومت کا اپنا ایک اچھا ہسپتال ہے۔ وہاں حکومت کے ایک وزیر صاحب گورنمنٹ کے ہسپتال کی بجائے ہمارے ڈاکٹر کے پاس آیا کرتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے ایک دن پوچھا تم نے کیا بنایا ہوا ہے۔ تم ملک کے وزیر ہو۔ حکومت کا ہسپتال ہے جس میں تمہیں ہزار قسم کی جائز یا ناجائز (یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں) سہولتیں مل جائیں گی تم وہاں جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ جو سہولت مجھے جماعت احمدیہ کے کلینک میں ملتی ہے وہ مجھے گورنمنٹ کے ہسپتال میں نہیں ملتی۔

پس یہ جذبہ ہے اور یہ بنیادی اصول ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ڈاکٹر اپنے مریض کے لئے دعائیں نہیں کرتا وہ بڑا ظالم ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوائی نے آرام دینا ہے۔ دوائی نے تو آرام نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک جلوے نے آرام دینا ہے۔

اس کو تم طلب کرو۔ دوائی کا تو یہ ہے کہ یہ ایک پردہ ہے۔ یہ دنیا پردہ کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بالکل ظاہر ہو کر تو سامنے نہیں آسکتیں ورنہ یہ دنیا ابتلاء اور امتحان کی دنیا نہ رہے پھر تو یہ جزاء کی دنیا ہو جائے۔ وہ اگلے جہان کی باتیں ہیں۔ اس دنیا میں پردوں کا یہ حال ہے کہ ایک بیچارہ غریب مزدور تھا ہمارے کالج میں کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ کام کرتے ہوئے اس کا گھٹنا فٹ بال جتنا سوچ گیا۔ پتہ نہیں اسے کیسی تکلیف تھی۔ وہ میرے پاس آیا میں نے اسے ہومیو پیتھک (جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں یہ کوئی دوائی ہی نہیں) کی تین چار پڑیاں بنا کر دیں اور کہا یہ کھا لو اور اس کے لئے دعا کر دی۔ اڑتا لیس گھنٹے کے بعد دیکھا تو وہ کام کر رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ مجھے اس پر بڑا رحم آیا۔ میں نے دل میں کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ اتنا غریب آدمی ہے کہ روز کماتا ہے اور کھاتا ہے اسے تھوڑا سا افاقہ ہو گیا ہوگا اس لئے کام کرنے کے لئے آ گیا ہے ورنہ بھوکا رہتا۔ اس رحم کے جذبہ کے ماتحت میں نے اسے بلایا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا۔ جی آرام آ گیا ہے مجھے یقین نہیں آیا۔ دھوتی اس نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ذرا دھوتی اٹھاؤ اور اپنا گھٹنا تو ذرا دکھاؤ۔ جب اس نے دھوتی اٹھائی تو مجھے یہ پتہ نہ لگے کہ اس کا بیمار گھٹنا کون سا تھا۔ دونوں بالکل ٹھیک تھے۔ پس اللہ نے شفا دینی ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے کاغذ کی گولی بنا کر دی تو پیٹ درد سے تڑپنے والے مریض کو آرام آ گیا ہم نے اس قسم کے ہزاروں قصے دیکھے ہیں۔ غرض دعا بڑی ضروری ہے۔ اب وہاں نائیجیریا گورنمنٹ کے ہسپتال میں وزیر صاحب کو آرام بھی ملتا ہوگا اور بھی کئی سہولتیں ان کو ملتی ہوں گی مثلاً دوائیاں اچھی ملتی ہوں گی اٹنشن (attention) ہوتی ہوگی۔ نرسنگ اچھی ہوتی ہوگی۔ لیکن وہ دعا نہیں مل سکتی تھی جو ایک احمدیہ کلینک میں مل سکتی ہے۔ اس لئے وہ وزیر صاحب اپنے ہسپتال کی بجائے ہمارے ہسپتال ہی جاتے ہیں۔

اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی رحمت سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اپنے میڈیکل سنٹرز سے کمائیں تو وہاں ہم پندرہ سولہ نہیں بلکہ آٹھ دس سال میں سینکڑوں ہارسیکٹری سکول یعنی انٹرمیڈیٹ کالج کھول سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی رقم دے دے تو اور ہزار منصوبے کر سکتے ہیں ہم ہر جگہ قرآن کریم پہنچا سکتے ہیں۔

غرض کام تو تھوڑا نہیں ہے یہ تو بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت آپ کو دی اس طاقت کو

آپ استعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت پر برکت ڈالتا چلا جاتا ہے۔

ہاں ضمناً میں گیمبیا کا ذکر کر رہا تھا۔ گیمبیا وہ ملک ہے جس میں وہاں کے سربراہ مملکت گورنر جنرل نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑے سے برکت حاصل کی۔ ریاستوں کے رؤساء نے تو پہلے بھی بڑی برکت لی ہے۔ ہماری تاریخ نے اسے محفوظ کیا ہے۔ لیکن ایک آزاد ملک کے گورنر جنرل نے پہلی بار گیمبیا میں یہ شرف حاصل کیا۔ اس کی تفصیل ہی چھوڑ دیتا ہوں۔

ایک اور بڑی خوشخبری ہے۔ وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح بہت حمد کریں۔ یہ تو میں ایک سابق گورنر جنرل کی بات کر رہا تھا۔ ایک موجودہ سربراہ مملکت جو اپنے ملک میں اتنے مقبول ہیں کہ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے اور سارا ملک ان کے بچوں کی طرح ہے۔ ان کے بیٹے نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت حاصل کی ہے۔

پس آسمانوں پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور خدائی تقدیر حرکت میں ہے کہ باہر سے بادشاہ بھی اور وزراء بھی۔ متوسط طبقہ کے لوگ بھی اور امراء بھی اور مظلوم اور محروم اور سائل اور غریب اور مسکین اور یتیم بھی جماعت احمدیہ میں داخل ہو کر اخوت کی برادری اور محبت کی برادری میں ایک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو بنی نوع انسان کو ملت واحدہ بنا دینے کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور جس کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ میرے روحانی فرزند مہدی معبود کے زمانے میں اور اس کے ذریعہ سے پورا ہوگا۔ باہر کے بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوں گے مگر اسلام اور احمدیت میں وہ اپنے ایک غریب بھائی کو بھائی کی حیثیت سے گلے لگا لیں گے۔ نہ کوئی بادشاہ رہے گا اور نہ کوئی فقیر۔ سارے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے غلام بن کر اللہ کے نیک بندوں کی حیثیت سے اس دنیا میں ایک نہایت ہی حسین معاشرہ قائم کر کے ایک ایسی زندگی گزارنے والے ہوں گے جو ان کے پیدا کرنے والے کی نگاہ میں معزز زندگی ہوگی اس کی رضا کی جنتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ فتنہ و فساد مٹ جائے گا۔ بھائی بھائی ہو کر بھائی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ بھائی بھائی کی خدمت کرے گا اور اس کے لئے قربانی کر رہا ہوگا۔

اب میں اس بشارتوں سے بھرپور جلسے اور بشارتوں کے پورا ہونے سے جو ہمارے دلوں

میں اللہ تعالیٰ کے لئے حمد کے جذبات پیدا ہوئے اور جن سے ہمارے سینے معمور ہیں ان بشارتوں کے ساتھ اور خدا کی حمد سے معمور سینہ اور دل اور روح کی اس آواز کے ساتھ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہیں اور وہی اس کا مستحق ہے۔ ساری تعریف کا مالک حقیقی اور سرچشمہ حقیقی اسی کی ذات ہے۔ ان جذبات کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس پاک اور بشارت اور خوشیوں سے بھر پور اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے معمور جلسہ کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔

اب ہم دعا کریں گے۔ دوست دعا کریں کہ یہ پیاری برادری جو ساٹھ ستر ہزار کی اس وقت ایک خاندان کی طرح یہاں بیٹھی ہے۔ گویا مجھے زمین نظر نہیں آتی۔ آپ سب میرے بھائی ہیں۔ ایک بھائی کے سر پر سے میری نظر پھسل کر دوسرے پیارے بھائی کے سر پر چاڑھتی ہے۔ خدا کرے یہ برادری ساری دنیا کے لئے ایک چھوٹی سی مثال بن جائے اور وہ وقت جلد آئے کہ جب ہم نگاہ تصور سے دنیا کو دیکھیں تو ساری دنیا ایک خاندان، ایک جسم اور ایک وجود کی طرح ہمیں نظر آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم اور آدم میں کوئی فرق نہیں انسان اور انسان میں کوئی امتیاز نہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ملائیں اور فرمایا دیکھو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے پر آجاتی ہیں تو ایک بن جاتی ہیں اسی طرح انسان انسان ایک ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مژدہ بھی سنایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ اپنی عمر میں آخری بار ایک بہت بڑے مجمعے سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ساری دنیا کے لئے یہ اعلان فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تم نے میرا قرب حاصل کیا۔ میری زندگی کو، اس کے ہر شعبہ کو، اس کی ہر تفصیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے اپنے لئے ایک نمونہ بنایا تم نے اپنی زندگیوں کو میرے اسوہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور تم میں سے بہت سے اس میں کامیاب ہوئے، اس کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ بعد میں آنے والے تمہارے روحانی مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور اس مقام کے دروازے بعد میں آنے والوں کے لئے بند کیے گئے ہیں اور جو دنیا کے دوسرے حصوں میں انسان بستے ہیں اور جو نسلیں بعد میں پیدا ہوں گی اور آنے والے زمانے میں وہ اپنے شعور کو پہنچیں گی۔ وہ میری اور اللہ کی معرفت حاصل کریں گی۔ قرآن کریم کا علم پائیں گی۔ وہ مایوس نہ ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ”اسیں صحابہ جیسے

کس طرح بن سکنیں ہاں۔ انہاں نے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نمونے نوں اپنی آنکھاں نال دیکھیا سی، وہ مایوس نہ ہوں وہ یہ نہ سمجھیں بلکہ روحانی رفعتوں کے دروازے ان کے لئے اس طرح کشادہ ہوں گے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روحانی رفعتوں کے دروازے کشادہ کیے گئے تھے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں جو نصح کر رہا ہوں اور جو وصیت تمہیں دے رہا ہوں تم جو اس وصیت کو سن رہے ہو تم یہ نہ سمجھنا کہ سوائے تمہارے اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لئے تمہیں بہت سی نصح کے بعد میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری ان نصح کو آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا اور ان کو یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے آج اس موقع پر انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے اس وقت سننے والوں کی نسبت میری نصح پر زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ صحابہ میں روحانی لحاظ سے مختلف درجات رکھنے والے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنہوں نے سب سے بلند روحانی درجہ حاصل کیا وہ آپ کے لئے بھی میسر آ سکتا ہے۔ بشرطیکہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنی زندگیوں پر چڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔

دوست دعا کریں کہ غلبہ اسلام کا جو سورج اس عالمین پر طلوع ہو چکا ہے۔ وہ (جیسا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے) درجہ بدرجہ آسمان کی بلندیوں کی طرف بلند ہوتا چلا جائے اور جلد ہماری زندگیوں میں نصف النہار تک پہنچ جائے اور وہ چونکہ روحانی سورج ہے۔ ہر لحاظ میں تو مماثلت نہیں ہو کرتی۔ تمثیل کہتے ہی اس وقت ہیں جب کہیں اختلاف بھی ہو ورنہ تو وہی چیز بن جاتی ہے۔ یہ سورج تو حرکت میں ہے اور مسلسل حرکت کر رہا ہے جب یہ نصف النہار پر پہنچتا ہے تو ساتھ ہی زوال شروع ہو جاتا ہے لیکن روحانی سورج جب اپنے سفر میں آسمان کے بلند تر مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہاں ٹھہرتا ہے اور اس وقت تک ٹھہرا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم نہ دے۔ خدا کرے کہ جب غلبہ اسلام کا یہ سورج بنی نوع انسان کو جو بشارتیں دی گئی ہیں ان بشارتوں کا یہ چاند نصف النہار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ صدیوں اسے وہیں رہنے دے تاکہ اس کے سورج اور اس کے چاند سے انسان کی روحانی زندگی ہر لحاظ سے ترقی یافتہ اور یہی نہ

ہو کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا بلکہ یہ بھی ہوتا رہے کہ ہر نسل جو بعد میں آتی وہ صحابہ سے ملتی چلی گئی۔ نسللاً بعد نسللاً خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے گانے والے اور شرک کو مٹا کر اور پھر شرک کے ہر دروازے کو بند کرنے والی اقوام اس دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہوں اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش بن رہی ہوں۔ میرا پیار رب آپ کے ساتھ ہو یہاں بھی اور جب آپ اپنے گھروں میں جائیں وہاں بھی اور راستے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چھوٹی اور بڑی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہر معمولی اور غیر معمولی شر سے آپ کو امان میں رکھے۔ آپ فرشتوں کی حفاظت اور ان کے پہروں میں رہیں۔ جہاں بھی آپ رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وارث بننے والے اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنی زندگیوں پر ایک فنا کو طاری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پیار کے جُے میں اپنی زندگیاں گزارنے والے رہیں۔ جو باہر اس وقت ہمارے مبلغ کام کر رہے ہیں۔ جو باہر ہماری جماعتیں ہیں خدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مہدیؑ کی عاشق اور محبت۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح ہماری برکتوں کا وارث بنائے جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بنائے۔ وہ دور ہیں مکان کے فاصلے کے لحاظ سے۔ لیکن دلوں کے فاصلے میں دوری نہیں ہوتی۔ ہم مکان کے لحاظ سے دور ہوتے ہوئے بھی اسی طرح دو انگلیوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر آئی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری برکتوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی ان کی برکتوں میں شامل کرے۔ ہم سب ایک جیسی برکتیں حاصل کرنے والے ہوں اور ہم اے ہمارے رب! اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تیری برکتوں کا یہ دائرہ اسی طرح محدود رہے بلکہ آج جو عیسائی اور آج جو یہودی اور آج جو آریہ اور ہندو اور جو بدھ مذہب رکھنے والے یا بد مذہب اور دھریہ ہے۔ اے خدا! تو اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا کر دے کہ تیری محبت کے اس دائرہ میں وہ بھی داخل ہو جائیں اور جیسا کہ تو نے فرمایا ہے چند بد بخت ہی تیرے اس دائرہ محبت والفت ورضا سے باہر رہیں۔ تیرے فضل کو دنیا حاصل کرے۔ تیرے حسن کا جلوہ تمام بنی نوع انسان دیکھیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال کو دنیا پہچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو اپنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو کر اس سے قریباً ویسا ہی پالیں جیسا کہ

تیرے محبوب اور ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پایا۔ آؤ اب دعا کر لیں۔
 پرسوز لمبی اجتماعی دعا کے بعد فرمایا۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آپ نے جانا ہے۔
 دل اداس ہیں۔ اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کیا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
 (از رجسٹر خطبات ناصر غیر مطبوعہ)

جلسہ سالانہ کی بنیاد اعلیٰ کلمہ اسلام پر رکھی گئی ہے

﴿افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۷۳ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

جلسہ سالانہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے جلسہ سالانہ سے قبل یعنی آج سے ۸۲ سال پہلے جو اشتہار دیئے تھے ان میں بعض بنیادی باتیں بیان فرمائی تھیں۔ ان اشتہاروں میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بھی ایک جلسہ ہے دنیا میں اس سے ملتے جلتے اور بھی اجتماع میلوں کی شکل میں ہوتے رہتے ہیں جن کو لوگوں نے مختلف اغراض کے لئے جاری کیا ہے۔ مگر یہ نہ ہو کہ آئندہ کسی وقت جماعت احمدیہ کے افراد اس جلسہ کو بھی کوئی میلہ سمجھ لیں اور جلسہ میں شامل ہو کر روحانی فائدہ اٹھانے کی بجائے تصبیح اوقات کے مرتکب ہوں اور اپنے وقتوں کو ضائع کرنے لگیں اس لئے آپ نے شروع ہی میں ہمیں یہ توجہ دلائی کہ یہ جلسہ عام انسانی میلوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ وہ اجتماع ہے جس کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لئے تو میں تیار کی گئی ہیں جو اس میں آکر مل جائیں گی۔

پس اس وقت ایک کانفرنس کی شکل میں تو ایک اجتماع ہوا تھا لیکن اس جلسہ کی ابھی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ (یہ ۱۸۹۱ء اور ۱۸۹۲ء کے درمیانی عرصہ کی بات ہے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ اطلاع دی کہ میں اپنے دستِ قدرت سے اس اجتماع کی اینٹ رکھ رہا ہوں اور اپنی جماعت کو ہوشیار کر دو کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے جو بنیادی اینٹ رکھی جائے اور اس پر جو عمارت بنے اس میں سوائے اللہ کے اور کوئی چیز بسنی نہیں چاہیے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے خود جلسہ سالانہ کی بنیادی اینٹ رکھی ہے اور تو میں اس کے لئے تیار کی

جار ہی ہیں جو اس میں آ کر شامل ہو جائیں گی۔

پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس کے بعد پہلے سال کانفرنس ہوئی تھی (اسے بھی ہم جلسہ ہی کہتے ہیں)۔ اس جلسہ کی الہی اینٹ رکھے جانے کے بعد حقیقتاً جو پہلا اجتماع ہوا وہ ۱۸۹۲ء کا جلسہ ہے۔ آج سے اسی سال پہلے کی بات ہے کہ اس اشتہار کے بعد جس کامیابی نے پہلے ذکر کیا ہے جو جلسہ ہوا اس میں چھتر آدمی شریک ہوئے تھے۔ گویا اس وقت احمدی دوست جو جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے ان کی تعداد سو تک بھی نہیں تھی۔ ان کی تعداد صرف چھتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دعا کروائی کہ اک سے ہزار ہوویں اور اس دعا کو اس رنگ میں بھی قبول کیا کہ آج چھتر کے مقابلہ میں چھتر ہزار سے زیادہ احمدی اس جلسہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ (کتنی پر یہ تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار ثابت ہوئی) اللہ تعالیٰ سچے وعدوں والا ہے وہ کامل قدرتوں والا ہے اس نے ساری دنیا کو یہ کہا کہ اٹھو اور میرے اس سلسلہ کو مٹانے کی کوشش کرو۔ اور سارے ساز و سامان اس کے خلاف اکٹھے کر لو۔ لیکن تم کامیاب نہیں ہو گے۔ گو وہی جس کامیابی نے ارادہ کیا ہے اور جس کامیابی نے اعلان کیا ہے۔

جلسہ سالانہ میں تو جماعت احمدیہ کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ پہلے جلسہ سالانہ میں مہدی معبود کے فدائی اور عاشق چھتر احمدی جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو گھروں میں چھوڑا اور جلسہ میں شامل ہونے کے لئے قادیان پہنچ گئے۔ اُس وقت جماعت احمدیہ کی تعداد ۷۵ تو نہیں تھی کیونکہ سارے لوگ تو آ نہیں سکتے تھے۔ بہت ساروں کو اپنے کام تھے۔ کوئی بیمار تھا، کسی کے پاس زاد سفر نہیں تھا۔ کسی کے لئے کوئی اور جائز مانع اور رکاوٹ تھی۔ اگر ہم اندازہ لگائیں کہ اس وقت جماعت کتنی ہوگی تو چند ہزار بنتی ہے اگر دس ہزار بھی ہو تو دس ہزار بھی 'اک سے ہزار ہوویں' کی رو سے ایک کروڑ بنتا ہے اور آج اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کی تعداد ایک کروڑ سے آگے نکل چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس انتہائی انعام اور فضل اور رحمت اور ان فضلوں کے اظہار کے بعد اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کی غرض سے اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اسے دنیوی میلوں کی طرح نہ سمجھنا کیونکہ اس کی بنیاد

اعلائے کلمہ اسلام پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی ندا کو بلند کرنے کے لئے اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے اور توحید کا جھنڈا ملک ملک، گاؤں گاؤں، گلی گلی اور گھر گھر گاڑنے کے لئے اسے قائم کیا گیا ہے اور اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے دل میں بحیثیت نوع انسانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم کیا جائے اور تمام انسانوں کو خواہ وہ دنیا کے کسی خطہ میں ہی کیوں نہ بسنے والے ہوں، اُمتِ واحدہ بنا دیا جائے۔ ایک خاندان بنا دیا جائے۔ ایک ایسا جسم بنا دیا جائے کہ جس کی اگر ایک اُنگلی بھی دُکھے تو سارے جسم میں درد پیدا ہوتا ہے۔ افریقہ کے بسنے والے جن کو دنیا نے دھتکار دیا تھا اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، خدا تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ سے یعنی جماعت احمدیہ کو آلہ کار بنا کر دنیا کے سفید فام کے ساتھ دنیا کے سرخ رنگ اور گندمی رنگ والوں کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جو چیز دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یعنی اسلام کی نشاۃ اولیٰ کے بعد آج تک انسان نے نہیں دیکھی تھی اور جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا وہ آپ کے ذریعہ ممکن ہو گئی۔ ایک حبشی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اُسے بے اختیار بڑے پیار سے گلے لگا لیتے ہیں ہمارے ایک مخلص دوست جو ایبے سینیا (Abyssinia) کے رہنے والے ہیں ان دنوں یہاں آئے ہوئے ہیں وہ جس دوست کے ساتھ ملتے ہوں گے وہ انہیں اپنے گلے لگاتا ہوگا۔ علاوہ ازیں کئی اور افریقن دوست یہاں آتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس افریقن بچے بھی پڑھتے ہیں، انہیں کسی فرق کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جس طرح ایک خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں۔ پس جس طرح ایک خاندان کے افراد بھی مختلف رنگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ان کی آپس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے ذریعہ ساری دنیا کے احمدی مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔

پس اعلائے کلمہ اسلام پر جس اجتماع کی بنیاد رکھی گئی ہے اس اجتماع میں شامل ہونے والوں کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر آن خصوصاً ان ایام جلسہ میں اپنے ربِّ کریم کے حضور عاجزانہ جھکے رہیں۔ اور ان کی روح پگھل کر خدا کے آستانہ پر بہہ نکلے اور اس سے وہ یہ دعائیں کرتے رہیں کہ اے ہمارے رب اور اے ہمارے محسن قادر و توانا! جس غرض کے لئے اس جلسہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اس غرض کو ہماری زندگیوں میں نمایاں طور پر پورا کر دے تاکہ تمام

دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں تو نے ان کے لئے جو عزت قائم کی ہے اس کا بدلہ ہمیں یہ عطا فرما کہ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لئے عزت و احترام کا مقام پیدا ہو جائے۔ ہمارے دل میں جب غیر کی عزت پیدا ہوئی ہے تو ہمارے دل خدا تعالیٰ کی حمد سے معمور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ہم نے کہا اے خدا! اس فساد کی دنیا میں اس اندھیرے اور ظلمات کی دنیا میں تو نے ہمارے سینوں میں تو رکھا ایک چراغ جلا دیا ہے ہم تیرے ممنون ہیں۔ ہم تجھ پر اپنے جسم کا ذرہ ذرہ قربان کرتے ہیں۔ ہماری روح پگھل کر تیرے آستانہ پر بہتی ہے ان اغیار کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ جلوہ رونما ہوگا کہ وہ سمجھیں گے ہم جن کی مخالفت کرتے تھے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کو ہم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے پیار سے ہمارے دلوں کو جیت لیا۔ جن کے خلاف ہم نے قتل کے منصوبے اور دکھ اور ایذا پہنچانے کے منصوبے بنائے تھے انہوں نے ہماری زندگی کی راحتوں کا سامان دیا۔

پس دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر دنیا میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے پر خدا تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے محمد کی آواز پر لٹیک کہو۔ اس لئے کہ وہ تمہیں اس لئے بلاتا ہے کہ وہ تمہیں زندہ کرے اور نئی زندگی عطا کرے۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بخش جھنڈا اور زندگی بخش علم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مخالف ہمیں مارنے کی فکر میں ہیں۔ اور ہم ان کو زندہ کرنے کے غم میں گھلے جاتے ہیں اور ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم انشاء اللہ کامیاب ہوں گے۔

پس جس اجتماع کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ اس اجتماع کے مقاصد اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور یہ نہ بھولیں کہ انسان ایک بے کس ہستی ہے جس میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جب اصل قوت کے سرچشمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق قائم نہ ہو اس وقت تک انسان لا شئی محض ہے۔ اس لئے اپنی عاجزانہ کیفیت اور عاجزانہ مقام کو نہ بھولیں اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں سے کبھی غافل نہ ہوں۔ وہ بڑی قدرتوں والا وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑی

طاقتوں والا رب ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرے گا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم دنیا کے بندے بن جائیں تب بھی وہ ہم سے پیار کرتا رہے گا۔ اگر ان بشارتوں سے ہم نے حصّہ لینا ہے تو ہمارے لئے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اس کی راہ میں فدا ہو جائیں۔ اور جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں، ویسا ہم بن کر اُسے دکھادیں۔

آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اس جلسہ کا افتتاح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ یہاں بھی اور جب باہر سے آنے والے احباب واپس جائیں تو وہاں بھی۔ اور آپ کی غیر حاضری میں وہ آپ کا بہترین قائم مقام بن کر آپ کی عزتوں اور آپ کے اموال کی حفاظت کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر ہم بے کسوں کی مدد کے لئے آئیں اور ہمیں دنیا میں کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری فرست میں برکت ڈالے ہمارے ذہنوں میں جلا پیدا کرے ہمارے علم میں زیادتی بخشنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق ہمیں ایسا بنا دے کہ جس چیز کو ہم ہاتھ لگائیں خدا کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کی فضا میں سانس لیتے ہوئے ان چند دنوں کو ہم گزاریں، اس کو بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں اور اس کی برکتوں کی فضا کے قیام کی، کہ اس کے بعد جہاں بھی ہم ہوں۔ برکتوں اور رحمتوں کی فضا ہمارے لئے میسر آتی رہے اور اس کا نور ہمارے گھروں اور سینوں کو منور کرتا رہے اس کے فرشتے ہمیشہ ہمیں یہ بشارتیں دیتے رہیں کہ دشمن خواہ کتنا بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ تمہارا رب قدر تمہارے ساتھ ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے فرشتوں کی فوجیں تمہاری مدد اور نصرت کے لئے آسمانوں سے اتری ہیں، ان فرشتوں کے پروں کے سایہ میں شاہراہ اسلام پر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ ترقیات کے دروازے کھل چکے ہیں انشاء اللہ میں کل کی تقریر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فضل اس چھوٹی سی جماعت پر اس تھوڑے سے زمانہ میں کئے ہیں۔ پس ترقیات کے دروازے کھل چکے ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم انتہائی عاجزی اور انتہائی مجاہدہ کے ساتھ ان دروازوں میں داخل ہو کر اس شاہراہ پر تیز سے تیز ہوتے چلے جائیں جو ایک نہ ایک دن غلبہ اسلام کی منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔

اے خدا! تو ایسا ہی کر۔ آؤ اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو ان دنوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی توفیق عطا ہو۔

(روزنامہ الفضل ربوہ ۱۱ جنوری ۱۹۷۳ء صفحہ ۳، ۴)

اللہ سے تجارت ایک ایسی تجارت ہے جس میں پیسے کے ضیاع کا کوئی خطرہ نہیں

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۳ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

انفلونزہ کا اثر گلے پر کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ بہر حال کوشش کروں گا کہ جو کچھ میں اس وقت

کہنا چاہتا ہوں وہ میری آواز میں آپ تک پہنچ جائے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے وجود کی خاطر اس سارے عالم کو

پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ کی برکات ماضی کی طرف بھی اسی طرح بہتی رہی ہیں۔ جس طرح

کہ وہ مستقبل کی طرف بہتی رہی ہیں اور بہتی رہیں گی۔ ماضی کی طرف ان کا جو رخ ہے وہ ایک

دقیق مضمون پر مشتمل ہے۔ عام فہم نہیں رہتا اس لئے ماضی کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہوئے

ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے۔ قرآن کریم کی

شریعت اپنے پورے جلال کے ساتھ اور اپنی پوری ہمہ گیری کے ساتھ قیامت تک کے انسانوں کے

لیے بھیجی گئی ہے اور انسان نے اس سے جسمانی، مادی، اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کرنے ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قریباً تیرہ سو سال گزرنے پر حضرت

مہدی معہود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اس عرصہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کی

طرف سے فدائی خدام عطا کئے گئے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ پر جب ہم اس نقطہ نگاہ سے نظر ڈالتے

ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فدائی خدام زمان و مکان ہر دو لحاظ سے مختلف درجات میں

بٹے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی ایسا خادم ملا جس نے ایک صدی کے زمانہ تک اپنے علاقے میں

آپ کے دین کی خدمت کی ہے۔ کوئی آپ سے محبت اور پیار کرنے والا ایسا آدمی پیدا ہوا جس

نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سے علاقے میں بعض دفعہ چند گاؤں میں یا ایک شہر میں اسلام کی

خدمت کی مثلاً بدعات وغیرہ کا قلع قمع کیا۔ زمانہ کے لحاظ سے ان مجددین کا ایک سلسلہ ہے جو صدی کے سر پر مبعوث ہوتے رہے اور صدی کے سر پر ایک سے زائد مجدد بھی پیدا ہوتے رہے۔ جیسا کہ مجددین کی تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ سب سے وسیع مکان خدمت ان کو ملا جنہیں اپنے ملک میں اسلام کی خدمت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پس یہ مختلف قسم کے درجات ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بٹے ہوئے ہیں۔ پھر جیسا کہ قرآن کریم میں بشارت دی گئی تھی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وضاحت سے امت محمدیہ کو یہ بتایا گیا تھا۔ اپنے وقت پر مہدی الصلوٰۃ والسلام ظاہر ہوئے۔ اسلام کی جو خدمت آپ کے ذمہ لگائی گئی وہ زمانہ کے لحاظ سے آپ کی ماموریت سے لے کر قیامت تک ممتد ہے اور مکان کے لحاظ سے اس نے آپ کے ملک یعنی برصغیر پاک و ہند سے لے کر ساری دنیا کے ملکوں پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ گویا یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو مہدی معبود کی خادمانہ حیثیت اور آپ سے پہلے بزرگوں کی خادمانہ حیثیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا اور یہی ہوا کہ جو مجدد ایک صدی کے لئے آیا اس کی تحریرات اور کلام میں صرف اس قدر مسائل اور ان کا حل ہمیں نظر آتا ہے جن کا جس قدر اس صدی کے ساتھ تھا اس سے اگلی صدی کے ساتھ ان کا تعلق نظر نہیں آتا۔ جو مجدد ایک خاص علاقے کے لئے آیا تھا۔ اس کا کلام اس کی کتب اور اس کی تقاریر و تحریر اس خاص علاقے کی مذہبی برائیوں کو دور کرنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسلمانوں میں مذہبی برائیاں اور غیر مسلموں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف جو چیزیں پیدا ہو گئیں تھیں۔ ان برائیوں کو دور کرنا اور اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب دینا عموماً اس کی غرض بعثت میں شامل نہیں ہوتا تھا۔

مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک صدی قبل نائیجیریا کے شمالی علاقے میں جس کا ایک حصہ اس وقت نائیجیریا میں شامل ہے اور کچھ حصہ شمال کی طرف بعض دوسرے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے وہ ایک علاقہ تھا جہاں ایک مجدد پیدا ہوئے جن کی وفات غالباً ۱۸۱۸ء میں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس علاقے میں مسلمانوں میں جو بدعات شنیعہ پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے مبعوث کیا ہے ان کے مجددیت کے دعویٰ سے قبل وہاں اس زمانہ کے علماء کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کا ایک مصلح پیدا

ہونے والا ہے۔ چنانچہ ان کی کچھ کتب جو پہلے نایاب تھیں مجھے پتہ لگا کہ دوبارہ شائع ہوئی ہیں۔ میں نے ان کی کتابیں منگوائیں ان کو پڑھا۔ بعض اور دوستوں کو بھی پڑھوائیں تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی بعثت کی غرض یہ بتائی کہ ان کے علاقہ میں مسلمانوں کے اندر جو بری رسوم پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنے اور سنت نبوی کو قائم کرنے کے لئے وہ بھیجے گئے ہیں۔ ان کا تعلق قریباً ایک صدی کے زمانہ کے ساتھ تھا۔ کیونکہ ایک صدی کے بعد خود ان کے ماننے والوں میں بری رسوم پیدا ہو گئیں۔ پس زمانہ کے لحاظ سے ان کی خدمات دینیہ کا اثر باقی نہیں رہا۔ مکان کے لحاظ سے انہوں نے اپنی کتب میں صرف انہی بدعات کا ذکر کیا ہے جو ان کے اپنے علاقہ کے مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔

پس جس قسم کا مجدد یا مصلح یا ولی اللہ تھا اس کی تقریر و تحریر میں ہمیں اسی قسم کا مواد ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم روحانی فرزند اور ایک عظیم خادم ہیں۔ آپ کا زمانہ آپ کی ماموریت سے قیامت تک ممتد اور مکان کے لحاظ سے ساری دنیا پر محیط ہے۔ اس لئے آپ کی کتب میں ہمیں وہ سارا مواد ملتا ہے یا مجھے یوں کہنا چاہئے کہ حضرت مہدی معہود مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارشادات کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر جا بجا بیان فرمائی ہے اس میں وہ مواد ہے جس میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ انسان کی معاشرتی اقتصادی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے جو قیامت تک کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی شکل میں نوع انسان کے سامنے آنے والے تھے۔ اس لئے جماعتی طور پر جو اچھا اور مفید لٹریچر کتب کی شکل میں اخبارات کی شکل میں یا رسائل کی شکل میں شائع ہوتا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کی روشنی میں ہے یا خود آپ کی کتب دوبارہ شائع ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے سلسلہ کے لٹریچر کو (یعنی کتب و رسائل وغیرہ) کو نئی نسل کے ہاتھ میں پہنچانا ہے۔

غرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب تو چھپتی رہیں گی۔ کیونکہ آپ کی کتب میں قرآن کریم کی آیات اور اس تفسیر کی روشنی میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے قیامت تک کے مسائل کا حل پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہم کچھ تاریخی مواد چھاپتے ہیں۔ مثلاً

لجنہ اماء اللہ مرکزیہ اپنی تاریخ دو جلدوں میں پہلے شائع کر چکی ہے۔ تیسری جلد اب شائع کی گئی ہے۔ اسی طرح تاریخ احمدیت شائع ہو رہی ہے۔ یا بعض مضامین اخباروں میں شائع ہوتے ہیں۔ تاریخی مواد ہمیں دو وجوہات کی بنا پر شائع کرنا چاہئے اور اس کے دو فائدے ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہر تاریخی کتاب ایک خاص زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس ہمارے سامنے ہماری نوجوان نسلوں کے سامنے اور ہم میں نئے شامل ہونے والوں کے سامنے یہ بات آتی رہنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص زمانہ میں ہم پر کتنے بے انتہاء فضل نازل فرمائے ہیں۔ تاکہ ہم علیٰ وجہ البصیرت خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا عرفان حاصل کریں اور ہم اپنی روح کی گہرائی سے اپنے رب کریم کی حمد کرنے والے ہوں۔ دوسرے یہ کہ ہر تاریخی زمانہ اگلے زمانہ کے لئے ایک سیڑھی بنتا ہے۔ اگر آپ پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھیں گے تو دوسری سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک خاص گذرے ہوئے زمانہ کے حالات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل کی ذمہ داریوں کو آپ سمجھ سکیں اور ان سے کما حقہ، عہدہ برآ ہو سکیں۔ اس لئے جلسہ سالانہ کے موقع پر اس دوسری تقریر میں جب سلسلہ احمدیہ اور دنیا کے متعلق عام باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ساتھ ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہماری یہ کتب شائع ہوئی ہیں یا یہ ہمارے اخبارات و رسائل ہیں۔ جماعت کے دوست خصوصاً نوجوان اور جماعت میں نئے نئے شامل ہونے والے حصہ کو چاہئے کہ وہ ان کو خریدے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔

کسی وقت عیسائی دنیا اور دوسری دنیا نے کہا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے انہوں نے یہ غلط کہا تھا لیکن اپنے دجل کے ذریعہ اسلام کے ابتدائی زمانہ کو مبہم بنا دیا تھا پھر حضرت مہدی معہود آئے انہوں نے اعلان فرمایا

سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے (درئین صفحہ ۱۷)

چنانچہ قلم سے ہم نے اس اعتراض کو دور کیا اور ثابت کیا کہ اسلام کو پھیلانے کے لئے طاقت اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس بارہ میں پوری معلومات حاصل کرنی چاہئیں تبھی ہم قلمی جہاد میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔

غرض جو اخبارات اور رسائل جاری ہیں یا دوران سال، جو کتب نئی شائع ہوئی ہیں یا نئے

سرے سے شائع ہوئی ہیں ان کے متعلق دوستوں کو توجہ دلانے کے لئے میں اس وقت اعلان کروں گا۔ تاکہ دوست ان کو خریدیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔

پہلے میں روزنامہ الفضل کو لیتا ہوں اخبار الفضل کی اشاعت اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ پھر رسالہ تحریک جدید ہے۔ یہ ایک خاص طبقہ کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت اسلام بجالانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ غیر ممالک میں اسلام کی تبلیغی جدوجہد اور اس کی کامیابی یعنی غیر ملکوں میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور احسان کر رہا ہے یہ رسالہ اس کی بعض جھلکیاں پیش کرنے کے لئے مخصوص ہے۔

پھر ماہنامہ انصار اللہ ہے جس کا تعلق جماعت کے اس حصہ سے ہے جن کو میں بوڑھے کہنے کی بجائے ”جوانوں کے جوان“ کہا کرتا ہوں۔ اس لئے جوانوں کے جوان اس میں دلچسپی لیں۔ پھر ماہنامہ ”خالد“ ہے جو خدام الاحمدیہ کا رسالہ ہے۔ تھیذ الاذہان ہے۔ الفرقان ہے۔ ان سب کی اشاعت کی طرف تو نہیں کہنا چاہئے ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف جماعت کو توجہ دینی چاہئے۔

نظارت اشاعت لٹریچر و تصنیف کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتاب چشمہ معرفت دوبارہ شائع ہوئی ہے۔ ایک نئی کتاب بھی شائع کی گئی ہے۔ اس کو میں نے ہی اپنی نگرانی میں ایڈٹ (Edit) کروایا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر میں قرآن کریم کی بہت سی ایسی آیات کی تفسیر بھی شائع ہو چکی ہے۔ (تفسیر کبیر سارے قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل نہیں تاہم قرآن کریم کے جتنے حصہ کی تفسیر کی گئی ہے اس میں سے) جن آیات میں حقوق العباد کا ذکر ہے یا یتامی، بیوگان اور غرباء کی پرورش کا ذکر ہے اس کو الگ کر کے کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے۔ اب قوم یوں تو اس وقت عوامی حکومت اور اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا رہی ہے۔ مگر اسلام نے اس سلسلہ میں جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کی طرف کسی کو کما حقہ توجہ نہیں ہے۔ اس لئے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی راہنمائی کریں اور ان کو بتائیں کہ اسلامی سوشلزم میں اسلام کا حصہ کیا ہے کیونکہ اسلامی سوشلزم میں سوشلزم تو بعد کی بات ہے پہلے تو لفظ ”اسلامی“ کو دیکھنا ضروری ہے خود یہ فقرہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ غرض سوشلزم کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے یہ ہم نے بتانا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب خدا تعالیٰ کے فضل سے شائع ہو گئی ہے۔ اس کا نام رکھا گیا

ہے۔ ”اسلام غریبوں اور یتیموں کا محافظ“ یہ کتاب تفسیر کبیر کے اقتباسات پر مشتمل ہے۔ دو ستوں کو اس کی کثرت سے اشاعت کرنی چاہیے۔ خصوصاً سیاست دانوں میں کیونکہ وہ علیٰ وجہ البصیرت نعرے نہیں لگاتے بلکہ اندھیرے میں نعرے لگا دیتے ہیں۔ کوئی سوشلزم کے متعلق نعرہ لگا دیتا ہے لیکن سوشلزم کے متعلق کچھ پڑھا نہیں ہوتا۔ کوئی اسلام کا نعرہ لگا دیتا ہے اور قرآن کریم کا اسے علم نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے بھی یہ قوم بڑی مظلوم ہے اور قرآنی رہنمائی کی محتاج ہے۔

ایک کتاب ”قادیانیت“ کے نام سے ہمارے خلاف کسی نے لکھی تھی جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے یا تو لوگ حوالوں کے الفاظ بدل دیتے ہیں یا معانی بدل دیتے ہیں اور پھر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب ”احمدیت“ کے نام سے لکھا گیا ہے اور اسی طرح ”علمی تبصرہ“ شائع کیا گیا ہے ”ختم نبوت“ مودودی صاحب کا ایک رسالہ ہے جسے کتابچہ کہنا چاہئے اس کے جواب میں یہ رسالہ جس کا نام ”علمی تبصرہ“ ہے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح مکرم قاضی محمد نذیر صاحب نے ”شان مسیح موعود علیہ السلام“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے۔

الشركة الإسلامية نے گذشتہ دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب شائع کی ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) روحانی خزائن جلد ۳۔

(۲)۔ روحانی خزائن جلد ۵۔

(۳)۔ مجموعہ اشتہارات جلد دوم۔

(۴) لیکچر لاہور

(۵) تجلیات الہیہ۔

اسی طرح الشركة الإسلامية نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی کتاب ”ہمارا رسول“ دوبارہ شائع کی ہے۔ قاضی محمد نذیر صاحب کی کتاب ”الحق المبين في تفسير خاتم النبیین“ اب پہلی دفعہ شائع ہوئی ہے۔

ادارۃ المصنفین کی طرف سے تاریخ احمدیت جلد ۱۲۔ جامع صحیح بخاری جز ۱۳، تاریخ احمدیت جلد ۱۳، تفسیر آل عمران والنساء شائع کی گئی ہے تفسیر کے متعلق احباب کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک مصلح موعود کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ زمانہ کی ضرورت اور زمانہ کے اُلجھے ہوئے مسائل کے متعلق لکھتے تھے۔ جو کمزوریاں اور بدعات مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں آپ ان کی اصلاح کرتے تھے اور جو اعتراضات اندھیروں میں بسنے والے لوگوں نے اسلام پر کئے تھے آپ ان کے جواب دیتے تھے۔ مگر آپ جو کچھ لکھتے اور کہتے تھے ان کی بنیاد قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت یا اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی ارشاد پر رکھتے تھے۔ اس لئے مضمون کے لحاظ سے آپ نے بعض دفعہ ایک آیت سورۃ بقرہ سے لی، ایک سورۃ کہف سے لی یا ایک آخری پارہ کی لے لی اور اس طرح اپنے استدلال کو مؤثر بنانے کے لئے مختلف آیات کو اکٹھا کر دیا اور ان کی تفسیر بیان کی اور اس سے ثابت یہ کیا کہ اعتراض غلط ہے اور اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ غیر مسلم اسلام کی طرف جو بات منسوب کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ آج کل مسلمانوں میں جو بعض رسوم پائی جاتی ہیں۔ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ وغیرہ۔ گویا آپ نے ثابت کیا کہ آپ واقعی ایک عظیم مصلح ہیں اور وہی مہدی معبود ہیں جس کی خدمت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ آئے گا تو میری طرف سے اسے سلام کہنا۔

پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان فرمودہ تفسیر کی تالیف کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بڑے اچھے کاغذ پر اور بڑی اچھی کتابت کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ایسی کتابیں سستی ترین قیمت پر دوستوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں۔ تاہم کچھ نہ کچھ نفع تو ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ متعلقہ عملہ کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی تفسیر شائع ہوئی اور اب اس سال آل عمران اور نساء کی شائع ہوئی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ تفسیر دس جلدوں میں مکمل ہوگی۔ تیسری جلد تک چھپ چکی ہے۔

لجنہ اماء اللہ نے اپنی ”تاریخ لجنہ“ کی جلد سوم جو ۱۹۵۹ء سے ۱۹۷۲ء تک کے حالات و کوائف پر مشتمل ہے شائع کی ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے عزیز ہیں لطیف احمد قریشی صاحب انہوں نے مکرم محترم روشن دین تنویر مرحوم کا منظوم کلام اکٹھا کر کے شائع کیا ہے۔ ہمارے بزرگ محترم چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی دو کتب بھی اس وقت دکانوں پر موجود ہیں۔ ایک تحدیث نعمت اور

دوسری میری والدہ۔ انہوں نے قیمت بہت رکھی ہے پتہ نہیں کیوں۔

یہ کتب اور رسائل ہیں۔ دوستوں کو ان کتب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب اور آپ کے ارشادات قیامت تک کی نسل کے لئے ہیں۔ اگر انہوں نے کامیابیاں حاصل کرنی ہیں اور کامیابیوں پر قائم رہنا ہے تو وہ ان سے بہر حال استغناء نہیں برت سکتے۔ آپ کی کتب کے علاوہ جو باقی لٹچر ہے۔ وہ تو گویا اسی چراغ سے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے دیئے روشن کرنے کے مترادف ہے۔ مثلاً آپ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان کو نئی کتابوں میں پھیلا دیا اور کچھ اپنی زندگی میں جو حالات دیکھے اُسی کے مطابق جو اسلام نے بیان کئے ہیں اُن کا اظہار ہوتا ہے پس چوہدری ظفر اللہ خان صاحب اور ہم سارے اسی طرح کے لکھنے والے ہیں۔ اصل تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں۔ کیونکہ اور کس کو ہمارے محبوب ہمارے آقا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلوا یا۔ امت محمدیہ میں مہدی معبود کے سوا اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ پس جس شخص کی قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، امت مسلمہ کی کوئی نسل اس کی خدمات کی قدر کرنے اور ان سے استفادہ کرنے سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔

غرض یہ تو تھے اخبارات و رسائل اور کتب سلسلہ جو دوران سال شائع ہوئیں۔ احباب جماعت کو ان کی اشاعت کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ اب میں جماعتی اداروں اور ان کی کارکردگی کو لیتا ہوں۔

وقف جدید

وقف جدید کے زیر انتظام مغربی پاکستان میں مختلف مراکز میں اس وقت ۶۴ معلمین جماعت کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا دائرہ کار کردگی ۱۱۱۵ دیہات ہیں۔ وہ یوں تو بہت سے کام کرتے ہیں لیکن ان میں سے نمایاں کام ایک تو بچوں کو قاعدہ یسرنا القرآن پڑھانا ہے دوسرے قرآن کریم ناظرہ اور با ترجمہ سکھانا ہے اور تیسرے نماز کا ترجمہ سکھانا ہے۔ اس سلسلہ میں جماعت میں ہزاروں افراد ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس وقت جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں ۱۲۷ بچے جو قاعدہ یسرنا القرآن پڑھ رہے ہیں۔ ۶۵۸ قرآن کریم با ترجمہ اور ۱۰۰۸ نماز با ترجمہ سیکھ رہے ہیں جب کہ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد ۷۴ ہے۔ کیونکہ گذشتہ

سال جلسہ سالانہ نہیں ہوا تھا اس واسطے میں مختصراً دو سالوں کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ان معلمین کے حلقہ احباب میں ۴۱۲۲ دوستوں کو امسال اور ۲۰۳۷ دوستوں کو سال گذشتہ مختلف کتب ان کی ضرورت کے مطابق پڑھنے کے لئے مہیا کی گئیں۔ اس کے علاوہ دفتر وقف جدید سے مختلف اوقات کتب لے جانے والوں کی تعداد سال رواں میں ۱۱۰۴ اور سال گذشتہ میں ۱۲۳۲۰ تھی۔

وقف جدید اپنی طرف سے بھی کچھ کتب اپنی ضرورت کے مطابق شائع کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ وقف جدید نے سال رواں میں ”ہماری تعلیم“ دس ہزار کی تعداد میں شائع کی۔ ۲۔ ”احمدیت کا پیغام“ پانچ ہزار کی تعداد میں شائع کیا۔ ۳۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جو میاں مبارک احمد صاحب نے لکھی ہے وہ دو ہزار کی تعداد میں شائع کی ہے۔ اس وقت ”حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے۔“ ”وصال حضرت ابن مریم علیہ السلام“ اور ۳۔ ”دو مسئلے“ زیر طبع ہیں۔ آئندہ سال بھی معلمین وقف جدید کی نئی کلاس کو خاص توجہ دینی چاہئے۔ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ وقف کرنا چاہئے یا بڑی عمر کے ایسے دوست جن کو وقف جدید معلم بننے کے اہل اور مناسب سمجھے ان کو اس خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہئے۔

اس ایک سال کے عرصہ میں مشرقی پاکستان ہماری بد قسمتی سے اور ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ مشرقی پاکستان سے ۳۵ ہزار کی رقم بطور چندہ وقف جدید کو سالانہ وصول ہوتی تھی۔ موجودہ حالات میں وہ موصول نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود مغربی پاکستان کے احباب جماعت نے اپنی غیرت کا یہ ثبوت دیا کہ اگرچہ مشرقی پاکستان سے رقم نہیں ملی۔ تاہم اس کمی کے باوجود کل بجٹ سے سات آٹھ ہزار روپیہ زائد وصول ہوا۔ الحمد للہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو احسن جزاء عطا فرمائے جنہوں نے وقف جدید کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

صدر انجمن احمدیہ

صدر انجمن احمدیہ کی کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ تو ہر سال مجلس شوریٰ میں پیش ہو جاتی ہے۔ وہاں جماعت کے نمائندے آتے ہیں۔ باتیں سنتے ہیں اور یہ نصیحت بھی وہاں پلے باندھتے

ہیں کہ ہم واپس جا کر یہ باتیں جماعتوں کو سنائیں گے۔ اگر راستہ میں وہ پلہ کھل جاتا ہے تو اس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ بہر حال وہ مجلس شوریٰ میں تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام باتیں پلے باندھ لی ہیں۔ جو چیز مجلس شوریٰ میں اس طرح نمایاں نہیں ہوتی اور نہ کوئی خاص ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ بہت زیادہ بنیادی اہمیت کے معاملات مجلس شوریٰ میں زیر بحث ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کارکنان کو علاوہ گزاروں کے (جو بہت کم ملتے ہیں) بعض امدادیں دی جاتی ہیں۔ تحریک جدید، وقف جدید، انصار اللہ، خدام الاحمدیہ اور صدر انجمن احمدیہ کے کارکنوں کو یا ایسے خاندانوں کو جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گزارے کم سے کم معیار پر بھی نہیں کر سکتے۔

چنانچہ صدر انجمن احمدیہ کے کارکنان کو سالانہ گندم کا ایک چوتھائی مفت دیا جاتا ہے۔ اگر روزانہ نصف سیر گندم فی کس سمجھی جائے تو سال کے لئے ساڑھے چار من گندم بنتی ہے۔ اگر وہ دو میاں بیوی ہیں یعنی ایک شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ انجمن کا کارکن بنا ہے تو ان کو نو من کی ضرورت ہے۔ تو صدر انجمن احمدیہ اس کا چوتھائی حصہ یعنی دو من دس سیر مفت دیتی ہے اور اگر کوئی پرانا کارکن ہے اور اس کے ماشاء اللہ سات آٹھ بچے کھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا فضل فرمایا ہے اور دو وہ خود میاں بیوی ہیں یہ کل دس افراد بن جاتے ہیں۔ اس خاندان کو پینتالیس من گندم کی ضرورت ہوگی تو ان کو مثلاً صدر انجمن احمدیہ (اور اس طرح دوسرے ادارے بھی) چوتھا حصہ یعنی گیارہ من دس سیر گندم مفت دیتے ہیں اور یہ اپنی ذات میں بڑی مدد ہے۔ اب اگر ایک شخص کو نو من کی ضرورت تھی تو اس کو دو من دس سیر گندم مفت دی گئی دوسرے خاندان کو پینتالیس من کی ضرورت تھی ہم نے گیارہ من دس سیر دی۔ یعنی پہلے آدمی کی اصل ضرورت سے بھی زیادہ دے دی۔ غرض ہم اپنے کارکنوں کو ان کی گندم کی اصل ضرورت کا ایک چوتھائی مفت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سال صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے ۲۲۳۰ من گندم کے طور پر مدد دی گئی جس پر جماعت نے ۴۲۷۵۲ روپے خرچ کئے۔ اس طرح موسم سرما میں کچھ کپڑوں کی زائد ضرورت ہوئی ہے۔ کچھ ایسے خرچ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جن کی گرمیوں میں ضرورت پیش نہیں آتی تو ان کے لئے پچھلے سال کم رقم تھی۔ اس سال ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ کارکن اور اس کے زیر کفالت افراد مثلاً اگر دس ہوں تو دس کے لئے ۱۶ روپے فی کس کے حساب

سے دیئے جائیں۔ یعنی موسم سرما کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جو دو افراد ہیں ان کو ۳۲ روپے اور جس شخص کا خاندان دس افراد پر مشتمل ہے ان کو ۱۶۰ روپے دیئے گئے۔ اس لحاظ سے اس کا خیر میں صرف صدر انجمن احمدیہ کا جو حصہ ہے وہ ۳۰۴۷۲ روپے کا ہے اس کے علاوہ جو کارکن نہیں اور جن کی خبر میں عام طور پر رکھتا ہوں۔ اس موسم میں بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ بعض لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب باہر سے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں غریب کو پوچھنے کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے کہنے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور وہ رورہا تھا کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ فلاں شخص کو مانگنے کی عادت ہے ہو سکتا ہے وہی ہو۔ میں نے کہا بھی پانچ چھ دن ہوئے اتنی رقم تو وہ مجھ سے لے کر گیا ہے۔ پس ایسے لوگ بھی ہیں جن میں اس قسم کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ دوست ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کمزوری کو دور کر دے۔ بہر حال ہم اپنے دوستوں کی ضرورت کا حسب توفیق خیال رکھتے ہیں۔

چنانچہ ۱۹۶۷ء میں گندم ایسے خاندانوں میں مفت تقسیم کی گئی جو کارکن نہیں تھے اور اس کے اوپر ۱۳۴۷۳ روپے خرچ کئے گئے۔ اس کے علاوہ فطرانہ ہے اور زکوٰۃ فنڈ ہے اور بعض دوسری رقمیں ہیں جو دوست بھجوادیتے ہیں۔ یہ اس وقت تک (جب کہ ابھی سال ختم نہیں ہوا ابھی بہت ساری رقم آئندہ دو چار مہینوں میں خرچ کی جائے گی) ان رقموں میں سے بھی جن کا زیادہ تر حصہ ربوہ میں مقیم غیر کارکن کو دیا جاتا ہے۔ یہ پچپن ہزار روپے کی رقم ہے۔ پس یہ ملا کر قریباً نوے ہزار روپے کی رقم بن جاتی ہے۔ (جس میں بمشکل پانچ فیصد کارکن ہوں گے کیونکہ ان کو الگ طور پر امداد مل جاتی ہے) جو ربوہ کے غریب گھرانوں کو بطور امداد دی جاتی ہے مثلاً ان لوگوں کو جن کے زیادہ بچے ہیں اور آمدنی تھوڑی ہے یا مختلف حالات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مختلف شکلوں میں امداد کی جاتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار ہے کسی پر احسان جتنا مقصود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اپنے بھائیوں کی ایک حد تک خبر گیری کر سکے۔

صدر انجمن احمدیہ کے لازمی چندہ جات کا جو بجٹ ہے یعنی چندہ عام اور حصہ وصیت اس پر بھی مشرقی پاکستان کے کٹ جانے کا اثر پڑا اور یہ اثر پڑنا لازمی تھا مگر باوجود اس کے کہ گذشتہ

سال سخت ہنگاموں کا سال تھا اور سخت فساد کا سال تھا اور سخت فتنوں کا سال تھا جس میں پاکستان کو ایک بڑا شدید بنیادی نقصان اٹھانا پڑا، اس میں بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مشرقی پاکستان کی جماعت کا چندہ وصول نہ ہونے کے باوجود مجموعی بجٹ سے (یعنی جس مشرقی پاکستان کا چندہ شامل تھا) سینتیس ہزار روپے زائد رقم وصول ہوئی۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس لئے دوستوں کو چاہئے کہ اللہ کا شکر کیا کریں اور اس کی حمد کیا کریں اور بشارت سے اپنی زندگی گزارا کریں۔

مجلس شوریٰ میں آپ کے نمائندوں نے میرے پاس یہ سفارش کی تھی کہ مغربی پاکستان کا سال رواں کا بجٹ پچھلے سال کے مجموعی بجٹ سے بھی تین لاکھ روپے زائد رکھا جائے چنانچہ یہ رقم بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ کچھ بیچ میں دوسرے چندے آتے ہیں۔ جماعتوں نے مختلف شکلوں میں ادائیگی کے بارہ میں اپنے لئے سہولتیں پیدا کی ہوتی ہیں۔ مثلاً راولپنڈی کی جماعت ہے وہ حالات کی مناسبت سے ایک وقت میں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم لازمی چندوں کو وقتی طور پر چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں۔ تحریک جدید کا چندہ پورا کر دیتے ہیں، یا وقف جدید کا چندہ پورا کر دیتے ہیں وغیرہ۔ کچھ ویسے بھی توجہ کم تھی اس لئے میں نے ایک پچھلے خطبہ جمعہ میں جماعت کو اس طرف توجہ دلائی۔ دوسرے بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ چونکہ مرکز نے کہا ہے نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں اپنا اسی فیصد وعدہ پورا کرو۔ اس لئے لازمی چندوں کی ادائیگی میں کمی واقع ہوگئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہ اعتراض بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے خطبہ میں یہ اعلان کیا کہ تمہارے نصرت جہاں ریزرو فنڈ کے جو وعدے ہیں وہ بعد میں ادا کر دینا مگر ۳۱ دسمبر تک لازمی چندہ جات کا ۸/۱۲ یعنی ۲/۳ حصہ ادا کر دو۔ اب دیکھتے ہیں کہ جماعت اس پر کس حد تک عمل کرتی ہے۔ ویسے یہاں حساب میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں اس طرح خواہ مخواہ وقت ضائع ہوگا جن کے سپرد یہ کام ہے۔ ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ وہ شکل نہیں بنتی جو تمہارے دماغ میں آئی ہے۔ بہر حال اس خیال سے کہ کسی کمزور ایمان احمدی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو میں نے مختصراً بتا دیا ہے۔ کیونکہ لازمی چندہ جات کے علاوہ جو دوسرے چندے ہیں ان کی ادائیگی بھی معمول بن گئی ہے اس معمول میں یارٹ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو ساتھ ہی بعض

دفعہ ایمان میں کچھ کمزوری بھی آ جاتی ہے تقویٰ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تاہم بعض دوسری تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس میں کمزوری نہیں آتی مثلاً نصرت جہاں ریزرو فنڈ کا جب میں نے اعلان کیا تو میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ پیسے آئیں گے بھی یا نہیں اور آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے۔ کیونکہ مجھے تو خدا نے فرمایا ہے کہ خرچ کرو۔ اس لئے جس خدائے قادر و توانا نے مجھے کہا ہے کہ خرچ کرو وہ چونکہ تمام خزانوں کا مالک ہے اس لئے وہ مجھے پیسے بھی عطا فرمائے گا۔ مجھے تو کہہ کہ خرچ کرو۔ اگر وہ مجھے دے گا نہیں تو میں خرچ کہاں سے کروں گا۔ میں تو خزانوں کا مالک نہیں ہوں میں ایک دھیلے کا مالک بھی نہیں ہوں۔ یہ تو سب کچھ اس کی عطا ہے۔ بہر حال میری اپنی طبیعت ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے فضل کیا اسے میں آگے چل کر خدا تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل ہیں۔ انسان ان فضلوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔

بہر حال تین لاکھ کا زائد بجٹ آپ کے نمائندوں کے مشورہ سے بجٹ میں رکھا گیا تھا۔ اس کی ادائیگی میں گویا ہر تھوڑی سی سستی نظر آتی ہے۔ لیکن مجھے تو فکر نہیں ہے انشاء اللہ سارا بجٹ پورا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسے مادہ سے بنایا ہے کہ جس کے اجزاء کا آج کا سائنسدان پتہ ہی نہیں لے سکتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ انہوں نے سونے کا بھی تجزیہ کر لیا اور ایٹم کو بھی پھاڑ کر تباہی کے سامان پیدا کر لئے اور اس طرح چاندی اور دوسری دھاتوں کی بھی مختلف طاقتیں اور ان کے استعمال ایجاد کر لئے لیکن جس مادہ سے احمدی بنا ہے اس کو سائنسدان نہیں پہچان سکے اور نہ پہچان سکیں گے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن

فضل عمر فاؤنڈیشن کی ابتداء ۱۹۶۵ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پر ہوئی اور عملاً ۱۹۶۶ء سے کام شروع ہوا۔ گویا سات سال پہلے یہ تحریک کی گئی تھی اور جماعت نے چندہ عام اور حصہ وصیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے جذبہ کے ساتھ اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے دل میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تھی فضل عمر فاؤنڈیشن

کے وعدہ جات بھی پورے کر کے بڑی ہمت اور بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بڑی قربانی ہے اور یقیناً بہت بڑی قربانی تھی۔ چنانچہ فاؤنڈیشن کے لئے پاکستان اور بیرون پاکستان جو نقد عطیہ جمع ہوا (عطیہ جات جمع کرنے کا کام اللہ ماشاء اللہ ختم ہو چکا ہے) اور وہ بقدر ۵۷,۷۷,۳۰ روپے تھا بعض دوستوں نے عطیہ کے طور پر کچھ جائیدادیں بھی فاؤنڈیشن کو دے دیں۔ جن کی قیمت اندازاً ۳,۴۰,۰۰۰ ہے یہ کل ۵۷,۷۷,۳۰ روپے کی رقم بنتی ہے۔

فضل عمر فاؤنڈیشن نے سوچا کہ رقم ۱۰ ہزار ہو یا ۳۴ لاکھ یا ۳۴ ارب ہو اگر سرمایہ خرچ کرنا شروع کر دیا جائے تو سال میں نہیں تو پانچ سال میں یا دس سال میں نہیں تو پچاس سال میں ختم ہو جائے گا اس واسطے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اس روپے کو تجارت پر لگا دیا جائے اور تجارت کریں اس دنیا کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے بعض کمپنیوں کے حصص خرید لئے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو نفع ہوگا (یعنی Dividends جو تقسیم ہوتے ہیں) اس نفع سے ہم خیر کے کام کریں گے چنانچہ ان سات سالوں میں دفتری رپورٹ کے مطابق ان کو ۸,۲۶,۸۲۰ روپے نفع کے طور پر آمد ہوئی۔ یعنی ایک لاکھ پندرہ بیس ہزار روپے سالانہ کے حساب سے آمد ہوئی اور چونکہ اصول یہ بتایا گیا تھا کہ سرمایہ خرچ نہیں ہوگا۔ بلکہ آمد میں سے اس وقت تک انہوں نے جو خرچ کیا ہے۔ وہ چار لاکھ اور کچھ ہزار کی رقم تو اس لائبریری کی عمارت اور فرنیچر پر خرچ کی گئی ہے جسے آپ جلسہ گاہ سے مسجد مبارک کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں دیکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت عمارت ہے گو مکمل بعد میں ہوئی تھی اور چھوٹی پہلے ہو گئی تھی۔ اس واسطے اس کے افتتاح پر مجھے یہ اعلان کرنا پڑا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی دوسری لائبریری بنانے کا بھی سے سوچ لو۔ انشاء اللہ وہ بھی بن جائے گی اس کے علاوہ ان کی تجویز ہے جو ہائی ٹیکنیکس انسٹی ٹیوٹ کی طرز پر زرعی اور ٹیکنیکل ٹریننگ کلاسز کھولنے سے متعلق ہے۔ یعنی یہ تعلیمی ادارہ نہیں لیکن اس کے لئے ابھی تک ان کو کوئی اور موزوں لفظ ملا نہیں جس سے ان کے ذہن میں جو منصوبہ ہے اس کو ظاہر کیا جاسکے۔ اس لئے وہ ہائی ٹیکنیکس انسٹی ٹیوٹ کی طرز کا کوئی منصوبہ سوچ رہے ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے ہیں اس لئے منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ جب وہ

مکمل ہوگا تو اس کے اوپر وہ خرچ کریں گے۔

علاوہ ازیں انعامی مضامین لکھوانے کا پروگرام تھا جو فی نفسہ بڑا ہی اہم نہایت ضروری اور بڑا ہی مفید پروگرام ہے لیکن نہ جماعت کے دوستوں نے اس کی طرف پوری توجہ کی اور نہ فضل عمر فاؤنڈیشن کے منتظمین نے جماعت کو مکما حقہ توجہ دلائی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سال ایسا بھی آیا کہ اس میں ایک مقالہ بھی معیاری نہیں تھا اور عملاً کسی سال میں بھی پانچ دس سے زیادہ مقالے نہیں آئے۔ پانچ چھ مقالے سال کے حساب سے آرہے ہیں۔ چنانچہ ۱۹۷۰ء میں چھ مقالے آئے۔ اس سے اگلے سال سات مقالے موصول ہوئے۔ اس سے پہلے ۱۹۶۹ء میں جو چند مقالے آئے تھے ان کے انعام کا فضل عمر فاؤنڈیشن نے اب تین سال کے بعد اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک انتظامی خرابی ہے۔ جس کام کا نتیجہ جتنا جلد تر ممکن تھا اتنا جلد نہ نکلے تو اس میں حصہ لینے والوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں رہتی۔ مثلاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ گھوڑوں کی پیشانی میں امت مسلمہ کے لئے قیامت تک خیر و برکت کے سامان رکھے ہیں۔ میں نے جماعت کو ایک تحریک کی تھی کہ دوست گھوڑوں اور ان کی افزائش نسل کی طرف توجہ کریں۔ چنانچہ اچھی نسل کے گھوڑے پالنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لئے ہم نے اس سال بھی گھوڑ دوڑ کرائی۔ اب فرض کریں کہ گھوڑ دوڑ تو اس سال ہوتی اور ان کو انعام تین سال کے بعد دیا جاتا تو اگلے سال کسی نے گھوڑ دوڑ میں شامل نہیں ہونا تھا لیکن گھوڑ دوڑ ختم ہوئی اور وہیں اول دوم آنے والے گھوڑوں کے مالکوں میں سے کسی کو پانچ کسی کو دس اور کسی کو پندرہ کسی کو بیس روپے بطور انعام مل گئے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ غرض کسی کام میں دلچسپی پیدا کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جلد از جلد انعام دے دیا جائے۔ پس میں فضل عمر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تین سال کے بعد کسی کو انعام دیں گے تو اس مقالہ نویسی میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ اب مثلاً ۱۹۷۰ء میں جو مقالے آئے تھے ان میں سے کسی کے انعام کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ استثنائی طور پر ایک احمدی نو مسلم ڈاکٹر عبدالہادی صاحب کیوسی (وہ بڑے سکالر ہیں اس میں کوئی شک نہیں) انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اسپرٹو زبان میں کتاب لکھنے پر انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا

ہے۔ فیصلہ استثنائی ہے۔ انعام استثنائی نہیں۔ کیونکہ وہ میرے نزدیک بھی اس کے مستحق ہیں۔ پھر حضرت فضل عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح کی تیاری گو ۶۷-۱۹۶۶ء سے شروع ہے لیکن اب ۱۹۷۲ء ختم ہو رہا ہے مگر ابھی تک وہ آخری شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئی پہلے ملک سیف الرحمن صاحب نے ایک مسودہ ایک کمیٹی کے مشورہ کے ساتھ تیار کیا۔ پھر فاؤنڈیشن نے کہا نہیں یہ بھی درست نہیں ہے اب یہ کام میاں طاہر احمد صاحب کے سپرد ہے کہ وہ اس کو از سر نو لکھیں یا ملک سیف الرحمن صاحب کے تیار کردہ مسودہ کی اصلاح کریں یا جیسے بھی مناسب ہو۔ بہر حال یہ کتاب اس وقت تک چھپ جانی چاہئے تھی لیکن ابھی تک نہیں چھپ سکی۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے عید الاضحیہ کے خطبات کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بھی انشاء اللہ کتابی صورت میں جلد شائع ہو جائیں گے۔

میں نے فضل عمر فاؤنڈیشن اور اس کی کارکردگی کے ضمن میں ایک بات نمایاں کی ہے دوست اس کو ذہن میں رکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ بات نمایاں کی ہے کہ فضل عمر فاؤنڈیشن کی نقد آمد ۵۸۰,۷۷,۳۰ تھی اور اس کی انتظامیہ نے سوچا اور صحیح سوچا کہ سرمایہ کی بجائے سرمایہ کی آمد خرچ کرنی چاہئے۔ اس لئے انہوں نے یہ سرمایہ مختلف کمپنیوں کے حصص میں لگا دیا اور ان کو اوسطاً ایک لاکھ پندرہ بیس ہزار روپے سالانہ کے حساب سے نفع ملا۔ اس نفع کی مقدار نے خیرات اور نیکی کے کاموں کو محدود کر دیا۔ کیونکہ جب نفع ہی سال میں اوسطاً لاکھ سو لاکھ آنا ہے تو وہ سال میں دس لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں اس واسطے وہ خرچ کہاں سے کریں گے لیکن بعد میں ایک اور تجارت کی گئی جس کی شکل ہی کچھ اور ہے۔ میں آگے چل کر اس پر روشنی ڈالوں گا۔ دوست ان ہر دو تجارتوں کا جب اپنے ذہن میں موازنہ کریں گے تو بے اختیار ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد جاری ہو جائے گی۔

نظارت اصلاح و ارشاد متعلقہ وقف عارضی و تعلیم القرآن

اس نظارت کے تحت جو کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعض حصوں کی طرف ہماری جماعت پوری

توجہ نہیں کر رہی۔ اس سال یعنی یکم جنوری تا دس دسمبر وقف عارضی کے کل ۳،۳۳۲،۴ فارم موصول ہوئے۔ یہ کوئی ایسی زیادہ کمی تو نہیں جو باعث فکر ہو۔ تاہم میں یہ چاہتا تھا کہ پانچ اور سات ہزار کے درمیان فارم آجائیں۔ اگر پانچ ہزار بھی لے لیں تو پھر بھی سات سو کی کمی ہے جہاں تک وقف عارضی کے فنود کا تعلق ہے دوران سال کل ۷،۹۴،۲ فنود باہر بھجوائے گئے۔ یہ بھی کم ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جلسہ سالانہ پر بھی کہا تھا یہ بڑی ہمت کا رضاء کارانہ کام ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اپنی جگہ کو چھوڑنا، اپنے خرچ پر جانا، کسی کی مہمان نوازی قبول نہیں کرنی خود کھانا تیار کرنا وغیرہ۔ گویا اس طرح پندرہ دن تک کام کرنا بڑے مجاہدہ کا کام ہے۔ اس عرصہ میں وہ عام تکلیفوں سے بھی زیادہ تکلیف برداشت کرتے ہیں مثلاً زیادہ وقت دیتے ہیں، کم سوتے ہیں، زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نشان بھی زیادہ دیکھتے ہیں۔ بہر حال اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بہت ساری ہماری کمزور جگہیں تھیں جو ہماری نظر سے اوجھل تھیں وہ سامنے آگئیں۔ بعض جگہ جہاں تربیت کی کمی تھی وہاں تربیت ہوگئی۔ بعض جگہ جہاں تبلیغ کی ضرورت تھی وہاں تبلیغ ہوگئی۔ دوست ہنستے کھیلتے باتیں کرتے، کھانا پکاتے، مسجد میں گفتگو کرتے، اپنوں سے ملتے غیروں سے باتیں کرتے دن گزار دیتے ہیں۔ یہ ایک اور ہی روحانی فضا ہے جو وقف عارضی کے ذریعہ انسان کو میسر آتی ہے۔ اس کو پروفیشن (Profession) تو نہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ پھر پروفیشن کا یہ مطلب ہوگا کہ سارے احمدی پروفیشنل مبلغ نہیں ہیں۔ سارے احمدی پروفیشنل مبلغ ہیں اس لئے اس معنی میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن عام معمول کے خلاف یہ ایک قسم کی تربیت کرنے، ماحول کو سنوارنے، فضا کو حسین بنانے کا ایک کام ہے۔ یہ بھی ایک مہم ہے جو جاری کی گئی ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقف عارضی میں حصہ لینے والوں کو بہت ہی، بہت ہی، بہت ہی جزاء عطا فرمائے۔ فضل عمر درس القرآن کلاس ہر سال ایک ماہ کے لئے منعقد ہوتی تھی پچھلے سال میں نے کہا کہ ایک ہفتہ کے لئے امراء اضلاع اپنے ہاں کلاس کا انتظام کیا کریں اور میں نے یہ ہدایت اس لئے دی کہ ایک دو امراء نے میرے پاس یہ اعتراض پہنچا دیا کہ مرکز میں اس کلاس کا انتظام بڑا خراب ہے بچے مسجد میں شور مچاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بچے انہی کے اضلاع سے آئے ہوئے تھے۔ اس لئے میں نے کہا ان کو آداب

مسجد اپنے ضلع میں سکھایا کرو۔ پھر ہمارے پاس بھیج دیا کرو۔ پھر اگلے سبق ہم سکھایا کریں گے۔ چنانچہ اس سال یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ میری طبیعت پر یہ اثر ہے کہ یہ طریق خاطر خواہ کامیاب نہیں رہا۔ اس کام کے انچارج ابوالعطاء صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں بھی یہ طریق اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ اس لئے ساری جماعت کے سامنے ایسے امراء جواب دہ ہیں کہ وہ کیوں ایک ہفتہ تک بھی جماعت کے بچوں کو سنبھال نہیں سکے۔ یہاں مرکز میں جب وہ آئیں گے اور انشاء اللہ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے تو ہم ان کو سنبھالیں گے۔ لیکن چونکہ یہ کلاس گرمیوں میں ہوتی ہے اور مجھے انسوس ہے کہ میں خود یہاں نگرانی نہیں کروا سکتا کیونکہ گرمی میرے لئے بیماری بن چکی ہے۔ خون میں شکر آنے لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جس سے بعض اور عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے گرمیوں میں مجھے کسی نہ کسی ٹھنڈے مقام کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ورنہ میں کام نہیں کر سکتا۔ کام تو میں جہاں بھی جاؤں کرتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ میں چھٹی پر ہوتا ہوں لیکن بہر حال ربوہ سے باہر ہوتا ہوں۔ ویسے ان دنوں میں بھی ایک دو دفعہ ربوہ آجاتا ہوں۔

جہاں تک اس کلاس کی تعداد کا تعلق ہے اس میں ہمارے بچے اور نوجوان خاصی بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ تاہم بچیاں سبقت لے جاتی ہیں۔ بہت ساری جگہ ہیں جہاں ہماری بچیاں آگے نکل رہی ہیں اس جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو اپنی فکر کرنی چاہئے کیونکہ اس تقریر کی آواز نہ جلسہ گاہ میں بھی پہنچ رہی ہے ان کو میں نہیں کہہ رہا۔ چنانچہ اس سال فضل عمرؒ درس القرآن کلاس میں ۳۹۱ طلبہ اور ۴۰۹ طالبات شامل ہوئیں اور میں سمجھتا ہوں اور میرا تاثر یہ ہے کہ طالبات اپنے نتیجے کے لحاظ سے بحیثیت مجموعی طلبہ سے آگے نکل گئی ہیں۔ یعنی اول دوم آنے کے لحاظ سے نہیں لیکن جتنی فیصد طالبات ساٹھ فیصد سے زیادہ نمبر لیتی ہیں اتنے فیصد طلبہ ساٹھ فیصد سے زیادہ نمبر نہیں لیتے۔ یعنی عام طور پر طالبات کا نتیجہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ انہماک کے ساتھ درسوں کو سنتی اور یاد رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری بچیوں کو مغربی تہذیب کی بدعنوانیوں سے محفوظ رکھے اور وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ اسلام کی اس آخری جنگ، اس غالب جنگ اور اس فتح مند جنگ میں حصہ لینے والی ہوں۔ یہی نظارت مجلس ارشاد

کا بھی اہتمام کرتی ہے اس سال مجلس ارشاد کے چار اجلاس ربوہ میں منعقد ہوئے اور بیرونی جماعتوں میں سے ۱۶ جماعتوں نے اس کا اہتمام کیا۔

تعلیم القرآن بذریعہ موصیان کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے کام کا یہ حصہ بہت کمزور ہے صرف ۲۴ مجالس کی طرف سے رپورٹیں موصول ہوئی ہیں۔ پس موصی صاحبان پر تو ہم بڑا احسن نظر رکھتے ہیں ان کو زیادہ توجہ کے ساتھ زیادہ تندہی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبا ہنا چاہیے۔

تحریک جدید

اس وقت ۳۱ غیر ممالک میں ہمارے مشن کام کر رہے ہیں اور دنیا کو (بیچ میں ناخن تو ہیں) ہمارے مشن نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جماعت احمدیہ کو اپنی تعداد میں بھی اور اپنے اثر و رسوخ اور خدمت میں بھی زیادہ پاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اس عرصہ میں جونئی مساجد بنائی گئیں تحریک جدید کی رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد ۲۴ ہے لیکن میرے علم میں اور بھی بہت ساری مساجد ہیں جو غیر ممالک میں بنائی گئی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب جو خدا کے فضل سے بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی مسجد بنوائی ہے لیکن دفتر نے اس کو اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کیا۔ پس یہ میرے علم میں ہے کہ کئی اور بھی اچھی مساجد بنائی گئی ہیں۔ جس کا تحریک جدید کو علم نہیں ہوا اور وہ اس رپورٹ میں شامل نہیں۔ علاوہ ازیں بیرونی ممالک میں ۷۱ نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ گذشتہ دو سالوں میں چونتیس مبلغین باہر تشریف لے گئے اور اٹھائیس مبلغین باہر سے واپس مرکز میں تشریف لائے۔

تحریک جدید کی طرف سے جہاں تک قرآن کریم کے تراجم اور ان کی اشاعت کا تعلق ہے کچھ زبانوں میں تو پہلے تراجم ہو چکے ہیں۔ مثلاً انگریزی، ڈچ، جرمن، سواحیلی زبان میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ تراجم مع تفسیر قرآن بھی چھپتے ہیں اب تو میں نے اشاعت قرآن کریم کے لئے ایک علیحدہ محکمہ کھول دیا ہے۔ آپ بھی بڑی دعائیں کریں ہم نے بھی بڑی دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں بھی بڑے فضل نازل کر رہا ہے۔ غیر مبائعین کے پاس جو

ترجمے والا قرآن کریم تھا۔ میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کیوں کہ اس پر ایک زمانہ گذر چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تاہم انہوں نے ساٹھ سالہ محنت کے نتیجے میں قرآن کریم انگریزی ترجمہ وغیرہ کے ایک لاکھ اور چند ہزار نسخے شائع کئے ہیں اور خدا کے فضل سے ہم نے صرف پچھلے سال کے عرصہ میں ۷۵ ہزار قرآن کریم شائع کر دیئے اور انشاء اللہ اس اگلے سال میں ہم ان سے کہیں آگے نکل جائیں گے اور جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا میری یہ خواہش ہے اور میری اور آپ کی بھی یہ دعا ہونی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے کہ اگلے پانچ سات سال میں دس لاکھ قرآن کریم یا ترجمہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچادیں۔ یہ انسان کی تعداد کے لحاظ سے کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن اسے ہم ایک بڑے کام کی ابتداء ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لئے بعض اور تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اس ضمن میں میں آگے چل کر بیان کروں گا۔

بہر حال تحریک جدید نے سواحیلی زبان میں قرآن کریم پانچ ہزار کی تعداد میں دوبارہ شائع کیا ہے۔ یوگنڈا کی یوگنڈوی زبان کے ترجمے کی پہلے پانچ پاروں کی طباعت ہو چکی ہے۔ سویڈش زبان میں ۲۱ پاروں کا ترجمہ طباعت کے لئے تیار ہو چکا ہے۔ تحریک جدید کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب میں سے ”ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات“ انگریزی میں پانچ ہزار کی تعداد میں، توضیح مرام پانچ ہزار کی تعداد میں، فتح اسلام پانچ ہزار کی تعداد میں اور برکات الدعا پانچ ہزار کی تعداد میں شائع ہوئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کے اقتباسات ”ہم مسلمان ہیں“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کئے گئے تھے یہ کتاب انگریزی میں زیر طبع ہے۔ اسلامی اصول کی فلاسفی اسپینش زبان میں پہلی دفعہ زیر طبع ہے۔ انشاء اللہ دو ہزار کی تعداد میں شائع ہو جائے گی اسی طرح ”کشتی نوح“ ”مسیح ہندوستان میں“ بھی اسپینش زبان میں زیر طبع ہیں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی کتب میں سے ”احمدیت یعنی حقیقی اسلام“ کو تحریک جدید نے ساتویں بار شائع کیا ہے۔ ”اسلام کا اقتصادی نظام“ اسپینش زبان میں دو ہزار کی تعداد میں اور ”لائف آف محمد“ جرمن زبان میں دو ہزار کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ ”دعوۃ الامیر“ کا عربی ترجمہ کروالیا گیا ہے۔ اسی طرح ”دعوۃ الامیر“ کا ترکی زبان میں

ترجمہ مکمل ہو چکا ہے ”دعوۃ الامیر“ کا سوا حلیٰ ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔

ترکی ترجمہ کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی میں ہم ابھی تک اپنا مشن قائم نہیں کر سکے لیکن ترکوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے احمدیت کا پیار پیدا کیا ہوا ہے۔ گو وہاں مشن نہیں لیکن پھر بھی چند ایک دوست احمدی ہو چکے ہیں۔ جو دوست وہاں جاتے ہیں وہ یہ رپورٹیں لے کر آتے ہیں کہ وہ بڑے پیار سے باتیں سنتے ہیں۔ جو ترک مزدور سوئٹزر لینڈ اور جرمنی میں کام کر رہے ہیں وہ عیدین اور بعض دوسرے مواقع پر مسجد میں آ کر خادموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے گویعت نہیں کی لیکن بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا احمدیت کی طرف میلان ظاہر کرنے کے لئے کافی ہیں۔ مثلاً ایک ترک نے کہا کہ ہم احمدیت کو کیسے قبول کر لیں جب کہ ہم ”حنفی“ کے لفظ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک تاریخی پس منظر ہے جس کی وجہ سے حنفی کا لفظ ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا تم عجیب ہو تمہیں ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ پہلے آپ حنفی مسلمان تھے اب تم حنفی احمدی مسلمان بن جاؤ گے۔ اگر تم حنفی کا لفظ اپنے ساتھ رکھو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

علاوہ ازیں اسپینش زبان میں کمیونزم اینڈ ڈیموکریسی (Communism and Democracy) کا ترجمہ مکمل کروا لیا گیا ہے پھر اسی اسپینش زبان میں ”میں اسلام کو کیوں نہیں مانتا“ کو پانچ ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ میرا افریقہ کے نام ایک چھوٹا سا پیغام تھا ”محبت اور اخوت کا پیغام“ اسے تحریک جدید نے پانچ ہزار کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ اسی طرح ”امن کا پیغام اور ایک حرفِ انتباہ“ بھی شائع کیا گیا ہے۔ حرفِ انتباہ کے متعلق جیسا کہ دوست جانتے ہیں ایک بڑا زبردست انتباہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چھوٹا سا مضمون ۱۹۶۷ء میں انگریزی میں تیار ہوا تھا۔ جرمن زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ڈینش زبان میں بھی ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب یہاں بھی شائع کی گئی ہے۔ اس کی بھی اشاعت ہونی چاہئے۔ کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کے لئے جو عظیم بشارتیں دی ہیں اور حضرت مہدی معبود علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان عظیم بشارتوں کا اس میں ذکر ہے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑی تہدی کے ساتھ دنیا کو کہا گیا ہے

کہ تمہیں دو راستوں میں سے ایک کو قبول کرنا پڑے گا۔ تیسری راہ کوئی نہیں ہے چاہے ایک راستہ کو قبول کرو جو امن کا ضامن ہے چاہے دوسرے راستے کو قبول کرو جو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یعنی یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا جو راستہ ہے جو تقویٰ کی راہیں ہیں ان کو قبول کرو یا تباہی کے راستے کو قبول کرو۔

تحریک جدید نے کچھ متفرق کتب بھی شائع کی ہیں۔ مثلاً میاں مبارک احمد صاحب کی لکھی ہوئی سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ترکی اور اسپینش زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ غالباً جرمن زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ نماز کی کتاب سواحیلی اور اسپینش میں طبع کروائی گئی ہے ”ادعیۃ الفرقان“ سواحیلی میں دوسرا ایڈیشن طبع کروایا گیا ہے۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام، پانچ ہزار کی تعداد میں طبع کروائی گئی ہے۔ ”اسلام اور عیسائیت کی تعلیم کا موازنہ“ اٹالین زبان میں پانچ ہزار کی تعداد میں طبع کروائی گئی ہے۔ پھر ایک کتاب ”الکفر مِلَّةٌ وَاٰحِدَةٌ“ ہے اس کو عربی زبان میں طبع کروایا گیا ہے۔ یہ دراصل ان مسلمانوں کے حق میں ہے جو اردن وغیرہ میں تھے۔ جن پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ یہ ایک پرانا مضمون ہے۔ جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ یہ بھی بڑا عجیب مضمون ہے۔ ”عیسائیت پر ریویو“ انگریزی میں پانچ ہزار کی تعداد میں، ”کفارہ“ انگریزی میں تین ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتب تحریک نے شائع کی ہیں اور ان کی اشاعت بالخصوص غیر ممالک میں کی جانی ہے۔ گو بیرونی ممالک میں اشاعت کتب ہو رہی ہے اور یہ کام بڑا ضروری ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم غیر ممالک میں قرآن کریم مترجم کی اشاعت کریں۔ جس کے لئے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایک اور سکیم کے ماتحت کام شروع ہو چکا ہے۔

حَدِیْقَةُ الْمُبَشِّرِیْنَ

اس کا ذکر غالباً میں نے ۱۹۷۰ء کے جلسہ سالانہ پر بھی کیا تھا۔ کچھ اصلاح طلب امور اپنے مبلغین کے متعلق جب میرے علم میں آئے تو میں نے سوچا کہ اس وقت شاہدین کے دو گروہ بن گئے ہیں یعنی ایک صدر انجمن کے مربی اور دوسرے تحریک جدید کے مبلغ، یہ صورت درست نہیں

ہے۔ جب سارے شاہد ہیں اور سارے الاما شاء اللہ قربانی دینے والے اور فدائی ہیں تو پھر مربی اور مبلغ کا امتیاز نہیں ہونا چاہئے۔ اس فرق کو دور کرنے کی بہتر صورت یہی تھی کہ یہ سب ایک ہی انتظام کے ماتحت رہیں۔ چنانچہ اس کے لئے جو ابتداءً انتظام کیا اس کا نام پول (Pool) رکھا گیا۔ یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے اور یہ کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اور کوئی موزوں لفظ ملتا نہیں تھا۔ اس لئے اسے اختیار کر لیا گیا پھر اس کا نام ”حدیقۃ المبشرین“ رکھا گیا۔ یہ نام بڑا اچھا لگتا ہے۔ گویا ایک ایسا باغ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاہدین (مربیان و مبلغین) کی صورت میں خوبصورت درخت عطا فرمائے ہیں۔ ان کے اس مشترکہ انتظام کا اصول یہ بنایا ہے کہ پہلے قاعدہ کے مطابق جامعہ احمدیہ سے فارغ ہونے والے شاہدین کی تقسیم تعداد کے لحاظ سے تو ہو جائے گی۔ کیونکہ انجمن اور تحریک دونوں نے ان کا خرچ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر جامعہ احمدیہ سے گیارہ لڑکے شاہد بن کر نکلے ہیں تو پانچ انجمن کے حصہ میں اور چھ تحریک کے حصہ میں آئیں گے۔ یا کسی سال پانچ تحریک کے حصہ میں آئے ہیں اور چھ انجمن کے حصہ میں آئے ہیں۔ تو ایسی نسبت سے ان کو گذارہ دینے کے لحاظ سے دونوں کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن یہ کہ زید تحریک کا ہے اور بکر انجمن کا ہے یہ نہیں ہوگا تحریک کو اس کی ضرورت کے مطابق جو بھی اچھے اور تجربہ کار مبلغ ہوں گے جن کا ہمیں بھی تجربہ ہوگا کہ وہ باہر کام کر سکتے ہیں دے دیئے جائیں گے۔ ورنہ یہ ایک لحاظ سے ظلم ہے گو ہم ان پر ایک لحاظ سے غصہ بھی ہوتے ہیں لیکن دراصل ظالم تو ہم ہی بنتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایک بچہ آج جامعہ احمدیہ سے پاس ہوتا ہے تو کل اسے ٹکٹ دے کر کہتے ہیں نائیجیریا میں جا کر تبلیغ کرو۔ حالانکہ تبلیغ کرنے کا اسے ابھی کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا صحیح مبلغ کی روح ابھی اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی صفات کے عرفان کے متعلق جو تعلیم دی ہے اس کو اس نے مکافقہ حاصل ہی نہیں کیا۔ اس کے متعلق اس کا علم کتابوں تک محدود ہے۔ اس کو دعاؤں کے ذریعہ عملی میدان میں کام کرنے کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی صفات کا عملی مشاہدہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور عرفان پختہ نہیں ہوا مگر اسے ہم اٹھا کر بیرونی ملکوں میں بھجوا دیتے ہیں۔ جہاں وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتا ہے جن سے جماعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلاً غانا میں

ہمارے ایک مبلغ نے یہ غلطی کی کہ گورنمنٹ کا ایک انسپکٹر معائنہ کرنے کے لئے آیا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ کالا آدمی ہے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے کس طرح پیوں میری اس سے ہتک ہو جائے گی۔ تم تو ان کی خدمت کے لئے گئے ہو۔ تم تو اس کے غلام بن کر آئے ہو جس نے بعض روایتوں کی رو سے ایک یہودی یا بعض لوگوں کی روایت کی رو سے ایک عیسائی کا گند صاف کیا تھا۔ یہ روایت غالباً پہلی روایت کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ پہلے تو مجھے علم نہیں تھا۔ کل پرسوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا اور بستر پر اس کا اسہال نکل گیا تھا۔ جب وہ کسی کام کے لئے آیا تو اس نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بستر کے کپڑے دھورہے تھے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود پر اس وقت بھی ہزاروں لوگ جان قربان کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ کے جاں نثاروں نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرا مہمان تھا۔ خدا نے مہمان کے جو حقوق مقرر کئے ہیں ان کو میں ادا کروں گا۔ چنانچہ جب اس عیسائی نے یہ دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پس اس پاک وجود کے خادم، اس کے غلام بلکہ اس کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہ پانے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب ان کو خدمت کا موقع ملے اور وہ افریقہ میں جائیں تو یہ کہہ دیں کہ کالے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے میں ہماری بڑی بے عزتی ہے۔ لیکن اس بے چارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کی تربیت کئے بغیر، اس کو مانجھے بغیر، اس کو پالش کئے بغیر وہاں بھیج دیا۔ میں مانتا ہوں کہ ہیرے ہیں لیکن لوگ جب کان سے ہیرا نکالتے ہیں تو اسے کب فروخت کے لئے بھیجتے ہیں۔ جب تک اس کو پالش نہ کر لیں کٹ نہ کر لیں۔ چنانچہ پہلے آپ ان کو کاٹتے ہیں، ان کے مختلف زاویئے بناتے ہیں پھر پالش کرتے ہیں اور پھر وہ بازاروں میں بکنے کے لئے جاتا ہے۔ جو آدمی وقف کرتا ہے وہ ہیرا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن وہ جس وقت کان سے نکلتا ہے یعنی جامعہ احمدیہ پاس کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ہیرے کی طرح کٹ بھی کریں اور پالش بھی کریں پھر ہم ان کو کہیں کہ جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ خدائے قادر و توانا نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی معبود کو بنی نوع انسان کی خدمت کرنے کے لئے یہ ہیرے اور جواہرات عطا فرمائے ہیں۔

اس انتظام کے ماتحت میں نے ایک ریفریشر کورس بھی جاری کیا ہے۔ کیونکہ علم تو ہر آن بڑھ رہا ہے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب روحانی خزائن ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے اس لحاظ سے مبلغین کے لئے ریفریشر کورس ضروری ہے۔ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مختلف جگہوں سے ہمارے مبلغ بعض نئی سے نئی معلومات بھجواتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے مبلغین کو مجموعی طور پر معلوم ہونی چاہئیں۔ اس واسطے ریفریشر کورس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ شاہدین جامعہ احمدیہ سے پڑھ کر آ جاتے تھے اور انہوں نے سلسلہ کی صرف وہ کتابیں پڑھی ہوتی تھیں جو ان کے کورس میں ہوتی تھیں۔ حالانکہ ایک مبلغ کو تو ساری کتابیں کم از کم تین دفعہ پڑھی ہونی چاہئیں۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو احمدی میری کتب کو تین دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کے متعلق خطرہ رہتا ہے۔ پس جس نے دوسروں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا ہے اس نے اگر خود تین دفعہ ساری کتابیں نہ پڑھی ہوئی ہوں تو وہ دوسروں کے اندر کس طرح ایمان پیدا کر سکتا ہے؟ غرض ریفریشر کورس میں ہم اس طرف بھی بہت زور دیتے ہیں

ادارہ طباعت و اشاعت قرآن مجید

اس ادارہ کے دو حصے ہیں ایک حصہ قرآن پبلیکیشنز کے نام سے جاری ہو چکا ہے۔ دوسرا پریس سے متعلق ہے۔ یعنی ربوہ میں پریس لگانے کا کام ہے اس کے متعلق میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے لگانے میں کچھ روکیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دوست دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور وہ روکیں دور ہو جائیں۔ تاہم جہاں تک اس کے پہلے حصہ کا تعلق ہے۔ اس وقت تک چھتر ہزار قرآن کریم طبع کروائے جا چکے ہیں۔ انگریزی ترجمہ پاکٹ سائز پچیس ہزار، انگریزی ترجمہ جمائل سائز تیس ہزار قرآن کریم اردو ترجمہ جو زیادہ تر یہاں کے لئے ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر صغیر کا ہے اور اسے جمائل سائز میں طبع کروایا گیا ہے۔ اس کی قیمت سات روپے رکھی گئی ہے یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے اس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ ضرب اور تقسیم میں کوئی دھیلہ آنے نہ جائے۔ تو پھر اس کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ یا وہ ہم اپنی طرف سے ڈالیں یعنی نقصان اٹھالیں یا نفع میں ڈال دیں۔ تو اس طرح جب چھتر ہزار کی تعداد میں چھپے گا تو اس کا بھی ہزار دو ہزار تو

ضرور بن جائے گا۔ یہ نفع تو ضرور ہے۔ لیکن ہم اس کو نفع نہیں کہہ سکتے گویا ہم قرآن کریم اردو ترجمہ اصل لاگت پر دے رہے ہیں۔ گویا ستر ہزار میں سے پچیس ہزار کی تعداد میں قرآن کریم مترجم نصرت جہاں کی سکیم کے ماتحت یہاں سے خرید کر باہر بھجوائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ قریباً چھ ہزار نسخے (بعض جگہ تھوڑے سے سادہ قرآن کریم بھی گئے ہیں) باہر والوں نے LC کھول کر منگوائے ہیں۔ اس سے ہماری حکومت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی میں نے ایک سکیم بنائی ہے۔ حکومت کی بھی تو خدمت کرنی چاہئے۔ اس واسطے میں نے سکیم بنائی ہے کہ پہلی سیڑھی یا پہلے درجہ پر ایک لاکھ قرآن کریم گیارہ ڈالر فی نسخہ قیمت پر امریکہ بھجوائے جائیں۔ اس سلسلہ میں ہماری خط و کتابت کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت کو گیارہ لاکھ ڈالر یعنی ایک کروڑ اکیس لاکھ روپیہ زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ پھر ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ کاغذ منگوانے دو۔ کچھ پریس کی مشینری منگوانے دو۔ پس یہ سکیم بھی ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکن کمپنیوں سے باقاعدہ خط و کتابت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم اچھے کاغذ پر چاہئے اور ۶۰ فیصد کمیشن دو۔ ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ کیونکہ امریکہ میں لوگ بڑی قیمت پر کتابیں لے لیتے ہیں۔ ایک امریکن یہاں آیا تھا تو چونکہ پہلے ہمارا اندازہ تھا کہ چار پانچ شلنگ قیمت رکھیں گے چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ ہم اتنی تھوڑی قیمت پر قرآن کریم دیں گے۔ تو وہ چیخ پڑا اور کہنے لگا خدا کے لئے اتنی سستی کتاب ہمارے ملک میں نہ بھیجیں ہمارا ملک بہت امیر ہے لوگ سمجھیں گے کہ چونکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس لئے یہ اچھی کتاب نہیں ہے جب تک آپ اس کی زیادہ قیمت نہیں رکھیں گے لوگ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ چنانچہ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کی کم از کم گیارہ ڈالر قیمت رکھیں بہر حال اس کے لئے میں نے اپنی برادری کا وہ حصہ (جماعت احمدیہ ایک بین الاقوامی برادری بن جاتی ہے) جو لندن میں آباد ہے یعنی لندن کی جماعت سے کہا ہے کہ بارہ تیرہ ہزار قرآن کریم شائع کرنے کے لئے بہترین کاغذ (جس کے نمونے ہم نے منگوا کر دیکھ لئے اور پسند کر لئے ہیں) وہ ہمیں تحفہ بھیجو۔ پس اچھا کاغذ یہاں تحفہ آجائے گا پھر ہم اس پر قرآن کریم طبع کروا کر امریکہ بھجوائیں گے۔ کیونکہ یہاں کا بنا ہوا جو کاغذ اس وقت مل رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں۔ کیونکہ ہمارے

کاغذ بنانے کے کارخانے ابھی اتنا اچھا نہیں بنا سکتے۔ انشاء اللہ وہ بھی جلد اچھا کاغذ بنانے لگ جائیں گے لیکن ابھی وہ اتنے اچھے کاغذ نہیں بنا سکتے۔ کاغذ کی موٹائی ہر جگہ برابر نہیں ہوتی۔ اس واسطے جب فرمے میں آتا ہے تو جس جگہ کاغذ موٹا زیادہ ہوتا ہے وہاں ضرورت سے زیادہ سیاہی لگ جاتی ہے اور جہاں سے پتلا ہوتا ہے وہاں لفظ مٹ جاتا ہے یا لفظ صاف نہیں اٹھتا۔ اس لئے لندن سے جو کاغذ آئے گا اس پر قرآن کریم چھپوا کر امریکہ میں بھجوا دیا جائے گا کیوں کہ ان لوگوں کو اچھے کاغذ پر کتابیں چھاپنے اور پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اچھے کاغذ کے اوپر کتابیں شائع کرتے ہیں۔ اگر وہ یونہی فضولیات قسم کی کتابیں بیس بیس ڈالر پر بیچ دیتے ہیں تو قرآن کریم میں تو ہر بھلائی، عزت اور خیر کا سامان ہے اس کی قیمت کم کیوں ہو۔

میں نے جماعت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو جو طریق عیسائیت نے اختیار کیا ہے وہی قرآن کریم کی اشاعت کے سلسلہ میں ہمیں بھی اختیار کرنا چاہئے۔ عیسائیت کے پاس تو بڑے پیسے ہیں اس لئے دنیا کے ہر بڑے ہوٹل کے ہر کمرہ میں بائبل کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر کسی ہوٹل کے ایک کمرے میں دس ہزار آدمی ٹھہرتا ہے تو شاید ان میں سے ایک آدمی کو بائبل سے دلچسپی پیدا ہوتی ہو اور وہ اسے پڑھتا ہو۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی کو دلچسپی پیدا ہو تو اس کے لئے بائبل موجود ہے۔ لیکن اگر دس ہزار میں ایک آدمی کو قرآن کریم با ترجمہ دیکھنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لئے اس کمرے میں قرآن شریف نہیں ہے۔ اس واسطے بڑے بڑے ہوٹلوں کے ہر کمرے میں بائبل کے ساتھ قرآن کریم پڑھا ہوا ہونا چاہئے۔ اگر ہم نے دنیا کی توجہ قرآن عظیم کی طرف پھیرنی ہے تو پھر اس طرح بھی قرآن کریم کی اشاعت ضروری ہے۔ الحمد للہ ہمارے افریقن بھائیوں نے جو نائیجیریا میں بستے ہیں اس کی ابتداء کر دی ہے۔ نائیجیریا کے ایک بڑے ہوٹل کے سو کمرے تھے انہوں نے قرآن کریم مترجم خرید کر ہوٹل والوں کو دے دیئے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے یہ تحفہ بڑے پیار سے دیا اور انہوں نے بڑے پیار سے لیا۔ ایک دوسرے ہوٹل میں جس کے دو سو کمرے تھے وہاں احمدیوں نے دو سو قرآن کریم خرید کر ہر کمرے میں رکھنے کے لئے دیئے ہیں۔ ابتداء ہو گئی ہے اور جب ابتداء ہو جائے تو انشاء اللہ انتہاء بھی ہو جایا کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ کراچی کی طرف سے مجھے ابھی ابھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے

سو نئے بیچ لگشری ہوٹل میں رکھوانے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔

پریس کی سکیم مکمل ہو چکی تھی۔ مگر یہاں کے ملکی حالات بدل گئے۔ گذشتہ سال سوا سال کا زمانہ بڑے فسادات کا زمانہ ہے اب بھی کئی لوگوں کو جوش آجاتا ہے کہ ہم امن اور شرافت سے کیوں رہ رہے ہیں۔ کوئی شرارت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دنیا کے حالات بھی دگرگوں تھے۔ دنیا تو خفا تھی اپنے بھی پاکستان سے خفا تھے۔ پھر حکومت کو دنیا کے حالات کو دیکھ کر اپنے روپے کی قیمت گھٹانی پڑی چنانچہ ہمارا منصوبہ نہایت اعلیٰ مکمل پریس کی شکل میں ایک ہی کمپنی نے سارا تیار کر کے یعنی اس کی ہر چیز ایک لاکھ پاؤنڈ کے عوض تیار کی جس کا مطلب تھا کہ یہ پریس گیارہ لاکھ روپیہ میں لگے گا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے میرے دماغ میں سکیم آگئی تھی۔ اس لئے میں نے جماعت سے کسی مزید چندے کی اپیل نہیں کرنی تھی اور یہ رقم دے دینی تھی مگر روپے کی قیمت گر جانے سے وہی پریس جو گیارہ لاکھ روپے میں مکمل ہونا تھا اس پر اب ستائیس لاکھ روپے کی لاگت آتی ہے اور کچھ اس میں قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں شاید اس لئے بھی اور زیادہ قیمت ہوگئی ہو۔

پھر جب ستائیس لاکھ قیمت ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی سکیم سمجھائی بدلے ہوئے حالات میں اللہ تعالیٰ خود معلم بنتا ہے اور انگلی پکڑ کر منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ورنہ ہم عاجز بندے ہیں۔ اگر اس کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو ہم کہاں کام کر سکتے ہیں لیکن اس سکیم کے مکمل ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ تاہم میں یہ چاہتا تھا کہ کام شروع ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ پھیل کر عمدہ شکل میں مکمل ہو جائے گا۔ اس لئے زمین کی تعیین کر دی گئی ہے۔ جس پر چار دیواری کا ایک حصہ بھی بن چکا ہے۔

میرا خیال ہے کہ انشاء اللہ اگلے جلسہ سالانہ سے پہلے (اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خیر رکھے تو) وہاں ایک چھوٹا پریس لگا دیا جائے گا۔ جس میں اکثر یہیں کی مشینیں ہوں گی کچھ باہر سے منگوائیں گے۔ خود نہ منگوا سکتے تو بیرونی جماعتوں سے کہیں گے کہ قرآن کریم کی اشاعت کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ اور بعض مشینری ہمیں بطور تحفہ بھیجو۔ پس یہ پریس انشاء اللہ اگلے سال کسی نہ کسی شکل میں کام شروع کر دے گا۔ وباللہ التوفیق۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اگلے پانچ سات سال میں مختلف زبانوں میں دس لاکھ قرآن کریم مترجم دنیا کے ملک ملک میں پھیلا دیں۔ قرآن کریم کی اس ہمہ گیر اشاعت کی سکیم کو میں اس لئے دُہرا رہا ہوں کہ جہاں میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں ساری

جماعت بھی اس کے لئے دعا کرے کہ جو وقت ہم نے اس کی اشاعت کے لئے سوچا ہے خدا کرے اس سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے۔

مجلس نصرت جہاں

۱۹۷۰ء میں میں نے مغربی افریقہ کا دورہ کیا۔ میں گیمبیا میں تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ ان ملکوں میں اشاعت کی مہم کو تیز کرنے پر خرچ کرو۔ میں بڑا خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی حمد کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ اس نے بڑی مہربانی کی ہے۔ وہاں سے میں لندن آیا اور وہاں میں نے پہلی دفعہ اس کا اعلان کیا اور میں نے احباب سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم ایک لاکھ پاؤنڈ طبی مراکز اور تعلیمی اداروں پر خرچ کرو۔ اس لئے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ ایک لاکھ پاؤنڈ کی رقم کہاں سے آئے گی۔ میں تو ایک غریب بے کس انسان ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب خدا نے مجھے کہا ہے کہ خرچ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ مجھے یہ وعدہ بھی دے رہا ہے کہ میں خود اس رقم کو مہیا کروں گا اور اسی طرح مجھے یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور ٹیچر کہاں سے آئیں گے خدا خود اپنے فضل سے دے گا۔ جس بات کا مجھے فکر ہے اور آپ کو بھی فکر ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور وہ ہمارے اس منصوبہ میں برکت ڈالے پہلے تو میں نے ان کا کچھ اور ٹارگٹ مقرر کیا پھر میں نے ان کو کہا اور پھر یہاں بھی آ کر کہا کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت پر جتنے سال گزرے ہیں اتنے لاکھ اور لندن کی جماعت سے کہا کہ غالباً اتنے پاؤنڈ دے دو۔ اب تو پچاس ہزار پاؤنڈ کی قیمت کوئی چودہ پندرہ لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا میرے لندن سے روانہ ہونے سے پہلے پہلے دس ہزار پاؤنڈ نقد جمع کرو تا کہ ہم فوراً کام شروع کر دیں۔ ابھی چند دن ہوئے کہ تارا آیا ہے کہ وعدہ جات اکاون ہزار پاؤنڈ سے اوپر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ۳۷ اور ۴۰ ہزار کے درمیان وعدے ادا بھی ہو چکے ہیں گویا بہت تھوڑا حصہ ہے جو باقی رہتا ہے۔

چنانچہ میں نے واپس یہاں آ کر بھی تحریک کی اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم

ہے کہ جماعت نے مالی لحاظ سے فضل عمر فاؤنڈیشن میں جو زائد قربانیاں دی ہیں اس کا زمانہ ابھی ختم ہوا ہے اور اب خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق اس کے حکم سے جماعت کے کندھوں پر یہ نیا بوجھ ڈال رہا ہوں مگر مجھے امید ہے کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بشارت کے ساتھ اور ہنستے کھیلتے اس بوجھ کو اٹھالے گی۔

اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر ہم پر کیا کیا فضل نازل فرمائے۔ مخلصین پاکستان اس وقت تک نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں ۳۹۰,۲۰,۲۷ روپے کے وعدے کر چکے ہیں۔ جب کہ بیرون پاکستان میں وعدے پاکستانی سکہ میں ۳۱,۲۰,۸۰۰ روپے ہیں یعنی بیرون ممالک مجموعی طور پر پاکستان سے آگے نکل گئے ہیں۔ اس رقم میں ابھی وہ زائد وعدے جو انگلستان میں دوستوں نے کئے ہیں وہ شامل نہیں۔ اس طرح کل وعدے ۵۸ لاکھ سے اوپر جا چکے ہیں۔ میں نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے پیش نظر ۵۱ لاکھ کی خواہش کی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بڑی ہمت عطا فرمائی۔ دوستوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چنانچہ اکاون لاکھ کی بجائے اٹھاون لاکھ کے وعدے ہو چکے ہیں۔

اس تحریک میں حصہ لینے والے ۳,۲۸۲ پاکستان سے اور بیرونی ممالک میں حصہ لینے والے ۲,۰۱۱ دوست ہیں۔ پندرہ دسمبر ۱۹۷۳ء تک وصولی کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

پاکستان میں ۸۳۴,۷۸,۷۱ روپے یعنی تقریباً ۱۸ لاکھ روپیہ وصول ہو چکا ہے۔ بیرون پاکستان میں ۱۵ لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ اندرون اور بیرون پاکستان کی مجموعی رقم جو وصول ہو چکی ہے ۴۲۸,۶۷,۳۲ روپے بنتی ہے۔ ابھی وصولی کا زمانہ ختم نہیں ہوا۔ جتنی رقم فضل عمر فاؤنڈیشن میں جماعت نے دی تھی اس سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے۔ یعنی فضل عمر فاؤنڈیشن کی جو نقد رقم وصول ہوئی تھی وہ ۵۸۰,۷۷,۳۰ روپے جب کہ نصرت جہاں ریزرو فنڈ کی وصولی ۳۲ لاکھ سے زیادہ ہے۔ الحمد للہ علی ذالک

سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبْوَئِرَ لِيُؤْفِقِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
(فاطر: ۳۰، ۳۱)

اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ مومن خدا کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر کے گویا اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کرتے ہیں جن میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت زیادہ نفع بھی دیتا ہے۔

چنانچہ جماعت نے جو رقم دی وہ بھی گوا اللہ تعالیٰ سے تجارت کے مترادف ہے لیکن جب وہ رقم ہمارے پاس آئی تو میں نے سوچا کہ اس رقم سے بندوں سے تجارت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی جائے۔ یعنی انفرادی حیثیت میں بھی وہ ایک تجارت ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا نام تجارت رکھا ہے اور یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں پیسے کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نفع کی بعض شکلیں ہیں جن کے ضائع ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں لیکن جن کے جائز ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن جو تجارت ہے اس میں دونوں چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس میں نفع بھی ملتا ہے اور بعض دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں یعنی سرمایہ بھی جاتا رہتا ہے لیکن روحانی دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی تجارت کرتا ہے جس میں لَنْ تَبُورَ کی رو سے گھانا نہیں پڑتا، جس میں پیسے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو عام نفع ہے وہ بھی ملتا ہے۔

پس فرمایا لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ یعنی معمول کے مطابق جو نفع ہوتا ہے وہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا لیکن وہ اسی پر بس نہیں کرے گا۔ دنیا میں ڈیویڈنڈ (Dividend) دینے والی جو کمپنیاں ہیں وہ کوئی پانچ فیصدی کوئی آٹھ فیصدی کوئی دس فیصدی، کوئی بارہ فیصدی یا زیادہ سے زیادہ پندرہ فیصدی نفع دینے کا اعلان کرتی ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی میں دوں گا اس کے علاوہ جو بندوں کا معمول نہیں اور جو نفع دینے کا میرا معمول ہے وہ بھی میں دوں گا۔ اگر تمہارا اخلاص غیر معمولی اخلاص ہو گا تو میری طرف سے تمہارے اموال میں غیر معمولی زیادتی بھی ہوگی۔ میں تمہیں بہت زیادہ مال دوں گا۔

پس اس آیت کا میرے دماغ پر اثر تھا۔ چنانچہ جب یہ رقمیں جمع ہونی شروع ہوئیں تو ایک موقع پر مکرم محترم چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے میرے پاس آ کر بڑے اخلاص سے اور بڑے پیار سے اور بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ آپ کے پاس نصرت جہاں ریزرو فنڈ کی جو رقم

آ رہی ہے یہ آپ خرچ کر دیں گے تو سرمایہ کم ہو جائے گا۔ اس واسطے جس طرح ہم نے فضل عمرؓ فاؤنڈیشن میں کیا ہے اس طرح آپ بھی کریں۔ فضل عمرؓ فاؤنڈیشن کو نفع مند کاموں پر پیسے لگانے کا کافی تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جمع شدہ رقم تجارت پر لگا دیں اس سے جو فائدہ حاصل ہو اس کو اپنی سکیم پر خرچ کریں۔ اسی طرح مکرم کرنل عطاء اللہ خاں صاحب جو فاؤنڈیشن کے وائس چیرمین ہیں انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا۔ میں نے چوہدری صاحب سے کہا کہ چوہدری صاحب مکرم! جن کمپنیوں میں آپ یہ رقم لگائیں گے، وہ مجھے آٹھ فیصد یا دس فیصد یا بارہ فیصد یا زیادہ سے زیادہ پندرہ فیصد نفع دیں گی اس سے زیادہ تو نہیں دیں گی۔ میں نے بھی ایک تجارت سوچی ہے جس کے ساتھ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے سو فیصدی سے بھی زیادہ نفع دے گا۔ (نعرے)

چنانچہ میں نے اپنے رب کریم پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ تمام سرمایہ جو آپ کی طرف سے میرے ہاتھ میں دیا گیا تھا نصرت جہاں سکیم پر خرچ کر دیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں خرچ کرتا چلا گیا یہاں سے ڈاکٹر بھیجے۔ جن میں سے اکثر بیوی بچوں سمیت بھجوائے گئے تاکہ ان کا وہاں دل لگا رہے اور وہ ٹھیک طرح سے کام کر سکیں۔ ایک ایک ڈاکٹر اور ان کے خاندان پر صرف کرائے کے طور پر دس دس پندرہ پندرہ ہزار روپے خرچ آئے۔ اس کے علاوہ سکول ٹیچر بھجوائے گئے جن میں سے بعض کے بیوی بچے بھی ساتھ بھجوائے گئے جو سامان ہم ان کو باہر سے بھجوا سکتے تھے وہ بھی بھجوا یا یعنی کچھ یہاں سے کچھ غیر ملکوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ سب ان کو بھجوا یا گیا۔ اس عرصہ میں ایک لمحہ کے لئے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں پیسے خرچ کر رہا ہوں ختم ہو جائیں گے تو اور پیسے کہاں سے آئیں گے۔ چنانچہ ہر ہفتے خرچ کی رپورٹیں میرے پاس آتی ہیں میں ان کو ایک دن دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری توجہ اس طرف پھیری گئی کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو تسلی دلانے کے لئے دس لاکھ روپے کا ریزرو بنا دیا ہے۔ الحمد للہ۔ اور میرا کوئی خرچ ایسا نہیں جو میرے اصل سرمائے کو دس لاکھ سے نیچے لے آئے۔ ثم الحمد للہ اور اسی طرح غیر ممالک میں میرا کوئی ایسا خرچ نہیں جو میرے اس ریزرو کو وہاں کے لحاظ سے پندرہ ہزار پاؤنڈ سے نیچے لے آئے۔ یعنی اگر کسی ایک مہینے میں یا دو مہینے میں ایک لاکھ روپے خرچ کیا اور فی الواقع

خرچ کیا ہے مثلاً قرآن کریم خریدے گئے یا دوسرے اخراجات کرنے پڑے تب بھی اگر دس لاکھ سے رقم ایک ہزار کم ہوگئی تو بڑی جلدی ہی دس لاکھ سے اوپر چلی گئی۔ ایک تو یہ چیز ہے جو میرے مشاہدہ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فضل کرنے والا ہے چنانچہ میں اور بھی دلیر ہو گیا۔ چنانچہ میں نے خرچ کیا اور خدا کے نام پر اور اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لئے دل کھول کر خرچ کیا۔ ہم نے وہاں جو طبی مراکز اور تعلیمی ادارے کھولے (زیادہ تر طبی مراکز تھے) ان سے اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا نفع دیا؟ ہم نے ان کے اجراء پر اپنے سرمایہ سے بارہ اور پندرہ لاکھ کے درمیان خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رقم پر ان اداروں کی بدولت ہمیں ۶۳۵، ۱۶، ۳۵ روپے نفع دیا۔

الحمد لله على ذلك

فضل عمر فاؤنڈیشن نے اپنا سرمایہ دنیا کی تجارت پر لگایا اور دنیا کے معمول کے مطابق ان کو سات سال میں آٹھ لاکھ روپے نفع ملا اور ہم نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی اور اس پر کامل بھروسہ کیا اور اس کی مخلوق کی خدمت میں پیسے کے لحاظ سے کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور نہ ہمارے دل میں کوئی خوف پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے اس نے صرف پندرہ مہینے کی کوشش میں (سات سال نہیں) پینتیس لاکھ سے زائد ہمیں نفع عطا فرمایا۔ ہمارا سرمایہ بھی محفوظ ہو گیا اور خدمت کے کام بھی جاری ہو گئے۔

ہم نے پھر یہ نفع اپنے پاس تو نہیں رکھنا تھا۔ چنانچہ ہم نے پینتیس لاکھ میں سے تیس لاکھ کی رقم وہاں کے اداروں (طبی مراکز اور تعلیمی اداروں) پر خرچ کر دی۔ اس وقت سولہ ہیلتھ سنٹرز مغربی افریقہ کے چار ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور گیارہ ہائرسیکنڈری سکولز یعنی انٹرمیڈیٹ کالجز کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر ہم نے تیس لاکھ روپیہ خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینتیس لاکھ کا فائدہ پہنچایا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا سرمایہ محفوظ ہے۔ تیس لاکھ روپے ان ممالک میں آپ نے رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کیے اور نفع میں سے پانچ لاکھ سے زیادہ آپ کے پاس محفوظ ہے اور اس پر کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گذرا۔ صرف پندرہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے۔ پس یہ فرق ہے جو تجارت میں رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا اور بڑا پیار کرنے والا ہے ہمیں اس کا شکر کرنا چاہئے۔ جیسا کہ میں بتایا ہے ہم ان کی خدمت کے

لئے وہاں گئے ہیں اور آپ کی بے لوث خدمت نے ان کے دلوں پر بڑا اثر کیا ہے ان کو جو فائدہ ہوا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب مثلاً ہمارے سکول ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شمالی نائیجیریا کا علاقہ مسلم نارٹھ (Muslim North) یعنی مسلمانوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں کی ایک ریاست ہے جس کا نام سوکوٹو ہے۔ حضرت عثمان فوڈیو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلی صدی میں نائیجیریا میں مجدد ہوئے تھے، یہیں کے رہنے والے تھے۔ سوکوٹو کے گورنر نے لیگوس میں اخباری بیان میں بتایا ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں اس لئے ہم نے اپنی ریاست میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے ان کی تقریر ریڈیو پر سنی تو میں نے ایک افریقن بھائی سے کہا کہ تم کل چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں تمہاری ریاست میں اپنے خرچ پر چار سکول کھولتا ہوں لیکن دو چیزوں میں تم ہماری مدد کرو اور ہم سے تعاون کرو ایک یہ کہ ہم پاکستان سے زمین نہیں لا سکتے۔ ہمیں زمین دو جہاں ہم سکولز بنائیں دوسرے یہ کہ ہمارے ٹیچرز تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے ان کو آنے کی اجازت دو چنانچہ وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اجازت دے دی۔ بڑی مدد دی۔ ہم نے زمین خریدی۔ ہم نے اس پر مکان بنائے۔ ہم نے ابھی دو سکولوں کا کام مکمل کیا ہے اور ساڑھے نو لاکھ روپے ان کے اوپر خرچ کر دیئے ہیں۔ جب یہ سکول کھل گئے تو ریاست نے اعلان کر دیا کہ ہم یکم جنوری سے سارے سکول قومی تحویل میں لے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک تو ہم (جس نے سکولوں پر جتنا خرچ کیا ہے ہم اس کا) معاوضہ دیں گے اور دوسرے یہ کہ اگر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ قومی سکولوں میں پڑھانے کی پیشکش قبول کریں تو ہم ان کو موقع دیں گے۔ نائیجیریا کی جماعت نے جب اس کے متعلق مجھے لکھا تو میں نے اپنے اساتذہ سے کہلا بھیجا کہ تم ان کی سروس میں شامل ہو جاؤ کیونکہ ہم ان کی خدمت کے لئے گئے ہیں ہمارے آدمی ان کی خدمت کریں گے۔ تاہم گورنر سے وفد کی صورت میں ملو اور ان سے کہوں کہ ہم یہاں آئے ہم نے ان سکولوں کی عمارتوں وغیرہ پر پیسے خرچ کئے ہم نے اس لئے پیسے نہیں خرچ کئے تھے کہ ہم اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے پیار کی وجہ سے یہاں آئے تھے۔ ہم

تمہیں یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے کتنا پیار کیا ہے۔ آپ سکولوں کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم معاوضہ لیں۔ اس لئے دو شکلوں میں سے ایک مان لو یا تو ہمیں چیک دو۔ ہم ایک وفد کی صورت میں آ کر تمہاری خدمت میں تمہارے ہی علاقہ کے پسماندہ حصوں میں تعلیمی اغراض کے لئے پیش کر دیں گے اور اگر چاہو تو ہم وہ رقم لے کر ایک نئے سکول کی عمارت بنا دیں گے اور ٹیچر منگوالیں گے اور بنی بنائی عمارت تمہارے حوالے کر دیں گے۔

چنانچہ جب یہ وفد سوکوٹو کے گورنر کے پاس گیا تو دونوں باتوں سے بڑے خوش ہوئے اور گو پیسے تو حکومت نے بھی خرچ کرنے تھے لیکن وہ خصوصاً اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ جماعت نے ٹیچرز کو یہاں خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم ابھی حکومت نے اس کا آخری فیصلہ نہیں کیا۔

پس ہم ان کی خدمت کے لئے وہاں گئے ہوئے ہیں عیسائیوں کی طرح پیسے کمانے کے لئے نہیں گئے ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ نے تو یہ اعلان فرمایا تھا۔

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الشعراء: ۱۱۰)

کیا آپ یا میں کسی سے جا کر نیکی کرنے کی اجرت مانگیں گے؟ ہمارے آقا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اجرت نہیں مانگا کرتے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں خدمت کے لئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں اور انشاء اللہ پہنچیں گے اور پہنچیں گے جب تک کہ ساری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع نہیں کر لیتے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر نے غانا سے مجھے لکھا (اس میں تھوڑی سی تربیت کی کمی تھی) کہ غانا کا ملک ہیلتھ سینٹرز اور سکولوں کو قومیا لے گا۔ اس لئے ہسپتالوں اور سکولوں کی عمارتیں نہیں بنانی چاہئیں۔ میں نے ان کو لکھا کہ میں عمارتیں اپنے لئے تو نہیں بنا رہا انہیں کے لئے بنا رہا ہوں۔ اگر وہ قومی تحویل میں نہ بھی لیں تب بھی جس وقت میں نے دیکھا کہ جو ملک ہمارے ہسپتالوں اور سکولوں میں اپنے آدمی متعین کر کے ان سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے تو میں خود کہوں گا کہ وہ ان کو سنبھال لیں۔ غرض ہم

ہسپتال اور سکول کی عمارتیں ان کی خدمت کے کام کرنے کے لئے بنا رہے ہیں۔ اس واسطے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔

غانا میں ایک نئے کلینک کی عمارت پر بیالیس ہزار سیڈیز (کوئی اڑھائی لاکھ روپیہ) خرچ کرنے کے لئے منظور کر دیا ہے۔ اتنی رقم ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی اس سے یہ عمارت بھی بن جائے گی۔ وہاں کے لوگ بڑے غیر تربیت یافتہ ہیں اور تہذیب و تمدن میں بڑے پیچھے ہیں کئی اچھے لوگ بھی ہیں مگر ان کو اچھے ہونے کے باوجود لالچ بھی آجاتا ہے چنانچہ ایک پیراماؤنٹ چیف نے کہا میں تمہیں مفت زمین دیتا ہوں اور یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن جب ڈاکٹر وہاں چلا گیا اور کام شروع ہو گیا تو ہم نے کہا تم نے زمین کا وعدہ کیا تھا اس لئے اب زمین دو کہ ہم اس کے اوپر ہسپتال کی عمارت بنائیں تو کہنے لگا کہ میں اس شرط پر زمین دیتا ہوں کہ جب میری مرضی ہوگی میں یہ زمین مع اس عمارت کے جو آپ بنائیں گے واپس لے لوں گا۔ میں نے اپنے مشن سے کہا کہ یہ تو ان پر بھی ظلم ہے۔ ان کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ جب تک زمین اپنے نام پر قانونی طور پر رجسٹری نہ ہو جائے اس وقت تک عمارت نہیں بنانی۔ جب رجسٹری ہو جائے گی تو پھر تو جب دینی ہوگی حکومت کو دیں گے کسی فرد کو نہیں دیں گے۔

پس غانا میں میں نے ہسپتال بنانے کے لئے تین لاکھ روپے کی رقم کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن زمین کا جھگڑا تھا۔ اب میرے خیال میں جلدی مل جائے گی۔ اگلے سال انشاء اللہ ایک اور ہسپتال بن جائے گا۔ غرض خدا نے پیسے بھی دیئے اور یہ جماعت پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر خدا نے کام کرنے کے لئے آدمی بھی دیئے یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور جس بات سے ہماری طبیعت جنتوں کی فضا میں سانس لینے لگ گئی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے جو خزانوں کا مالک ہے ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے اس پیسے میں اتنی برکت ڈالی کہ اس دنیا میں غیر معمولی طور پر ہمیں پینتالیس لاکھ روپے نفع بھی دیا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم سے ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشا۔ ورنہ برکت ڈالنا تو نہ میرا کام اور نہ آپ کی کوشش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ جو بڑی برکتوں والا اور سارے خزانوں کا مالک ہے۔

اس وقت تک ہمارے ہیلتھ سنٹر ز پانچ گیمبیا میں چار سیرالیون میں، تین نائیجیریا میں اور

چار غانا میں قائم ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے ہم خدمت کے لئے وہاں گئے ہیں۔ ہم نے ان طبی مراکز کے ذریعہ ۳۰،۴۰۰ سے زائد ایسے مریض ہیں جنہوں نے فیس ادا نہ کی نہ دوائی کی قیمت دی ان کا مفت علاج کیا۔ یعنی جو غریب لوگ ہیں ہم ان کا مفت علاج کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم ان کی خدمت کے لئے گئے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے طبی مراکز کو اتنی مقبولیت بخشی ہے کہ وہاں کے لحاظ سے جو بڑے بڑے امیر اور لکھ پتی لوگ ہیں وہ بھی علاج کے لئے ہمارے ہسپتالوں میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وزیر صاحب ہمارے کلینک میں آنے لگ گئے۔ کسی نے ان سے کہا۔ تم وزیر ہو گورنمنٹ کا نہایت اعلیٰ ہسپتال موجود ہے۔ تم وہاں جاؤ گے لوگ تمہاری خوشامد بھی کریں گے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ سارے ڈاکٹر تمہارا اور تمہارے رشتہ داروں کا علاج کریں گے۔ تم سرکاری ہسپتال کو چھوڑ کر احمدیوں کے کلینک میں علاج کروانے کیوں چلے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لئے جاتا ہوں کہ وہاں جا کر میرے دل کو زیادہ تسلی ہوتی ہے اور ہونی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احمدی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں غیر معمولی شفاء رکھی ہے۔ اس واسطے ۳۰،۴۰۰ کا تو مفت علاج کیا لیکن خدا تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ امیر لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ ہمارے ہسپتالوں میں آ کر اپنا علاج کروائیں کیوں کہ انہوں نے دیکھا کہ احمدی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفاء ہے تو وہ اپنے علاج کے لئے ہمارے ہسپتالوں میں آنے لگ گئے۔

پس جہاں تیس ساڑھے تیس ہزار لوگوں کا مفت علاج کیا گیا وہاں تین لاکھ چار ہزار امیر لوگ اپنا علاج کروانے کے لئے آئے اور انہوں نے فیسیں ادا کیں۔ جس سے بہت زیادہ آمد ہوئی یہی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے جسے نفع سمجھنا چاہیے۔ پس اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ وہ تھوڑی سی قربانی کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے

ہمارے نئے سکول ابھی ابتدائی شکل میں ہیں یعنی پہلی دوسری جماعتیں جاری ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ ترقی کریں گے۔ تحریک جدید کے جو پہلے سکول ہیں ان میں سے سیرالیون کے ایک ہیڈ ماسٹر نے مجھے بتایا کہ جب سکول میں داخلے شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک دن میں حکومت کے چار چار وزیر بچوں کی سفارش لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے سکول میں


داخل کر لو۔ اب تو یہاں بھی عوامی حکومت ہے۔ دیکھیں گے ان کے وزیر کیا کرتے ہیں۔ ان سے پہلے کی حکومتوں کے جو وزیر تھے عوامی نہیں تھے مگر وہاں کے وزیر عملاً عوامی ہیں۔ ان کے درمیان امیر اور غریب یا وزیر اور عوام کا خاص فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے دفتر سے اٹھ کر ایک ایک دن میں چار چار وزیر ایک ہیڈ ماسٹر سے سفارش کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے اس کو سکول میں داخل کر لیں۔ سیرالیون میں حکومت نے یہ قانون بنایا کہ کسی ہائر سیکنڈری سکول میں چار سو سے زیادہ لڑکے داخل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس پر لوگوں نے ایک ہنگامہ بنا کر دیا اور کہا کہ احمدیہ میں تو یہ قانون نہیں چلے گا۔ (وہاں ہمارے سکول عام زبان میں ”احمدیہ“ کہلاتے ہیں) چنانچہ عوام نے حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا کہ حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہمارا قانون ”احمدیہ“ پر لاگو نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم نے اپنے حالات کے لحاظ سے مثلاً چھ سو لڑکے داخل کرنے تھے لیکن دو سال کی بات ہے وہاں کی حکومت پیچھے پڑ گئی کہ چھ سو لڑکا تو کم ہے۔ یعنی خود قانون بنایا کہ کسی سکول میں چار سو سے زیادہ لڑکا نہیں ہوگا لیکن پھر کہا کہ احمدیہ سکولز اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر کہا کہ تم نے جو چھ سو کی شرط لگائی ہے۔ ٹھیک نہیں۔ ہم پیسے دیتے ہیں تم سکول کے نئے ونگ (wing) بناؤ۔ نئی لیبارٹریز بناؤ۔ نئے سامان لاؤ۔ نیا سٹاف رکھو۔ ان کا سارا خرچ ہم برداشت کریں گے۔ مگر تم تعداد چھ سو کی بجائے آٹھ سو تک لے جاؤ۔ کیونکہ عوام ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے دنیا جہان کے خزانے تو اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اس کا فضل اس کے فضل کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے فضل کے حصول کے لئے عاجزانہ راہوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے فضل کے حصول کے لئے اپنی روح کو پانی کی طرح اس کے آستانے پر بہانا پڑتا ہے۔ اس کے فضل کو جذب کرنے کے لئے دنیا کی ہر مخلوق کو اپنے وجود سمیت لاشے، مضمضہ، سحجنہ پڑتا ہے۔ اس کے فضل کو جذب کرنے کے لئے سر کبھی اونچے نہیں ہوا کرتے بلکہ جھکتے جھکتے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں تب آسمان سے اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کسمپرسی کی حالت میں نئے کلینک جن میں ابھی پوری طرح طبی سامان بھی مہیا نہیں تھا

خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے ڈاکٹروں نے ایسی جگہ ہاتھ ڈالا کہ وہاں کے بڑے بڑے ماہر غیر ملکی جرمن، امریکن اور بلجیمن ڈاکٹر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ وہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اس کا اپریشن یہاں نہیں ہو سکتا اس کو باہر بھیجو۔ اب گورنمنٹ کے ہسپتال جن میں ہر قسم کا سامان موجود ہے مگر ہمارے ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس مریض کا اپریشن کرتا ہوں اور اس نے اس لکٹری کی میز پر (جس پر بعد میں اعتراض ہو گیا کہ تمہارے پاس لوہے کی میز ہونی چاہئے) لٹا کر اس کا اپریشن کر دیا اور وہ چنگا بھلا ہو کر گھر چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے لکھا کہ اس کے پاس ایک ایسی مریضہ آئی کہ مجھے خود اس بات کا یقین تھا کہ وہ دو چار دن میں مر جائے گی۔ پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جس کا نمائندہ ہوں یعنی خدائے قادر و توانا کا تو وہ تو اس کو اس حالت میں بھی شفاء دے سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو دعاؤں کے لئے لکھا۔ خود بھی دعائیں کیں اور یہ دعائیں کہ خدایا اسلام کو غالب کرنے کے لئے ہم تیری راہ میں خدمات بجالانے کی خاطر یہاں آئے ہیں تو اپنی قدرت کا اظہار فرما اور اس کو معجزانہ طور پر شفاء عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا علاج کیا اور چند دن کے بعد مجھے وہی عورت جو مر رہی تھی راستے میں ملی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ وہی عورت ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی ہاں۔ میں اچھی ہو گئی ہوں۔ اب چلتی پھرتی ہوں۔ پس اپریشن تو سینکڑوں ہوتے ہیں لیکن سینکڑوں نہیں بیسیوں اپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ماہرین نے جس کو لا علاج قرار دیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب روحانی فرزند مہدی معبود کے خادموں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس دنیا کو یہ معجزہ دکھایا کہ وہ لا علاج تندرست ہو کر بازاروں میں چلنے پھرنے لگے۔

وقت زیادہ ہو گیا ہے بعض تفصیل چھوڑی جاسکتی ہیں۔ اب اس تقریر کو ختم کرنے سے پہلے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی موجیں اور بھی زیادہ بلند کرنے کی خاطر میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ نائیجیریا کی حکومت نے ہمیں اپنے ملک میں براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ الحمد للہ علی ذالک۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)



اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں قرآن کریم کے بیان فرمودہ بنیادی اصولوں کا ذکر

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۷۲ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے مندرجہ ذیل آیات تلاوت فرمائیں:-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب: ۲۲)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
الْمُسْلِمِينَ ○ (الرمر: ۱۲، ۱۳)

قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ○ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لَا شَرِيكَ لَهُ ○ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

(الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں قرآن عظیم جیسی ہدایت اور نبی کریمؐ جیسے افضل الرسل کا
اسوۂ حسنہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ذریعہ یہ اعلان فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لئے اسوۂ حسنہ ہیں یعنی آپ ایک ایسا نمونہ ہیں جو اپنی ذات میں
انتہائی طور پر پاک اور مطہر ہے اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کی اتباع اور اقتداء کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق پاک اور مطہر بن سکتا ہے۔

اس اعلان سے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنی نوع انسان کے لئے ایک
اسوۂ حسنہ ہے۔ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کس چیز میں اور کس حد تک آپ انسان

کے لئے اُسوہ ہیں۔ آیا اس کا فیصلہ کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر یوں ہوتا تو پھر ایک گروہ کھڑا ہوتا اور وہ کہتا کہ ٹخنے سے اُوپر اپنی شلوار یا پاجامے یا دھوتی کو رکھنا اُسوہِ نبوی ہے۔ ایک دوسرا پاک اور مطہر گروہ کھڑا ہوتا اور وہ کہتا کہ آنحضرتؐ کی حیاتِ مبارکہ کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ آپ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے لباس پہنتے رہے ہیں۔ اس لئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہِ حسنہ لباس کے معاملے میں یہ ہے کہ جو لباس میسر آئے وہ پہن لیا جائے۔ گویا ایک رائے ظاہری عالم کی اور ایک رائے نائیجیریا میں اپنے وقت کے مجددِ دکی ہے۔ چنانچہ ان دو آراء میں ہمیں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ بات انسان پر چھوڑ دی جاتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بعض چیزوں کو لے کر کہہ دیا جاتا کہ یہ ہمارے لئے اُسوہِ حسنہ ہے تو پھر ہمارے لئے بڑی مشکل پڑ جاتی۔ ہر شخص اپنی رائے منوانا چاہتا اور اس طرح دنیا میں ایک فسادِ عظیم پیدا ہو جاتا۔ اس لئے اس مفروضہ کو تو ہمیں بہر حال رد کرنا پڑے گا کہ اُسوہِ حسنہ کی تعیین انسان کے اختیار میں دی گئی ہے۔ یہ بات انسان کے اختیار میں نہیں دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو انسان کے لئے رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اس کو فتنہ و فساد کا موجب بنانے والا نہیں۔

دوسری رائے یہ قائم ہو سکتی ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کون سی باتیں بنی نوع انسان کے لئے اُسوہ ہیں۔ یہ ایک تو قرآنِ عظیم کا کام ہے۔ قرآنِ عظیم خود بتائے گا کہ وہ عظیم ہستی جس کے متعلق قریب سے قریب تر پہنچنے اور اچھی طرح سے پہچاننے والوں نے یہ گواہی دی تھی کہ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۹۱) کہ قرآن کریم کی ہدایت کو پڑھنا ہو تو آپ کی زندگی میں پڑھ لو۔ قرآنِ عظیم نے بنیادی طور پر ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ آنحضرتؐ کی زندگی اور آپ کی ہستی کس معنی میں بنی نوع انسان کے لئے قیامت تک اُسوہِ حسنہ ہے۔

پس جہاں تک تفصیل کا سوال ہے چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی ہدایت کا نمونہ ہے اور چونکہ قرآن کریم کی ہدایت اپنے اپنے وقت کی ضروریات کے مطابق کھلتی چلی جائے گی۔ اس لئے جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے علم حاصل کر کے لوگوں کو

یہ بھی بتائیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ پہلو تمہارے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے متعلق خدا تعالیٰ نے جہاں اس کے کتاب مبین ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہاں کتاب مکنون (ایک چھپی ہوئی کتاب) کا بھی دعویٰ کیا ہے اور اس حصہ قرآن کریم کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۰) کہ خدا تعالیٰ کے پاک اور مطہر بندوں کے سوا (جن کا معلّم خود خدا بنے گا) کتاب مکنون یعنی قرآن کریم کے پوشیدہ حصوں کو دنیا پر کوئی ظاہر نہیں کر سکے گا۔

پس یہی لوگ جن کا خود خدا معلّم بنے گا یہ اختیار بھی رکھیں گے کہ دنیا کو بتائیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا ورق ایسا ہے جو اس زمانے میں ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ مثلاً نا بیخیر یا کے اُس بزرگ ولی اور مجدد کے متعلق جس کے بارہ میں میں نے ابھی بتایا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کے متعلق اسوہ یہ ہے کہ ستر پوشی کے لئے جو لباس میسر آئے وہی پہن لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی۔ آپؐ نے رومال بھی باندھا۔ آپؐ نے ایک بڑا سا کڑا (عقال) بھی سر پر لپیٹا۔ آپؐ نے چادر بھی استعمال کی۔ قمیض بھی پہنی۔ آپؐ نے پاجامہ بھی پہنا۔ جو کسی وقت ڈھیلا اور کسی وقت تنگ بھی ہوتا تھا۔ آپؐ نے دھوتی کے طور پر چادر بھی باندھی وغیرہ وغیرہ پھر انہوں نے لکھا کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایک لباس اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہیں بلکہ جو کچھ کسی کو میسر آئے وہ اُسے پہن لے۔ تاہم اس میں اصل چیز ایک تو یہ ہے کہ ستر ڈھکے آدمی ننگا نہ رہے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو جائز زینت کا جائز سامان پیدا کیا ہے۔ (مرد کے لئے اور قسم کا ہے اور عورت کے لئے اور قسم کا) اس زینت کو وہ اختیار کرے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے ذکر میں مشغول رہے۔

قرآن کریم نے اگر اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی باتیں اور اصول بتائے ہیں تو ہمیں قرآن کریم پر غور کرنا چاہئے کہ وہ اصول اور بنیادی باتیں کیا ہیں جس وقت یہ مضمون میرے ذہن میں آیا اور میں نے بڑا غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے

بارہ میں قرآن کریم میں جو بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں۔ وہ مجھے سمجھائے چنانچہ اس وقت میں اُن ہی اصولوں کا اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کروں گا۔

قرآن کریم نے ایک بنیادی اصول جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے اسوہ حسنہ ہیں وہ آپ کا اول المسلمین ہونا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کے متعلق اول المسلمین کے الفاظ دو مختلف جگہوں پر مختلف مضامین کے ضمن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو سورہ زُمر کی ان آیات میں بیان ہوا ہے۔

قُلْ لِيَّ اَمْرٌ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهٖ الدِّيْنَ ﴿۱۵﴾ وَاَمْرٌ

لَا اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۶﴾

کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اطاعت صرف اُسی کے لئے مخصوص کر دوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اول المسلمین یعنی سب میں سے بڑا فرمانبردار ہوں۔ اس آیت کریمہ کے معنی سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بعض دوسری آیات سامنے لانی پڑیں گی۔ اس وقت میں ایک ہی آیت کو لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النِّسَاء: ۱۲، ۱۳)

تیرے پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ کوئی نبی تیرے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا ذاتی جوہر میں بھی اور ظاہری خدمات کی رو سے بھی۔ غرض یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ساری مخلوقات میں سے اول المسلمین یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرمانبردار ہیں اور اس مضمون کی وضاحت کرنے کے لئے وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا میں اشارہ کیا گیا ہے اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اس کا مطلب کہ کوئی نبی نہ ایسا آیا اور نہ آ سکتا تھا جو فرمانبرداری کے مقام میں آپ سے بڑا ہوتا۔ آپ سب سے بڑے فرمانبردار ہیں۔ اس معنی میں اول المسلمین کہا گیا ہے کیونکہ یہاں آنحضرت کی زبان مبارک سے کہلوا یا گیا ہے کہ مجھے خدائے واحد و یگانہ اور رب کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اول المسلمین بن جاؤں اور کسی سے پیچھے نہ رہوں۔ بلکہ سب کو پیچھے چھوڑ دوں اور خود آگے نکل جاؤں۔

پس اول المسلمین کے اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوہ نہیں بن

سکتے۔ کیونکہ وہ تو ایک ہی تھا جو آگے نکل سکتا ہے۔ سب سے آگے دو نہیں نکل سکتے۔ یا تین نہیں نکل سکتے بلکہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جو سب سے آگے نکلتا ہے۔

پس سورۃ زمر میں جو مضمون بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ کی ایک بلند شان بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ قرب الہی کے حصول میں آپ ساری مخلوقات میں سے آگے نکل گئے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ذاتی جوہر کے لحاظ سے بھی اور ظاہری خدمات کے لحاظ سے بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔

دوسری جگہ اول المسلمین ایک دوسرے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ اس معنی میں آپ ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرماتا ہے کہ اے رسول! تو لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی طرف میری رہنمائی کی یعنی اُس نے مجھے وہ راہ بتائی ہے جس پر چل کر خدا داد توں اور استعدادوں کو کامل نشوونما ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ بیان کر کے بتایا کہ اگر تو توں کی صحیح نشوونما کرنا مقصود ہو تو شرک کا کوئی شاہبہ انسانی زندگی، انسانی کوشش اور انسانی محنت میں نہیں ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ تو خدا کی طرف جھک جائے اور کچھ غیر اللہ کی طرف جھک جائے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول! تو کہہ دے!

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نماز اور میری دعائیں جن سے میں اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرتا اور طاقت پاتا ہوں اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کرنے والی اور اس کے بندوں کو آرام پہنچانے کے لئے ہے۔ اللہ ربِّ الْعَالَمِينَ اس میں اللہ کے لفظ میں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کی طرف اشارہ ہے اور ربِّ الْعَالَمِينَ میں بندوں کی خدمت کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں یہی نہیں فرمایا لَا شَرِيكَ لَهُ بلکہ یہ بھی فرمایا وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جو صراطِ مستقیم بنائی گئی ہے۔ اُس پر چلوں۔ مِلّت ابراہیم کو اختیار کروں اور میری نماز اور میری عبادت، میری زندگی اور میری موت خدا تعالیٰ کے جلال اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے وقف ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا میری زندگی کا مقصد ہو اور پھر فرمایا وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ یعنی ان قوتوں کی نشوونما کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ گویا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

جو آنحضرت کو جسمانی اور علمی اور اخلاقی اور روحانی قوتیں عطا ہوئی تھیں وہ آپ کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی تھی کہ آپ اپنی خداداد قوتوں کی نشوونما کو ان کے کمال تک پہنچادیں۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی معنی میں اول المسلمین ہونا بنی نوع انسان کے لئے اسوہ حسنہ کے مترادف ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادات کیسے کریں۔ ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے میں کہتا ہوں تمہیں کسی نے یہ کب کہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اپنی زندگی گزارو۔ وہ طاقتیں تم میں ہیں ہی نہیں۔ ان طاقتوں کی تم نشوونما تمام کر ہی نہیں سکتے لیکن اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل درجہ کی طاقتیں عطا فرمائی تھیں لیکن یہ بھی درست ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوتیں اور طاقتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھیں آپ نے اپنی پوری توجہ اور انہماک اور ہر قسم کی قربانی کر کے اور ایثار دکھا کر ان طاقتوں اور استعدادوں کو ان کے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اس لئے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اُس اسوہ نبوی کے مطابق اپنے اپنے دائرہ استعداد میں اپنی اپنی طاقتوں اور استعدادوں کو ان کے کمال تک پہنچائے۔ گو اول المسلمین کے اس معنی میں آپ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کے لحاظ سے اسوہ نہیں کیونکہ اس میں تو سب سے آگے نکلنا مراد ہے اور سب سے آگے ایک ہی نکلا کرتا ہے اور جس نے آگے نکلنا تھا وہ نکل گیا لیکن اس معنی میں آپ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی اور قوتیں دیں ان قوتوں کو آپ نے اپنے دائرہ استعداد میں (دائرہ استعداد سے مراد شریعت کا کمال ہے۔) اپنے کمال کو پہنچا دیا۔ اس لئے ہر شخص کو کہا گیا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں سو کی بجائے ۹۰ فیصد طاقت ملی ہو تو وہ اپنے اس دائرہ استعداد میں اسے کمال تک پہنچائے۔ اگر کسی کو اسی یا ستر یا پچاس یا پچیس یا دس فیصد طاقت ملی ہو تو وہ اپنے اسی دائرہ استعداد میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کی نشوونما کو کمال تک پہنچائے۔

پس قرآن کریم نے اصولی طور پر جو پہلی چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے دائرہ استعداد میں اپنی قوتوں اور طاقتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق کمال تک پہنچایا

جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتیں سب سے زیادہ تھیں۔ آپ کا دائرہ استعداد ایک کامل دائرہ استعداد تھا۔ آپ نے اپنے دائرہ استعداد میں اپنی طاقتوں کو کمال تک پہنچایا۔ اسی طرح آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ استعداد میں اپنی قوتوں کو ان کے کمال تک پہنچائے اور یہی وہ تعلیم ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔ اب کسی کا دوسرے شخص سے یہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو میرے جتنی نمازیں نہیں پڑھتا یا نوافل نہیں پڑھتا اس لئے تو جہنم میں جائے گا۔ کوئی شخص دوسرے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میرے جتنے روزے نہیں رکھتا اس لئے تو جہنم میں جائے گا۔ کوئی شخص کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میرے جتنی زکوٰۃ نہیں دیتا اس لئے تو جہنم میں جائے گا۔ جس شخص کو خدا نے پیسے ہی نہیں دیئے وہ زکوٰۃ کیسے دے گا۔ جس شخص کی فطرت میں کثرت نوافل کی استعداد ہی نہیں رکھی گئی اس کے حصہ میں نوافل کی کثرت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس نکتہ کے سمجھانے کے لئے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے اپنے دائرہ استعداد کے مطابق اپنی قوتوں اور طاقتوں کو کمال نشوونما تک پہنچاؤ گے تو تمہارے حالات کے مطابق جنت کا ایک نہ ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی دلی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی کا مجاہدہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی استعدادیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے لازماً ہر ایک کا دائرہ استعداد اور اس کا کمال بھی مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا میں نے تمہارے لئے جنت کے آٹھ دروازے بنا دیئے ہیں۔ تم اپنی استعداد اور اس کی نشوونما کے مطابق جس دروازے کو پسند کرو اس میں سے داخل ہو جاؤ۔

پس پہلی چیز یا پہلا اصول یا پہلی بنیادی بات جو قرآن کریم میں اسوہ رسول کے بارہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ساری قوتوں اور طاقتوں کو ان کی نشوونما کے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تمہاری جتنی بھی طاقتیں ہوں ان کو اپنے اپنے دائرہ میں کمال تک پہنچاؤ یہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا نام ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور تمہارے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے کمزوری واقع ہو جائے گی تو تم خدا کے اُس پیار کو حاصل نہیں کر سکو

گے۔ جسے تم اپنی فطری استعداد کی کمال نشوونما سے حاصل کر سکتے تھے۔
انسانی قوتوں اور طاقتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال حاصل تھا اُس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مراتبِ قرب و محبت کا اعلیٰ و اکمل درجہ وہ ہے۔ (ناقل)“ جس میں ایک نہایت
افروختہ شعلہ محبتِ الہی کا انسانی محبت کے مستعد فنیلہ پر پڑ کر اس کو افروختہ کر دیتا ہے۔
(بھڑک اُٹھتا ہے۔ ناقل) اور اس کے تمام اجزا اور تمام رگ و ریشہ پر استیلاء پکڑ کر اپنے
وجود کا اتم اور اکمل مظہر اس کو بنا دیتا ہے..... اور یہ کیفیت جو ایک آتش افروختہ کی
صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اس کو رُوحِ امین کے نام سے
بولتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہر ایک تاریکی سے امن بخشتی ہے اور ہر ایک غبار سے خالی ہے اور اُس
کا نام شدید القوی بھی ہے۔ کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قوی تر (طاقت)
وحی متصور نہیں اور اس کا نام ذوالافق الاعلیٰ بھی ہے۔ کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی
تجلی ہے اور اس کو دایِ ملامی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ
تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان و وہم سے باہر ہے اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی
انسان کو ملی ہے۔ جو انسانِ کامل ہے۔ جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے اور دائرہ
استعداداتِ بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے..... ارتفاع کے تمام مراتب کا انتہا۔۔۔۔۔
محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم“ (توضیح مرام روحانی خزائن جلد نمبر ۳ صفحہ ۶۳، ۶۴)

پس یہ تو وہ دائرہ کمال ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری استعدادیں
اپنے کمال کو پہنچیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استعدادوں کے لحاظ سے بھی اور اُن کی
نشوونما کے لحاظ سے بھی امتِ محمدیہ کے لئے ایک کامل نمونہ بنے۔ اس میں ہمارے لئے یہ سبق
ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوتوں اور
استعدادوں کی نشوونما کو کمال تک پہنچایا۔ اسی طرح تمہیں بھی جو قوتیں اور استعدادیں دی گئی ہیں
تمہارا بھی فرض ہے کہ تم ان کی نشوونما کو کمال تک پہنچاؤ اور تم ایسا کر سکتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ (حَمَّ السُّجْدَةِ: ۳۴)

امتِ محمدیہ کا کوئی فرد اول المسلمین تو ہونہیں سکتا لیکن اپنے دائرہ استعداد میں مسلمین کے
گروہ میں تو وہ یقیناً شامل ہو سکتا ہے۔

یہ تو اُس اسوۂ نبوی کا ایک پہلو تھا جو بنیادی طور پر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ دوسرا پہلو
ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں وہ اپنی صفات کا مظہر بننے کے
لئے دی ہیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں اور استعدادیں سب سے بڑھ کر اور کامل
تھیں اور آپ ان قوتوں اور استعدادوں کی نشوونما کامل طور پر کی تھی۔ اس لئے آپ صفات باری
کے مظہر اتم بن گئے تھے۔ اس طرح کہ انسان کو جو بھی طاقتیں دی گئی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات
کا مظہر بننے کے لئے دی گئی ہیں۔ کیونکہ انسان کو تعبد ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی
زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ اس کی زندگی پر چڑھ جائے۔ یہی اس کی جنت
ہے اور اس سے دوری اس کے لئے جہنم ہے۔ پس اسوۂ نبوی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ خود تو
صفات باری کے مظہر اتم ہیں۔ کیونکہ آپ کو کامل استعدادیں عطا ہوئی تھیں اور آپ نے ان کی
نشوونما کو کمال تک پہنچا دیا تھا مگر ہمیں یہ فرمایا کہ اپنی قوتوں اور طاقتوں کی نشوونما کے بارے میں
ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا کہ اگر ان کی نشوونما کے نتیجے میں ہماری زندگی پر خدا تعالیٰ کی صفات کا رنگ
چڑھ جائے تو یہ گویا اُن کی صحیح نشوونما کے مترادف ہے۔ اگر تمہاری کوششوں کے نتیجے میں تمہاری
زندگی پر خدا تعالیٰ کی صفات کا رنگ نہیں چڑھتا تو تمہاری کوشش غلط ہے۔ پس اس میں ہمیں ایک
راستہ بتایا اور ایک مقصد ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو! حضرت نبی کریم اللہ تعالیٰ
کی صفات کے مظہر ہیں۔ نہ صرف اپنے مقام کے لحاظ سے مظہر اتم بلکہ اپنی اصلیت کے لحاظ سے بھی
خدا تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم ہیں۔ اس لئے تمہارے وہ اسوہ ہیں۔ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرح اپنے اپنے دائرہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بنو۔ یہ تو تھا دوسرا پہلو۔

تیسرا اصول جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں ہمیں
حُسنِ کامل اور احسانِ کامل نظر آتا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات

کے مظہر اتم ہیں۔ قریباً قریباً ساری خدائی صفات آپؐ کی زندگی میں جلوہ گر ہیں۔ اس لئے ہم خدا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ خدا کی مخلوق خدا نہیں بن سکتی لیکن خدا کی مخلوق جب خدا کے قریب تر پہنچ سکتی ہے اور حضرت محمدؐ کی ذات میں پہنچی ہے تو ہمیں آپؐ کی ذات میں خدا کی وہی شکل اور کیفیت نظر آتی ہے۔ جو قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ پس ایک تو جہاں تک انسان اپنے حُسن کو دو بالا کر سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ دو بالا ہو چکا ہے اور جہاں تک کوئی انسان خدا تعالیٰ کے احسان کی صفات کو اپنی زندگی میں جلوہ گر کر سکتا تھا۔ وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احسان کی صفات جلوہ گر ہیں۔ گویا آپؐ حُسن و احسان صفات باری کے مظہر اتم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ حُسن سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ احسان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”خدا تعالیٰ کی صفات اپنے نفس میں حُسنِ باری ہیں۔ مثلاً یہ تصور کہ ایک ایسی ذات ہے جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور وہ اُن کی ربوبیت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ربوبیت کی صفت ایک حُسن ہے۔ رحمانیت کی صفت ایک حُسن ہے۔ رحیمیت کی صفت ایک حُسن ہے اور مالکیت یوم الدین کی صفت ایک حُسن ہے لیکن جب یہی صفات جو اپنے نفس میں حُسنِ باری تعالیٰ کو ظاہر کر رہی ہیں کسی فرد یا جماعت پر جلوہ گر ہوتی ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں تو فرد یا جماعت کے لئے احسان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا رب ہونا اس کے حُسن کی علامت ہے اور خدا تعالیٰ کا اپنے رب ہونے کے لحاظ سے ہر کس و ناکس کی ربوبیت کرنا اُس کے احسان کی علامت ہے گویا اللہ تعالیٰ کا ہر فرد بشر کی یا جماعت پیدا کر کے اُس کی ربوبیت کے طور پر اس میں ایک انقلابِ عظیم پھا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کی صفات میں حُسن بھی کامل اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں احسان کے کامل جلوے بھی نظر آتے ہیں اور یہی حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ہے۔ آپؐ کی زندگی میں بھی حُسن و احسان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ انسان ہونے کی جو حد ہے اُس میں ہم سب برابر ہیں لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حُسن و احسانِ باری میں یکتا اور انسانِ کامل ہیں اس لئے وہ منفرد ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس بات میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لئے اسوۂ حسنہ بنایا

ہے۔ تم حسن و احسانِ باری تعالیٰ کے مظہر اتم تو نہیں بن سکتے لیکن تم اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق مظہرِ حُسن اور احسانِ باری ضرور بن سکتے ہو۔ اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے تمہیں بھی اپنے اندر اپنی زندگیوں میں اپنے معاملات میں اپنے تعلقات میں اپنے پیار میں اپنے غضب میں حسن و احسانِ باری کا اس رنگ میں مظہر بننے کی ضرورت ہے جس رنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حسن و احسانِ باری کو ظاہر کیا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صفاتِ باری کے مظہر اتم ہیں تو ہمیں کچھ مزید بھی بتانا پڑے گا۔ ورنہ تو یہ ایک فلسفہ بن جاتا ہے اور ہر آدمی اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بڑے حسین رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ سورہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن بنیادی صفات کا ذکر ہوا ہے وہ چار ہیں۔ ان کو اصل الاصول صفاتِ باری یا اُمّ الصفات سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ان ہی چار صفات کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی اُمّ الصفات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق (میں قرآن کریم کی زبان میں بات کر رہا ہوں) قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو پھر ہمیں تاریخ دیکھنی پڑے گی۔ جس کو وقتی طور پر ہم ایک حد تک نظر انداز بھی کر سکتے ہیں اور کچھ مثالیں بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ رب العالمین کی صفت کامل طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی اور رحمانیت کی کامل صفت آپ کے اندر پائی جاتی تھی اور اسی طرح رحیمیت کی اور مالکیت کی صفت بھی آپ کی ذات میں جلوہ گر تھی اور چونکہ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی اصل یا اُمّ الصفات ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام صفاتِ باری تعالیٰ کا مظہر اتم ہے۔

یہ چار صفات جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں اور جن کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اصل الاصول اور اُمّ الصفات ہیں۔

قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ۳۶) اللہ تعالیٰ جو تمام صفاتِ حسنہ کا مالک ہے۔ اُس میں کوئی عیب یا نقص، کوئی اندھیرا یا ظلمت نہیں پائی جاتی۔ تمام

جہانوں کا حقیقی نور وہی ہے۔ اس حقیقت کو شاید بچوں کے لئے سمجھنا مشکل ہوگا اس لئے میں اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں:

”یہ سورج کی روشنی نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا نور ہے جو سورج کی چادر میں چھپ کر یا لپٹ کر دنیا پر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ چاند کا نور نہیں ہے جو اندھیری راتوں کو منور کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے۔ جو چاند کی چادر میں اپنے کو لپیٹتا اور اس مادی اور ابتلاء اور امتحان کی دنیا کو جگمگا دیتا ہے۔ یہ گلاب کی خوشبو نہیں ہے جو مشامِ جان کو معطر بنا دیتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے لطف و کرم کا پرتو ہے جو انسان کو لذت اور سرور بخشتا ہے اور گلاب کے پردے میں چھپ کر سامنے آتا ہے اور یہ بادل نہیں جو مینہ برساتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو بادل کی شکل اختیار کرتی ہیں اور مینہ برسانے لگ جاتی ہیں۔ خیر یہ ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں۔“

بہر حال خدا تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ وہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ یہ گویا خدا کے حُسن کا اعلان ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حُسن کی خوبیاں جو کسی فرد یا گروہ کو عملاً فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ وہی نور اور وہی حُسن کی صفات ہیں جو مختلف شکلوں میں انسان پر ظاہر ہوتی ہیں۔

پس جیسا کہ میں بتا رہا ہوں چار ائمہ الصفات جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی صفت ربوبیت ہے، ربوبیت کا مطلب ہے پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا۔ یہاں تاریخ کا قانون رائج ہے۔ بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں نو ماہ تک اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے اور سانس لیتا ہے۔ بعض دفعہ سانس نہیں لیتا۔ بہر حال جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کو دودھ کی ضرورت ہے جو خود بخود اس کی ماں کی چھاتیوں میں اتر آتا ہے مگر دنیا کی کون سی عورت ہے جو خدا تعالیٰ کے منشاء اور حکم کے بغیر اپنی چھاتیوں میں اپنے یا کسی اور کے بچہ کے لئے دودھ پیدا کر دے۔ اگر ماں اپنی مرضی سے اپنے بچے کے لئے دودھ پیدا کرنے پر قادر ہوتی تو وہ اپنی عزیز اور پیاری سہیلی کے بچہ کے لئے جسے دودھ نہیں مل رہا اس کے لئے دودھ پیدا کر دیتی مگر وہ نہیں پیدا کرتی اور نہ پیدا کر سکتی

ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دودھ پیدا نہیں کر سکتی۔ خدا کا منشاء ہو تو دودھ پیدا ہوتا ہے ورنہ دودھ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ کی پیدائش سے ربوبیت شروع ہو جاتی ہے۔ چند دنوں کا بچہ پھر طفل بنتا ہے۔ پھر وہ طفل کی عمر سے نکل کر خادم کی عمر میں داخل ہوتا ہے۔ علم میں کمال حاصل کرتا ہے پھر وہ علمی کمال حاصل کر لیتا ہے تو عمل کے میدان میں آ جاتا ہے۔ ہر جگہ اور ہر قدم پر اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ضرورت ہوتی ہے دراصل خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت اور عرفان کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تعبدِ ابدی کے لئے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اپنے دائرہ استعداد کے اندر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے لئے پیدا کیا ہے مظہر صفات باری بننے کے لئے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اُسے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری اس کے لئے مہیا کر دی گئیں۔ انسان کو زندگی کی ضرورت تھی اُسے طاقتوں کو بحال رکھنے کے لئے اور اپنی ذہنی قوتوں سے صحیح اور بھرپور کام لینے کے لئے غذا کی ضرورت تھی۔ اس کو اخلاق کے اظہار کے لئے مادی ذرائع کی ضرورت تھی۔ اخلاق کا اظہار بھی مادی ذرائع کا محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے اخلاق کا اظہار سفر کسی مادی ذریعہ سے کر سکیں۔ مثلاً ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کپڑے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے لئے کپڑے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کپڑا ہی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے۔ ایک شخص کو گندم کی ضرورت ہے ایک شخص کو اس بات کی ضرورت ہے جذباتی لحاظ سے کہ جو اس کو ملے وہ مسکراتے چہرے سے ملے۔ میں نے جماعت کو کہا تھا۔ اس جلسہ سے پہلے بھی اور یہاں بھی آ کر کہا کہ دُنیا تئوریوں چڑھا کر اور سُرخ آنکھیں نکال کر تمہاری طرف دیکھتی ہے۔ تم اس کی طرف مسکراتے چہروں سے دیکھو۔ چنانچہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ملاقاتوں کے دوران مسکراتے اور کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ ملتے تھے۔ دنیا قطع نظر اس کے کہ غلط ہے یا صحیح وہ اپنا طریق اختیار کرتی ہے۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کو اس وقت ضرورت ہے وہ اس کو ملنی چاہئے اور عام طور پر انسان کو مسکراتے چہروں کی ضرورت ہے۔ اس لئے دوستوں کو ہر ایک سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا چاہئے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مسکرانے والا چہرہ عطا نہ کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا

ہے کہ آپ زور زور سے تو نہیں ہنستے تھے البتہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔

غرض اللہ تعالیٰ رب ہونے کے لحاظ سے تمام عالمین کی اور اس عالمین کے ہر فرد کی ربوبیت کر رہا ہے اور ہر ایک کو کمال مطلوب تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ مثلاً جو درخت اُگیں عام قانون کے مطابق جب اُن کی پرورش کی جائے اور وہ بڑے ہوں تو شمر آدرو ہوں۔ ہمارے اکثر زمیندار بھائی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ آخر کس کے بھروسے پر گندم کا بیج زمین میں ڈال آئے ہیں۔ اپنے اس رب کریم کے بھروسے پر جس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ **ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الَّذِرْعُوْنَ** کیا کھیتیاں تم اُگاتے ہو؟ نہیں! کھیتوں کو تو میں اُگاتا ہوں اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی بناء پر تم نے خدا پر بھروسہ کیا کیونکہ وہ رب ہے۔ اب دیکھو گندم جس کو مالک نے زمین میں ڈال دیا اس کے متعلق ہمارے رب کریم نے کہا میں اس کی پرورش کر دوں گا اور ایک سے سات سو بنا دوں گا اور یہ اس لئے کہ اس کی ربوبیت سارے عالمین میں کارفرما ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کے علاوہ بعض ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی۔ غرض یہ کائنات اور اس میں موجود کروڑوں کیڑے جو انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اُن کو پیدا کیا اور ان کی ربوبیت کرتا چلا جا رہا ہے۔

احسان کی دوسری خوبی اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت میں مضمر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو (صفتِ ربوبیت میں جاندار یا غیر جاندار کا سوال نہیں ہے) درخت ہیں۔ پتھر ہیں، کائنات کے یہ ایسے ذرے ہیں جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ زمرّد بنا دیتا ہے۔ ایک کو لعل بنا دیتا ہے اور ایک کو سنگ مرمر بنا دیتا ہے اور کسی ذرے کو حکم دیتا ہے کہ تو مٹی کا ذرہ اسی طرح بنا رہ لیکن تیری قیمت زیادہ ہے۔ اب اگر ساری دنیا میں زمیندار کو آپ پوچھیں کہ اگر اللہ کہے کہ اس کے کھیت کے ذروں کو ہیرے اور جواہرات بنا دیتے ہیں تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں کھاؤں گا کیا؟ پس مٹی کے جو ذرے، ہیرے اور جواہرات نہیں بنے اُن کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ انسان بحیثیت مجموعی اُن کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔

پس ربوبیت کے جلوے ہر مخلوق دیکھتی ہے۔ پتھر ہو یا مٹی یا درخت ہوں یا پانی ہو یا ہماری کھیتیاں ہوں، جانور ہوں، انسان ہو۔ سب ربوبیت کے سائے تلے ہیں۔ رحمانیت فرمانِ خداوندی

ہر جاندار پر ہے اور ہر جاندار کو اس نے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی ہے یعنی اس کو شکل بھی ایسی دی کہ جو کام اس سے وہ لینا چاہتا تھا وہ لے لے اور اس کو سیرت بھی ایسی بخشی وہ صفات الہی کا مظہر بنے۔ گویا اس کو جسمانی لحاظ سے ایسی ظاہری اور باطنی شکل عطا کی کہ وہ خدا کی صفات کے رنگوں میں رنگین ہو سکے۔ بکری سے کہا کہ ہم تجھے ایسا جسم دیتے ہیں کہ تو درخت کے پتے بھی کھا جایا کر اور بھیڑ جس کی بہت ساری قسمیں ہیں) اُن سے کہا کہ تو درخت کے پتے نہ کھا بلکہ گھاس پھوس میں منہ مار اس میں سے تیرے لئے خوراک مل جائے گی۔ اونٹ سے کہا کہ جہاں بکری کا منہ نہیں پہنچتا وہاں تک اپنی گردن لے جا اور وہاں سے پتے کھا لے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن جانوروں کی جو مختلف اغذیہ بنائی ہیں جن کے گوشت کو ہمارے لئے حلال کیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا۔ اس نے ایسا اس لئے کیا کہ دوسری جگہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے لئے متوازن غذا بنائی ہے اگر صرف درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھانے سے گوشت بنتا ہوتا تو پھر بکری ہی ہوتی اونٹ اور گائے بیل نہ ہوتے تو گوشت کے لحاظ سے انسان کی غذاؤں میں فرق آجاتا۔ اس لئے انسانی جسم کو متوازن غذا بہم پہنچانے کی خاطر مختلف جانور پیدا کئے جو مختلف قسم کا چارہ کھاتے ہیں اور مختلف تاثیر رکھتے ہیں لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ انسان نے اٹھایا کیونکہ اس کے لئے خدا نے بکری کو بھی قربان کر دیا اور بھیڑ کو بھی قربان کر دیا اس کے لئے اونٹ کو بھی قربان کر دیا اور بیل کو بھی قربان کر دیا حتیٰ کہ جتنے حلال جانور ہیں ان کو قربان کر دیا۔ تاکہ انسان کے جسم کو متوازن قسم کی پروٹین مل جائے۔

جہاں تک انسان کا تعلق ہے ہر چیز اُس کے جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی انسان کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ ہے اپنے اپنے دائرہ میں مظہر صفات باری بننا۔ اب مظہر صفات باری بننے کے لئے (تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ یہاں بھی سوچیں اور گھروں میں بھی جا کر سوچیں) مثلاً ٹانگیں عطا ہوئیں۔ مجھے اور آپ کو دوسری جگہ چل کر بھی جانا ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت ساری صفات کے مظہر ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانا پڑتا ہے۔ استاد کو اپنے گھر سے اسکول جانا آنا پڑتا ہے اور اس کے لئے اس کے سکول پہنچنے کا انتظام ہونا چاہئے۔

غرض انسان نے صفات باری کا مظہر بننا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی کروڑوں

مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ مثلاً انسان کو آنکھیں دیں۔ اس کو کان دیئے اس کو آنکھیں اور کان اس لئے دیئے کیونکہ اس نے دنیا کا معلم بھی بننا تھا اور اس طرح دوسرے حواس دیئے علم کی ابتداء حواس کے ذریعہ کی حواس سے حاصل ہونے والی معلومات کو علم کہتے ہیں آنکھوں نے جو دیکھا اور کانوں نے جو سنا۔ ایک ایسا علم ہے جس کا ذریعہ گویا ہمارے حواس ہوتے ہیں۔

جہاں تک آنکھ کا تعلق ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے ایک خاص شکل کا میدان ہے۔ اس کے پرلے سرے پر کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور خلقت کا ایک ہجوم بیٹھا ہوا ہے مگر میری آنکھ اس پیار کو نہیں دیکھ سکتی جو میرے دل میں سے چشمہ کی طرح نکل کر آپ تک پہنچتا ہے اور نہ آپ کا وہ تعلق دیکھ سکتی ہے جو آپ کی طرف سے مجھے ملتا ہے۔ (نعرے) لیکن میرے کان اظہارِ مسرت کے ان کلمات کو سنتے ہیں جو اس مجمع میں کہے جاتے ہیں مگر میرے کانوں نے اس کے پیچھے محبت و پیار کا جو جلوہ تھا وہ نہیں سنا۔ صرف ایک آواز سنی ہے۔ علم حاصل کرنے کی ابتداء حواس کے ذریعہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ سوال کرنا حصولِ علم کے لئے بڑا ضروری ہے اس لئے چھوٹے بچوں کو سوال کرنے دینا چاہئے۔ بعض دفعہ بچے اتنی کثرت سے سوال کرتے ہیں کہ استاد یا ماں باپ انہیں چیڑ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چپ کرو کیوں ہمارے کان کھاتے ہو۔ یہ طریق غلط ہے۔ اس طرح تو گویا تم حصولِ علم کا ایک دروازہ بند کر رہے ہو۔ بچوں کو سوال کرنے دو اور صبر سے اُن کو جواب دو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیئے ہیں اس کے سوال کو سننے کے لئے اور انہیں زبان دی ہے سوال پوچھنے کے لئے۔

پس اللہ تعالیٰ نے جس قسم کا کام لینا تھا اس کے مطابق انسان بنا دیا۔ انسان اپنے جسم اور اپنی طاقت کے لحاظ سے ہر دوسری مخلوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو شریعت نہیں دینی تھی۔ اس لئے گھوڑے کو وہ جسم نہیں دیا۔ نہ عقل اور سمجھ دی اور نہ علم کے حصول کے ذرائع دیئے ہیں۔ یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اُسے عقل شعور عطا کیا کیونکہ اس نے حاملِ شریعت بننا تھا۔ دراصل وہ فکر جو حواس سے حاصل شدہ علوم اکٹھا کرتی ہے اور نتیجہ نکالتی ہے وہ جانوروں کو نہیں دی گئی۔ البتہ وہ عقل بتائی جو تحریر کی لیبارٹری میں جا کر دیکھتی ہے کہ میرے فکر نے صحیح

نتائج بھی نکالے ہیں یا نہیں۔ گدھے اور شیر کو یہ عقل نہیں دی۔ خدا نے اُن سے جو کام لینے تھے اس کے مطابق اُنہیں جسم دے دیا اور جو انسان سے کام لینے تھے ان کے مطابق انسان کو جسم دے دیا۔ یہ تمام جلوے جو مخلوق خدا بالخصوص انسان کی ذات میں ظاہر ہوئے۔ صفتِ رحمانیت کے مظہر ہیں۔

پھر ان حواس کے بقاء کے لئے انسان کو صورت اور سیرت بخشی۔ وہ خود باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کو اس طرح نہیں بنایا کہ جس طرح ہم توپ کا گولہ پھینکتے ہیں اور وہ تباہی مچا دیتا ہے اس میں بھی ایک جان ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی زندگی کے مترادف ہے مگر توپ سے جو گولہ نکلا وہ جہاں گیا وہاں پھٹ گیا۔ بس قصہ ختم ہوا لیکن انسان نے تو ایک معینہ مدت تک باقی رہنا تھا۔ جب تک خدا تعالیٰ اسے زندہ رکھنا چاہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی قوتوں کو اُٹھانے اور پیدا کرنے اور بڑھانے والے سامان پیدا ہونے چاہئے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس کی بقاء کے لئے جن جن چیزوں کی اُسے ضرورت تھی وہ ان کے لئے مہیا فرمائیں گویا یہ اس کا احسان ہے اور صفتِ رحمانیت کا مظہر ہے۔ پس صفتِ رحمانیت ام الصفات اور اصل الاصول میں دوسرے نمبر پر ہے اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ انسان اُٹھاتا ہے کیونکہ جانوروں کو بھی انسان کی خاطر قربان کر دیا جاتا ہے۔

احسان کی تیسری صفت رحیمیت بھی ہے۔ اس کا بھی محض انسان سے تعلق ہے صفتِ رحیمیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی دُعا اور اس کی تضرع اور اعمالِ صالحہ کو قبول فرماتا ہے یہ اس کی رحیمیت ہے۔ اس طرح وہ انسان کو آفات اور بلاؤں سے بچاتا ہے اور اس کی کوشش میں جو خامی اور نقص اور کمزوری رہ جائے اس کو دُور کر دیتا ہے۔ اس کی کوشش کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔

سو ہمارا خدا بڑا رحیم خدا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک دوست سوچے۔ بہت سے زمیندار دوست بیٹھے ہیں۔ وہ سوچیں کہ انسان سے سُستی اور غفلتیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی نیند آ جاتی ہے اور اس عرصہ میں کھیتوں کا پانی ٹوٹ جاتا ہے۔ یا نہر کے پانی کی باری ہوتی ہے آدمی اُٹھ نہیں سکتا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے کچھ حصہ کو سوکا آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان سے غفلتیں ہو جاتی ہیں۔ تاہم ایک طرف انسان کی کوشش ہے۔ دوسری طرف اس کی

کمزوری ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ بلکہ متوازی چل رہی ہوتی ہیں۔ خدائے رحیم اپنی رحیمیت کی صفت کے ماتحت انسانی کوششوں میں کمزوریوں کو دُور کرتا، انسان کی کوششوں کو ضائع ہونے سے بچاتا اور سچی کوشش اور محنت کا پھل دیتا ہے۔

احسان کی چوتھی صفت صفت مالکیتِ یوم الدین ہے۔ صفت رحیمیت دُعا اور عبادت کے ذریعہ کامیابی کا استحقاق پیدا کرتی ہے۔ جس طرح بی اے کا ایک نوجوان طالب علم بڑی محنت کرتا ہے اور بڑے اچھے پرچے کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ کامیاب تو ہو گیا لیکن اس معنی میں وہ کامیاب نہیں ہوا کہ اس کو نوکری بھی مل گئی۔ اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جہاں ایک اچھے گریجویٹ کو لگایا جاتا ہے۔ وہاں تمہیں بھی لگایا جاسکتا ہے اور بس لیکن دُنیا کی بادشاہتیں جس چیز کو نظر انداز کر دیتی ہیں ہمارا مالک خدا اپنی صفت مالکیت کے نتیجہ میں اس کا ثمرہ بھی عطا کرتا ہے۔

ہمارا رب انسان کو صرف یہی نہیں کہتا کہ اے میرے بندے تو میری رضا کی جنت کا مستحق ہو گیا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے اِذْ خَلَىٰ جَنَّتِي (الفجر: ۳۱) آ اور میری جنت میں داخل ہو جا کیونکہ میں مالک ہوں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چار بنیادی صفات ہیں جن کو اُمّ الصفات اور اصل الاصول صفات کہا گیا ہے اور قرآن کریم کی سورۃ الحمد میں بیان ہوئی ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اصل الاصول چار صفات باری کی پہلی جلوہ گاہ انسان کامل کے دل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکی۔ ان صفات کی پہلی جلوہ گاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ آپ کے دل پر ان صفات کا جلوہ نازل ہوا۔ پس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ آپ ان چار اُمّ الصفات کے مظہر اتم ہیں۔ مثلاً قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ محبوب خدا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ چنانچہ سورۃ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸)۔

گویا صفت ربوبیت کے مظہر اتم ہونے کا جلوہ رحمۃ للعالمین کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گذرے ہیں وہ رحمت تو تھے لیکن رحمۃ للعالمین نہیں تھے۔ ربوبیت کے مظہر تو تھے لیکن

ربوبیت کاملہ کے مظہر نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح اور ترقی میرے مد نظر ہے۔ مجھے کسی اور قوم سے کیا غرض؟ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے رحمت تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں لیکن عالمین کے لئے رحمت نہیں تھے۔ خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر تو تھے لیکن رب العالمین کی صفت کے مظہر نہیں تھے۔ رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کا کامل مظہر وہ دل تھا جس پر رب العالمین کا جلوہ نازل ہوا اور اس نے اس پاک وجود کو رحمۃ للعالمین بنا دیا۔ آپ کا دل بنی نوع انسان کے لئے گداز ہوا۔ آپ کا سارا ماحول عرب تھا لیکن آپ کا دل ہے کہ رحمۃ للعالمین کی موجوں سے لبریز تھا۔ آپ نے جزیرہ نمائے عرب سے یہ اعلان کیا کہ کالے اور سفید میں کوئی فرق نہیں۔ سرخ اور سفید میں کوئی فرق نہیں۔ عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جذبہ اور یہ انسانی قدر و منزلت رحمۃ للعالمین کا نتیجہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام (جو اپنی اپنی قوموں اور زمانوں کے لئے رحمت تھے) ان کا نہ یہ جذبہ ہے اور نہ ان کے بس کی یہ بات ہے۔ پس خدا نے فرمایا۔ میں رب العالمین ہوں اور خدا نے فرمایا کہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کو لیں تو وہ ساری دنیا پر محیط ہیں۔ آپ کی ہدایت اور تبلیغ کو سامنے رکھیں تو وہ ساری دنیا پر ممتد ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لئے فیض رسائی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ چیز تھی جو آپ لائے۔ آپ ساری دنیا کے لئے نبی اور آپ سارے زمانوں کے لئے ہیں۔ نہ پہلے انبیاء کی مکانی وسعت ساری دنیا تھی اور زمانی وسعت قیامت تک کا زمانہ تھا۔ رحمانیت کو لیں۔ یعنی بغیر اجر دینے والا تو اس میں بھی آپ کی ذات اسوہ کا رنگ رکھتی ہے۔ رحمانیت کے جلوے مجاہدہ کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدہ کے لئے سورج بنایا۔ ہم نے کب سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی خاطر کوئی مجاہدہ کیا تھا۔ یا کوئی نمازیں پڑھی تھیں۔ یا کوئی قربانیاں دیں تھیں۔ یا کوئی خدمتِ خلق کی تھی۔ ہماری پیدائش سے ہی نہیں بلکہ آدم کی پیدائش سے بھی پہلے اس کارخانہ عالم کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ اسی طرح بے شمار چیزیں صفتِ رحمانیت کی مظہر ہیں۔ اس کے لئے انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خود بخود جوش میں آتی ہے اور جانداروں کے لئے وہ کسی عمل کے بغیر نعاء اور

فیوض کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ پس خدا کی دوسری بنیادی صفت رحمانیت ہے۔ یعنی بغیر کسی عمل کے فیض پہنچانا اور نفع پہنچانا اور نعمتوں سے مالا مال کر دینا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفات باری کے مظہر اتم ہیں اس لئے آپ نے اپنی صفت رحمتہ للعالمین کی رو سے سب اقوام اور قیامت تک کی نسلوں سے کہا **مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان: ۵۸)** میں تمہارے پاس جو ہدایت لایا ہوں اس پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں تمہارے کسی عمل کے نتیجے میں تمہیں یہ کامل شریعت نہیں دینا چاہتا بلکہ اس خداداد محبت کے نتیجے میں دینا چاہتا ہوں جو میرے دل میں تمہارے لئے موجزن ہے۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں ہے اور آپ رحمانیت کے بھی مظہر اتم ہیں۔

خدا کی تیسری صفت رحیمیت ہے۔ آپ صفت رحیمیت کے بھی مظہر اتم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا **كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (الاحزاب: ۴۴)** یعنی مومنین کے لئے آپ کی ذات بحیثیت رحیم کے ہے۔ مال کو ضائع ہونے سے بچانا۔ نیکیوں کا اجر دینا، یہ صفت رحیمیت باری تعالیٰ میں اصل ہے۔ اس کے مقابلہ میں فرمایا کہ محمدؐ بھی تمام بنی نوع انسان کے لئے رحیم ہیں۔ جو شخص خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہوا (خواہ وہ کسی زمانے یا کسی ملک یا کسی قوم کا فرد ہو) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آجائے گا اور آپ کی اتباع کرے گا اور آپ کی ہدایت اور شریعت کا جو اپنی گردن پر رکھے گا۔ اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا اُسے ثمرہ مل جائے گا۔ یا کم از کم اس کے ثمرہ کا استحقاق ضرور پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کے لئے کیں اور ان خدمات میں جو تکالیف

اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں۔ بلکہ اُن کا اجر دیا گیا۔“ (الحکم ۱۱ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۰)

گویا آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اور آپ کی قوت قدسیہ کے ذریعہ ثمرہ کا استحقاق پیدا ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی چوتھی صفت مالکِ یوم الدین ہے اور یہ بھی اُمّ الصفات میں سے ہے۔ اس کے متعلق بھی قرآن کریم نے دعویٰ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالکیتِ یوم الدین کے کامل اور اتم مظہر ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اس وقت میں ایک آیت

پڑھوں گا۔ قرآن کریم نے کہا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (الفتح: ۲) اور اس فتحِ مبین اور فتحِ عظیم کی ایک بڑی زبردست تجلی فتحِ مکہ کے موقع پر ظاہر ہوئی۔ اس دن ایک مالک اور قادر کی حیثیت سے (اللہ تعالیٰ کے مظہر ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی شک نہیں) آپ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ عدل کرنے کے لئے بلکہ مالکیت کا جلوہ دکھانے کے لئے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھا۔ وہ لوگ جنہوں نے مٹی زندگی کے تیرہ سال آپ کو اور آپ کے متبعین کو انتہائی تکالیف اور دُکھ پہنچائے تھے اُن سے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے اسی سلوک کی توقع رکھتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اس وقت تک اہل مکہ یہ سمجھ چکے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت کے بھی مظہر اتم ہیں۔ چنانچہ اس فتحِ عظیم کے دن جب کہ اہل مکہ کی قسمتوں کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا اور معاف بھی کیا تو اس رنگ میں کیا کہ کہا میں تمہارے پاس نہیں ٹھہرتا کیونکہ اس سے میری اس صفت میں فرق آتا ہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کی جائیدادیں آپ کے وہ مکانات اور حویلیاں جو مکہ اور اس کے گرد و نواح میں چھوڑی تھیں وہ آپ نے واپس نہیں لیں۔ آپ نے فرمایا میں خدا کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا تھا۔ تم نے مجھے قبول نہیں کیا اور تم نے ہماری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں مکہ سے باہر نکال دیا۔ اب میں خدا کی صفت مالکیت کا مظہر اتم ہونے کی حیثیت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ جائیدادیں یہ مال و متاع یہ کوٹھیاں یہ حویلیاں سب تمہیں دیتا ہوں۔ یعنی مالک ہونے کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کسی چیز کا بھی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جاؤ خدا کی فوج میں داخل ہو جاؤ اور خدا کی نعمتوں پر شکر بجالاؤ۔

پس قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں اُمِّ الصفات کے کامل اور اتم طور پر مظہر ہیں۔ یہ چاروں صفات وہ ہیں جس کا بیان ہمیں سورۃ فاتحہ میں نظر آتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوائے حمد عطا کیا گیا ہے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان صفاتِ باری کے مظہر اتم تھے جو بنیادی طور پر سورہ حمد میں پائی جاتی ہیں۔ اُن کا آپ کو جھنڈا عطا کیا گیا ہے۔

میں نے وقت کی مناسبت سے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ حمد میں

اللہ تعالیٰ کی چار بنیادی صفات بیان کی ہیں۔ جنہیں اُمّ الصفات یا اصل الاصول کہہ سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری صفات کے مظہر اتم ہیں۔ تمہیں ہر صفت کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری بنیادی صفات ہیں اُن کے آپ مظہر اتم ہیں۔ تم دیکھ لو۔ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ کی زندگی میں رحمانیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں رحیمیت اور مالکیت کے جلوے کامل طور پر نظر آتے ہیں ایسے جلوے نہ کسی نے پہلے دکھائے اور نہ کوئی آئندہ دکھا سکتا ہے۔ کیونکہ نہ پہلوں کو وہ استعداد ملی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور نہ بعد میں آنے والوں کو مل سکتی ہے۔

یہ نکتہ اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ گو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کا مظہر اتم بنایا گیا مگر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بت بنا لو اور ان کی پوجا کرنے لگو۔ بلکہ خدا نے یہ فرمایا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے قریب آ گیا ہے کہ کوئی طاقت اتنی قریب نہیں آ سکتی یہ صرف میرے محمد کو حاصل ہوا ہے اس نے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے جتنا قرب حاصل کیا جا سکتا تھا اُس نے اتنا قرب حاصل کر لیا ہے۔ اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہیں۔ ہم بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔

غرض پہلی بات یہ تھی کہ اپنی قوتوں کی نشوونما کو کمال تک پہنچاؤ۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو مد نظر رکھو۔

دوسرے یہ کہ انسان کو تمام قوتیں اور طاقتیں صفات باری تعالیٰ کا مظہر بننے کے لئے دی گئی ہیں۔ تیسرے یہ کہ انسان کے صفات باری کا مظہر بننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے وجود میں بھی حسن و احسان کے جلوے نظر آنے لگیں۔ کیونکہ خود صفات باری میں بھی ایک جلوہ حُسن کا اور دوسرا احسان کا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک جلوہ حُسن کا اور دوسرا احسان کا نظر آتا ہے۔ جس طرح خدا نور ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات باری کے مظہر اتم ہونے کے لحاظ سے اور لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ (موضوعات کبیر حرف اللام) کے بلند ترین شرف سے مشرف ہونے کی وجہ

سے اس سارے جہان کا نور ہیں۔ آپ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ذریعہ بن گئے ہیں۔ اسوۂ نبوی کا تیسرا بنیادی نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور ان کے مظہر اتم کی صفات کے جلوؤں میں ایک پہلو حسن کا ہے اور دوسرا احسان کا ہے۔ اس لئے تمہارے اندر بھی اپنے اپنے دائرہ استعداد کے لحاظ سے حسن و احسان کے جلوے ظاہر ہونے چاہئیں اور اس غرض سے جماعت احمدیہ کو قائم کیا گیا ہے۔

قرآن کریم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور ہم سے ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ (ال عمران: ۳۲) کی رو سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو اسوۂ حسنہ رکھا ہے اپنے دائرہ استعداد میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اندر صفات باری کے مظہر بنیں گے اور دنیا کو حسن و احسان کے جلوے دکھائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیں گے۔

چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

”آپ کے نقش قدم پر چلنا (انسان کو خدا کا محبوب بنا دیتا ہے)۔ جب ایک انسان سچے دل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی تمام عظمت اور بزرگی کو مان کو پورے صدق و صفا اور محبت اور اطاعت سے آپ کی پیروی کرتا ہے یہاں تک کہ کامل اطاعت کی وجہ فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اس تعلق شدید کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ الہی نور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے۔ اس سے یہ شخص بھی حصہ لیتا ہے..... اور اس کے ہر ایک عضو میں سے محبت الہی کا نور چمک اٹھتا ہے تب اندرونی ظلمت بالکل دور ہو جاتی ہے۔ علمی رنگ سے بھی اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور عملی رنگ سے بھی نور پیدا ہو جاتا ہے۔“ (روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۶۸۱)

پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والوں کا پہلا فرض یہی ہے کہ یہ چاروں صفتیں اپنے اندر بھی قائم کرے کیونکہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا یہی تقاضا ہے کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی

نوع انسان اور نیز غیر انسان کا مربی بنا اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور کو بھی اپنی مربیانہ سیرت سے بہرہ نہ رکھنا ایک ایسا امر ہے کہ اللہ کی سچی عبادت کرنے والا کمالِ محبت سے اس الہی سیرت کا پرستار بن جاتا ہے اور خود بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تا اپنے محبت کے رنگ میں آ جائے۔“

گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بننے کا جو حکم دیا اس کو یاد دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر صفت ربوبیت پیدا کریں اور اس کے نتیجے میں انسان اور غیر انسان کے مربی بننے کی کوشش کریں۔ یعنی انسان تو کیا جانوروں کو بھی اپنی مربیانہ صفت سے بے بہرہ نہ رکھیں۔ ہمارے جماعتی پروگرام اسی نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے اور بڑی حیران بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس ملک میں اپنے آرام اور سکھ بھی عام لوگوں جتنے نصیب نہیں ہیں ہم ایک غریب قوم ہیں مگر خدا تعالیٰ کی رضا کو ہر حال میں دنیوی مرضیات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارا زمیندار اگر ہفتہ میں ایک دفعہ مزید ارسالن کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ بھی نہیں کھاتا میں اس لذت کو کھوتا ہوں آخر وہ کیا چیز ہے جو اس جذبہ کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ دنیا حیران ہے بعض دفعہ وہ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتی ہے۔ کیونکہ وہ خدا اور اُس کے حُسن سے بے بہرہ ہے اور یہ امر ہمارے لئے غم اور افسوس کا باعث ہے کہ لوگ خدا کی صفات سے کیوں غافل ہیں۔

پس ہمارے پروگرام بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ بعض جاہل اور کم علم لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں کہ اپنے ملک میں تو کچھ نہیں کرتے اور غیر ملکوں میں توجہ دیتے ہیں۔ ہم تو پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ غیروں کی خدمت کریں۔ اگر غیروں سے تمہاری مراد باہر کے ممالک ہیں تو وہ بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ ہر وہ جگہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جلوے نظر آتے ہیں وہاں ہم پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جلوؤں کے ساتھ اپنی استعداد کے مطابق اپنی ربوبیت کے تھوڑے بہت جلوے بھی شامل کر دیں۔

پھر خدا تعالیٰ چونکہ بڑا مہربان ہے وہ کہتا ہے میرے بندوں نے سب کچھ کیا ہے حالانکہ کیا

اُس نے خود ہوتا ہے لیکن وہ اپنی رحمت سے ہمارے لئے برکتوں کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا پندرہ مہینے میں طبری مراکز اور سکولوں کی آمد پینتالیس لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔ پھر اسی آمد میں سے ہم نے خرچ کیا گواہ بنائی خرچ تو اُس پیسے میں سے ہوا تھا جو جماعت نے نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں دیا تھا لیکن بعد میں اصل سرمایہ واپس آ گیا اور آمد میں سے خرچ کیا گیا۔ دنیا کہتی ہے جماعت احمدیہ نے خرچ کیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ ایک ملک کے ہائی کمشنر (مصلحتاً میں مُلک کا نام نہیں لوں گا) نے کہا جس رنگ میں جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگلے آٹھ سال میں ہمارے ملک کی ۸۰ فیصد آبادی احمدی ہو چکی ہوگی اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ ابھی سے احمدیت میں داخل ہو جاؤ آٹھ سال کے بعد احمدی ہوئے تو کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ ایک پاکستانی دوست نائیجیریا میں تھے۔ وہاں سے اُن کا کسی اور ملک میں تبادلہ ہوا تو وہ ایک احمدی دوست سے کہنے لگے کہ خاموشی کے ساتھ مگر نہایت تندرہی کے ساتھ جماعت احمدیہ نائیجیریا میں تبلیغ اسلام کا کام کر رہی ہے۔ اب دیکھو وہ خود احمدی نہیں ہے لیکن اس کا تاثر یہ تھا کہ جماعت احمدیہ ترقی کر رہی ہے۔ تاہم جماعت احمدیہ نہ تو خاموشی سے کام کر رہی ہے اور نہ دنیا کی واہ واہ اس کے مد نظر ہے۔ ہم نے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا (الدھر: ۱۰) کی رُو سے دُنیا سے یہ نہیں کہنا کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے۔

پس یہ ہے ہمارا علم اور یہ ہے ہمارا لائحہ عمل۔ ہم دنیا سے نہ شکر گزاری کے متمنی ہیں اور نہ کسی سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں۔ ہم تو خدا تعالیٰ کے بندے بن کر بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے میدانِ جہاد میں برسرِ پیکار ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں جن و انس اور انسان اور غیر انسان کا رب ہوں۔ ہم اپنے ملک سے باہر نکلے اور ہم نے کہا کہ اپنے رب کی اس صفت کا صحیح مظاہرہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں جتنی طاقت ہے اتنے ہم پھیلے اور تیری ربوبیت کے جلوؤں میں اپنی حقیر سی کوشش ہم نے بھی شامل کر دی۔ اے خدا تو اپنے فضل سے ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرما اور ان کے بہترین نتائج پیدا کر۔

پس یہ ہے ہمارا پروگرام اور یہ ہے ہماری کوششوں کا منتہا، مقصود۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

میں رحمان ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا یہ رحمانیت کے معنی اور مفہوم کا بنیادی تصور ہے۔ یعنی بغیر کسی عوض کے خدمت کرنا اور مخلوق خدا پر رحم کرنا۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا سچا عاشق ہے اور اس کے جلوؤں کو دیکھتا ہے اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہے اور اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہو اور بنی نوع انسان کی خدمت بغیر کسی اجر کے کرتا رہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

گالیاں سن کر دُعا دو

اب گالی دینا کوئی خدمت تو نہیں جس کے بدلے میں کسی کو دُعا دی جائے کہ گویا کسی کی خدمت کا بدلہ اُتار جا رہا ہے۔ بلکہ وہ تو خدمت کی ایک بھیانک شکل میں نفی ہے مگر گندہ دہانی کرنے والا شخص جس کی گندہ دہانی اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہو وہ بھی یہ یاد رکھے کہ وہ ہمارے احسان سے بچ نہیں سکتا۔ وہ اپنی محفلوں کو ہمیں گالیاں دے کر سجاتا ہے۔ ہم اپنی راتوں کو ان کے لئے دعائیں کر کے منور رکھتے ہیں۔

ہمارا خدا رحمان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صفتِ رحمانیت کے مظہر کے طور پر اس کے جلوؤں میں اپنی طرف سے تھوڑی سی چاشنی ملا دیں۔ تاکہ اس کی رحمتوں کے ہم بھی وارث بن جائیں۔ یہ ضروری ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ خصوصاً اس ضمن میں وہ بڑی ضروری ہیں۔ کئی لوگ ایسے موقع پر غصے میں آ جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ انسانی فطرت ہے۔ غصہ میں آنا نہ بُرا ہے اور نہ قابلِ اعتراض ہے۔ تاہم غصے کو نہ دبانایا یہ بُری بات ہے۔

میں نے بتایا تھا کہ ایبٹ آباد میں ہمارے مکان بن رہے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کو آگ لگا دی جس سے بیس پچیس ہزار روپے کا نقصان ہو گیا۔ ہمارے بعض احمدیوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ میں نے اُن سے کہا تم بڑے عجیب لوگ ہو۔ تم یہ بنیادی بات مھول جاتے ہو کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت اور وسعت پیدا کر دی ہے کہ یہ بیس پچیس ہزار روپے کی رقم اس کے لئے ایسی ہے جیسے ایک مضبوط جسم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے۔ کیا وہ مضبوط جسم اس مکھی کے بوجھ تلے دب جایا کرتا ہے۔ نہیں! ہرگز نہیں!! ہم ان کی ان حرکتوں کے نتیجہ میں ان کے دشمن نہیں بنتے۔ بلکہ ہمارے دل میں اُن کے لئے رحم کی موجیں اور زیادہ شدت اختیار کر

جاتی ہیں کہ قرآن کریم ایک حسین تعلیم تھی یہ اس سے غفلت برتنے والے ہیں اور اس کے کمالات سے بے خبر ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر تم پر احسان نہ بھی کرے تب بھی تم اس پر احسان کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم احسان کرتے ہیں وہ ہمیں مٹانے کے درپے ہیں۔ ہم ان سے جزا اور شکر کا مطالبہ نہیں کرتے مگر وہ ہمیں مٹانے کے درپے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔

قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور اے رسول! تو ان کی ان حرکتوں پر تعجب کر رہا ہے۔ خدا نے ان کے لئے ایک عزت کا سامان آسمان سے بھیجا۔ اور وہ اپنی عزت اور شرف کے سامان کو پہچانتے ہی نہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی بطور مظہر اتم کے دنیا پر ظاہر فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے اپنے دائرہ استعداد میں کمال کو پہنچانی چاہئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹھیک کام کرنے والے ہیں ان کے کام کی تکمیل میں ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔

صفتِ رحمانیت کے زیادہ ظاہری جلوے وہاں عیاں ہوں گے جہاں یہ جلوہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا جماعت سے تعلق نہیں اور رحیمیت کا جلوہ *تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا (المائدہ: ۳)* کے ماتحت ظہور پذیر ہوگا۔ کوشش کرو کہ جو نیک کوشش میں مصروف ہے وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر لے۔ یعنی اپنی زبان میں احمدیت کی زبان میں یا اسلام کی زبان میں بات کریں تو کوشش کرو کہ تمہاری نوجوان نسل جو اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرے ان کی تربیت درست ہو اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں اس میں تم ان کے مددگار بنو اور ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ ان کے ساتھ چلو۔ ان کی رہنمائی کرو اور ان سے پیار کرو اور ایسا پیار کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ پیار نہیں کہیں نظر نہ آئے۔ وہ سمجھ جائیں اور یہ حقیقت پہچان جائیں کہ وہ کس غرض کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ یاد رکھو اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اپنی کوشش اور اپنے بھائی کی مدد اور اس کا ساتھ دینا۔ اس طرح کرنے سے ہم صفتِ رحیمیت کے مظہر بن جائیں گے اور جماعت کو ایک *بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ* یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنا دیں گے۔ اس لئے نہیں کہ اس سے میں نے یا آپ نے کوئی ذاتی

فائدہ اٹھانا ہے بلکہ اس لئے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے اور وہ اس عظیم ہستی کی عظیم فوج کا ایک سپاہی بن جائے۔ جس کے ذریعہ سے دنیا کے گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کے نور کے چراغ روشن ہوئے ہیں اور جن مکانوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوئے حمد لہرایا جانا ہے۔ پھر جماعت کو مالکیت یوم الدین کا بھی مظہر بنانا ہے۔ ہم اس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ساری جماعت مل کر کوشش کرتی ہے۔ اسے ہر وقت سامنے رکھنا چاہئے۔ کوئی فیصلہ نفس کے جوش سے نہیں کرنا چاہئے ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی منشاء اور اسلامی تعلیم کے مطابق ہونا چاہئے اور اس فیصلہ سے فضائی فیصلہ مراد نہیں ہے۔ اس فیصلہ سے ثالثی فیصلہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ ہر کام کے کرنے سے پہلے جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ مراد ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کا جو وقت گذرتا ہے۔ اس میں آپ اس قسم کے سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سے بوجہ طبیعتوں کے اختلاف کے علیحدہ علیحدہ سلوک کرنا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر مثلاً کسی کی بیوی غفلت کر جائے تو غصہ میں نہیں آنا۔ پچھلے دنوں مجھے بڑا دکھ پہنچا جماعت کے ایک کارکن کی بیوی آپا مریم صدیقہ اور منصورہ بیگم کے پاس آئی اور بتایا کہ اُس کے خاوند نے اسے اتنی بے رحمی سے مارا ہے کہ اس کا سارا جسم نیلا ہوا ہوا ہے۔ تم خدا کی طرف اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس کے محبوب مہدی کی طرف منسوب ہوتے ہو۔ تمہارے کان میں تو یہ آواز پڑ رہی ہے کہ مالکیت یوم الدین کی صفت کے مظہر ہو لیکن اپنے نفس کے جوش سے ظلم اور وحشت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ احباب جماعت ایسے لوگوں کے لئے دُعا بھی کریں۔

پس مالکیت یوم الدین کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نفس کے سارے جوش ٹھنڈے ہو جائیں۔ سوچو اور غور کرو۔ بعض دفعہ جوش آ بھی جاتا ہے۔ اس قسم کی کیفیت فطرتی لازمہ ہے۔ مثلاً کہیں جلسہ ہو رہا ہے۔ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک وقت میں غیر ملکوں میں اسلام کے خلاف سخت گندے اعتراض کر دیئے جاتے تھے۔ دنیا کے ایک حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی اور گندہ اعتراض کیا گیا اور دنیا کے دوسرے حصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہدی معبود علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں اور گندے اعتراضات کر دیئے گئے۔ جہاں بھی یہ اعتراض ہو وہاں ہمارے نفس جوش میں نہیں آنے چاہئیں۔ خدا تعالیٰ کے

ایک بندے کی روح میں وہ ردِ عمل پیدا ہونا چاہئے کہ خود خدا کہے کہ میرا بندہ میرا محبوب ہے یہ غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ گالیوں میں گالیاں ملا کر گند اور عفونت کی آواز کو ہم نے بلند نہیں کرنا بلکہ گالیوں کے گندے شعلوں کو اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے بجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ یہی ہماری روح ہے اور یہی ہمارا شعار ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم نے اس سے کوئی پیار نہیں کرنا۔ اگر ہمارے دل میں مہدی معبود کے لئے کوئی پیار نہیں تو کیا کرنا ہے زندہ رہ کر۔ اگر خدا سے دور ہی رہنا ہے تو پھر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ خدا کہے کہ تکلیفیں برداشت کرو۔ ہم ان تکلیفوں کو برداشت کریں اور ہمیں پتہ یہ لگے کہ ان میں خدا نے ہمارے لئے سرور پیدا کر دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ جن لوگوں کو آپ خدا کے پیارے اور محبوب کہتے ہیں ان پر دُکھ کیوں آتے ہیں ان پر ابتلاء کیوں نازل ہوتے ہیں۔ آپ چونکہ خود صاحبِ تجربہ تھے آپ نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا تم ان سے جا کر پوچھو ان ابتلاؤں اور امتحانوں کو (جو دشمن کی نگاہ میں دُکھ اور تکلیف کا موجب ہیں) دُکھ اور تکلیف سمجھتے ہیں یا ان میں نہایت لذت اور سرور پاتے ہیں۔ جب وہ اسے تکلیف ہی محسوس نہیں کرتے تو تم اسے تکلیف کیوں کہتے ہو۔

پس یہ خدا کی چار صفات ہیں جو اصول کے طور پر سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ ان چار صفات کا مظہر بنے اور اپنی زندگیوں پر ان کا رنگ چڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ان کی اُنکلی پکڑی۔ ان کا ساتھی اور دوست بنا۔ ان سے پیار کرنے والا بنا۔ ان کو اپنا محبوب بنایا۔ خود ان کا محبوب بھی بنا اور اس طرح گویا ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اس عالمین کی یا ان افلاک کی جو غرض تخلیق تھی وہ پوری ہو جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنا عمدہ نمونہ پیش کیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنانے کے لئے تمہارے سامنے جو نمونہ رکھا ہے۔ اس میں کوئی خامی کوئی کمزوری اور کوئی نقص نہیں ہے۔ جو صفات باری کا مظہر اتم اور مظہر اکمل ہے اور وہ ایک کامل اور

مکمل اسوۂ حسنہ بن کر تمہارے سامنے آیا۔ اس اسوۂ حسنہ کے مطابق جو تمہیں قویٰ دینے گئے۔
 تعبیرِ ابدی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے لئے ان کی نشوونما کو کمال تک پہنچاؤ۔
 خدا تعالیٰ کی صفات کے حسن و احسان کے جو جلوے خدا کی صفات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 صفات میں نظر آتے ہیں وہ حسن و احسان کے جلوے تمہاری زندگیوں میں بھی نظر آئیں۔ تم رب
 بھی بنو خدا کے فضل اور اُس کی دی ہوئی توفیق سے اپنے اپنے دائرۂ استعداد کے اندر اندر اور اس
 طرح رحمان بھی بنو رحیم بھی بنو اور مالک یوم الدین بھی بنو اور خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے جو دائرہ
 مقرر کیا ہے اس کے اندر رہو گے تو میری رضا کی جنتوں میں میری رضا کے ماحول میں رہو گے۔
 باہر نکلو گے تو جہنم میں جا پڑو گے۔ اس لئے باہر نہ نکلنا۔ اپنے اپنے دائرہ میں اپنی زندگی گزارو۔
 آپ کے سارے پروگرام، آپ کے سارے کام اور سارے فیصلے اور ساری تمنائیں اور دعائیں
 اور آپ کی زندگی کے سارے پہلو اسی حقیقت کے غماز ہونے چاہئیں حتیٰ کہ آپ کے آخری لمحات
 میں بھی یہ حقیقت نظر انداز نہیں ہونی چاہئے جب کہ انسان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
 کھڑا ہوتا ہے اور خدائے رحمان سے کہتا ہے یا خدائے رحیم سے کہتا ہے کہ اے خدا اس قسم کی
 ہزاروں موتیں بھی آئیں تیری رحمت اور تیرے فضل اور تیرے پیار کے مقابلہ میں یہ موتیں ہمیں
 کیسے ڈرا سکتی ہیں موت ہمارا منتہا نہیں۔ تیری رضا ہمارا منتہا مقصود ہے اور تیرے فضل اور رحم
 پر منحصر ہے۔

اب اس کے بعد میں دعا کروں گا۔ کچھ زبانی دعائیہ کلمات کہوں گا اور پھر ہم اجتماعی طور پر
 دعا کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ہی مظلوم ہے۔ پاکستانی قوم
 یا اس کے شہری بڑے ہی مظلوم ہیں اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل پچھلے ڈیڑھ دو سال کا
 زمانہ ہے۔ اس عرصہ میں فساد پیدا کرنے والوں نے فساد پیدا کیا۔ مجھ سے جو بھی سیاستدان ملنے
 آتے تھے ان سے میں یہی کہا کرتا تھا کہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اس کی حقیقی ماں نہیں
 ملی۔ کہتے ہیں ایک قاضی کے پاس ایک مقدمہ گیا۔ ایک چھوٹا بچہ دو سال دو سال کا تھا۔ اس کی ماں
 ہونے کی دعویٰ در دو عورتیں تھیں۔ ایک کہتی تھی میں اس کی ماں ہوں دوسری کہتی تھی میں اس کی ماں
 ہوں۔ یہ بچہ مجھے دو اور دونوں کے پاس بڑی مضبوط گواہیاں تھیں۔ بیچارہ قاضی بڑا پریشان تھا۔

آخر خدا نے اس کے دماغ میں روشنی ڈالی۔ اس نے ان عورتوں سے کہا دیکھو! تم دونوں اس بچے کی ماں ہونے کی دعویٰ دو اور ہوا اور گواہیاں ایک جیسی پختہ اور مضبوط ہیں اس لئے میرے لئے تو اب ایک ہی راہ ہے میں آدمی منگواتا ہوں بچے کو دو حصوں میں کاٹ دیتا ہوں۔ ایک حصہ ایک عورت لے جائے اور دوسرا حصہ دوسری عورت۔ اس پر اس بچے کی حقیقی ماں بولی کہ میں اس بچے کی ماں نہیں ہوں۔ اس کو سالم رہنے دو اور دوسری عورت کو دے دو۔

پس پاکستان کو اب تک حقیقی ماں نہیں ملی، آری چل گئی۔ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر بھی کسی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہوا۔ یہاں الیکشن ہوئے اور وہ بھی بڑی دیر کے بعد۔ ان الیکشنوں کے دوران غلط باتیں بھی ہوئی ہوں گی۔ اس سے انکار نہیں لیکن بحیثیتِ مجموعی جہاں تک ہمیں علم ہے ایسی دھاندلیاں نہیں ہوئیں جو سارے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا جواز پیدا کرتی ہوں۔ جب الیکشن ہوئے تو کچھ سیاسی پارٹیوں کو زیادہ نمائندگی ملی اور کچھ کو کم ملی۔ جب مُلک بٹ گیا تو پھر مزید حالات خراب ہو گئے۔

قتل و غارت ہوا۔ ہماری قوم نے دکھ اٹھایا یہاں بھی کہنے کو جنگ ہوئی بھی اور عملاً جنگ نہیں بھی ہوئی۔ اس تفصیل میں کیا جاؤں بڑی دکھ دہ کہانی ہے اور پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس حصہ ملک میں جس پارٹی کی اکثریت تھی اس کو حکومت مل گئی اور اُس حصہ ملک یعنی مشرقی پاکستان میں جو پارٹی اکثریت میں تھی اس کو حکومت مل گئی۔ اب جبکہ جمہوری طریقے پر نمائندگی ملی تھی تو جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پانچ سات سال کے بعد جب دوبارہ انتخاب ہوگا تو جمہوری طریقے پر ووٹ لینے کی کوشش کی جائے اور اس طرح جس پارٹی کو اکثریت مل جائے وہ حکومت کرے مگر نہیں۔ جمہوریت کا نام لے کر غیر جمہوری اور کند چھری سے جمہوریت کی گردن کاٹنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے یہ نعرہ لگا دیا کہ گزشتہ عام انتخابات ہی ٹھیک نہیں تھے۔ اگر اس طرح نعرہ لگانے سے صحیح انتخابات بھی غلط ہو جاتے ہیں اور ٹھیک انتخابات بھی ٹھیک نہیں رہتے تو پھر جو اگلا انتخاب ہوگا۔ اس کے خلاف بھی یہی نعرے لگیں گے پھر تو یہ نعرے قیامت تک لگتے چلے جائیں گے اور ہماری مظلوم قوم دکھ اٹھاتی رہے گی۔ اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ لوگ چار پانچ سال تک انتظار کریں موجودہ حکومت کو کام کرنے کا موقع دیں۔ پھر جب اگلا انتخاب آئے تو پھر جمہوری طریقے پر انتخاب لڑیں مگر اب حالت یہ ہے کہ لوگ موجودہ حکومت کے

خلاف گلیوں میں نکل آئے ہیں۔ یہ آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جمہوریت کے ایک غلط معنی بھی اپنالئے گئے کہ جمہوریت میں دس آدمیوں کو تو یہ اجازت ملنی چاہئے کہ وہ دوسرے دس آدمیوں کی دکانوں کو آگ لگا دیں مگر دوسرے دس آدمیوں کو یہ اجازت نہیں ملنی چاہئے کہ آگ لگانے والوں کے ہاتھ پکڑ لیں یا ان کو سرزنش کر سکیں۔ اب ساری کوشش یہ ہے کہ مسائل کو آپس میں خلط ملط کر دیا جائے اور ملک کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچ سکے۔ چند مہینے یا چند سال کی حکومت ہے۔ تم حکومت سے ہزار اختلاف کر سکتے ہو ان کا برملا اظہار بھی کر سکتے ہو۔ جمہوریت میں تمہیں اظہار خیال سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن تم ان کو کام کرنے کا موقع تو دو۔ اگر تمہارے نزدیک ایک سال کے اندر ہی ان کی ناکامیاں ظاہر ہو گئی ہیں تو چار سال تک انتظار کرو۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ پھر تو تمہیں ووٹ زیادہ مل جائیں گے۔ تم حکومت بنا لینا لیکن صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ۔ کسی کو کچھ عرصہ کام کرنے کا تو موقع دو۔

جیسا کہ پچھلے جلسہ سالانہ پر بھی میں نے بتایا تھا ہم پر یہ اعتراض کر دیا کہ احمدی بڑے بیوقوف ہیں۔ کسی نے کہا بڑے دھوکہ باز ہیں۔ کسی نے کہا ملک کے بڑے غدار ہیں۔ اسلام کا نام لیتے ہیں اور دہریوں اور سوشلسٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ میں نے اس اعتراض کا جواب دے دیا تھا۔ جواب تو میں نے دے دیا تھا۔ ان کا منہ بند کرنے کے لئے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے کہ ہماری وجہ سے پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے اور ان کی حکومت قائم ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے تو تم صبر سے کام لو۔ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کو کمیونسٹ بھی نہیں بننے دیں گے۔ خیر یہ تو ایک ایسا جواب تھا جو ان کے منہ بند کرنے کے لئے میں نے دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر چلتی ہے۔ مدتوں کی غلط باتیں تو فوراً صحیح نہیں ہو جاتیں۔ ابھی پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کا جو کنونشن ہوا ہے۔ اس میں بھٹو صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی سے کمیونزم کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ میں نے ایسا وعدہ کیا تھا مگر کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔

پھر جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا۔ اسلامی سوشلزم ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو اس کا کچھ پتہ ہے اور کچھ کو اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن نیت درست ہے۔ کمیونزم کا

نعرہ تو نہیں لگایا گیا۔ اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ قرآن کریم کا نیا علم اس زمانہ سے تعلق رکھنے والا علم اور اس زمانہ کے مسائل کو سلجھانے والا علم حضرت مسیح موعود مہدی معبود کے ذریعہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اس لئے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی سوشلزم کے متعلق رہنمائی کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے کتابیں بھی لکھیں۔ لیکچر بھی دیئے۔ اپنی تفسیر کبیر میں بہت سی آیات قرآنیہ کی تفسیر بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اسلامی سوشلزم کا کیا مطلب ہے۔ اسلام ہر انسان کے جو حقوق قائم کرتا ہے اور ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ کون سے حقوق ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کی کمال نشوونما کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ دنیا کے آرام، دنیا کی سہولتیں، طاقت کو قائم رکھنے کے لئے غذا کا ہونا۔ حوادث زمانہ سے بچنے کے لئے حفاظتی سامان، رہنے کے لئے مکان کا ہونا، تعلیمی سہولتیں میسر آنا۔ یہ ساری ضمنی چیزیں ہیں البتہ روحانی ترقیات میں مدد و معاون ہیں۔ اس سے ہمیں انکار نہیں۔ اس لئے یہ چیزیں بھی ہمیں ملنی چاہئیں۔ خود اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ملنی چاہئیں اسلام کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے حق کو قائم کیا ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں جب تک ایک شخص بھی ایسا ہے کہ ہمارے قائم کردہ حقوق اس کو نہیں ملے۔ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر کے سٹرائیکس کی خاطر باہر گلیوں میں آئے یا شرافت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھا رہے۔ اس کو اس کا حق ملنا چاہئے اور اگر نہیں ملتا تو دنیا میں کوئی غاصب اور ظالم امیر آدمی ہے جس نے اس کے حصہ کی دولت بھی اپنے گھر میں سمیٹ رکھی ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے بعض دفعہ امیر آدمی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم تمہاری ناراضگی کی پرواہ کریں یا اپنے رب کی ناراضگی کی پرواہ کریں۔ جو حقوق خدا تعالیٰ نے قائم کئے ہیں۔ شرف انسانی کے متعلق اور انسان کی قوتوں کی صحیح اور کامل نشوونما کے لئے وہ حقوق تو خدا نے قائم کئے ہیں۔ میرا آپ کا یا کسی اور کا یہ کام نہیں ہے کہ ان حقوق کو کالعدم قرار دے دیں۔ یہ انسان کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں ہے کہ جیسے ایک حکومت بناتی ہے اور دوسری آ کر بدل دیتی ہے۔ ایک حکومت آج ایک قانون بناتی ہے اور ایک مہینے کے بعد کہتی ہے غلطی ہوگئی اس لئے وہ قانون بدل دیتی ہے۔ اسے تو خدائے علام الغیوب نے اپنی کامل

حکمتوں کے ساتھ ابدی صداقت اور ہدایت کے رنگ میں قرآن کریم میں شامل کر کے رحمۃ اللعالمین کو الہام کر کے دنیا میں قائم کیا ہے۔ یہ تو قائم ہوگا۔ اب زمانہ آ گیا ہے کہ یہ قائم ہو۔ جہاں تک کمیونزم پہنچا یا جہاں تک چین کا سوشلزم پہنچا اسلام اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ میں نے کئی سیاست دانوں سے جو بائیں طرف (یعنی کمیونزم کی طرف) جھکے ہوئے تھے کہا ہے کہ ایک مظلوم آدمی نے، ایک مزدور نے، ایک غریب آدمی نے تمہارا کیا قصور کیا ہے کہ تم باہر نکلے اور سٹیج پر جا کر تم نے یہ تقریریں شروع کر دی ہیں کہ تمہارا حق تو سو پیسوں کا ہے لیکن تم پچاس پیسوں پر راضی ہو جاؤ۔ قرآن اُسے سو پیسے دیتا ہے لیکن تم کہتے ہو ہم لیفٹسٹ (Leftist) تمہارے لئے پچاس پیسوں کا انتظام کریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ کئی ایک کو یہ بات سمجھ آگئی اور کئی ایک کو سمجھ نہیں بھی آتی ہوگی۔ تاہم ہمارا کام اُن کو بتا دینا ہے۔

میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک جب سے بنا ہے مظلوم ہی چلا آ رہا ہے۔ پچھلے دو سال میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ کئی راتیں تو میں سو نہیں سکا کتنی صحیحیں ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے مجھے سارا دن پریشان رکھا۔

اسی جلسہ سالانہ سے پہلے مجھے خیال آیا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس قوم پر کسی کو آرام سے کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ دنیا میں اختلاف ہوا کرتے ہیں۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کرتا کہ بھائی بھائی کی گردن اڑا دے۔

پس میں احباب جماعت سے کہتا ہوں کہ تم پیار سے، عقل سے، دلائل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کوئی آدمی نہیں جو تمہاری بات نہ مانے۔ تمہاری بات اس لئے کوئی نہیں سنتا کہ انسانی فطرت سچی بات قبول کر لیتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی بات ہی نہ سنو۔ اسی لئے کفار نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچایا کرو۔ تم کہتے ہو مرزا نیوں کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم ہاتھ لگاؤ، تم پڑھو، تم ہماری غلطیاں نکالو۔ مجھ سے جب کبھی کوئی دینی عالم یا مولوی صاحب ملتے ہیں تو میں تو ان سے یہ نہیں کہا کرتا کہ آؤ میں تمہیں تبلیغ کروں۔ بلکہ اس سے کہا کرتا ہوں کہ اگر میں غلط راستے پر ہوں تو تم مجھے سیدھے راستہ پر ڈال دو۔ جب وہ بات شروع کریں گے تو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اس لئے آپ بھی یہی کہا کریں۔ جو ملے اس سے اس طرح تبلیغ کریں۔ آخر ان کے نزدیک ایک احمدی کا یہ حق نہیں ہے

کہ اسے صراطِ مستقیم دکھائی جائے۔ اُس کو راہِ راست پر لایا جائے اُس کو سچی باتیں بتاتی جائیں۔ اگر احمدی کا یہ حق ہے تو اُن کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ باتیں اسے بتائیں۔ ہمارے گھروں پر آئیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیئیں۔ ہمارے ساتھ ملیں۔ ہمیں پیار سے اپنی باتیں سنائیں جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا مثلاً وہ کوئی دلیل دیں گے۔ حیاتِ مسیح کی ہم کہیں گے دیکھو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے بعد طبعی وفات پا کر زمین میں مدفون ہوں اور جو اُن سے کہیں چھوٹا تھا اور جو معراج میں کشفِ آپ کو کئی آسمان نیچے دکھایا گیا تھا۔ اُسے آپ آسمان پر زندہ بٹھاتے ہیں اور وہ نبی اور وہ خاتم النبیین اور وہ خاتم المرسلین جس نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا ”اذا تواضع العبد رفعه اللہ الی السماء السابعة“ (کنز العمال جلد ۲ ص ۲۵ مطبوعہ دائرہ معارف حیدرآباد) کہ تم میں سے جو بھی تواضع اور منکسر المزاجی سے کام لے گا، تکبر نہیں کرے گا اور زمین کی طرف اس کا سر ہمیشہ جھکا رہے گا اس کا رب اُسے ساتویں آسمان تک لے جائے گا۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی چند آسمان اوپر لے جائے گا۔ پس جو بات ہمیں سمجھ نہ آئے وہ ہم اُن سے پوچھیں گے۔ آخر ہمارے بھی اسی طرح تم پر حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ہم پر ہیں۔ پس شور کرنا اور بلاوجہ اصرار کرنا درست نہیں ہے۔

بہر حال اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پر یہ اعتراض کر دیا گیا کہ مذہبی جماعت کہلانے کے باوجود یہاں کمیونزم کو غالب کر دیا اور اُن کے حاکم بننے کے سامان پیدا کر دیئے مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ اعتراض غلط تھا۔ ہم حکومت کو صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ دنیا کی دوستیوں کی طرح تو حکومت سے تعلق نہیں ہوتا لیکن ہم اُن کو بتاتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک کتاب ”اسلام غرباء اور یتامی کا محافظ“ جو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہے وہ حکومت کے نمائندوں تک پہنچانی گئی ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں کو دیں۔ یہ ملک اور اس ملک کے حالات ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ایک بڑا حصہ اُن کا بھی رکھیں۔ بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی قسمت کو سنوارے اور ملک کے اندر جو نا سمجھ دوست ہیں اُن کو سمجھ عطا کرے اور جو سمجھدار ہیں اُن کی فراست کو اور بھی زیادہ تیزہ کر دے اور ہر فرد کو یہ توفیق دے کہ ہر دوسرے کی خدمت کے لئے انتہائی کوشش کرے۔ اگر ہر شخص ہر دوسرے شخص کی خدمت کرے

تو چھ کروڑ کی آبادی میں پانچ کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے (۵,۹۹,۹۹,۹۹۹) آدمی تو اس کے خادم بن سکتے ہیں اور اگر ہر شخص اپنی ہی خدمت کرے اور دوسرے کا خیال نہ رکھے تو وہ بیچارا اکیلا ہی خادم ہے۔ پس ہر دوسرے شخص کی خدمت کرنا خدمت کے مواقع اور دروازے پیدا کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کو بھولنا نہیں چاہئے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہئے بے نفسی اور بے لوث خدمت کرنا چاہئے۔ کسی سے کچھ نہ مانگیں۔ دینے والا تو خدا ہے۔ وہ بہت کچھ دے دیتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا تھوڑی سی چیز ہم نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا نتیجہ نکالا۔ میرے سامنے ہمارے مبلغ آتے ہیں۔ میرے پیارے بچے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے میں ان کو یہی کہا کرتا ہوں دیکھو ہم ایک دھیلہ خرچ کرتے ہیں اور ایک ہزار گنا بڑھ کر اس کا نتیجہ نکل آتا ہے اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ ہماری محنت اور قربانی کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یہ دھیلہ تو دنیا بھی خرچ کرتی ہے لیکن اُن کا اتنا زیادہ اور غیر معمولی نتیجہ کیوں نہیں نکلتا۔ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اُن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پس دُعائیں کرو کہ جہاں تک دنیوی برکات کا سوال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عطاء فرمائے اور یہاں ہمارے ملک میں بھی کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کو کوئی دُکھ اور پریشانی ستارہی ہو۔ اسی طرح ساری دنیا میں بھی ایک امن کی فضا پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دُنیا کو عقل عطا فرمائے۔ بڑی دُعا آج کل یہی کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ یہ دراصل پہلی دُعا کو نمایاں کرنے کے لئے اس کا پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ یہ دوسری دُعا کا حصہ ہے۔ غلبہٴ اسلام کے لئے دعائیں کرنا مقصود ہے۔ غلبہٴ اسلام مقدر ہے۔ غلبہٴ اسلام کے لئے جس قدر اموال کی ضرورت ہے غلبہٴ اسلام کے لئے واقفین زندگی کی ضرورت ہے۔ غلبہٴ اسلام کے لئے جس قدر مادی ذرائع کی ضرورت ہے۔ غلبہٴ اسلام کے لئے جس قدر اثر و رسوخ کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے پاس نہیں بلکہ اس کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہے اور ہمیں خدا نے یہ فرمایا کہ باہر نکلو اور غلبہٴ اسلام کے لئے اپنے گھروں اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو اگر ہم بحیثیت جماعت پوری کی پوری کوشش کریں تب بھی ناکافی ہے۔ محض ناکافی نہیں بلکہ کافی کوشش کا اربواں حصہ بھی نہیں ہے اس لئے ہمارے خدا نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا تم لے آؤ۔ غلبہٴ اسلام کے لئے جتنی طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ

اس میں اپنا فضل شامل کر کے اتنی طاقت پیدا کر دے گا۔ اب دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جن کی زبانیں اسلام کو بُرا بھلا کہنے میں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے میں خشک ہو رہی تھیں۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو غور کی نظر سے دیکھیں اور سوچیں۔ اب ایک دُنیا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے لگ گئی ہے۔ وہ پہلے ایسا نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ دنیا میں ایک انقلاب عظیم پھا ہو رہا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ اُس نے بنی نوع انسان کے سامنے اور قیامت کے دن بھی یہ اعلان ہوگا کہ خدا کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے کو ایک جماعت یہ کہتے ہوئے دی تھی کہ ان کے ذریعہ میں اسلام کو نمایاں کروں گا۔ اس لئے جو تمہارا ہے وہ مجھے دے دو۔ جو میرا ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا اور تم غالب آ جاؤ گے۔ ورنہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لئے سب سے بڑی چیز دُعا ہے۔ غلبہ اسلام کے لئے قربانیاں بھی دیں۔ غلبہ اسلام کے لئے اپنا آرام و آسائش بھی قربان کر دیں۔ ایثار اور قربانی کا نمونہ پیش کریں۔ اور یہ پیشکش اپنے رب کے حضور رکھیں اور سب سے زیادہ دعائیں کریں۔ اس لئے بھی کہ خدا تعالیٰ آپ کو مقبول خدمت کی (ایسی خدمت کی جسے خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے اور احسن جزاء دیتا ہے) توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق اور اپنی بشارتوں کی رُو سے وہ نتائج نکالے جس کا اس نے اعلان فرمایا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کے ذریعہ سے اسلام کو غالب کروں گا۔

میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے یہاں جو سُننا اور سمجھا آپ اس سے ہمیشہ بہتر سے بہتر فائدہ اٹھاتے رہیں اور ہماری یہ جو دعائیں تھیں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ہم وارث بنیں۔ خدا کرے کہ وہ دعائیں قبول ہوں اور ہم حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن جائیں اور ہمیں اس کا وہ پیار حاصل ہو جائے جس کے بعد اُس کی ناراضگی کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اُس کی رحمت کا سایہ آپ کے سروں پر کئے رکھیں اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں۔ خیریت رہے سفر میں بھی اور اس حضر میں بھی (مرکز حضر ہی ہوتا ہے) جو اس سفر کے بعد ہوگا۔ کسی نے یہاں سے اسی میل دُور جانا ہے کسی نے تین ہزار میل

دور جانا ہے۔ کسی نے پانچ ہزار میل دُور جانا ہے۔ کسی نے یہاں سے نو دس ہزار میل دُور جانا ہے۔ بہر حال یہ سفر عارضی ہے۔ خدا تعالیٰ کرے کہ اس عارضی سفر میں آپ کو کوئی عارضی تکلیف بھی نہ پہنچے اور کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ کوئی دُکھ نہ پہنچے۔ خوش و خرم اور ہنستے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ یہاں سے روانہ ہوں اور اپنے مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ اپنے گھروں کو پہنچیں اور ہمیشہ مسکراتے چہرے آپ کی قسمت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مبلغوں کو بھی احسن جزاء دے کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو جلا بخشنے اور ان کی فراست کو تیز کرے اور ان کی عقل کو متور کرے اور ان کو غالب کرے اور تمام وہ ہتھیار ظاہری اور باطنی دے جس کے نتیجے میں اسلام کا سپاہی غالب آیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن کے خاندانوں میں بھی برکت عطا کرے اور ان کی اولادوں میں بھی برکت ڈالے اور ان کے ذہنوں کو اسلام کے نور سے متور کرے اور خدا کرے کہ ان کا انجام بخیر ہو اور قیامت تک احمدیت اور اسلام کی نسلیں محبت اور پیار اور عزت و احترام کے ساتھ ان ہستیوں کو یاد رکھیں۔ اب دُعا کر لیتے ہیں۔ دعائیں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب بھی اجتماعی دُعا کرتے ہیں۔ اس وقت بہت بڑا اجتماع ہے۔ میرے خیال میں ساٹھ ہزار کے قریب احمدی اور دوسرے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ جلسہ گاہ بھر گئی ہے۔ سارے مل کر عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور ابہتال کے ساتھ خدا کے حضور جھک کر یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنا بنا لے۔ پھر ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آؤ اب دُعا کر لیں۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)



آسمانوں پر جو فیصلہ ہو چکا ہے زمین کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی

﴿افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۷۷ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے مندرجہ ذیل آیات تلاوت فرمائیں:-
 رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
 وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (ال عمران: ۱۹۳، ۱۹۵)

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (الاعراف: ۹۰)

پھر حضور انور نے فرمایا:-

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانو! تم مغرب کے اندھیروں میں مستانہ وار گھس کر خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے اور اس کی توحید کو قائم کرنے کے لئے کوشاں رہتے ہو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر سلام ہو۔

اے اسلام کے فدائیو! تم خوابیدہ مشرق کی فضاؤں میں گھستے ہو اور اسلام کی اشاعت کے لئے ہزاروں میل دور جا کر اور جزائر جزائر پھر کر لوگوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے روحانی فرزند مرزا غلام احمد علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے ہو تم پر اللہ اور اس کے رسول کا سلام ہو۔

اے وہ گروہ جو شمال کی برفانی ہواؤں کی پروانہ کرتے ہوئے شمال کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے ان لوگوں تک خدائے اعلیٰ کا پیغام پہنچاتے ہو جو مادی بلندیوں کو تو پہنچانتے ہیں مگر روحانی رفعتوں سے بے بہرہ اور غافل ہیں تم پر اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہو۔

اور اے وہ لوگو جو زمین کے جنوبی کناروں تک پھیل کر قرآن کریم کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہو تم قرآن کریم کی عظیم بشارتوں کے وارث بنو۔ اور اسلام

بانی اسلام اور بانی اسلام کو بھیجنے والے خدا کا تم پر سلام ہو۔

اے ہمارے رب! ہم نے ایک ایسی آواز سنی جو نہایت شیریں اور پیاری ہے۔ اور اسلام کی ہمدردی اور غمخواری سے لبریز ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور تمہیں خدا کی طرف لے جانے کے لئے آئی ہوں۔ یہ وہ آواز ہے جس نے ہمیں نور فراست عطا کیا جو صرف اسلام کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جس نے ہمارے دلوں میں توحید حقیقی اور عظمت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قائم کیا۔ یہ وہ پیاری آواز ہے جس نے ہمیں علی وجہ البصیرت یہ یقین دلایا اور ہمیں اس ایمان پر قائم کیا کہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری شریعت ہے بلکہ ایک کامل اور مکمل ہدایت نامہ ہے۔ انسان کی نجات کی سب راہیں اسی سرچشمہ سے نکلتی ہیں خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہر راستہ قرآن کریم کے نور ہی سے منور ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف راہنمائی کرتا ہے ہم نے اس آواز کو سنا ہم اس منادی پر ایمان لائے۔ ہم نے اس حقیقت کو جانا اور اس صداقت کو پہچانا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اسلام کی آخری جنگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روحانی فرزند کے ذریعہ جیتی جائے گی۔ آخری فتح اسلام کو ہوگی۔ تمام شیطانی قوتیں پسپا ہو جائیں گی۔ اسلام کا سورج تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ہر ملک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہوگا۔ دوسرے سب جھنڈے سرنگوں ہو جائیں گے۔

یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لئے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنی اولادوں کو غرض ہر اُس چیز کو جو تمہاری طرف منسوب ہوتی ہے اور تم اپنے آپ کو اُس کا مالک سمجھتے ہو اُسے خدا کی راہ میں قربان کر دو تا کہ خدا کی توحید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بنی نوع انسان کے دل میں بیٹھ جائے۔

اس آواز کو سن کر اس پر لیبیک کہتے ہوئے ہم ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ لیکن اے ہمارے رب! ہم کمزور ہیں۔ ہماری فطرت میں بھی کمزوری ہے۔ ہماری غفلتوں کے نتیجے میں بھی ہم سے کمزوریاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ اے ہمارے محبوب آقا! ہمارے مالک و خالق خدا!! تو اپنے فضل سے اپنے فرشتوں کے ذریعہ ہمارے لئے ایسے

سامان پیدا کر کہ ہم گناہوں اور غفلتوں اور سستیوں اور کوتاہیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اگر کبھی ہم سے بشری کمزوری کے نتیجے میں غفلت اور گناہ سرزد ہو جائیں تو اے ہمارے پیارے رب! تو ہمیں ہماری غفلتوں اور گناہوں کے بُرے نتائج سے بچا اور تو ہمیں اپنی راہ میں اس قسم کی اور اس قدر نیکیوں کی توفیق عطا فرما کہ گویا ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔

اے ہمارے رب! جب ہم نے اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام ادیان کو تیری طرف بلانے کی کوشش شروع کی تو مخالفین اسلام کو تو غصہ آنا ہی تھا کیونکہ اُن کو تو یہ نظر آنے لگا کہ اب پیار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ کے نتیجے میں اور آپ کے روحانی فرزند پر نازل ہونے والے آسمانی نشانوں کے ذریعہ سارے ادیان مٹا دیئے جائیں گے اس رنگ میں کہ اُن کے ماننے والے حلقہ بگوشِ اسلام ہو جائیں گے وہ لوگ بھی جن کی چودھراہٹ جاتی تھی یا جن کی قیادت پر ہاتھ پڑتا تھا یا اس آواز کے نتیجے میں جن کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اس طرح اُن کی روزی اُن سے چھن جائے گی (کیونکہ وہ رب العلمین خدا پر حقیقی ایمان نہیں لاتے تھے) انہوں نے بھی اس آواز کو دبانے کے لئے بھرپور کوشش کی تھی کہ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی کہ یہ آواز بلند نہ ہو۔ مشرق اور مغرب کی طاقتیں اور دُنیا کے امیر ترین ممالک اس آواز کو دبانے کے لئے صف آرا ہو گئے۔ وہ لوگ جو صاحبِ اقتدار تھے اور ساری دُنیا کو اپنے قبضہ میں سمجھتے تھے اور اپنے مُلکوں سے باہر لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اس اکیلی آواز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ غرض دُنیا کی ساری دولتیں، سارے اقتدار، ساری طاقتیں سارے ہتھیار اور لوگوں کے ہر قسم کے منصوبے، اُن کے علم، اُن کے فلسفے، اُن کی سائنس اور ان کی ایجادات اس اکیلی آواز کو جو آج سے اسی پچاسی سال پہلے دُنیا میں بلند ہوئی تھی اس کو دبانے کے لئے اکٹھی ہو گئیں مگر وہ اکیلی آواز آج لاکھوں انسانوں کی آواز بن کر ساری دُنیا کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

اے ہمارے رب! ہم نے ان واقعات میں تیرے قادرانہ تصرفات کو دیکھا اور ہم اس یقین پر قائم ہوئے کہ جو تجھ سے چمٹ جاتا ہے وہی سب کچھ پالیتا ہے اور جو تجھ سے دُور رہتا ہے اس


کے لئے ہلاکت ہے۔ اے ہمارے رب! ہم تیرے حقیر اور عاجز بندے ہیں۔ ہم تیرے کمزور اور بے کس بندے ہیں۔ ہم تیرے بے یار و مددگار بندے ہیں۔ ہم تیرے بے زرا اور بے مال بندے ہیں۔ ہم تیرے قدموں کو پکڑتے ہوئے اور تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے دُنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے خدا! تُو ہماری ان حقیر کوششوں کی کم مائیگی اور کمزوری کی طرف نہ دیکھ، اُس جذبہ کو دیکھ جو ہمارے دلوں میں سمندروں کی طرح موجزن ہے۔ ہمیں ہر لمحہ یہ خیال تڑپاتا ہے کہ کسی طرح تیرے بندے جلد تیری گود میں واپس آ جائیں۔ وہ ایک لمحہ بھی شیطان کی گود میں نہ رہیں۔ اے خدا! تُو ہماری ان کوششوں میں برکت ڈال اور آسمان سے فرشتوں کے نزول سے ہماری مدد فرما جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند رکھ۔ ہمارے اندر اپنی محبت کی وہ تپش پیدا کر جو اس گہری دُھند کو، سردی کی اس شدید لہر کو اور ان آبی بخارات اور ان کے بُرے اثرات کو مٹا دیتی ہے۔ تاکہ دُنیا بھی یہ سمجھ لے۔ دُنیا بھی یہ جان لے اور دُنیا بھی یہ پہچان لے کہ ہمارا رب اور اُن کا رب جماعتِ احمدیہ کے ساتھ ہے اور اُس کی مدد اس کو حاصل ہے اور اُس کے فرشتے اس کی نصرت کے لئے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اور دُنیا کو یہ بات بھی سمجھ میں آجائے کہ آسمانوں پر جو فیصلہ ہو چکا ہے زمین کی کوئی طاقت اُسے ٹال نہیں سکتی۔

پس ہماری دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری کوششوں کو، ہماری قُربانوں کو اور اُس ایثار کو جو اس کے حضور جماعتِ احمدیہ اور اس کے افراد کی طرف سے خلوصِ نیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے قبول فرمائے اور دینی اور دُنوی برکات سے ہمارے گھروں کو بھر دے۔ اور اے خدا!! جس طرح تُو نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی شمع روشن کی ہے اسی طرح ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی اپنی محبت کی ایسی تپش پیدا کر کہ وہ اُن کے دل سے ہر دوسری چیز کو جلا کر رکھ کر دے۔ اللہ کے سوا ہماری اور ہماری نسلوں کی توجہ کو کوئی چیز اپنی طرف کھینچنے والی نہ ہو۔ جب ہم تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں تو اے ہمارے رب! تُو ہمارا بھی حافظ و ناصر ہو اور جن کو پیچھے ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے ہیں اُن کی بھی حفاظت فرما۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں تُو اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت، خوشحالی اور بہتری کے سامان پیدا کر۔

دعا تو آج کی دُنیا اور آج کے زمانہ کی ایک ہی ہے (باقی تو ذیلی دعائیں ہیں) اور وہ یہ کہ اے ہمارے رب تُو نے اسلام کے آخری غلبہ کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دُنیا کے ہر دل میں پیدا ہو جانے کی اور توحید حقیقی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرانے کی جو بشارتیں دی ہیں اے ہمارے پیارے رب کریم! تو اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا کر کہ یہ بشارتیں ہماری زندگیوں ہی میں پوری ہو جائیں تاکہ جب ہم اس دُنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے دل اس خوشی سے معمور ہوں کہ جو فرض ہمارے کمزور کندھوں پر عائد کیا گیا تھا اُس کو ہم نے تیری ہی توفیق سے، اے ہمارے مولیٰ! اور تیری رضا کے مطابق ادا کر دیا ہے۔ اے خدا تو ایسا ہی کر۔

اللَّهُمَّ امِينَ! اللَّهُمَّ امِينَ!! اللَّهُمَّ امِينَ!!! اللَّهُمَّ امِينَ - آداب دُعا کر لیں۔

(روزنامہ الفضل ربوہ مورخہ ۱۱ جنوری ۱۹۷۳ء صفحہ ۳ تا ۵)



ہم دولت مند ہیں اس لئے کہ ہمارے پیسے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی ہے

﴿دوسرے روز کا خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۳ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

یہ دُھند یہ برفانی ہوائیں اور طوفانِ باد و باراں دُنیا والوں کو دُنیا کے کاموں سے نہیں روکتے تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے سپاہ ہیں اور جنہوں نے غلبہٴ اسلام کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے وہ اس موسم کی خرابی سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے یا اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے یا نیکی کی باتیں سننے سے محروم رہ جاتے؟ سردی بہت ہے اور سردی کی عادت کم ہے۔ کیونکہ اس علاقہ میں سردی اتنی نہیں پڑتی لیکن اس آتشِ محبت کی وجہ سے جو ہماری روحوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بھر کائی ہم نے اس طوفانی اور برف کی طرح سرد موسم کی پرواہ نہیں کی اور بعض لوگوں کے خیالات کے خلاف اور اُن کی توقع کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس جلسہ کو ہر رنگ میں کامیاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی احسن جزاء دے۔

وہ بشارتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ جماعت احمدیہ کو ملی ہیں وہ ایک یا دو یا تین بشارتیں نہیں۔ ایسی بشارتیں ہیں جنہوں نے ساری دُنیا کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے اور جن سے آنے والی نسلیں (اگر وہ اپنے مقام کو نہ بھولیں) قیامت تک حصہ دار ہیں۔ ان بہت سی بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ دی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

”میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے رُو سے سب کا منہ بند کر دیں گے“

(تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۴۰۹)

چنانچہ دنیا کے کونے کونے میں اس علم اور اس معرفت کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔

ہمارے نوجوان مجاہد جو اس وقت مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اُن کا واسطہ بسا اوقات ایسے معاندین اسلام سے بھی پڑ جاتا ہے کہ ظاہری علوم کے لحاظ سے ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ علاوہ بنیادی اجتماعی برکت کے اس وقت انفرادی برکت کے طور پر بھی ان کی مدد کے لئے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا اور ایسے جواب سکھاتا ہے جو مخالف کا منہ بند کر دیتے ہیں اور اُسے لاجواب کر دیتے ہیں۔ خدا نے آسمانوں پر یہی فیصلہ کیا کہ اسلام کے دلائل دنیا کے ہر قسم کے دلائل پر فوقیت حاصل کریں اور اس نے جماعت احمدیہ کو اس کی توفیق عطا کی کہ وہ ان برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اس وقت میرے سامنے اکثریت زمینداروں کی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ جب میں بچہ تھا۔ جلسہ کے دن تھے۔ میں اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ میری ڈیوٹی لگائی بھی گئی تھی اور نہیں بھی لگائی گئی تھی۔ یعنی حضرت میر محمد اسحاق صاحب نے میری ڈیوٹی اپنے ساتھ اپنے دفتر میں لگائی تھی کیونکہ میری عمر ایسی نہ تھی کہ صحیح طور پر جلسہ کے رضا کار جو کام کرتے ہیں وہ میں کر سکوں وہ مجھ سے چھوٹے موٹے کام لیتے رہتے تھے۔ تاکہ میرے دل میں ایک توباشا پیدا ہو کہ میں نے جلسہ سالانہ کے کاموں میں ایک حقیر سی کوشش کی ہے اور دوسرے عادت پڑے اور تجربہ حاصل ہو۔ ایک شام رات کو کام سے فراغت کے بعد مجھ سے کہنے لگے اس وقت لوگ اپنے کھانے سے فارغ ہو گئے تھے۔ قادیان میں اس قسم کی سردی قریباً ہر جلسہ پر ہوتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد اب ہمیں اُس سردی کی عادت نہیں رہی۔ بہر حال وہ مجھ سے کہنے لگے (مدرسہ احمدیہ کے ان کمروں میں جہاں افسر جلسہ سالانہ کا دفتر بھی تھا) دیکھ آؤ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور پھر مجھے آکر رپورٹ کرو۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ احمدی دوست اپنے ساتھ ایک دوسرے دوست کو بھی لائے ہوئے تھے۔ جو ابھی احمدی نہ تھا اور آپس میں وہ تبادلہ خیال کر رہے تھے تو ایک موقع پر ہمارا احمدی نوجوان جو خود طالب علم تھا اُسے جواب سمجھ نہیں آیا۔ اُس نے کہا ٹھہرو میں ابھی کسی عالم کو لے کر آتا ہوں اور وہ تمہیں اس کا جواب دے کر تمہاری تسلی کروادے گا۔ وہ نکلا اور ساتھ والے کمرہ میں گیا۔ اُس نے دیکھا کہ ایک سفید پگڑی پہنے لمبی داڑھی والا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور چہرہ پر اسلام اور احمدیت کا نور لئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ بزرگ کوئی بہت بڑا عالم یا مولوی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا آکر اسے حل

کریں۔ اُس نے کہا چلو وہ اُس کے پاس آیا اور اُس بی اے کے طالب علم کی اُس نے اُس جواب سے جو اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر اُس شخص کو دیا تسلیٰ کروادی اور وہ وہ شخص تھا جو ایک زمیندار تھا اور اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن جب فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کر علومِ روحانی اور علومِ دنیاوی سکھاتے ہیں تو وہ یہ نہیں تلاش کیا کرتے جن کو دستخط آتے ہیں صرف اُنہیں کے پاس پہنچیں۔ وہ یہ دیکھا کرتے ہیں کہ جن کے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہو اور جن کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہو کہ وہ اسلام کے ایک مجاہد کی حیثیت سے اسلام کی فوقیت کو ثابت کر کے دکھادیں گے۔ اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے اور آسمانی علوم ان کو سکھاتے اور دشمن کو لا جواب کر دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے جس کی ابتدا ہر لحاظ سے ہو چکی۔ اسی سال ہمارے مُلک کی یونیورسٹیوں میں چار یا پانچ مضامین میں احمدی بچے یا بچیاں ساری یونیورسٹی میں فرسٹ آئے۔ اسی سال ہمارے ربوہ کے کالج میں ایم ایس سی فرکس (جو مضمون کے لحاظ سے بھی ایک مشکل مضمون ہے اور ایم ایس سی کے امتحان کے لحاظ سے بھی ایک اونچا امتحان ہے) کے امتحان میں ہمارے ایک بچے نے یونیورسٹی میں آج تک جو سب سے زیادہ نمبر لئے گئے تھے اُس سے بھی زیادہ نمبر لئے اور ربوہ کے سارے کے سارے طلبہ جو اس امتحان میں شامل ہوئے انہوں نے فرسٹ ڈویژن لی اور خالی فرسٹ ڈویژن نہیں لی بلکہ وہ سارے کے سارے (سات یا آٹھ جتنے بھی تھے) وہ یونیورسٹی میں پہلے سترہ طلبہ جنہوں نے سب سے زیادہ نمبر لئے تھے اس فہرست میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں بھی فضل کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ جو علمِ روحانی سے فائدہ اٹھا کر اور علمِ کلام کے مقابلہ میں ساری دنیا میں آج اسلام کا علمِ کلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے اسلام کی برکت ثابت کرتا ہے اور اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے کہ میں تیرے فرقہ کو اس قدر علم اور معرفت میں کمال عطا کروں گا کہ وہ سب کا منہ بند کر دیں گے لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن علوم اور معرفت کے خزانوں کے دروازے ہمارے لئے کھولے ہیں ہم میں سے کم ہیں جو ان سے فائدہ اٹھا کر دنیا کی طرف ان خزانوں کو لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ دنیا بھی ان خزانوں میں حصہ دار بنے۔ بہت کم یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ دنیا دار دنیوی

سائنس پر انحصار کر کے اور نئی نئی ایجادات کر کے اسلامی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم پر کس کس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان کا جواب دینا چاہئے۔ آج عیسائیت کا دجل ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو جہاں تک عیسائیت کا سوال ہے یہ صحیح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی طور پر ان کے منہ بند کر دیئے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جب وہ بنیادی حدود کو توڑ کر تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی ان کا منہ بند کرنے والا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم احمدیوں کو ان کے منہ بند کرنے کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہئے۔ بہر حال اس سلسلہ میں کچھ کام ہوتا رہتا ہے۔ یہ کام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو وہ مضامین ہیں جو ہمارے اخبارات اور رسائل وغیرہ میں چھپتے رہتے ہیں اور ایک وہ کوششیں جن کے نتیجے میں کچھ کتابیں مارکیٹ میں فروخت ہونے کے لئے آجاتی ہیں۔ ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہئے اور جس حد تک ممکن ہو ان کتب سے استفادہ کرنا چاہئے۔ کچھ تو پرانے اخبار ہیں اور بڑے مفید اخبار ہیں۔ الفضل ہے جو ہمارا مرکزی اخبار ہے اور ہماری جماعت کا ترجمان ہے لیکن اس کی اشاعت بھی اتنی نہیں جتنی آج ہونی چاہئے۔ ”جتنی آج“ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جتنی آج سے پچاس سال قبل جماعت احمدیہ کی جس قدر مالی قربانیاں تھیں اس کے مقابلہ میں آج جس قدر قربانیاں ہیں اُسی نسبت سے اُس وقت جتنا الفضل چھپتا تھا آج اُسی نسبت سے زیادہ چھپنا چاہئے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ہونا چاہئے۔ احمدی دوست اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اب تو بڑا ہی نازک وقت آچکا ہے۔ جیسا کہ آپ انشاء اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق سے کل نئے منصوبہ کے متعلق اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق کچھ سنیں گے اس کے لیے کل کا انتظار کریں اللہ نے توفیق دی، اس پر ہی بھروسہ ہے، تو وہ اعلان ہوگا۔ لیکن یہ تو میں ہر وقت کہوں گا کہ ہم ایک نہایت ہی نازک دور میں اور ہم اپنی زندگی کے ایک نہایت ہی اہم دور میں داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ذمہ داریاں جماعت احمدیہ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں جب سے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اس قسم کی اور اتنی اہم ذمہ داریاں کسی قوم پر نہیں ڈالی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت محمدیہ پر جو ذمہ داریاں ڈالیں یہ انہیں کی انتہا ہے۔ کیونکہ وہی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے سرچشمہ اُن سارے منصوبوں کا جو ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لئے جاری کئے گئے

لیکن جس طرح جنگ شروع ہوتی ہے تو اُس کا ابتدائی دور ایک اور مشکل کا ہوتا ہے۔ جب وہی جنگ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ گذشتہ عالمگیر جنگ میں جب اتحادیوں نے جوابی حملہ کیا تو انہوں نے یورپ پر کچھ فوجیں اتاری تھیں۔ وہ چیز ہی کچھ اور تھی جس وقت انہوں نے جنگ جیتنے کے لئے حملہ کیا اپنے آپ کو یورپ میں مضبوط کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب آخری ہلہ بول کر یہ جنگ جیت لینی چاہئے۔ اُس وقت ان کی حالت ہی کچھ اور تھی آپ اُس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ شیطان کو جو ڈھیل دی گئی تھی (کہ جب خدا نے شیطان سے کہا انسانی زندگی میں تجھے قیامت تک ڈھیل دی جاتی ہے) وہ آخری وقت کہ جب اُس کی ڈھیل کا زمانہ ختم ہو رہا، اُس آخری زمانہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ شیطان نے بھی سوچا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین پر ایک بھرپور وار کرے اور اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنایا کہ شیطان کو اور شیطانی لشکروں اور شیطانی طاقتوں کو اور ان ظلمات اور اندھیروں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے اور اُس کام کے لئے آپ کو چنا اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ پس اس دور میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ سے جو چاہتا ہے اور جس چیز کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے جن قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر پیار کا ہمیں وعدہ دیا ہے اور جس قدر کامیابیاں ہمارے لئے مقدر کیں اور ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں تو دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں اور صرف اس ذمہ داری کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ بہر حال علمی میدان میں جو کوششیں ہیں ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ رسائل ہیں۔ انصار اللہ، الفرقان، خالد، تھیڈ الاذھان، مصباح اور اس کے علاوہ کچھ پرانی کتب ہیں۔ جو ہم اور ضروری ہیں ان کی خریداری کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہئے اور کچھ کتابیں ہمارے سامنے آئیں ہیں ایک پرانی کتاب ”تبلیغ ہدایت“ مصنفہ محترم حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اسی طرح ان کی تصنیف ”الحُجَّةُ البالغہ“ اور ”پھر جناب مودودی صاحب کے رسالہ ختم نبوت پر علمی تبصرہ“ قاضی محمد نذیر صاحب کا اور ”ٹروٹھ پر یولڈ (Truth Prevails)“ قاضی محمد نذیر صاحب کی اور کتاب ”بنتِ رسول کا حق وراثت پر تبصرہ اور مسئلہ فدک کا حل“۔ پھر ”تحریک پاکستان میں جماعت احمدیہ کا کردار“ مولوی دوست محمد صاحب کی ”بائبل کی الہامی حیثیت“

قاضی محمد نذیر صاحب کی۔ ”مسح الدجال اور یاجوج و ماجوج کا ظہور“ مصنفہ مولوی محمد اسد اللہ صاحب قریشی کا شمیری ”تفسیر صغیر کے بمثال معنوی لغوی اور ادبی کمالات“ مصنفہ مولوی دوست محمد صاحب اور ”Jesus son of Mary“ ڈاکٹر قاضی برکت اللہ صاحب حال امریکہ کا ایک مقالہ ہے اور قریشی لطیف صاحب کی ”بارامانت“ اور ”سادہ نظمیں“۔ ”یاد رکھنے کی باتیں“ اور ”شماثل احمد“ مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کی۔ ”حضرت بابانا نک صاحب کا مقدس چولہ“ گیلانی عباد اللہ صاحب کی اور بھی کچھ کام کی کتابیں ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بچوں والے ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے خریدیں اور دیکھیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات فضل عمر فاؤنڈیشن کے متعلق ہے۔ ۱۹۶۶ء میں یعنی آج سے تقریباً سات سال قبل ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ کے نام سے اس مجلس کا اجراء ہوا تھا اور ۱۹۶۶ء میں اس لئے اس کا اجراء ہوا کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جماعت کے ایک حصہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے نام پر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ایسوسی ایشن قائم کی جائے اور جماعت اس میں مالی قربانی دے اور آپ کے نام سے تعلق رکھنے والے بعض کام کئے جائیں۔ اس میں جماعت نے بڑے پیار سے حصہ لیا اور پاکستان کی جماعتوں نے ساڑھے چوبیس لاکھ روپیہ اس کے لئے بطور چندہ کے ادا کیا اور بیرون پاکستان نے قریباً ساڑھے بارہ لاکھ روپیہ اس کے لئے ادا کیا۔ اس عرصہ میں ”فضل عمر فاؤنڈیشن“ نے اپنے طریق کار کے مطابق بہت سا روپیہ منافع کی کمپنیوں میں لگا دیا جن کے ڈیویڈنڈ (Dividend) ملتے ہیں اور گزشتہ سات سال میں پاکستان میں قریباً ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ نفع ملا اور بیرون پاکستان میں قریباً اڑھائی لاکھ روپیہ نفع حاصل ہوا۔ اس کے مقابلہ میں اس عرصہ میں اخراجات چار لاکھ چوتھڑے روپے ایک اور دو لاکھ تہتر ہزار روپے ایک اور بیرون پاکستان میں خرچ نو ہزار روپے ہوا۔ ایک تو جو آپ نے صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر کے پہلو میں لائبریری کی جو خوبصورت عمارت دیکھی ہے وہ فضل عمر فاؤنڈیشن نے اپنے خرچ کی بنا پر شاید ساری کی ساری یا بہت حد تک اسے فرنیشرڈ (Furnished) کر کے جماعت کے سپرد کر دی کہ اس میں لائبریری رکھی جائے۔ جب اس کا افتتاح ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے افتتاح کی توفیق دی تو وہاں میں نے دیکھا کہ جتنے عرصہ

میں لائبریری کی یہ عمارت اس خیال کے مطابق تیار ہوئی کہ ہمارے پاس مناسب اور مناسب وسعت والی لائبریری موجود نہیں اس لئے وہ بنائی جائے اس کو شاید ڈیڑھ دو سال لگے ہوں گے تو وہ بھی دونوں لحاظ سے چھوٹی ہوگئی۔ جو کتابیں موجود ہیں اس کے لحاظ سے بھی وہ ایسی نہیں کہ بڑی وسعت اس میں ہو سکے اور جو ہماری ضرورت ہے اس کے لحاظ سے تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ پھر وہیں میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ عمارت تو ایک حصہ بن جائے قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں تراجم کی جلدیں ہیں یا مختلف تفسیریں ہیں یا قرآن کریم کے مضامین یعنی خاص قرآن پر جو ہیں ویسے تو ساری دنیا کے علوم پر قرآن کریم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ علیحدہ مضمونوں میں آجاتے ہیں لیکن مجموعی طور پر قرآن عظیم کے متعلق ایک انسان جو کوشش قلیل کرتا ہے وہ یہاں آجائے اور باقی علوم کے متعلق کتابیں (جب آپ نے ساری دنیا کا منہ بند کرنا ہے تو ساری دنیا کے علوم کے متعلق پایہ کے مانے ہوئے مصنفین کی کتابیں موجود ہونی چاہئیں) اس لائبریری کے عقب میں بعض اور مقاصد کے مد نظر کچھ زمین چھوڑی گئی تھی واللہ اعلم اب بھی وہ لائبریری کو ملتی ہے یا کسی اور کام آتی ہے بہر حال مجھے خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے وہاں لائبریری بن جائے۔ پس وہ ایک اچھی عمارت جس پر چار لاکھ چوہتر ہزار روپیہ خرچ ہوا ہے وہ فضل عمر فاؤنڈیشن نے جماعت کو دے دی۔ اس طرح بعض دوسرے کاموں پر ان کا خرچ ہوا اور اب کچھ عرصہ سے روپیہ پڑا ہوا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کہاں خرچ کریں۔ جماعت نے تو وہ روپیہ قربانی کر کے دیا ہے اور رکھ چھوڑنے کے لئے نہیں دیا۔ بلکہ اس لئے دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین اور اس کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ دو چار تجاویز زیر غور تھیں لیکن غور کے بعد انہیں رد کرنا پڑا اور دو ایک تجاویز اب زیر غور ہیں۔ امید ہے انشاء اللہ یہ روپیہ پڑا نہیں رہے گا بلکہ اسے برکت کے دھاروں میں چالو کر دیا جائے گا۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام علمی تصانیف کے سالانہ انعامی مقابلہ کے لئے ۱۹۷۲ء میں پانچ مقالے موصول ہوئے۔ کچھ موصول ہوئے اور کچھ کے اوپر فیصلے ہو گئے اور ان کو انعام مل گیا۔ پہلا انعام ایک ہزار روپے کا ہے جو ہر مقالے کو علیحدہ علیحدہ عنوانوں کے ماتحت ملتا ہے لیکن بہت کم ہمارے نوجوانوں نے اس طرف توجہ کی اور بہت کم انعام انہوں نے حاصل کیا۔ انعام تو کوئی غرض نہیں۔ یہ تو ہم نے ایک راہ نکالی تھی کہ ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان وہ دین کا سپاہی

اس سرحد پر بھی لڑنے کے لئے تیاری کرے گا کہ جو دوسروں کے اعتراضات اسلام پر ہیں اور خدا اور رسول کے متعلق وہ ناسمجھی کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے جوابات مختلف مضامین کے ماتحت وہ نوجوان دے گا لیکن اس طرف ہماری جماعت بہت کم توجہ کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ایم ایس سی اور ایم اے اور اس سے بالا تعلیم والے احمدی موجود ہیں اور بی اے یا بی ایس سی کو لیا جائے یا سکول ٹیچرز (بی ایڈ وغیرہ) ان کے اندر علمی مذاق پیدا ہونا چاہئے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے اس کی استطاعت عطا کی ہے کیونکہ وعدہ تھا اور خدا اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ لیکن ایک شخص یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے مُلک میں سب سے اچھا تیراک بن سکے لیکن وہ تیرنا نہ سیکھے تو اس مُلک کو ایسے تیراک سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور نہ اللہ تعالیٰ پر اس کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھے استعداد ہی نہیں دی ورنہ میں اس میدان میں بھی دنیا کو آگے نکل کر دکھاتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے تو استعداد دی مگر اُس نے اس استعداد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اور نہ وہ اپنی طاقتوں میں کمزور ہے کہ کمزوری کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ نہ وہ وعدہ خلافی کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ طاقت بھی رکھتا ہے لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ تو سبحان اللہ ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ذات ہے۔ تمام قدرتوں کا مالک ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ کے ذہن کو ساری دنیا پر غالب آنے کے لئے بنایا۔ اگر جماعت احمدیہ کا ذہن علمی میدان میں ساری دنیا پر غالب آنے کے لئے کوشش ہی نہ کرے تو وہ ناشکرے کہلائیں گے۔ وہ جاہل نہیں کہلائیں گے۔ وہ نااہل نہیں کہلائیں گے وہ ناشکرے کہلائیں گے کہ خُدا نے ایک طاقت اُنہیں دی لیکن اس سے اُنہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ پس اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہئے۔ ہزاروں نوجوان ہیں اور پانچ سات مقالے دے کر آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ میں تو حیران ہوں۔ ہمارے پاس ہر مضمون کے متعلق پانچ سو سات سو کے مقالے آنے چاہئے تھے۔ جو ممتحن بنتے اُن کو بھی پتا لگے کہ احمدیوں کے دماغ کس طرح علم کی رفعتوں پر پرواز کرتے ہیں۔ بہر حال اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے حضرت فضل عمر مصلح موعودؑ کی سوانح پر چار پانچ سال سے ایک کتاب کی تیاری

ہو رہی ہے چار پانچ سال سے کچھ انتظام بدلے کچھ ذمہ داریاں بدلیں۔ اس وقت یہ کام مکرم مرزا طاہر احمد صاحب کے سپرد ہے اور فضل عمر فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق پہلا حصہ مرتب ہو چکا ہے اور اُمید ہے کہ شوریٰ تک شائع کر دیا جائے گا۔ دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل عمر فاؤنڈیشن کو اپنے اس روپیہ کو جو خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ایسے کاموں پر خرچ کرنے کی جلد توفیق عطا کرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں اور فضلوں کو جذب کیا کرتے ہیں۔

ہر سال ہی جماعت اپنے اُن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے جنہیں دنیوی لحاظ سے بعض تکالیف ہوں اور بعض ضرورتیں لاحق ہوں۔ یہ درست ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس وقت جماعت احمدیہ کو بھائیوں کے کام آنے کی بساط اور طاقت خدا نے ابھی نہیں دی کل کو دے گا اور ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور یہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ بھی غلط لگا لیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے جو ان کے لئے شادی کروانی ہے اور وہ واقف زندگی ہے اور غریب گھرانے کا بچہ ہے۔ نہ گھر میں دولت ہے نہ اُس نے دولت کی کوئی پرواہ کی۔ اُس نے اپنی زندگی وقف کر دی اب شادی کا مرحلہ ہے اور اس پر بہر حال کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنا اندازہ درست کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اُس کے بھی کام پورے ہو جائیں اور ہماری خواہش بھی پوری ہو جائے لیکن اگر ایک واقف زندگی یہ کہے کہ میں نے شادی کروانی ہے میرے لئے دس ہزار روپے کا انتظام کر دو تو اس نے غلط اندازہ لگایا اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہزار دو ہزار کا انتظام نہیں کر سکتے تو ہم نے غلط اندازہ لگایا۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہے ہم غلط اندازے نہیں لگاتے۔ جس حد تک ممکن ہو امداد کر دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ غلط اندازے لگانے والے بھی ہمارے پاس آجاتے ہیں۔ جو میں نے مثال دی ہے یہ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں۔ تو ہمارے احمدی بچوں اور نوجوانوں سے اس قسم کی غلطی بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ جو ابھی ہم میں داخل بھی نہیں ہوئے بعض دفعہ میرے پاس اُن کا یہ خط آجاتا ہے کہ میں بڑا دکھیا مجھے بڑی مصیبت بڑی مالی تنگی ہے اور سنا ہے کہ آپ غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ میں ایک تجارت کرنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے بوائیسی خط ایک لاکھ روپیہ مجھے بھجوادیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں (اور ہم حُسن ظنی کی داد دیتے ہیں) کہ ان کے پاس بے تحاشا روپیہ ہے اور یہ اسراف سے بھی نہیں رُکیں گے اور دنیا کو خوش کرنے کے

لئے اسراف کر جائیں گے۔ حالانکہ ہم دولت مند ضرور ہیں لیکن ہم پیسے والے نہیں ہیں۔ ہم پیسے والے اس لئے نہیں کہ پیسے کے لحاظ سے دنیا میں ہم غریب جماعت ہیں لیکن ہم دولت مند ہیں اور ہمارے دل اس دولت کے نتیجہ میں خدا کی حمد سے لبریز ہیں۔ ہم اس لئے دولت مند ہیں کہ ہمارے پیسے میں اللہ تعالیٰ نے برکت بڑی ڈالی ہے۔ جس کام پر دنیا والوں کے دس روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اُس کام پر بعض دفعہ ہماری اٹھنی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ چونی میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس دفعہ برکت دیکھو آپ کو جو خدا تعالیٰ نے ایک زندگی اور ایک رُوح دی ہے وہ ہمارے لئے برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس مرتبہ سیلاب کی وجہ سے اور کچھ موسم کے حالات کی وجہ سے میرا یہ خیال تھا کہ ہم قریباً ہر سال ایک سو یا سو اسو لحاف بنا کر تقسیم کرتے تھے اور ربوہ میں رہنے والوں میں سے بعض ایسے بھی قربانی دیتے ہیں کہ ایک گھرانے میں میاں بھی اور بیوی بھی کمانے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لحاف کی ضرورت ہے اور میری طبیعت میں اقتباس پیدا ہوا۔ لیکن جب میں نے پتہ کیا تو وہ گھر ماشاء اللہ بچوں کی برکت سے بھرا ہوا ہے اور دس بارہ افراد سونے والے ہیں تو مجھے پتہ لگا کہ وہ گھر والے تین تین بچوں کو لٹا کر ایک ہی رضائی اُن کے اوپر ڈالتے تھے۔ تو مجھے شرمندگی ہوئی اور میں نے اُن کے لئے جس حد تک ممکن تھا انتظام بھی کیا لیکن میں برکت کی مثال آپ کو دے رہا ہوں تو اس مرتبہ میں نے اپنے دفتر سے پوچھا کہ سر دلخافوں پر کتنا خرچ آئے گا۔ انہوں نے کہا چار ہزار چار سو روپے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ زیادہ ہے۔ میں نے کہا پچھلے سال کیا خرچ آیا تھا۔ کہنے لگے بائیس تیس سو روپے میں نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ روٹی کی قیمت (اب زمیندار بڑا امیر ہو گیا ہے نا!!) دو روپے سیر سے چھ روپے سیر تک پہنچ گئی ہے۔ کپڑا پچھلے سال تین روپے گز تھا اب چھ روپے گز ہو گیا ہے۔ قیمتیں دوگنی ہو گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے دو گنا خرچ کرنا ہے تو اتنے ہی پیسے خرچ کر کے میں دوگنی رضائیاں بناؤں گا اور ضرورت پوری ہو جائے گی اور اصل ان کے اس مہنگے اندازے نے میری توجہ اس طرف پھیری کہ اگر چار ہزار چار سو روپے کی رقم خرچ کرنی ہے تو پھر ایک سو لحاف پر کیوں خرچ کی جائے۔ اس سے زائد پر خرچ کرنی چاہئے۔ میں نے اُنہیں کہا کہ اسی قیمت میں دو سو لحاف بنیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اس لئے کہ ہمارا احمدی زمیندار روٹی کی کاشت کرتا

ہے اور میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم نے سائیکل کی سواری کی طرف توجہ دینی ہے خدا کی مخلوق کی خدمت کے لئے۔ تو گاؤں سے روئی اکٹھی کرو اور روئی اُگانے والے علاقہ کا زمیندار ایک لحاف کی تین سیر روئی دے دے۔ جس نے دو چار ایکڑ میں بھی کپاس لگائی ہے۔ اُس کے لئے تین سیر روئی دینا کوئی بات نہیں ہے۔ اتنی روئی تو چوہیاں اٹھا کر لے جاتیں ہیں اور واپس کچھ نہیں دیتیں۔ یہاں تو آپ دیں گے تو خدا تعالیٰ کے فرشتے خدا تعالیٰ کے فضلوں سے آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ بہر حال میں نے اندازہ لگایا کہ تین سیر روئی فی لحاف ڈالیں گے۔ اس حساب سے میں نے جماعت کو کہا کہ مجھے چھ سو سیر روئی چاہئے۔ تو سات آٹھ سو سیر روئی آگئی اور ساتھ روپے بھی آگئے اور معمول کے سو لحافوں کے بجائے اس سال دو سو لحافوں کا ارادہ تھا مگر اس کے مقابلہ میں قریباً ساڑھے تین سو لحاف بن گئے۔ تو یہ برکت ہے۔ اس لئے دنیا ہمیں دولت مند سمجھتی ہے اور کئی مرتبہ مجھ سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمد للہ مجھے دولت مل گئی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمارے پیسے میں برکت بڑی دی ہے ہمارے پاس اُتنا پیسہ نہیں جتنا دوسروں کے پاس ہے لیکن پیسے میں برکت بڑی ہے۔ یہاں جب کالج بنا تو میں پرنسپل تھا۔ لاہور میں ہمیں تنگ کیا جاتا تھا کہ ڈی اے وی کی بلڈنگ جماعت کی ضرورت سے زیادہ دے دی گئی ہے اور حکومت نے بڑا احسان ان پر کیا ہے اور ٹوٹی پھوٹی وہ عمارت اور اسی ہزار روپے کے قریب تو اس کے ایک حصہ پر ہمارا خرچ ہو گیا۔ تب ہم وہ کالج چلا سکے۔ خیر مجھے غیرت آئی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اُس وقت میں نے اس شاندار کالج کا جواب بن چکا ہے ایک نقشہ بنایا اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں جلدی آؤ اور حکومت بھی لوگوں کے اعتراضات سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ تو میں یہ نقشہ بنا کر لایا ہوں آپ منظوری دے دیں تو میں کام کروں اور ہم یہاں آجائیں۔ وہ بڑا سا نقشہ دیکھ کر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ نقشہ تو تم میرے پاس لے آئے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس قسم کی عمارت بنانے کے لئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جرأت دی میں نے کہا کہ میں اس وقت پیسے مانگنے نہیں آیا۔ میں صرف نقشہ منظور کروانے آیا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ کالج کے لئے اور پچاس ہزار روپیہ ہوٹل کی تعمیر کے لئے دے سکتا ہوں

اور کل کو میں یہ نہیں سنوں گا کہ جی بنیادیں بھر گئی ہیں اور پیسہ ختم ہو گیا اور پیسے دو۔ اس لئے واپس جاؤ اور اسی نقشہ پر نئے سرے سے لکیریں ڈالو اور کہو اتنا میں مکمل کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکیریں ڈالتا ہوں لیکن میں نے کہا مجھے یہ اجازت دے دیں میں انفرادی طور پر جماعت کے اہل ثروت افراد سے یہ تحریک کروں کہ وہ اس میں مالی عطیہ دیں اور جتنی عمارت بن سکے ہم بنا دیں۔ خیر میں آ گیا۔ میں نے لکیریں ڈالیں اور دوبارہ نقشہ حضرت صاحب کے پاس لے گیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عمارت شروع کر دی گئی۔ میں نے بنانے والوں سے کہا کہ پہلے تین Wings (حصوں) میں سے دو حصے بنانے شروع کر دو اور برآمدے نہ بنانا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ برآمدوں کی کم از کم بنیادیں پہلے بھر دینی چاہئیں ورنہ بنیاد ٹھیک نہیں رہے گی۔ میں نے کہا کہ چلو برآمدے کی بنیاد بھی بھر دو لیکن اوپر کی عمارت نہیں بنانی۔ کام شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی دعاؤں سے ہمیں برکت دی اور جماعت کو یہ توفیق ملی کہ وہ حصہ لے اور وہ عمارت جو حکومت اپنی پوری نگرانی اور طاقت کے باوجود اُس ستے زمانے میں (ستے زمانہ میں ہم نے بنائی میں ستے زمانہ کی بات کر رہا ہوں) تیس چالیس لاکھ روپے میں بھی نہیں بنا سکتی تھی وہ خدا کے فضل سے چھ لاکھ روپے میں تیار ہو گئی اور زیادہ حصہ افراد جماعت نے خاموشی سے بھیج دیا اور وہ خرچ ہوتا رہا اور خدا کی یہ شان دیکھی کہ وہ تعمیر کی نہیں۔ جب بھی پیسہ ختم ہونے لگتا تھا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے مدد کے سامان کر دیتا تھا اور میں نے آپ سے جلسہ سے پہلے کہا کہ ایک دھیلہ بھی آپ کو خدا نے ضائع کرنے کے لئے نہیں دیا۔ میں نے آپ کو اُس وقت تو یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکابی میں ایک لقمہ بھی اپنی ضرورت سے زائد نہ ڈالو۔ جس سے میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ اُمّتِ محمدیہ کے کسی فرد کو ایک لقمہ بھی ضائع کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ اسے پسند کیا گیا ہے۔ پس خدا تعالیٰ بھی جو ہم سے سلوک کرتا ہے وہ ضیاع سے بچاتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے گرمیوں میں میں چھت کے اوپر کالج کے ہال کی چھت ڈالوا رہا تھا اور کوئی ڈیڑھ سو بوری سیمنٹ ہم چھت کے لئے ہم ریت اور بجری میں ملوا چکے تھے۔ تو شمال سے دس بجے کے قریب بادلوں کی کالی گھٹائیں اٹھیں میں نے سوچا کہ اگر یہ بارش اب ہوگی تو یہ ڈیڑھ سو بوری سیمنٹ کی (روڑی نے خراب نہیں ہونا ریت کچھ خراب ہو جائے گی لیکن اس کی

قیمت زیادہ نہیں لیکن سیمنٹ کی ڈیڑھ سو بوری ضائع ہو جائے گی۔ تب وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے عاجز بندوں کی دُعا قبول کرتا ہے تو ایک فقرہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اُس وقت میرے دل میں خیال آیا اور میں نے دُعا کی کہ خدایا تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ بارش برس گئی تو تیری جماعت کا نقصان ہو جائے گا اور اُس کے بعد میں نے اُن بادلوں کی طرف منہ کیا اور سر سے اشارہ کیا کہ اُدھر چلے جاؤ! اور بادلوں نے اپنا راستہ چھوڑا اور جنوب کی جانب نکل گئے اور ایک فرلانگ کے فاصلہ پر برستے ہوئے لالکپور کی طرف چلے گئے۔ تو خدا تعالیٰ کا فعل بھی ہمیں یہ بتاتا ہے اور اُس کا حکم اور تعلیم بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ ضائع کرنے کے لئے نہیں دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے برکت ڈالی اور خدا تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں کو (یعنی ساری جماعت کو) یہ توفیق دی کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی پیسہ ضائع نہ ہو اور برکتوں سے ہمارے گھر بھر جاتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ایک حد تک کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال اتنی برکت دی کہ ضرورت بڑھ گئی تھی خصوصاً دو وجوہ سے ایک سیلاب کی وجہ سے نقصان ہو گیا تھا۔ یہاں ربوہ میں بہت سے لوگوں کے سامان ضائع ہو گئے تھے اور دوسرے سردی کی وجہ سے ضرورت بڑھ رہی تھی اور تیسرے یہ کہ کچھ گھروں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں وہ بھی برکت دیتا ہے بہر حال یہ جو مختلف شعبوں کی طرف سے امداد دی جاتی ہے۔ ایک امداد دی جاتی ہے پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف سے میری منظوری کے ساتھ۔ میرے پاس بعض ایسی درخواستیں آ جاتی ہیں اور بعض لوگ بظاہر محتاج نہیں ہوتے وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن میں تو ہر ایک کے لئے اللہ کے حکم سے باپ کے طور پر ہوں اور اسی طرح میرے ساتھ جماعت کا ہر فرد سلوک کرتا ہے خواہ وہ اپنی عمر میں کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو بہر حال وہ مجھے لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے۔ میں پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعہ سے کچھ مددات ہیں بجٹ کی اور کچھ دوسری مددات ہیں جو باقاعدہ بجٹ کا حصہ نہیں ان میں سے ان کو مدد چلی جاتی ہے۔ کچھ وظائف مقرر ہیں طلبہ کے، بیواؤں کے، تو ستاون ہزار روپیہ اس مدد سے دیا گیا ہے۔ صدر انجمن احمدیہ نے اپنے کارکنان کی امداد پر اکہتر ہزار سات سو چھتر روپے کی امداد دی۔ تحریک جدید نے اپنے

کارکنان کی امداد پر چھتیس ہزار ایک سو تہتر روپے خرچ کئے اور اس کے علاوہ ہم یہاں امداد دیتے ہیں جو ہمارے ادارے گندم کی سالانہ ضرورت کا ۱/۴ حصہ مفت اپنے کارکنان کو دیتے ہیں۔ ہم نے حساب کیا ہے فی کس ۱/۲ سیر روزانہ کے حساب سے ساڑھے چار من فی کس گندم سالانہ چاہئے تو جس کنبہ کے دس افراد کھانے والے ہیں اُس کو سال کی پینتالیس من گندم چاہئے۔ اس کا چوتھا حصہ یعنی سوا گیارہ من یہ مفت دی جاتی ہے اور باقی کے لئے قرض دیا جاتا ہے تاکہ سارا سال انہیں تکلیف نہ ہو۔ بہر حال جو یہ مفت والا حصہ ہے۔ اس پر صدر انجمن احمدیہ خرچ کرتی ہے اور جو ایسے خاندان ہیں جو ایک حد تک اپنی غذائی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں ساری نہیں کر سکتے اُن کی فہرستیں بنوا کر اور محلوں سے مشورہ کرنے کے بعد اُن کو بھی زیادہ تر یہاں کے لوگوں کو اور کچھ ربوہ سے باہر کے لوگوں کو بھی گندم اور آٹے کے لحاظ سے جتنی ضرورت وہ پوری نہ کر سکیں اتنی کی انہیں امداد دے دی جاتی ہے۔ اس سکیم کے ماتحت چار سو نو مختلف خاندانوں میں دو ہزار دو سو پینتیس من گندم تقسیم کی گئی۔

اس دفعہ ایک ہنگامی ضرورت پڑی۔ سیلاب آیا۔ ربوہ میں اتنی ضرورت نہیں پڑی کم پڑی ہے لیکن باہر بعض جگہ تو گاؤں کے گاؤں پانی میں گھر گئے تھے۔ وہاں جو ضرورت پوری کی گئی ہے اصل میں وہ اس عظیم جذبہ کے ذریعہ ہوئی ہے جو جماعت احمدیہ کے افراد کے دلوں میں موجزن ہے کہ کسی کو ہم نے دُکھ میں نہیں دیکھنا۔ جہاں ہمیں دُکھ اور پریشانی نظر آئے گی اپنی بساط کے مطابق ہم اُس دُکھ اور پریشانی کو دور کرنے کی انتہائی کوشش کریں گے۔ چنانچہ بیسیوں گاؤں جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے اُن تک ہمارے بعض نوجوان چوَن چوَن میل سائیکل پر سوار ہو کر اور کبھی سائیکل کو اپنے اوپر اٹھا کر وہاں پہنچے ہیں اور دو دو تین تین دن تک کھانا وہاں پہنچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اُن کا دوسرا انتظام ہو گیا۔ پانی خشک ہو گیا یا کم ہو گیا۔ کوئی وہاں جانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں فوج آئی ہے تو اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن شروع میں تو انتظام ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو سارا خرچ ہوا دوائیاں کپڑے، گھی، دودھ چاول آٹا تھا وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل تو میرے پاس رپورٹ میں تھی لیکن وہ میں نے چھوڑ دی اور ان سب چیزوں پر جماعت کے دولاکھ چوہتر ہزار نو سو بیس روپے خرچ ہوئے اور کسی پر احسان نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی کہ

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے اپنے بندوں کی اس قسم کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق دی جس کی مثال اس مُلک میں تو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ فالحمد لله علی ذلک۔

تحریک وقفِ عارضی

ایک تحریک وقفِ عارضی کے نام سے میں نے شروع کی تھی گذشتہ سال دو ہزار چونتیس مردوں اور پانچ سو چوبیس مستورات کل دو ہزار پانچ سو اٹھاون افراد نے وقفِ عارضی کے لئے اپنے اوقات پیش کئے۔ سالِ رواں میں واقفین کے ۸۴۱ وفود اور واقفات کے ۳۸۱ وفود کل بارہ سو بائیس وفود بھجوائے گئے۔ اس طرف بھی جماعت کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ اس لئے کہ اگر یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام اور احمدیت کو مخلوقِ خدا کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اُن سے ہمدردی اور خیر خواہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر سارے انسانوں کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو سارے انسانوں کے حالات کا آپ کو علم ہونا چاہئے۔ اسی کے پیش نظر میں نے سائیکلوں والی مہم شروع کی اور سرگودھا سب سے آگے نکلا۔ بعض اور ضلعوں نے بھی کام کیا۔ سرگودھا نے اپنے ضلع کے قریباً سارے گاؤں سے ملاپ کیا اور ان کی تعداد اُن کے نقشہ کے مطابق ایک ہزار اڑتیس اور ہمارے پاس ایک نقشہ ہے اس کے مطابق ایک ہزار نو اسی ہے۔ کچھ فرق ہے لیکن اُن کے پاس جو نقشہ تھا اُس کے مطابق ہر گاؤں میں اُنہوں نے ملاپ کیا اور ہر گاؤں میں خالی ایک مرتبہ کا ملاپ تو کافی نہیں ہمارے پاس اتنی تعداد میں واقفینِ عارضی آنے چاہئیں اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک شکل میں اس کی اس رنگ میں بدلتا ہوں کہ ان واقفین میں سے ایک حصہ تو پرانے طریق پر کام کرے گا اور اُن کا ایک حصہ سائیکل سوار واقفین کا ہوگا اور ان کو ایک گاؤں نہیں بلکہ پانچ یا دس گاؤں دیئے جائیں گے اور اس دو ہفتہ کے وقت میں وہ ان پانچ سات یا دس گاؤں جو اُن کے سپرد ہوں گے ان میں وہ چکڑ لگاتے رہیں گے اور ان کے حالات معلوم کریں گے اور اُن کی خدمت کریں گے اور ان کی اصلاح اور تربیت کے لئے کوشاں رہیں گے۔ اس غرض کے لئے صرف ایک ضلع میں آپ کو ایک ہزار سے زائد واقفین کے وفود کی ضرورت ہے اور آپ نے سارے پاکستان کے لئے ہمیں بارہ سو بائیس وفود دیئے ہیں نہ صرف یہ کہ کام کا وقت ہے بلکہ کام کو بڑا تیز تر کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لئے

ہمیں کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ تاریخ محفوظ رہے اور اس لئے کہ جو واقفین (عارضی) ہیں ان کو ہمیشہ دعائیں ملتی رہیں۔ میں نے شروع سے ہی اپنے دفتر کو کہا کہ جب کچھ عرصہ کام ہو جائے تو کام کے بعض حصوں کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے کیونکہ ان حصوں کا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے شروع سے یہ کرو کہ واقفین کے کارڈ بناؤ۔ چنانچہ جس طرح لائبریری کی کتابوں کے کارڈ ہوتے ہیں جہاں سے اس کتاب کا نام پتہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح ان واقفین کے متعلق معلوم ہو سکے کہ کب وقف کیا۔ پھر کب دوبارہ وقف کیا پھر سہ بارہ کب وقف کیا۔ کیا رپورٹ ہے۔ کس علاقہ میں اُس نے کام کیا۔ یہ کارڈ اس وقت تک دس ہزار ایک سو اسی بن چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کام ہے اور بڑا مفید کام ہے۔ مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے احمدیوں کے کارڈ واقفین کے طور پر ہماری کیمپنٹ (چھوٹی سی الماری) میں محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ پاکستان کے باہر بڑی حد تک انگلستان اور تنزانیہ اور سیرالیون اور گیمبیا اور ایران اور جزائر فجی وہاں وقف عارضی کے ماتحت کام ہوا۔

ان کا ایک کام فضل عمر درس القرآن کا ہے۔ اس سال فضل عمر درس القرآن کلاس میں ۸۱۶ افراد شریک ہوئے جن میں طلبہ ۳۰۱ اور طالبات ۵۱۵ تھیں، اس کلاس کے ذریعہ طالبات نے قرآن کریم سیکھنے میں بہت دلچسپی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت ڈالے اور وہ تمام برکات انہیں نصیب ہوں جن کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ جماعت کو دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ طلبہ کو بھی توفیق دے کہ وہ اس طرف زیادہ توجہ دیں اور اپنی بہنوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔

ہفتہ قرآن مجید جو جمعائیں اپنے طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے کے لئے اور دوستوں کو قرآن کریم کا علم دینے کے لئے مناتی ہیں یہ ہفتہ بھی منایا گیا۔

نظارت اشاعت لٹریچر

اس نظارت کی طرف سے کچھ کتب شائع ہوئیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب ان کی طرف سے ایک لاکھ پچانوے ہزار (کتب سمیت) پمفلٹ اور رسائل شائع کئے گئے ہیں۔ یہ جو مختلف وقتوں میں (دیکھنے میں تو یہ بھی کام تھے لیکن ہمارا تو سارا کام ہی دینی ہے) کام ہوا اور

اس سے جماعت کا یہ حصہ یعنی کام بڑا منظم ہو گیا ہے کہ اپنا لٹریچر اور پمفلٹ وغیرہ کس طرح پہنچانے ہیں۔ ایک وقت میں پانچ ہزار کی تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی اور گذشتہ سال بعض دفعہ ایک لاکھ ہم نے دیا اور ہمیں اور مطالبہ آ گیا کہ اور دیں ہمیں تقسیم کرنے کے لئے۔ یہ تو ہے لٹریچر جو نظارت اشاعت لٹریچر نے شائع کیا۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ شائع کئے گئے ہیں اور تین لاکھ پمفلٹ تیار ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تین حوالوں پر مشتمل تین لاکھ پمفلٹ تیار ہے اور یہ جو ہمارے مخالفوں نے ہم پر افتراء عظیم کیا کہ جماعت احمدیہ نے نعوذ باللہ کلمہ طیبہ بدل دیا ہے اُس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تین حوالے لے کر ہر حوالے پر مشتمل ایک دو ورقہ اور ہر ایک، ایک لاکھ کی تعداد میں شائع کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی صحیح اور کامیاب اشاعت کرے گی اور اس طرف توجہ ہو رہی ہے لیکن اپنے مُلک کے لحاظ سے اور گاؤں کی تعداد کے لحاظ سے ابھی بہت کام ہیں جو ہمیں یہاں کرنے ہیں اور کرنے پڑیں گے۔ اگر جماعت نے یہ نظارے دیکھنے ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام غالب آ گیا۔ تو وَلَوْ آرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (التوبة: ۴۶) یہ الزام صرف منافق پر پڑتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم یہ کام کرنا چاہتے تھے درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو کام تم اپنے دعویٰ کے مطابق کرنا چاہتے ہو اُس کے لئے تم نے تیاری ہی نہیں کی اور خدا کے فضل سے ہم تو منافق نہیں۔ ہمارے اندر نورِ ایمان ہے ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے سمندر کے پانیوں سے بھی زیادہ موجزن ہے۔ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے لئے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے اور خدا کے فضل اور اس کی توفیق سے اس میں اُسی کی بشارتوں اور فضلوں کی وجہ سے کامیاب بھی ہونا ہے۔

وقفِ جدید

اس سال وقفِ جدید کا بجٹ دو لاکھ بیالیس ہزار روپے تھا۔ وعدہ جات دو لاکھ پچیس ہزار روپے کے قریب ہوئے۔ پچھلے سال سے قریباً ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ ہے لیکن جو بجٹ ہے اگر اُس کے مطابق جماعت پورا کر دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان کا کام اور زیادہ اچھی طرح ہو جائے گا۔ وقفِ جدید کے معلمین سے قاعدہ یسّرنا القرآن پڑھنے والوں کی تعداد ایک ہزار سات سو چار۔

ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو چالیس اور با ترجمہ پڑھنے والوں کی تعداد پانچ سو بیس ہے۔ خدمتِ خلق کے بھی اس ادارے نے بڑے کام کئے ہیں۔ اس کا کچھ ذکر تو پہلے آ گیا ہے۔ ایک بڑی خوش کن خبر ہے ایک بڑا عجیب واقعہ رومنا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں اچھوت ہندو رہتے ہیں اور کسی کی توجہ اُن کی طرف نہیں۔ چند سال سے جماعتِ احمدیہ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان میں سے سینکڑوں حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں اور اگر ہم ان کی طرف صحیح توجہ دیتے رہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے گا تو میں اُمید رکھتا ہوں کہ انشاء اللہ اگلے آٹھ دس سال میں یہ سارے ہندو نہیں تو ان کی اکثریت اسلام اور احمدیت کو قبول کر چکی ہوگی۔ یہاں مسجدیں بن رہی ہیں اور دوسرے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اشاعتِ قرآنِ عظیم کا جو ایک نیا ادارہ میں نے قائم کیا تھا وہ کثرت سے قرآن کریم انگریزی ترجمہ والا باہر بھجوا چکا ہے اور یہاں بھی اردو ترجمہ والا قرآن مجید شائع کیا اور بچوں کے لئے حائل جو بے حد مقبول ہوئی ہے اور اس میں دو روکیں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو عارضی روک ہے۔ آپ گھبرا یا نہ کریں کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے یہ بھائی چٹکیاں نہ کاٹیں اگر ہمیں یہ سوئیاں نہ چھوئیں تو ہم چین کی نیند کیسے سوئیں۔ ہمیں تو اس کی عادت پڑ چکی ہے اور خدا تعالیٰ نے اُن کو پوری طرح ہوشیار اور بیدار رکھا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی اُنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ تم اسی سال سے یہ کام کرتے آرہے ہو اور اسی سال سے ہم زمین کے ایک ذرہ کی طرح ظاہر ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور برکت کی ہوا ایسی چلی کہ ساری دنیا میں ہم پھیل گئے۔ نہ تمہاری چٹکیوں نے ہماری راہ کو روکا نہ تمہارے سوئیاں چھونے نے ہمیں کمزور کیا۔

شروع میں تو اُنہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اُنہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ باہر بھجوانے کے لئے اجازت لینی پڑتی ہے۔ ہم تو قانون کے پابند لوگ ہیں۔ وہ ہمیں اجازت دے دیتے تھے ہم بڑے خوش تھے اور قرآن کریم باہر جا رہا تھا لیکن جب اُنہوں نے دیکھا کہ ہزار، دو ہزار، دس ہزار، بیس ہزار یہ تو کہیں کے کہیں پہنچتے چلے جا رہے ہیں تو اب کچھ رستہ میں روک ڈالتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ اس سے زیادہ اس روک کی اہمیت نہیں جتنا بچے آپس

میں مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سوئی چھو دیتے ہیں۔ رُوئی کا ایک ہلکا سا زہ لے کر فاختہ اڑانا اسے کہا کرتے تھے۔ کبھی ہم بھی بچپن میں سکول کے زمانہ میں کیا کرتے تھے۔ فاختہ اڑا دیتے ہیں۔ اس سے نقصان تو کچھ نہیں ہوتا یہ تو ایک کھیل ہے۔ تو وہ ہم سے کھیلیں کھیل رہے ہیں اور ہم سنجیدگی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا کام کرتے چلے جائیں خدا ہمیں توفیق دے گا ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ کامیابی تو بہر حال اسلام کے لئے مقدر ہے اور خدا تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہی یہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے کہ اس نے اب دنیا میں قائم ہونا ہے۔ بہر حال اُس تیز رفتاری کے ساتھ قرآن کریم باہر نہیں جاسکا اور دوسری روک اس میں یہ پیش آئی کہ کاغذ کا ملنا بند ہو گیا اور جو مل رہا ہے وہ خراب مل رہا ہے۔ اس لئے میں نے جب دیکھا کہ اس قرآن کریم کا فائدہ افریقہ کے ممالک میں بڑا ہے اور مجھے خیال آیا کہ بعض اور مصلحتیں بھی تھیں افریقہ اور یورپ میں بھی انگریزی جرمن اور ڈچ زبانوں وغیرہ کے اس طرح کے حائل طرز کے قرآن کریم کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں بھجوائے جائیں پھر مشورے کئے، جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ موجودہ پاکستانی کاغذ جو ہمیں دستیاب ہے یہ ان کے معیار کا نہیں ہے۔ پھر انگلستان کی لجنہ نے مجھے چار ہزار پاؤنڈ پیش کئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہیں قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ میں ان چار ہزار پاؤنڈ کو قرآن کریم کی اشاعت میں لگا دیتا ہوں تم چار ہزار پاؤنڈ نقدی کی صورت میں دینے کی بجائے مجھے چار ہزار پاؤنڈ کا کاغذ بھجوادو۔ وہ کاغذ یہاں پہنچ چکا ہے اور بہت ہی اچھا کاغذ ہے اور وہ کاغذ جسے میں تو قرآن کا کاغذ کہتا ہوں اور عیسائی دنیا اُسے بائبل سپر کہتی ہے لیکن ہوگا کبھی وہ بائبل کا کاغذ اب تو قرآن کا زمانہ آ گیا۔ اب تو وہ قرآن کریم کا ہی کاغذ کہلائے گا۔ قرآن کریم کی تیس ہزار جلدیں اس کاغذ سے جو لجنہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے وہ تیار ہوں گی اور اُسے ہم یورپ اور امریکہ میں بھجوائیں گے۔ یورپ میں بھی انگریزی جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے تراجم کی باری بھی آجائے گی۔ بہر حال یہ کام ہو رہا ہے اس طرح تو نہیں اس رفتار سے تو نہیں۔ اس مقدار میں بھی ہو وسعت میں بھی یعنی جو ہماری خواہش ہے لیکن کام شروع ہو گیا اور اسی سلسلہ میں میں نے کہا تھا دنیا میں ہوٹلوں کے ہر کمرہ میں قرآن کریم مترجم رکھ دو۔ اب ہر وہ

کمرہ جس کے اندر اس وقت بائبل موجود ہے اُس کے اوپر قرآن کریم مترجم رکھا ہونا چاہئے اور یہ کام شروع ہو گیا۔ اس کو وقت لگے گا لیکن نائیجیریا میں بارہ ہوٹلوں میں گیارہ سو تیس کمرے تھے۔ گیارہ سو تیس قرآن کریم کی کاپیاں ان کو دی گئیں۔ سیرالیون میں پانچ ہوٹلوں میں چار سو کمرے تھے ان کو چار سو قرآن کریم دیئے گئے۔ جزائرِ جنجی میں پانچ سو قرآن کریم ہوٹلوں میں رکھنے کے لئے دیئے گئے۔ اسی طرح زیمبیا میں ایک ہوٹل میں بیس قرآن کریم دیئے گئے۔ یہ اعداد اُس رپورٹ کے مطابق ہیں جو ہمیں پہنچ چکی ہے لیکن جس تعداد میں باہر گئے ہیں جو اجامالی رپورٹیں ہم تک پہنچی ہیں اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ قرآن کریم ہوٹلوں میں رکھے گئے ہیں۔ غانا میں ایک سٹیٹ ہوٹل کا رپوریشن ہے۔ یعنی حکومت کے جو ہوٹل ہیں ان سب کا نظام ایک ہے اور ان پر کوئی فوجی افسر سربراہ ہے اور انہوں نے ایک موقع پر قرآن کریم وصول کئے۔ تو ایک تقریب کے موقع پر تقریر کی وہ تقریر بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا اس تحفہ کی پیشکش سے بوجہ میں بے حد متاثر ہوا ہوں میں دنیا میں گھوما پھرا ہوں دنیا کے ہر خطہ اور علاقہ میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے ہر ہوٹل میں جہاں بطور مہمان میں ٹھہرتا رہا میرے کمرہ میں ہمیشہ ہی بائبل کا ایک نسخہ موجود ہوتا تھا۔ خود ہمارے ہوٹلوں کے تمام کمروں میں بائبل کے نسخے موجود ہیں۔ اکثر و بیشتر میں اس امر پر حیران ہوتا رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب والے اس قسم کی جگہوں پر اپنا لٹریچر کیوں نہیں رکھواتے تاکہ اُن کے اپنے پیروؤں کو سفر کے دوران بھی دستیاب ہو سکیں اور وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آج کی تقریب جس میں اس غرض کے لئے قرآن شریف کے نسخے بطور تحفہ عطا کئے گئے ہیں اسی لئے میری نگاہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے دن کے بعد جو مسلمان بھی باہر سے غانا آئے گا یا خود اس ملک کا کوئی مسلمان ان ہوٹلوں یا ریسٹ ہاؤسز میں سے کسی ایک میں قیام کرے گا جو سٹیٹ ہوٹلز کا رپوریشن چلا رہی ہے تو وہ اپنی مقدس کتاب سے استفادہ کرنے سے محروم نہیں رہے گا اور اگر وہ مذہبی قسم کا نہ بھی ہو تو بھی اُسے یہ ضرور احساس ہوگا کہ اُس کے مذہب کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ہاں بائبل کے ساتھ قرآن کریم کو موجود نہ پا کر اُسے نظر انداز کئے جانے کا احساس ضرور ہوتا ہوگا (اور جس کے ذمہ دار تو وہ خود تھے) ہوٹل کے کمروں میں قرآن کریم کے نسخے موجود پا کر غیر مسلموں کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی لائی ہوئی تعلیم کا مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔

پس یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہوٹلوں کے کمرے چند ملیں ضرور ہوں گے۔ چالیس پچاس لاکھ یا ممکن ہے ایک کروڑ سے بھی زیادہ کمرے ہوں اور جو کام شروع ہی نہ ہو وہ اپنی انتہا تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ واضح بات ہے جو کام شروع ہو جائے اور چلتا رہے وہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ جو کام شروع ہو اور رُک جائے وہ عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لئے ناکام ہو جائے گا۔ یہ کام شروع ہو گیا اور رُکے گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ایک جماعت نے اسے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی قادرانہ مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہے۔ اس لئے رُکے گا نہیں۔ اس لئے ہم علیٰ وجہ البصیرت نہ کہ صرف حُسن ظن کی بنا پر بلکہ ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی جلدی آنے والا ہے جب دنیا کے ہر ہوٹل کے ہر کمرہ میں بائیل ہو یا نہ ہو قرآن کریم کا ترجمہ ضرور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

ہمارے پاس اس وقت بھی (جبکہ پہلے کی تعداد سے نسبتاً زیادہ مبلغین تیار ہو رہے ہیں) دو سو نو مبلغین ہمارے پاس ہیں۔ اندرون ملک یعنی اصلاح و ارشاد کے لئے بھی اور اصلاح کے کام اور اشاعتِ اسلام کے لئے باہر بھجوائے جانے کے لئے بھی۔ یہ تعداد بھی بڑی کم ہے اور اس کے متعلق آپ کو اپنے گھروں میں سوچنا چاہئے۔ کیونکہ ان میں شامل ہونے والے وہ ہیں جو آپ کے گھروں جو آپ کی گودیوں میں پلے ہیں۔ وہ آپ نے کوشش کر کے اور صحیح تربیت کر کے اپنی گود جس کے ساتھ ہزار بلا بھی شامل ہے وہاں سے اُٹھا کر اُسے اللہ کی گود میں بٹھانا ہے۔ جس کے ساتھ کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ گھروں میں سوچیں اور وہ بچے پیدا کریں جو دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے ہوں۔

تحریک جدید کے ماتحت اس وقت صرف ستائیس مشن کام کر رہے ہیں اور چونکہ حدیقة المبشرین کے نظام میں سارے مبلغین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور حسبِ ضرورت ان کو مبلغ مل جاتے ہیں پس ستر مرکزی مبلغ باہر کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش اتنے ہی مقامی مبلغین بھی تحریک جدید کے زیر انتظام کام کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم صحیح معنی میں مساجد کے مدرسہ ہی میں سیکھی جاسکتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان

پانچ وقت جمع ہو کر اُسی کے متعلق اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے ان جماعتوں میں جہاں مساجد نہیں تھیں ان علاقوں میں جہاں دہریت پھیلی ہوئی تھی ان علاقوں میں جہاں شرک موجزن تھا غالب اور صاحب اقتدار تھا ان علاقوں میں خدا کے نام کو بلند کرنے کے لئے اس کلمہ طیبہ سے نوع انسانی کو روشناس کرانے کے لئے مساجد تعمیر کی ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سی پہلے بن چکیں۔ اس ایک سال میں تحریک جدید کے نظام کے ماتحت انیس نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔

قرآن کریم کے تراجم اس وقت انگریزی زبان میں - ڈچ، جرمن، ڈینش، انڈیشین، سواحیلی ان چھ زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں اور تحریک جدید کے ماتحت گیارہ سیکنڈری سکول کام کر رہے ہیں اور تین میڈیکل سینٹر ہیں جو بڑے کامیاب ہیں۔ پرانے سکول ہیں اور بہت ہی زیادہ مقبول ہیں اور اب میں آگے آتا ہوں۔

ایک دوسری سکیم جاری ہوئی اور پہلو بہ پہلو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہسپتال اور طبی مراکز قائم کئے گئے اور ہائر سیکنڈری سکول بھی کھولے گئے۔ اس کے علاوہ ڈل اور پرائمری سکول وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ مغربی افریقہ میں سو ڈیڑھ سو کے قریب سکول ہیں۔ بہر حال علمی میدان میں جماعت ان پسماندہ علاقوں کی بہت خدمت کر رہی ہے۔

۱۹۷۰ء میں میں نے مغربی افریقہ کا دورہ کیا مغربی افریقہ میں بہت سے ممالک ہیں ان میں اس وقت تک چھ ممالک میں ہمارے باقاعدہ مرکزی مبلغ اور تبلیغی مراکز پائے جاتے ہیں۔ دو نئے ہیں۔ اور چار پرانے نائیجیریا، غانا، سیرالیون اور گیمبیا۔ نئے ہیں آئیوری کوسٹ اور لائبیریا۔ لائبیریا میں اُس وقت نیا نیا مشن تھا۔ وہاں کے پریذیڈنٹ جو بعد میں فوت ہو گئے بڑے اچھے دل کے مالک تھے دنیوی لحاظ سے سب کا خیال رکھنے والے تھے۔ میں نے اُن سے نہیں کہا تھا انہوں نے خود جماعت سے وعدہ کیا کہ وہ ایک سوا ایکڑ زمین جماعت کو اپنے تبلیغی مرکز اور سکول اور ہسپتال کے لئے دیں گے لیکن ہمارے ان ممالک میں سرخ فیتہ (Red Ribbon) چلتا ہے وہ وہاں بھی چلتا ہے۔ دیر ہوگئی۔ اس عرصہ میں وہ فوت ہو گئے۔ مجھے خدشہ بھی پیدا ہوا لیکن انہوں نے دھڑلے کے ساتھ بھری مجلس میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے

کہ سوا ایکڑ ان کو دوں گا اور بعد میں آنے والوں نے اُن کی عزت کرتے ہوئے ان کی زبان کا پاس رکھا اور پچھلے سال باقاعدہ قانونی طور پر سوا ایکڑ زمین رجسٹر ہو چکی ہے اور شاید کچھ اور بھی مل جائے۔ فالحمد للہ۔ بہر حال جب میں دورہ پر گیا تو خدا تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ ہم نے خدمت کی اور بے لوث خدمت کی۔ ہم نے ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں لی۔ ان کے مال میں سے ایک پیسہ پر بھی ہماری نگاہ نہیں پڑی ہم باہر سے آئے انہیں اس قابل تو بنایا کہ وہ سیاست میں زیادہ مدبرانہ طور پر حصہ لے سکیں لیکن ان کی سیاست میں ہم نے حصہ نہیں لیا۔ ہم نے اُن کی دولت میں کوئی لاچ یا طمع نہیں کیا۔ ان کو تعلیم دے کر اس قابل بنا دیا کہ اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے یہ زیادہ کمائیں لیکن پھر بھی جو کرنا چاہئے تھا جس کے یہ مستحق اور ضرورت مند ہیں وہ ہم نے نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں انسان سوچتا بھی ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے۔

پانچواں ملک جہاں میں گیا وہ گیمبیا تھا اور گیمبیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ ان ممالک میں ان کی خدمت کے لئے خرچ کرو۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو پہلا ملک جہاں افریقہ سے باہر ٹھہرا وہ انگلستان تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو میں اُن سے اللہ تعالیٰ کی اس منشاء کے مطابق یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے پانچ سات سال کے اندر اندر تمہارے ملکوں میں سولہ نئے طبی مراکز کھولوں گا اور کافی نئے سینڈری سکول کھولوں گا۔ تعداد بھی میں نے بتائی تھی اس وقت مجھے یاد نہیں رہی بہر حال سولہ سے زیادہ ہی بتائی ہوگی۔ اس کے لئے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اس کے لئے ٹیچرز اور پروفیسروں کی ضرورت ہے اس کے لئے مال کی ضرورت ہے اور چونکہ خدا نے کہا کہ کم سے کم اتنا خرچ کرو اس لئے میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے سامان وہ خود ہی پیدا کر دے گا اور مجھے ایک سینڈ کے لئے بھی گھبراہٹ نہیں کہ مجھے ڈاکٹر کہاں سے ملیں گے سکولوں میں پڑھانے والے ایم ایس سی لیکچرز کہاں سے آئیں گے سکولوں یا ہسپتالوں کی عمارتیں بنانے کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا کی یہ منشاء ہے خدا کی منشاء پوری ہوگی۔ ایک چیز کی مجھے فکر ہے اور وہ یہ میرا پہلا اعلان تھا وہاں سے آ کر اور مجھے بھی اس کی فکر ہے تمہیں بھی اس کی فکر کرنی پڑے گی پیسہ بھی خدا

دے گا اور آدمی بھی دے گا لیکن مجھے اور تمہیں یہ فکر کرنی چاہئے کہ ہم یہ حقیر قربانی جو اپنے رب کے حضور پیش کریں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے لئے ہمیں دعائیں کرنی چاہئیں کہ خدا ہماری ان حقیر قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مجھے بھی یہ فکر ہونی چاہئے اور آپ کو بھی یہ فکر ہونی چاہئے۔ میں نے ان سے پانچ سات سال کا وعدہ کیا تھا کہ اس عرصہ میں اتنے ہیلتھ سنٹر بن جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے یہ سامان پیدا کئے کہ ابھی ڈیڑھ سال نہیں گزرا تھا کہ وہاں سترہ طبی مراکز بن گئے جن میں سے کئی بڑی عمارتوں والے ہسپتال عملاً بن چکے ہیں اور کئی اس راہ پر ہیں جو آج نہیں توکل۔ اور ہمارے نئے سکول اور کھلے ہیں اس کے لئے بائیس اساتذہ یہاں خدا نے دیئے اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں سکول بھی ہیں اور ہسپتال بھی۔ سکول ہسپتال کی نسبت زیادہ وقت میں بالغ ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہسپتال آج اگر جا کر کام شروع کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفاء دے تو کل کو دوسرے ہسپتالوں کے مریض وہاں آنے شروع ہو جائیں گے لیکن سکولوں کی ہر سال ایک نئی کلاس زائد ہوتی ہے۔ اگر زیادہ ہمت کریں تو ایک سال میں دو کلاسیں اور پانچویں سال میں یا تین چار سال میں مکمل ہوتا ہے اور پھیل کر اس پر خرچ آتا ہے بہر حال سکولوں میں کام ہو رہا ہے اور اساتذہ کی زیادہ ضرورت بھی پڑ رہی ہے اور اساتذہ میسر بھی آرہے ہیں اور ڈاکٹروں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اس طرح ہاتھ رکھا کہ ایک ڈاکٹر نے ڈیڑھ سال میں تیس ہزار پاؤنڈ خالص بچت کی۔ حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں غریبوں کا علاج مفت کیا لیکن خدا تعالیٰ نے ہاتھ میں اتنی برکت رکھی کہ بڑے بڑے دولت مند جو افریقہ میں رہتے ہیں جن میں حکومت کے بڑے بڑے افسر یہاں تک کہ وزراء شامل تھے اپنے ہسپتالوں کی بجائے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کلینکوں میں آنے شروع ہو گئے۔ خدا نے انہیں پیسہ دیا تھا اور ڈاکٹروں کو پتہ تھا انہوں نے ان سے پیسے لئے۔ ان کے پیسے میں ہمیں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا پیسہ ہم ان ہی کے ملک پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہم نے وہاں خرچ کیا ہے۔ پھر ایک دھیلہ ہم وہاں سے باہر نہیں لے کر آئے۔ بلکہ لاکھوں باہر سے ہم وہاں لے کر جاتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہ فخر کی بات ہے اور نہ یہ کسی پر احسان ہے یہ تو خدا کی شان ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہم پر یہ احسان کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کی

توفیق دیتا ہے اور ہمارے دل اس کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم اُس کے احسان مند ہیں اور ممنون ہیں ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے۔

پھر وہاں ایک اور واقعہ ہوا۔ وہاں پہلا مُلک ہے جہاں نائیجیریا نے فیصلہ کیا کہ سکولوں کو تو میا لیا جائے۔ (Nationalize کر لیا جائے) لیکن اُنہوں نے اپنے صوبوں کو کہا کہ اپنے حالات کے مطابق کام کرو۔ ایک وہ صوبہ تھا جہاں ہم دو سکول کھول چکے تھے جہاں ہم ان سکولوں کی عمارتوں پر ابتدائی خرچ (پورا تو نہیں کیونکہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ کئی سال میں دو سکول مکمل ہوتے ہیں) ابتدائی طور پر چند لاکھ روپیہ ہم خرچ کر چکے تھے۔ اُنہوں نے کہا ہم سکولوں کو تو میا لیتے ہیں اور ہم جتنا خرچ ہوا ہے وہ خرچ کرنے والوں کو (معاوضہ کے طور پر) دیں گے۔ مجھے اُنہوں نے لکھا میں نے کہا وہاں جو گورنر تھے عثمان فاروق صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میں نے اُن سے ۱۹۷۰ء میں وعدہ کیا تھا اُن سے جا کر کہو تمہاری خدمت کے لئے آئے تھے تمہاری خدمت میں ہم نے سکول تیار کر دیئے۔ تم چاہتے ہو کہ انہیں تو میا لو بڑی خوشی سے ایسا کر لو۔ یہ سکول تمہارے لئے بنے ہیں تم لے لو اور معاوضہ ہم نے کوئی نہیں لینا۔ ہمارے اس رویہ سے وہ بڑے حیران ہوئے۔ ان کا سارا مُلک حیران، اُن کے عوام حیران، ان کی حکومت حیران، ان کے اخبار حیران، ان کا ریڈیو حیران، ان کا ٹیلی ویژن حیران۔ سارے پریس میں یہ بات آگئی کہ وہ کہنے لگے عجیب لوگ ہیں یہ باہر سے آئے ہیں حکومت پیسہ دیتی ہے یہ لیتے نہیں ہیں۔ ہم کیوں لیتے ہم تو خدا کے مزدور ہیں اس کی مخلوق کی خدمت اُس دنیا میں جا کر کر رہے ہیں۔ خیر عیسائی بڑا گھبرائے وہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اُنہوں نے کہا عجیب ہو تم! ہم نے تو بڑی بڑی فہرستیں بنائی تھیں پیسہ لینے کے لئے مگر تم نے ہمارا دروازہ بند کر دیا۔ تم نے کہا کہ مفت لے لو اب ہمیں بھی سوچنا ہے۔ مفت تو شاید نہ دیں لیکن چھوڑنا پڑے گا بہت کچھ۔ خیر تمہاری اپنی نیتیں ہیں۔ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک اور ہے ہمارے ساتھ اور ہے ہم نے تو ہر دینی اور دنیوی حسنہ اُسی سے حاصل کرنی ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے نہ آج تک پھیلائے ہیں نہ کبھی پھیلائیں گے اللہ کی توفیق سے۔

ہمارے جو سترہ طبی مراکز وہاں کام کر رہے ہیں۔ ان کے کوائف مختصراً یہ ہیں کہ

اکتوبر ۱۹۷۳ء تک (یہ تین ماہ قبل کی رپورٹ ہے) کل مریض جو ان سترہ طبی مراکز میں علاج کے لئے آئے ان کی تعداد ۶۶۹۰۰۰ ہے۔ ۶۶۹۰۰۰ مریضوں کا ان پسماندہ ممالک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے احمدی ڈاکٹروں نے علاج کرنے کی توفیق پائی اور قریباً ۶۰۰۰۰ مریض ایسا تھا جس کا تمام علاج مفت ہوا۔ نہ فیسیں لی گئیں نہ دوائی کے پیسے لئے گئے اور جو دے سکتے تھے ان میں سے بعض ایسے تھے جو کہتے کہ مثلاً فیس نہ لو ہم سے ہم دے نہیں سکتے دو پیسے دوائی کی قیمت لے لو۔ وہ ان سے لی گئی اور جو امیر ہے وہ اپنا پیسہ دیتا ہے اور ہم بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی بڑی رحمت اور برکت ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے مریض جن پر آپریشن کی ضرورت تھی ان کی تعداد ۴۶۰۰۰ ہے۔ ۴۶۰۰۰ آپریشن جن میں سے بعض مریض ایسے تھے جن کے کیس نہایت اچھے ہوئے تھے۔ ایسے مریض جن کے متعلق ملک کے ماہر ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ لا علاج ہیں اگر آپریشن کروانا ہی ہے تو ”خداوند یسوع مسیح کے نام سے“ یہاں نہ کروانا۔ ان کو وہاں لے جاؤ جہاں عیسائیت زوروں پر ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا شفا دینا خداوند یسوع مسیح کا کام نہیں یہ تو خدائے واحد و یگانہ قادرِ مطلق اور شافی و کافی کا کام ہے اور ہمارے ڈاکٹروں نے خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آپریشن کئے اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کئے اور بالکل لا علاج مریض دواؤں سے شفا یاب ہو گئے۔ خدا کی اتنی رحمت نازل ہوئی اور اتنا فائدہ پہنچانے کی اس چھوٹی سی جماعت دنیا کی دھتکاری ہوئی جماعت کو خدا نے توفیق دی کہ اتنی خدمت خدا تعالیٰ کی مخلوق کی وہاں کرے۔ پہلے تو یہ سب کا پیسہ مانگتے تھے میں نے بتایا کہ ہمیں آدمی مل گئے ڈاکٹر بھی اور ٹیچر بھی۔ پروفیسر بنانے کے لئے کیونکہ وہاں ہائر سیکنڈری سکول ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میں نے کہا تھا کہ مجھے فکر ہی کوئی نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ جس کا کام ہے وہ خود ہی پیسے کا انتظام کرے گا۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہئے کہ ہماری حقیر قربانی قبول ہو جائے۔ اس مدد میں اس وقت تک باوجود اس کے کہ خود پاکستان سے بعض رقموں کی اطلاع ہمیں نہیں ملی اور بیرون ملک سے چندہ بہت سارا ایسا ہے جس کی اطلاع ہمیں نہیں ملی اس کے باوجود نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں ۵۰۶۴۶۲۸ روپے وصول ہو چکے ہیں۔ مجھے کم سے کم جو کہا گیا تھا وہ ۲۵ لاکھ روپیہ تھا اب خدا کی شان دیکھو۔ ۲۵ لاکھ روپے مجھے خرچ کرنے کو کہا گیا تھا خدا تعالیٰ نے یہ مطالبہ کروایا تھا جماعت

سے کم از کم پچیس لاکھ روپیہ ان پسماندہ علاقوں کی خدمت کے لئے دو اور آپ کو یہ توفیق دی اپنی شان دکھانے کے لئے کہ ایک لاکھ کی بجائے دو لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ آپ نے دے دیئے پھر خدا نے اپنے عمل سے یہ کہا کہ میرے یہ عاجز بندے جو میرے خزانوں سے ایک چھوٹا سا حصہ وصول کرتے ہیں انہوں نے میری راہ میں میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے میری رضا کے حصول کے لئے دو لاکھ پاؤنڈ اس آواز پر قربان کر دیئے۔ میں نے (یعنی خدا تعالیٰ نے) قبولیت کے نشان کے طور پر (یہ میرا اپنا ذوقی استدلال ہے) اپنے خزانوں سے آپ کے دیئے ہوئے ۵۰ لاکھ سے کچھ زائد روپے کے مقابل پر اس مد میں ساٹھ لاکھ سے زائد روپیہ اس مد میں دے دیا۔ جو ہمارے طیبی مراکز سے آمد ہوئی اور جو سکولوں کی فیسوں وغیرہ سے آمد ہوئی اس کی رقم قریباً ستر لاکھ روپیہ بنتی ہے۔

آپ نے ۵۰ لاکھ خدا کے حضور پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے قریباً ستر لاکھ کے خزانے دے دیئے یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی قربانیاں قبول ہوئیں اور اس عرصہ میں (جو بڑا تھوڑا عرصہ ہے) ہم نے ان ممالک میں طیبی مراکز اور سکول کھولنے پر اور وہاں قرآن کریم کی اشاعت پر اس وقت تک ۸۷۰۰۰۰۰ روپیہ خرچ کیا ہے ابھی عملاً تین سال بھی نہیں ہوئے قریباً اڑھائی پونے تین سال ہوئے ہیں۔ ۸۷ لاکھ روپے جماعت کے جو تمام کام میں ان کے علاوہ یہ ایک چھوٹا سا منصوبہ تھا اس پر ۸۷ لاکھ روپے (بلکہ ۸۸ لاکھ سمجھنا چاہئے صرف کچھ ہزار کی کمی ہے) خدا تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ ہم خرچ کریں اور اس کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں اور آخر میں ایک بات جو رہ گئی ہے وہ میں کہنی چاہتا ہوں اور ۸۸ لاکھ روپیہ اس معمولی سی مد میں اُس جماعت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا کی جو اس عرصہ میں (اگر تین سال کا عرصہ لیا جائے تو) دیگر کاموں پر قریباً چار کروڑ روپیہ خرچ کر چکی ہے اور وہ جماعت جو ایک سال میں (سال رواں مراد ہے) ایک کروڑ اڑھائی لاکھ روپیہ خدا کی راہ میں قربان کر رہی ہے اور ان کے علاوہ جو چندے ہیں (اور کچھ اور قربانیاں ہیں جن کا کل مطالبہ کیا جائے گا) یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اُس کی رحمت ہے کیونکہ جس وقت جماعت کی ابتداء ہوئی اور تربیت کی ابتداء تھی اور لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں تھا اور جماعت چھوٹی تھی۔ اُس وقت یہ حال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو


جماعت کے آرام کی خاطر لنگر خانہ میں ایک کنواں لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لئے پیش نہیں آئی کہ وہاں کوئی کنواں پہلے سے موجود نہیں تھا۔ بلکہ اس لئے پیش آئی کہ وہ کنواں مشترک ملکیت میں تھا۔ آپ بھی خاندان کے فرد کے لحاظ سے اور آپ کے مخالف رشتہ دار اس کے دوسرے حصہ کے مالک تھے اور وہ ہر وقت فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تب آپ نے سوچا کہ اس ہر وقت کی بدمزگی سے بچنے کے لئے ایک کنواں لگا دیا جائے۔ ستا زمانہ تھا اڑھائی سو روپے میں کنواں لگ جاتا تھا۔ اڑھائی سو روپے میں کنواں لگانا تھا۔ آپ نے چندہ کی تحریک کی جن کو تحریک کی ان میں سے ایک ہمارے نانا خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم بھی تھے اور آپ نے ان کو خط لکھا اور خط میں لکھا یہ حالات ہیں ہمارے اپنے رشتہ دار تنگ کرتے ہیں۔ لنگر خانہ میں ہمارے احمدی ہمارے مخلص مرید جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ آنے لگے ہیں اور بدمزگیاں پیدا ہوئی ہیں ہم نے سوچا ہے کہ اس بدمزگی سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہم یہاں ایک کنواں لگا دیتے ہیں اڑھائی سو روپے اس پر خرچ آئیں گے آپ کا نام بھی میں نے اس غرض کے لئے چندہ دینے والوں میں شامل کر دیا اور جو میں نے چندہ آپ کے ذمہ لگایا ہے اس کے مطابق آپ مجھے رقم بھجوا دیں اور میں نے آپ کے نام کے آگے دو آنے لکھ دیئے ہیں مجھے دو آنے بھجوادیں۔

ابتداء آپ کی قربانیوں کی دو آنے سے ہوئی تھی اور ابھی آپ کے ابتدائی دور کا ہی ایک زمانہ ہے (دوسرا دور آنے والا ہے آپ کے سامنے اس کے متعلق میں کل کچھ کہوں گا) اور ابتدائی دور کے ہی ایک اگلے حصہ میں آپ یہاں پہنچ گئے کہ میں آپ سے ۲۵ لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا ہوں اور آپ ۵ لاکھ روپے جماعت کے کاموں کے لئے دے دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور آپ یہاں پہنچ گئے کہ کنواں لگانے کے لئے ساری جماعت کی طرف سے دیئے گئے دو سو پچاس روپے کے مقابلے میں جس طرح کنواں ایک چھوٹی سی جماعتی ضرورت تھی ”نصرت جہاں آگے بڑھو!“ بھی ایک چھوٹی سی جماعتی ضرورت تھی اس کے لئے دو سو پچاس کے مقابلہ میں آپ نے اکیاون لاکھ روپیہ دیا اور ایک سال میں اب ایک کروڑ اڑھائی لاکھ روپیہ وہی جماعت دو آنے دینے والی وہ خدا کے حضور میں پیش کرتی ہے۔ کتنی رحمت اور کتنا فضل آپ پر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کے اور ہمارے دل خدا تعالیٰ کی حمد سے ہمیشہ معمور رہنے چاہئیں۔

لبریز رہنے چاہئیں۔ ہمارا تو اگر ذرہ ذرہ خدا کی راہ میں فنا ہو جائے تب بھی ہم اُس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اتنا پیار کیا ہے اُس نے ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور مہدی موعود کے ذریعہ سے کہ کس کی طاقت ہے کہے کہ میں اُس پیار کے بدلے میں اس کا ہزارواں حصہ اس کا کروڑواں اس کا اربواں حصہ بھی شکر ادا کر سکتا ہوں۔ پس اَلْحَمْدُ کے ترانوں کے ساتھ اس مجلس کو ہم ختم کرتے ہیں اور بہت اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا کریں۔ بہت اَلْحَمْدُ لِلّٰہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہی آپ پر اسی نچ پر نازل ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو آپ قربانیاں پیش کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں سے اُس سے کہیں زیادہ آپ کے خزانوں کو بھر دے۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)





مہدی علیہ السلام روحانی قوتوں اور ان کی نشوونما میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور ظلِ کامل ہیں

﴿اختتامی خطاب جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۷۳ء بمقام ربوہ﴾

تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:-

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ جماعت صد سالہ جشن منائے۔ یعنی وہ لوگ جن کو سوواں سال دیکھنا نصیب ہو وہ صد سالہ جشن منائیں اور میں اپنی بھی اسی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ صد سالہ جشن منایا جائے۔ اس لئے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے اور میں نے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑے غور کے بعد تاریخ احمدیت سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اگلے چند سال جو صدی پورا ہونے سے قبل باقی رہ گئے ہیں وہ ہمارے لئے بڑی ہی اہمیت کے مالک ہیں۔ اس عرصہ میں ہماری طرف سے اس قدر کوشش اور اللہ کے حضور اس قدر دعائیں ہو جانی چاہئیں کہ اس کی رحمتیں ہماری تدابیر کو کامیاب کرنے والی بن جائیں اور پھر جب ہم یہ صدی ختم کریں اور صد سالہ جشن منائیں تو اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہوں جیسا کہ ہماری خواہش ہے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد ہونے چاہئیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ یہ جماعت اس کے حضور قربانیاں پیش کر کے غلبہ اسلام کے ایسے سامان پیدا کر دے اسی کے فضل اور اسی کی دی ہوئی عقل اور فہم سے اور اسی کے سمجھائے ہوئے منصوبوں کے نتیجے میں دنیا کے وہ لوگ بھی جنہیں اس وقت اسلام سے دلچسپی نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھنے لگیں کہ اب اسلام کے آخری اور کامل غلبہ میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا۔ یہ سپریم ایفٹ (Supreme Effort) یعنی انتہائی کوشش جو آج کا دن اور آج کا سال ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس آخری کوشش کے لئے ہمیں کچھ سوچنا ہے اور پھر سب نے مل کر بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ خیال کر کے کہ سو سال (کے بعد جماعت احمدیہ کے قیام پر ایک سو سال) پورے ہو جائیں گئے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت پر اس معنی میں کہ آپ نے جو

پہلی بیعت لی اور صالحین اور مطہرین کی چھوٹی سی جماعت بنائی تھی اس پر ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء کو سو سال گزر جائیں گے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں کوئی منصوبہ بنانا چاہئے تاکہ ہم تیار کریں اس صدی کے جشن کو منانے کی لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ۱۹۸۹ء کا سال بڑا ہی اہم سال ہوگا اس لئے میری طبیعت کا میلان سو سالہ جشن منانے کی طرف اتنا نہیں (وہ بھی ہم نے منانا ہے) جتنا دوسری صدی کے استقبال کی تیاری کی طرف میرا میلان ہے۔

جب مجھے یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور سے ہی میرے لئے بہت سی برکتوں کے سامان پیدا کر دیئے۔ میں نے سوچا کہ جس زمانہ میں مہدی کے آنے کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں قرآن عظیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحائے امت کے کشف و روایا اور وحی والہام اور دوسرے بزرگوں نے عقل و فراست کے نتیجے میں جو باتیں لکھی ہیں یہ کس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی کس زمانہ میں وہ مہدی آئے گا جو خدا کا پیارا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا پھر وہ کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق اس زمانے سے ہے؟ پھر کیا مقام ہے مہدی کا امت کے صلحاء کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مطہر دل میں اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے اندر؟

پس جب میں نے اس مضمون پر سوچنا شروع کیا تو میرے سامنے ایک بہت وسیع مضمون آ گیا جس کا بیان کرنا جلسہ کی ایک تقریر میں ممکن ہی نہ تھا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ اس کو مختصر کروں مگر میں اس کوشش میں بھی ناکام ہو گیا۔ کیونکہ مختصر کرنے کو باوجود میرے پاس جو مواد تھا وہ بھی اتنا تھا کہ اس کے بیان کرنے کے لئے آٹھ دس گھنٹے کی ضرورت تھی۔ پھر میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ یہ سب باتیں میرے علم میں آجائیں اور صرف کچھ ابتدائی باتیں تمہیدی طور پر یا اہم اشارات کے رنگ میں (بہت حد تک زبانی یا شاید کہیں کہیں حوالہ کے ساتھ) بیان کر دوں۔

قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے علاوہ صحائے امت نے اپنے مشاہدات اور اپنے غور و فکر اور متفرق روایا اور الہامات کے نتیجے میں جو باتیں لکھیں یا کہیں یا ان سے روایت کی گئی ہیں ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس امت پر یا نوع انسانی کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے انسان نے ایک ایسا زمانہ دیکھنا ہے جس میں شیطانی طاقتوں کا زبردست حملہ ہوگا۔ حدیثوں نے اس کو

اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں اپنے قیدخانہ سے نکلیں گی اور دجال کا دجل ساری دنیا میں پھیل جائے گا اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ انسانی اقدار جو روحانی اقدار کی بنیاد پر بنتی ہیں وہ بھی دنیا سے مٹادی جائیں گی۔ روحانی رفعتوں کے حصول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان نے پہلے بااخلاق انسان بننا ہے اور پھر بعد میں یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ وہ روحانی انسان بنے۔ کفر والحاد اور فسق و فجور کا زمانہ یعنی خدا تعالیٰ سے دوری کا زمانہ آئے گا اور یہ اتنی شدت اختیار کر جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے امت محمدیہ کے افراد! تمہاری اس زمانہ میں یہ حالت ہوگی کہ تم یہ سوچنا بھی نہ کہ مادی ذرائع سے ان دجالی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو مگر مقابلہ ضرور ہوگا۔ جب مادی ذرائع سے ان دجالی طاقتوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہوگا اور انہوں نے مغلوب ضرور ہونا ہے تو پھر اس کا صاف نتیجہ نکلتا ہے عقلاً بھی اور اسلامی تعلیم کی رو سے بھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کوئی روحانی منصوبہ تیار کر کے زمین پر بھیجے گا جو ان کا مقابلہ کرے گا اور ان کو پسپا کرے گا اور ان کو شکست دے گا اور وہ ناکام ہوں گے۔ اس زمانہ کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ شروع سے قیامت تک شیطان سے عباد الرحمن کی جو جنگ ہونی ہے، باطل کے ساتھ حق کی جو لڑائی ہونی ہے وہ آخری جنگ ہوگی جس کے بعد شیطانی طاقتوں کو ہمیشہ کے لئے اسلام کی روحانی طاقت مغلوب کر لے گی۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں مہدی معہود علیہ السلام نے معبوث ہونا ہے اور آخری زمانہ کی جو علامات بتائی گئی ہیں قرآن عظیم میں اور جو علامات بتائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اور جو علامات بتائی ہیں صلحاء امت، نے ان کی ہمیں اس زمانہ میں بڑی کثرت نظر آتی ہے۔ کیونکہ جب ہم ان علامات پر غور کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صلحاء امت کے اقوال میں کیا گیا ہے تو ہمیں تاریخی طور پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ تیرہویں صدی ہجری سے شروع ہوا ہے اور پھر یہ دجل اور یہ ظلمت اور یہ شیطانی ظلمات کا قوت کے ساتھ بڑھتے چلے جانا، یہ زمانہ کے ساتھ ساتھ ظہور پذیر ہوتا چلا گیا اور اس قدر زبردست یلغار تھی (جیسا کہ میں پچھلے چند مہینوں سے اس موضوع پر خطبے دے کر آپ کے ذہنوں کو اس کے لئے تیار کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام پر اس قدر زبردست یلغار تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں) خدا تعالیٰ کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وجود کے

خلاف قرآن جیسی کتاب کے خلاف اتنا زبردست حملہ تھا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ حملہ اتنا زبردست حملہ تھا کہ حملہ آوروں نے جو دیکھا اور سمجھا وہ یہ تھا کہ ان افواج نے ظلمات کے ان لشکروں نے یہ سمجھ لیا کہ حملہ بڑا سخت ہے اور اسلام کا اور صداقت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے (اور عقلاً بھی انہیں اسی نتیجے پر پہنچنا چاہئے تھا) کہ اسلام اب مغلوب ہو جائے گا اور باطل غالب آئے گا۔ اس وقت امت محمدیہ میں بعض صلحاء بھی تھے۔ شاید ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کا مقام اور ان کا کام محدود تھا۔ اپنے چھوٹے سے، محدود اور بڑے مختصر دائرہ میں وہ خدمت اسلام کر رہے تھے لیکن جو یلغار تھی وہ محدود نہیں تھی وہ تو سارے محاذ پر پھیلی ہوئی تھی اور ان صلحاء کی کوشش (اللہ انہیں جزائے خیر دے) اسلام کی شمع کو روشن اور زندہ رکھنے کے لئے تھی۔ اسلام کے سورج کی روشنی کو ساری دنیا پر پھیلانے کے لئے نہیں تھی اور نہ ظلمات کے بادلوں کو چھانٹنے کے لئے تھی۔ اسلام پر حملہ آوروں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمیں بڑی طاقت مل گئی ہے ہم نے اپنی عقل کے غلط استعمال سے اسلام کے خلاف غلط قسم کی دلیلیں مہیا کر دی ہیں۔ اعتراض کر دیئے ہیں۔ سائنس کی ایجادات کو اسلام کے مقابلہ میں قرآن عظیم کے مقابلہ میں لا کر کھڑا کر دیا اور جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا ہر قسم کی تحریف معنوی کی کوشش کی گئی ہے مگر خدا تعالیٰ نے جو سلسلہ ان کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لئے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم کامیاب ہوئے اور اسلام ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو گیا۔

یہ حالت تھی تیرہویں صدی اور چودھویں صدی ہجری کے ابتدائی سالوں کی۔ گویا مہدی معبود علیہ السلام کی بعثت سے معاً قبل کا زمانہ انتہائی فتنوں کا زمانہ تھا۔ انتہائی دجل کا زمانہ تھا۔ انتہائی افترا کا زمانہ تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گندہ دہنی کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کا در در کھنے والے لوگوں کے سر جھکے ہوئے تھے اور فخر سے سراٹھا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا کرتے تھے اور یہ مبالغہ نہیں۔ ۱۹۷۰ء کے میرے مغربی افریقہ کے دورہ کے موقع پر ایک بھرے مجمع میں سیرالیون کے ایک بڑے مسلمان سیاسی لیڈر نے مجھ سے کہا (وہ احمدی نہیں۔ وہ کسی زمانہ میں سیرالیون میں نائب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں) کہ ہم احمدیت کے ممنون ہیں اس لئے کہ ان کے آنے سے پہلے اسلام کا نام لیتے ہوئے ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی

تھیں۔ کیونکہ اسلام پر حملہ بڑا سخت تھا اور مسلمان دینی لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا۔ پھر جماعت احمدیہ کے مبلغ آئے اور انہوں نے ہمیں قرآن عظیم کی صحیح تفسیر سمجھائی۔ اب ہم گردنیں اونچی کر کے اسلام کا نام لیتے ہیں۔ بہر حال یہ تو اس زمانہ کے بعد کے زمانہ کی باتیں ہیں۔ اس زمانہ میں تو دشمن یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بس ہم نے اسلام کو مغلوب کر لیا ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہندوستان میں پادریوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان میں دیکھنے کو کوئی مسلمان باقی نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افریقہ ہماری جھولی میں پڑا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ممالک کو ہم فتح کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا جھنڈا خانہ کعبہ پر لہرائیں گے۔ یہ وہ اعلانات تھے جو اس زمانہ میں عیسائی پادریوں کی طرف سے کئے گئے تھے اور اس زمانہ میں کوئی عالم کوئی پڑھا لکھا ان کے مقابلہ میں آواز اٹھانے والا تاریخ انسانی نے کوئی نہ دیکھ پایا۔ پھر اس وقت خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست ایک انسان پیدا ہوا اور اس کا نام مسیح (علیہ السلام) بھی رکھا گیا۔ اور اس کا نام منصور بھی رکھا گیا اور اس کا نام محمد بھی رکھا گیا اور اس کا نام احمد بھی رکھا گیا اور اس کا نام محمود بھی رکھا گیا اور اس کا نام مہدی بھی رکھا گیا۔ اور وہ مسیح اور مہدی خدا تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کی بھلائی کے لئے اور قرآن کریم کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے ساری دنیا کی دولتوں کو اور ان ساری دنیوی طاقتوں کو اور ان سارے دنیوی اثر و رسوخ اور اقتدار کو لالکا را۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تم دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے اور دنیا کی جاہ و شہمت کے برتے اور سیاسی اقتدار کی وجہ سے اور ان ہتھیاروں کی وجہ سے جو تم نے ایجاد کر لئے ہیں یہ سمجھتے ہو کہ تم اسلام کو مغلوب کر لو گے لیکن انہوں نے کہا مہدی کو خدا نے زبردست روحانی ہتھیار دیا ہے اس لئے اسلام کو ایٹم بموں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ توپوں کی ضرورت ہے اور نہ راتلونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں وہ حسن کے جلوے رکھے ہیں اور احسان کی طاقتیں رکھی ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دلوں کو خدا تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیت نہ لیں۔

اس مہدی نے اندرونی فتنوں کو دور کرنے کے لئے یہ بھی کہا کہ تم اپنی حالت دیکھو۔

بہتر فرقے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے ہیں جبکہ دشمن اسلام، اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خدا تعالیٰ نے حکم بنا کر تمہاری طرف اس لئے معبوث کیا ہے کہ تم نے تکفیر کا جو بازار گرم کر رکھا ہے میں تمہیں سمجھا کر اس اندرونی فتنے کو دور کر دوں اور امت محمدیہ مہدی کے جھنڈے تلے ایک جماعت ایک خاندان بن جائے مجھے خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ میں امت محمدیہ کو اتحاد کی لڑی میں پر دوں۔ مگر وہ لوگ جن کی کتابیں آج بھی اس قسم کے کفر کے فتوے ایک دوسرے پر لگانے والی ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان کو پڑھ نہیں سکتا۔ اگر پڑھ لے تو بے چین ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سارے مہدی کے خلاف اکٹھے ہو گئے مہدی نے کہا تھا میں تکفیر کا بازار بند کرنے کے لئے آیا ہوں اور ان سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ تم کافر ہو۔ تم اس لئے کافر ہو کہ تم ہمارے بازار کفر کو مٹانا چاہتے ہو۔ ایک دفعہ میرے غیر از جماعت دوست مجھے ملنے کے لئے آئے۔ مجھے خیال آیا کہ ان کو پتہ تو لگے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے لائبریری سے ایک کتاب منگو کر اسے دکھائی کہ کفر کے صرف یہ دو فتوے پڑھ لو۔ زمیندار آدمی تھا۔ ان کو پڑھتا رہا۔ اچھے لمبے فتوے تھے۔ جب پڑھ چکا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ ”کیہڑی گالی اے جو رہ گئی ہووے۔“

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ آپس میں جو کفر بازی کر رہے ہوں میں اسلام کے اندر اس کفر بازی کو بند کر اوں۔ اور آپ نے لوگوں کو عقلی دلائل دے کر سمجھایا۔ قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پیش کیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مانتے ہو یا نہیں کہ مہدی حکم ہوگا۔ شیعوں کی کتاب میں بھی ہیں اور سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب بھی مہدی آئے گا وہ حکم بن کر آئے گا۔ اس لئے قبل اس کے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ مجھے مانو تم اس بات کو تسلیم کرو کہ جو بھی مہدی آئے گا اور جب بھی آئے گا اور وہ جو بھی ہوگا تمہاری ساری حدیثوں کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ حکم ہے۔ اس نے تمہارے درمیان فیصلہ کرنا ہے تمہاری احادیث میں، تمہاری کتب میں اچھی باتیں بھی ہیں اور صحیح باتیں بھی ہیں سچی باتیں بھی ہیں اور کچھ رطب و یابس بھی مل گیا ہے لیکن اگر دیوبندیوں کی ساری احادیث کو درست قرار دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم

نے پہلے سے جو کفر بازی شروع کر رکھی ہے باقی فرقوں کو کافر قرار دینے کی وہ تو اسی طرح قائم رہے گی اور پھر تو مہدی حکم نہ رہا۔ اس لئے اس نے شیعوں پر بھی فتوے دینے ہیں۔ اس نے بریلویوں کے اوپر بھی اور ان کی روایات پر بھی فتویٰ صادر کرنا ہے۔ اس نے اہل حدیث پر بھی فتویٰ صادر کرنا ہے۔ اس لئے کہ ایسی احادیث اور روایات جو باہم متضاد ہیں ان کا باہمی تضاد اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ ایک بات درست ہوگی اور ایک بات درست نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے دونوں ہی غلط ہوں۔ چنانچہ حضرت مسیح عود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی حکم آئے گا تمہیں عقلاً یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس کا حکم ہی چلے گا۔ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے حکم بنایا ہے اس لئے احادیث کی روایات سے مجھے نہ نا پو بلکہ میرے فیصلوں سے اپنی احادیث کو نا پو اور جانچ پڑتال کرو اور حکم کے یہی معنی ہیں۔ اس وقت میں یہ بات نہیں کر رہا کہ حکم کون ہے بلکہ میں امت محمدیہ کے سارے فرقوں کو اس طرح مخاطب کر رہا ہوں جس طرح پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخاطب کیا ہے اور جس طرح پہلوں نے مخاطب کیا ہے اور جس طرح قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے کہ مہدی حکم ہو کر آئے گا۔

پس اگر وہ مہدی سارے فرقوں کو درست قرار دے دے در آنحالیکہ ان میں تضاد پایا جاتا ہے تو یہ تو ایک مجنون شخص ہی ہو سکتا ہے جو سارے فرقوں کو درست قرار دے دے لیکن اگر مہدی یہ کہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کے منشاء کے خلاف ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقوال و ارشادات کے خلاف پڑتی ہے اس لئے قابل قبول نہیں ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا آپ نے فرمایا قرآن کریم کی جو تفسیر میں کروں وہ تمہیں ماننی پڑے گی اور جن احادیث کے متعلق میں یہ کہوں کہ وضعی ہیں اور قبول کے قابل نہیں تو وہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا اور جس کے متعلق میں یہ کہوں کہ قابل قبول ہیں وہ تمہیں قبول کرنی پڑیں گی۔ اس لئے کہ خود تمہارے نزدیک مہدی حکم ہے اور حکم کی یہی تعریف ہے۔ میری صداقت کے کیا دلائل ہیں وہ مجھ سے آکر پوچھو میں تمہیں سمجھا دوں گا لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص مہدی بھی ہو اور وہ کفر بازی کو بند بھی نہ کرے، وہ مہدی بھی ہو اور اندرونی فتنوں کو دور بھی نہ کرے، وہ مہدی بھی ہو اور نعوذ باللہ اتنا مجنون بھی ہو کہ دو فرقوں کی متضاد احادیث کو صحیح قرار دے یہ تو نہیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہدی کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا پیارا نہیں ہے۔ اس لئے تم میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ مہدی معبود کو پانے کا موقع نصیب کرے تو وہ میری طرف سے اسے سلام کہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو اپنی آل میں شامل فرمایا ہے۔ مہدی کو اپنی آل میں شامل کرنے کے لئے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو سلمان فارسیؑ ہے یہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سلمان فارسیؑ اہل بیت میں سے بن جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں وہ جو میرا عکس ہوگا وہ مہدی اہل بیت میں سے کیسے نہیں ہوگا؟ لیکن ظاہر بین نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ چنانچہ اسی تحقیق کے دوران مجھے ایک دلچسپ حوالہ یہ بھی ملا کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے تو علماء وقت ان کا یہ کہہ کر انکار کریں گے کہ ہم تجھے نہیں مانتے اور نہ تجھے پہچانتے ہیں۔ اس لئے نہیں پہچانتے کہ تو آلِ فاطمہ میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ ہوگا تو سچا امام مہدی لیکن اس کا یہ کہہ کر انکار کیا جائے گا کہ چونکہ تو آلِ فاطمہ میں سے نہیں ہے اس لئے ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ تو پہلوں نے خبر دی تھی کہ وہ آلِ فاطمہ میں سے نہیں ہوگا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہوگا ان کا کہنا اپنی جگہ درست اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا جو ہے وہ تو ہے ہی درست اور سب سے بڑی صداقت ہے۔ حضرت ابن عربیؒ بڑے پایہ کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کا کام بڑا اہم ہوگا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں خدائے سیدہ اور مقربین کی ایک جماعت دے گا جو ان کے کام میں ان کی مدد ہوگی اور یہ لوگ مہدی کے وزراء کہلائیں گئے اور یہ سارے کے سارے وزراء غیر عرب ہوں گئے۔ ان میں سے ایک بھی عرب کا باشندہ نہیں ہوگا۔ یہ محی الدین ابن عربی کا قول ہے۔ جب ہم بات کریں عربی بولنے والے ممالک سے تو وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ عربی جاننا قرآن کریم کے سمجھنے کے لئے تو شرط نہیں ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو بڑی اچھی عربی آتی تھی انہوں نے قرآن کریم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بدر کے میدان میں جن کو خدا کے قہری طمانچہ نے قتل کیا تھا وہ عربی دان نہیں تھے کیا؟ تو یہ شرط نہیں ہے (نہ عربی دانی کی شرط ہے اور نہ عربی جاننے کی شرط ہے) لیکن بتانے والے نے یہ بتایا اور کہنے والے نے یہ کہا کہ مہدی کے وزراء

سارے کے سارے وہ ہوں گے جن کا عرب ممالک سے تعلق نہیں ہوگا۔ ایک بھی ان میں سے عرب نہیں ہوگا۔ سارے عجی ہوں گے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچایا۔ ان کو اپنی آل میں شامل کرنے کے لئے مسلمان کے متعلق وہ کہا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلِدُ حَقُّوَابِهِمْ (الجمعة: ۴)** کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ وہ تمہارے بعد آئیں گے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کے نتیجے میں کہ صلحائے امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا مہدی کا اتنا بلند مقام، اتنا بلند مقام ہے جو ان حوالوں میں مجھے نظر آیا تو میں حیران ہو گیا۔ تیرہ سو سال پر پھیلی ہوئی ہماری ساری اسلامی تاریخ میں لاکھوں صلحاء پیدا ہوئے ہزاروں کتب لکھیں۔ کچھ ضائع ہو گئیں فسادات کے زمانے میں۔ مختلف اداروں میں مختلف فسادات رونما ہوئے ہیں۔ مخالفین نے اسلام کی لائبریریاں اور کتب خانے جلا کر رکھ کر دئے اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کیا کیا علم کے خزانے ان کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے امت مسلمہ کو بچا لیا کیونکہ آج کی ہر ضرورت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پورا کر دیا ہے۔ جہاں تک علوم روحانیہ اور اسرار دینیہ کا سوال ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا (لیکن ہمارے دل ان کتب کو پڑھ کر یہ محسوس کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طرح بھی پیار کرتا ہے جتنا ان سے کیا تو ان کے لئے ہمارے دل سے ہماری زبانوں سے دعائیں نکلتیں) اور چونکہ بعض ایسے اعتراضات بھی ہماری تاریخ میں ہیں جو ایک وقت میں ہوئے اور بعد میں دوبارہ نہیں ہوئے تو بہت سے ایسے اعتراضات بھی اسلام پر ہوئے ہوں گے کہ جن کا جواب صلحائے امت نے ان کتب میں دیا ہوگا جو جلادی گئیں اور ضائع ہو گئیں۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ کتب ضائع نہ ہوتیں تو ان کی علمی تحقیق کا علم بھی ہمیں حاصل ہوتا۔ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں اور جلووں سے لطف اندوز ہوتے بہر حال میں نے اس تحقیق میں یہ دیکھا کہ صلحائے امت کے دلوں میں مہدی معبود کا اس قدر بلند مقام ہے اور اتنا بڑا رتبہ ہے کہ میں حیران ہو گیا۔

چنانچہ ہمارے ایک بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ مہدی پہلے تمام انبیاء سے بلند تر مقام رکھتے

ہیں۔ اس لئے اپنے باطن میں یعنی روحانی قوتوں اور ان کی نشوونما میں بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں اور چونکہ ظل کامل ہیں۔ اس لئے پہلے تمام انبیاء کے مقابلہ میں جو ظل کامل نہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل کامل کا مقام بلند ہے۔ پھر یہ بھی عجیب بات کہ بعض نے مہدی کے زمانہ کو پایا تو ہے مگر اسے پہچانا نہیں مثلاً ہمارے غیر مبائعین دوست ہیں۔ انہوں نے مہدی کو پایا مگر اس کی عظمت کو نہیں پہچانا اور وہ جنہوں نے پایا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے مہدی کو پہچان لیا، چار سو سال پانچ سو سال آٹھ سو سال پہلے ان کے دل میں اتنی عظمت اور احترام ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے ایک حوالہ ہے کہ مہدی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ لے اور اسی طرح دوسرے انبیاء کا نام لے گا اور کہے گا کہ سب کی صفات میں سے ایک حصہ ظل کامل ہونے کے لحاظ سے مجھے ملا ہے۔ تو مہدی کا یہ مقام امت محمدیہ کے صلحاء کے دلوں میں ہے۔ اس قسم کے بہت سے حوالے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہمارے علماء کو تو پہلے علم ہے لیکن اکٹھے ہو کر جو اثر دل پر پڑتا ہے اس کی خاطر اکٹھے، ترجمہ کے ساتھ میں یہ حوالے شائع کرادوں گا۔ مہدی کے تو معنی اور مفہوم اور اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست ہدایت پانے والا اور علم حاصل کرنے والا۔ تو وہ لوگ جو تقلید کے عادی ہو چکے ہوں گے وہ اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ اجتہاد سے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ فراست مختلف ہوگی پھر بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء انکار کریں گے مہدی کا کیونکہ اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کی چودھراہٹ جاتی رہے گی۔ اس لئے وہ کہیں گے کہ ایک مولانا حضرت بنے ہوئے ہیں یہ نہیں رہیں گے اس لئے وہ اس انکار کر دیں گے۔ یہ بھی لکھ دیا ہے وہ کہیں گئے کہ اس طرح دین کو ہم نے جو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں کہہ رہا اور نہ کسی کے متعلق کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلوں نے مہدی کو ہر پہلو سے شناخت کیا۔ اتنی عظمت ہے ان کے دلوں میں مہدی علیہ السلام کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اسے مسیح بھی کہا اور محمد اور احمد کا لقب بھی دیا۔ مہدی بھی کہا۔ محمود بھی کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل بھی کہا اور آپ کا بروز بھی کہا اور مہدی علیہ السلام کے کام بتائے۔ آپ کا زمانہ بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ عیسائیت کا دجل اس زمانہ میں پھیلا ہوگا اور وہ اس کو مٹا دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میں اپنی اس مہم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب کہاں

ہیں وہ پادری جو میرے مقابلہ پر آ کر اس اعتراض کو دہرائیں جو پہلے دہرایا کرتے تھے۔ آپ نے لکھا کہ پادری کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار نشانات دکھائے اور تم آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے آ کر نشان دیکھو اور آپ نے دکھائے بھی۔ عبد اللہ آتھم کا نشان، ڈوئی کا نشان، قرآن کریم کی عظمت کے اظہار کا نشان۔ آپ نے پادریوں کو لاکرا۔ آپ نے کہا تم بائبل کی قریباً ستر کتب پر فخر کر رہے ہو اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ قرآن عظیم اتنی عظمت رکھنے والا ہے سورۃ فاتحہ میں جو روحانی اسرار پائے جاتے ہیں وہ تم اپنی ساری کتب میں سے نکال کر نہیں دکھا سکتے۔

میں جب ۱۹۶۷ء میں یورپ کے دورے پر گیا تو اس وقت میں نے یہ حوالہ نقل کر کے اس کا انگریزی میں ترجمہ کرایا تھا اور وہ میں نے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے عیسائی وفد کو اکٹھی ملاقات کا وقت دیا اور جب ملاقات ختم ہو گئی تو میں نے ان سے کہا میں نے پہلے اس لئے بات نہیں کی کہ تمہیں جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب میں تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں۔ یہ چیلنج ہے مہدی معبود کا عیسائیت کو کہ تم اپنی ساری کتب میں سے سورۃ فاتحہ کے برابر اسرار روحانی نکال کر دکھا دو تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارے پاس کچھ ہے لیکن اگر نہ دکھا سکو تو پھر ہم کہیں گے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نے انہیں کہا تھا تم یہ عذر پیش کر کے بچ نہیں سکتے کہ جس عظیم ہستی نے یہ چیلنج دیا تھا وہ تو اس وقت دنیا میں ہے نہیں تو کس کو جا کر کہیں کہ ہم مقابلے کے لئے تیار ہیں۔ یہ تمہارا عذر اس لئے مقبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں خلافت حقہ راشدہ کا سلسلہ جاری کیا ہے اور میں ایک خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم چیلنج قبول کرو۔ میں تمہارے مقابلے پر آؤں گا۔ اسی طرح دوسرے چیلنج بھی عیسائیوں کو ہیں۔ پھر دیگر مذاہب کو اور پھر انسانی عقل کو چیلنج دیا اور انسان کی کوتاہ عقل اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئی۔ میں نے خطبہ میں بتایا تھا کہ یہ چیلنج ہیں۔ سارے دانشوروں کو یہ چیلنج ہیں اور میں اس چیلنج کو جو دیا گیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے یہاں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قرآن کریم کی کسی تعلیم کو تم اگر خلاف عقل سمجھتے ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ ہمارے سامنے پیش کرو۔ ہم ہر صاحب عقل انسان کو تسلی دلائیں گے کہ تمہارا یہ اعتراض کہ اسلام کی تعلیم خلاف عقل ہے، غلط ہے بلکہ یہ تو عین عقل

کے مطابق ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ کہاں ہیں وہ نشان جن کا دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا نچوڑ تھے۔ ان کی باتیں نہ کرو۔ آپ کے علاوہ بھی آج ہزاروں آپ کے غلام موجود ہیں اس قسم کے نشان تمہیں دکھا سکتے ہیں جو تم مسیح کی طرف منسوب کرتے ہو۔ کیا یہ واقعہ اور حقیقت نہیں ہے کہ تم عیسائی پادریوں نے جو ڈاکٹر تھے اور اپنے فن میں ماہر تھے۔ مغربی افریقہ میں بعض مریضوں کو جب لا علاج قرار دے دیا۔ جو تمہارے منہ میں بجتی نہیں کیونکہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم میں رائی کے برابر ایمان ہوگا تو تم معجزانہ طور پر بیماروں کو چنگا کرو گے لیکن اس رائی کے برابر ایمان کا بھی انکار کرتے ہوئے تم نے اعلان کیا کہ بعض مریض لا علاج ہیں۔ تب مسیح محمدی کے غلاموں کے پاس وہ مریض آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم کرنے کے لئے ان کو اچھا کر دیا۔ فالحمد لله علی ذلک۔

دنیا انشاء اللہ احمدیت کے ذریعہ ان نشانوں کو دیکھتی چلی جائے گی کیونکہ یہ خدا کی شان کو نمایاں کرنے کے لئے ہیں۔ ان نشانوں کے ذریعہ دنیا کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انسانوں سے ہمدردی کے جذبات کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دنیا کے دل جیتنے کے لئے اور آپ کے جھنڈے تلے نوع انسانی کو جمع کرنے کے لئے اپنی زندہ تجلیات دکھاتا ہے۔ یہ کہنا کہ وحی کے دروازے بند ہیں، یہ کہنا کہ کوئی مسلمان اب سچی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ اعلان کرنا کہ خدا تو زندہ ہے لیکن وہ آج اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیتا، خدا کبھی سنتا تھا پر آج وہ انسان کی بات نہیں سنتا اور کبھی وہ بولتا تھا لیکن آج اس نے بولنا بند کر دیا ہے، بالکل غلط ہے۔ تم یہ اعلان کر کے اسلام کی عظمت کو نوع انسانی کے دل میں قائم نہیں کر سکتے۔

۱۹۶۷ء میں ایک جگہ مجھ سے ایک عیسائی عورت نے جو سوشل ورکر تھی پوچھا تھا کہ ایک مسلمان اور عیسائی میں کیا فرق ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ایک سچے عیسائی اور ایک سچے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میرا یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا کہ ایک سچے مسلمان کا زندہ تعلق اپنے خدا سے ہوتا ہے لیکن عیسائی دنیا میں ہمیں ایک آدمی بھی نہیں دکھایا جاسکتا جس کا تعلق خدا سے ہو۔ پھر میں نے کہا تم ایک عورت ہو۔ میں تمہیں ایک عورت کی

مثال دیتا ہوں۔ ہماری ایک احمدی بہن ایک رات عاجزانہ طور پر گڑگڑا کر دعائیں کر رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے تین دفعہ اس سے خدا ہمکلام ہوا اور تیسری دفعہ جو چاہتی تھی اس کے مطابق اس کو تسلی دی گئی۔ یہ ۱۹۶۵ء کی جنگ کا واقعہ ہے اس احمدی عورت کا ایک لڑکا میجر تھا اور محاذ جنگ پر لڑ رہا تھا اور اس محاذ پر شدید جنگ لڑی جا رہی تھی خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ پاکستان کی حفاظت کا سامان کیا گیا۔ اس عورت کی مانتا نے کہا اے ہمارے رب! بڑا فضل کیا تو نے لیکن میرا دل تو اپنے بیٹے کے لئے تڑپ رہا ہے۔ اس کے لئے مجھے تسلی چاہیے۔ تب خدا تعالیٰ نے اسی رات اسے دوسری مرتبہ بتایا کہ اس محاذ پر جہاں اس کا بیٹا لڑ رہا ہے وہاں خدا تعالیٰ نے حفاظت کے لئے فرشتے بھیج دیئے ہیں مانتا کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا اے خدا! ہمیں بحیثیت قوم تیرا ممنون ہونا چاہیے اور تیری حمد کے ترانے گانے چاہئیں لیکن میرا دل اب بھی تسلی نہیں پکڑتا میرا دل تو اپنے بچے کے لئے بے چین ہے۔ تب اسی ایک رات میں خدا نے تیسری بار اسے بتایا کہ ہم تیرے بچے کی حفاظت کریں گے۔ میں نے اس عیسائی عورت سے کہا تین دفعہ بات کرنا بڑی عجیب بات ہے لیکن میرے نزدیک اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب اس نے خدا تعالیٰ کی یہ آواز سنی تو اس کا دل تسلی پا گیا۔ اس نے یہ بھی نہ سمجھا کہ شاید یہ خدا کی آواز نہ ہو۔ میرے دل کا واہمہ ہو یا شیطانی وسوسہ۔ کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک عظمت اور شوکت ہوتی ہے۔ میں نے اس انگریز عورت سے کہا تم عیسائی دنیا سے مجھے ایک مثال بتادو۔ میں تمہیں جماعت احمدیہ میں سے ہزاروں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔

پس جس وقت عیسائیت اپنی ساری طاقتوں کو جمع کر کے اور الحاد کی ساری افواج کو اکٹھا کر کے اور اپنا حلیف بنا کر اسلام کو مٹانے کے لئے حملہ آور ہوئی تھی اس وقت اسلام کی حفاظت کے لئے اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے کون آگے بڑھا؟ اس وقت خدا نے مہدی معبود اور مسیح موعود کو کھڑا کیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس کی آواز اپنے گھر میں بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کی آواز اپنے رشتہ داروں کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی مگر خدا نے آپ کو فرمایا کہ میں نے جس غرض کے لئے تجھے بھیجا ہے اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تو کامیاب ہو گا۔ جس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا اس وقت تو قادیان کے پانچ میل کے فاصلے پر بہت سے گاؤں

ایسے تھے جن کے باشندے آپ کا نام تک نہ جانتے تھے اور پھر خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ہم نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ اتنے بھرے ہوئے ہندوستان میں سے جو ہزاروں۔ لاکھوں میل پر پھیلا ہوا تھا۔ شہر شہر میں یہ مخالفانہ آواز گونجی کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تمہارا یہ نعرہ مہدی معبود کی صداقت کی دلیل تھا۔ اس کا اور اس کے گاؤں کا تو نام بھی لوگ نہیں جانتے تھے۔ خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے نام کو دنیا میں عزت کے ساتھ پھیلاؤں گا۔ کچھ اپنوں نے پھیلا یا اور کچھ تم (مخالفوں) نے جا کر پھیلا دیا۔ مخالفتوں کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے کے مواقع میسر آئے اور اس طرح پر جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اتنا جذب کیا کہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک وقت میں اڑھائی سو روپے کی لاگت پر ایک کنواں لگانے کے لئے دو دو آنے چندہ کی اپیل کی گئی اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کروڑ اڑھائی لاکھ روپے کے عام چندوں کے علاوہ صرف نصرت جہاں ریزرو فنڈ میں کیا ون لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں اور اس طرح ہماری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ۵۱ سال کے مقابلے میں ۵۱ لاکھ روپے جمع ہو جائیں۔ گویا ہر سال کا ایک لاکھ روپیہ۔

پس مہدی معبود علیہ السلام کا جو کام ہے اور مہدی معبود کو جو بشارتیں ملی ہیں وہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہیں اور جس زمانہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور جس کے بعد غلبہ اسلام کی صدی میں سولہ سال رہ گئے ہیں۔ ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کو پہلی بیعت ہوئی تھی اور آج سے سولہ سال بعد ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء میں سو سال گزر جائیں گئے۔ یہ جو سولہ سال کا عرصہ ہے اس میں جیسا کہ میں نے بتایا دو اغراض کے پیش نظر۔ ایک خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے گانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں پوری ایک صدی تک نوازتا چلا گیا، ہم نے صد سالہ جشن منانا ہے۔ دوسرے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اپنے اس عزم کا اعلان کرنا ہے کہ اے ہمارے رب! ہم اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تھوڑے ہوتے ہوئے پورے ایک سو سال تک تیری راہ میں قربانیاں دیں تاکہ تیرا دین غالب آئے۔ اس کا ایک مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ اب دوسرے مرحلہ کے لئے ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق بخش۔

اسلام کی یہ جو آخری جنگ ہے اور ساری دنیا پر اسلام نے قیامت تک کے لئے غالب آنا

ہے، اسے تاریخ کی ایک کتاب سمجھیں تو اس کا ایک باب اس صدی کے اختتام پر ختم ہوگا اور پھر ایک دوسرا باب کھلے گا اور ہم نے اپنے رب کے حضور اس موقع پر اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ پہلی صدی میں ہم نے بنیادیں بنائیں۔ کچھ عمارتیں بھی کھڑی کیں ابھی اسلام کی عمارت اتنی بلند نہیں ہوئی اور نہ اس میں اتنی وسعت پیدا ہوئی ہے کہ اس میں ساری دنیا سما سکے۔

پس حمد اور عزم یہ دو لفظ ہیں جن کا انتہائی مظاہرہ انشاء اللہ تعالیٰ ۱۹۸۹ء میں ہماری طرف سے کیا جائے گا وباللہ التوفیق اور اس حمد اور اس عزم کے عظیم مظاہرے کے لئے قرآن کریم کی عین ہدایت کے مطابق ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اشاعت اسلام کے پروگرام بنانے ہیں۔ خدا کی راہ میں قربانیاں دینی ہیں۔ نئی نئی سکیمیں سوچنی ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں اپنا وہ منصوبہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو جشن منایا جائے گا یہ محض جلسہ سالانہ کے موقع پر نہیں منایا جائے گا بلکہ وہ سال جشن کا سال ہوگا۔ اس سال ہم ۲۳ مارچ سے جشن منانا شروع کریں گے اور ہمارے جذبات کا اظہار اور خدا کے حضور ہمارے عزم کا اظہار اور فضاؤں کو خدا کی حمد سے بھر دینے کا جو عمل ہے اس کی ابتداء ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء کو ہوگی۔ گویا وہاں سے جشن شروع ہوگا اور پھر ۱۹۸۹ء کے جلسہ سالانہ پر یہ اپنے عروج پر پہنچے گا اور اس کی ابتداء مکانات سے ہوگی۔ اس کی تفصیل میں مجلس مشاورت کے موقع جماعت کو بتا دوں گا۔ ہم اس کی ابتداء کریں گے گھروں سے، پھر محلوں سے، پھر قصبوں اور شہروں سے اور پھر ملکوں سے اور پھر مختلف براعظموں کے لحاظ سے اور پھر ہم ساری دنیا کے احمدی اپنے نمائندوں کے ذریعہ یہاں جمع ہو کر خدائے قادر و توانا کی حمد کے گیت گائیں گے۔ جب میں ساری دنیا کے نمائندوں کی بات کرتا ہوں تو اس سے اپنے پر بھی ذمہ داری ڈالتا ہوں۔ اس سال غیر ممالک سے چودہ وفود آئے ہیں اور ہمارے دل بڑے خوش ہیں۔ جس سے باتیں کرتا ہوں اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا پاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اسی دنیا میں جنت مل گئی لیکن سولہ سال کے اندر میری خواہش ہے اور اس کے لئے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ باقی جہاں تک نتیجہ کا تعلق ہے ہوگا۔ وہی جو خدا چاہے گا لیکن ہم نے اپنی عاجزانہ دعاؤں اور تدبیر سے یہ کوشش کرنی ہے کہ دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہ رہے جہاں کے وفود ۱۹۸۹ء کے جلسہ سالانہ پر نہ آئے ہوں۔ اس کے لئے ہم نے بڑی تیاری کرنی ہے۔ اس سلسلہ

میں میرے ذہن میں اس کا جو ڈھانچہ بنا ہے اس کی بہت سی تفصیل زیر غور ہیں اور وہ تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے، انشاء اللہ مجلس مشاورت پر پیش ہو جائیں گی۔

اوّل:- اشاعت اسلام اور اصلاح و ارشاد اور تعلیم و تربیت کے کام کو تیز سے تیز تر کرنے کے لئے ہماری کوشش اس منصوبہ کی شق نمبر ۱ ہوگی۔ چنانچہ مغربی افریقہ میں اشاعت اسلام اور اصلاح و ارشاد اور تعلیم و تربیت کے کام کو تیز سے تیز تر کرنے کے لئے تین مراکز کا انتخاب کیا جائے گا اور وہ تین مراکز افریقہ کے سارے ممالک پر مشتمل ہوں گے۔ یعنی مغربی افریقہ کے سارے ممالک کا نقشہ سامنے رکھ کر ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور ہر حصہ کا ایک مرکز ہوگا اور اس مرکز سے اس علاقے میں اسلام کی تبلیغ کی جائے گی۔ اس وقت تک مغربی افریقہ میں ہمارے باقاعدہ مشن تو صرف چھ ممالک میں ہیں۔ حالانکہ مغربی افریقہ کے ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس طرح مشرقی افریقہ میں بھی تین مراکز بنا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں جب بھی مرکز کا لفظ بولتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے جہاں ایک جامع مسجد اور مکمل مشن ہاؤس ہو۔ کیونکہ اس کے بغیر تو اشاعت اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ گو اس وقت مغربی افریقہ میں ہمارے مراکز قائم ہیں لیکن میں ایسے مراکز کی بات کر رہا ہوں جو کسی ایک ملک کے لئے مرکز نہیں بنیں گے بلکہ بہت سے ممالک کے لئے ایک ایک مرکز ہوگا۔ ہو سکتا ہے موجودہ مرکز کو اس غرض کے لئے منتخب کریں یا کسی نئی جگہ کو منتخب کر کے وہاں مرکز بنائیں۔

یورپ میں اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ اٹلی میں ہمارا کوئی مشن نہیں ہے۔ فرانس میں ہمارا کوئی مشن نہیں ہے۔ حالانکہ ان دونوں ملکوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اٹلی میں اس لئے کہ یہ کیتھولسزم (Catholicism) کا مرکز ہے۔ یعنی عیسائیت ایک وقت میں اپنے عروج پر تھی تو اس وقت یہی ان کا ایک فرقہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرے فرقے بھی بن گئے لیکن اس وقت بھی عیسائیت کے بہت بڑے حصے کا مرکز اٹلی ہے۔ ان کا پوپ یعنی قائد اعلیٰ اٹلی میں رہتا ہے لیکن اٹلی میں ہمارا کوئی تبلیغی مرکز نہیں۔ پھر فرانس میں بھی ہمارا کوئی مرکز نہیں۔ حالانکہ فرانسیسی زبان بھی بہت مشہور زبان ہے۔ یہ اس وقت بھی جبکہ برٹش ایمپائر اپنے عروج پر تھی انگریزی کے بعد دوسرے نمبر پر آتی تھی۔ یہ بھی دنیا کے اکثر حصوں میں بولی جاتی تھی۔ مثلاً مراکش میں بولی جاتی

تھی۔ اب اس دفعہ سفر کے دوران میں نے ایک ملک میں مراکش کے سفیر کو بتایا کہ ہم فرانسیسی میں قرآن کریم کا ترجمہ عنقریب شائع کرنے والے ہیں۔ تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ جب بھی یہ قرآن کریم شائع ہو، اسے ایک نسخہ بھجو دیا جائے۔ چنانچہ اس کا نام نوٹ کیا ہوا ہے اور دفتر میں رکھا ہوا ہے۔ پس زبان کے لحاظ سے کن کن ممالک میں فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے، ایک وقت میں انگریزی کے بعد فرانسیسی دوسرے درجہ پر آتی تھی۔ ممکن ہے اب اس کی اہمیت کچھ کم ہوگئی ہو لیکن اب بھی مغربی افریقہ کے کئی ممالک میں فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے۔

سپین میں ہمارا مبلغ تو ہے لیکن کراہیہ کے مکان میں رہتا ہے۔ وہاں بھی مرکزی مشن ہاؤس اور مسجد کی ضرورت ہے اور اسپین کی اہمیت یہ ہے کہ شمالی امریکہ اور کینیڈا میں تو انگریزی بولنے والے لوگ غالب آئے لیکن جنوبی امریکہ کے اکثر ملکوں میں سپینش زبان بولنے والے غالب آئے۔ تو ان ملکوں میں اگر ہم نے اشاعت اسلام کے کام کو مضبوطی سے چلانا ہے تو ہمیں ان کا جو مرکز ہے یا کبھی رہا ہے وہاں ہمیں اپنے مرکز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔

علاوہ ازیں تین ایسے ممالک ہیں جن کی یہ اہمیت تو نہیں ہے یعنی اٹلی اور فرانس اور اسپین کی طرح تو نہیں ہے لیکن ان کی ایک اور وجہ سے بڑی اہمیت ہے۔ وہ ہیں ناروے، سویڈن اور ڈنمارک۔ اس علاقے میں عیسائیت بہت دیر بعد پہنچی ہے۔ تاہم جب اس علاقے میں عیسائیت پہنچی تو لوگوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور بڑی جلدی قبول کر لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے صحیح طور پر اور صحیح طریقے پر اور وسیع پیمانے پر اسلام کو پیش کیا گیا تو یہاں کے عوام اسلام کو بھی اسی طرح جلدی قبول کر لیں گے جس طرح انہوں نے ایک وقت میں عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ ڈنمارک میں ہماری ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جسے دیکھنے کے لئے سیاح آتے رہتے ہیں اور مشن ہاؤس بھی ہے جس میں مبلغ کی رہائش اور دفتر ہے۔ ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن ناروے اور سویڈن میں نہ ہماری کوئی مسجد ہے اور نہ مشن ہاؤس ہے۔ کراہیہ کے مکانوں میں یا بعض دوست اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ میں نے ان کو ہدایت کی تھی کہ اپنی زمین خریدو اور مکان بناؤ۔ انشاء اللہ جلد ہی اس کا انتظام ہو جائے گا۔ غرض ان دو ملکوں میں بھی مشن ہاؤس کھلنے چاہئیں۔

یہ ہے یورپ۔ اور یورپ کا ایک حصہ ہے انگلستان جو ساتھ ہی لگتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مضبوط جماعت قائم ہے لیکن وہاں کام کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہو گیا ہے اور تبلیغ کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے۔ اس لئے انگلستان میں جماعت احمدیہ کے کام کو مضبوط کرنے کے لئے ہمیں وہاں تین سے پانچ تک نئے مبلغ بھجوانے ہوں گے اور کئی جگہ نئے مرکز بھی کھولنے پڑیں گے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جس میں انگریزی غالب ہے اور دوسرے حصہ میں سپینش اور پرتگالی زبان غالب ہے۔ جہاں انگریزی غالب ہے وہ کینیڈا اور شمالی امریکہ ہے۔ اسے امریکن لوگ دی سٹیٹس (The States) کہتے ہیں۔ جن کا خیال ہے کہ دی سٹیٹس صرف امریکہ کا علاقہ ہے۔ بہر حال امریکہ میں اشاعت اسلام کے کام کو تیز کرنے کے لئے ایک تو کینیڈا میں مرکز کھولنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں نہ تو کوئی مرکزی مسجد ہے اور نہ مشن ہاؤس ہے اور امریکہ میں بھی تین سے پانچ نئے مبلغ اور ان کے لئے نئے مشن ہاؤسز کھولنے پڑیں گے۔ جنوبی امریکہ میں بھی تین مراکز اور مرکزی مساجد کا انتظام کرنا ہے۔ ویسے وہاں مساجد تو ہیں لیکن اشاعت اسلام کا کام نہیں ہو رہا۔

پس اشاعت اسلام کے لئے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کچھ علاقوں کی طرف ممکن ہے زیادہ توجہ دینی پڑے۔ اس وقت جو میرے ذہن میں تھا وہ بتا دیا ہے۔ یہ وہ کوشش ہے جو اشاعت اسلام کی مہم کو تیز کرنے کے لئے کی جانے والی ہے اور جو میں نے نام لئے ہیں مساجد اور مشن ہاؤس کے، اس کے لئے بھی شاید ستر اسی لاکھ یا ایک کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ بہر حال ضرورت حقہ کے لئے فرشتے آسمانوں سے دولتیں لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اس لئے مجھے اس ضمن میں بھی خدا تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ ہے۔

دوم: قرآن کریم کا ترجمہ نوع انسانی کے ہاتھ میں دینا اشد ضروری ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اس وقت تک چھ زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ بعض زبانوں میں تراجم تو ہو چکے ہیں لیکن ان کی اشاعت میں کچھ دقت تھی۔ ان میں ایک فرانسیسی زبان میں ترجمہ قرآن کریم ہے۔ اس کی نظر ثانی بھی ہو چکی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہاں پریس جلدی لگ جائے گا تو اس کی طباعت سستی بھی ہوگی اور جلدی بھی ہو جائے گی۔ لاہور میں جو انگریزی ترجمہ قرآن مجید

چھپوایا گیا تھا اس پر کم و بیش تین سال لگ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہاں چھ ماہ میں چھپ جائے گا۔ اڑھائی سال تک انتظار کر لو۔ تب بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو لاہور کی کوشش کا نکلا۔ ہمارے ملک میں غیر ملکی زرمبادلہ کی دقت کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی روک پیدا ہوگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی سامان پیدا کر دے گا۔ تاہم اگر ضرورت پڑی تو باہر سے چھپوالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ روسی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے لیکن وہ اب تک اس لئے شائع نہیں کیا جاسکا کہ کوئی ترجمہ جس پر جماعت احمدیہ کا لیبل ہوا ہو ایسا نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری کسی غفلت کی وجہ سے وہ غلطیاں رہ جائیں جو نہیں رہنی چاہئیں۔ اس لئے کوئی اچھا قابل اعتبار آدمی ملے جو ترجمہ پر نظر ثانی کرے تب وہ چھپ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی احمدی ایسا دے دے جو روسی زبان جانتا ہو لیکن پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ کوشش کے بغیر ہمیں کوئی آدمی مل جائے گا جو روسی ترجمہ قرآن کریم پر نظر ثانی کر سکے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ کوئی آدمی ملے جو روسی ترجمہ کو دیکھ کر اس کی صحت کی ضمانت دے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ روسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کریں۔ پھر چینی زبان ہے۔ اس میں قرآن کریم کا ترجمہ ضروری ہے اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے چین پر رحم کیا کہ اخلاق کی طرف ان کو متوجہ کیا اور روسی اشتراکی اخلاق سے جتنا پیچھے ہے اتنا ہی چینی سوشلزم نے اخلاقیات پر زور دیا۔ ایک اور صحیح قدم آگے بڑھائیں تو وہ روحانیت کے میدان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ بہر حال ہم تو نوع انسانی کی خدمت کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور کسی کے خلاف ہمیں کوئی عناد اور دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو ہر ایک کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہیں۔ اس لئے ہم چینی زبان میں جلد ترجمہ کرانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اٹالین، سپینش، افریقہ میں ہاؤساز زبان میں ہمارا ترجمہ قرآن کریم مختصر نوٹوں کے ساتھ شائع ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دو ایسی زبانیں جو مغربی افریقہ کے بڑے علاقوں میں بولی جانے والی ہوں ان میں بھی ترجمہ ہونا چاہئے۔ مشرقی افریقہ میں ہمیں یہ سہولت میسر آگئی کہ سواحیلی زبان مختلف علاقوں کی سائجھی زبان تھی۔ قبائلی ڈائلاگ مختلف تھے لیکن سواحیلی مشترکہ زبان تھی لیکن مغربی افریقہ کا یہ حال نہیں ہے۔ ہاؤساز زبان نائیجیریا کے شمال میں گو ایک بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے لیکن ایسی زبان نہیں ہے جو مغربی افریقہ کے دوسرے

علاقوں میں بھی بولی جاتی ہو۔ بہر حال باؤ سا سمیت افریقہ کی تین زبانوں میں تراجم ہونے چاہئیں۔ اسی طرح یوگوسلاوی زبان میں تفسیری نوٹوں کے ساتھ ترجمہ کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے آج کل کے حالات کے لحاظ سے یہ بہت ضروری ہو گیا کہ ہم قرآن کریم کی عربی تفسیر شائع کریں۔ ہم پر اس سلسلہ میں اعتراضات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر گھبرانے کی یا غصہ میں آنے کی ضرورت نہیں لیکن میں عینی شاہد ہوں کہ وہاں ہمارے عربی لٹریچر کی بڑی مانگ ہے۔ میں جب پڑھنے کے لئے انگلستان گیا تھا تو اس وقت میں کچھ دیر کے لئے مصر میں بھی رکا تھا۔ مصریوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ریویو میں کبھی کبھی حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر چھپتی رہتی ہے جب ہماری نظر سے گزرتی ہے تو ہم اس کو پڑھے بغیر رہ نہیں رہ سکتے بلکہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے پڑھ کر احمدیت میں داخل نہ ہوں۔ تو ان کو ترجمہ کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود عربی دان ہیں۔ (تاہم ترجمہ کی اس لحاظ سے ضرورت تو ہے کہ عربی دانوں نے بھی ترجمہ کیا ہے مختصر تفسیر کے رنگ میں) ان کو ضرورت ہے قرآن کریم کے ان رموز اور اسرار روحانیہ کے جاننے کی جن کی اس دنیا کے انسان کو ضرورت تھی اور وہ مسیح موعود اور مہدی معبود کو سکھائے گئے تھے اور وہ ان سے محروم ہیں۔ ہم ان کے خادم ہیں۔ اب ظاہر ہے خادم ہونے کا نعرہ لگانا اور خدمت سے انکار کرنا درست نہیں پس ان کی خدمت کا جذبہ رکھنا ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی وہ تفسیر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مہدی موعود کو سکھایا تھا وہ ان تک پہنچائیں اور یہ ان پر انشاء اللہ اثر کریں گی اور ان کے تعصبات اور غلط فہمیاں جو عدم علم اور غفلت کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں وہ انشاء اللہ دور ہو جائیں گی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بشارت دی ہے کہ اہل مکہ فوج در فوج اللہ کی اس جماعت میں شامل ہوں گے۔ آج نہیں تو کل لوگوں نے احمدیت کی طرف ضرور آنا ہے۔

اسی طرح ہمیں فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شائع کرنی چاہئے اور وہ اس لئے کہ جس طرح ایک بہت بڑے علاقے میں مادری زبان کے طور پر عربی بولی جاتی ہے اسی طرح ایک بہت بڑے علاقے میں فارسی بھی مادری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے۔ دوسرے اس لئے بھی کہ ایران میں اکثریت شیعہوں کی ہے اور چونکہ دوسروں کی نسبت شیعہوں کا امام مہدی سے

زیادہ تعلق ہے اور اسی لئے ان کی کتب میں امام مہدی کا نقشہ دوسرے فرقوں کی نسبت زیادہ صحیح کھینچا گیا ہے۔ ایک دو جگہ ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اگر ہم دو تین الجھی ہوئی باتیں ان کو سمجھا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ اصحاب ہم سے بہت قریب ہیں۔ باقی جہاں تک آنے والے کا حکم ہونے کا تعلق ہے یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حکم ہوگا۔ بہر حال وہ نسبتاً قریب بھی ہیں اور ان کے دلوں میں مہدی کی عظمت بھی ہے۔ اگر ہم ان پر یہ ثابت کر دیں کہ تمہاری اپنی کتب میں مہدی کی صداقت کے جو نشانات بتائے گئے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں اس لئے مہدی جو آنا تھا وہ تو آ گیا۔ اب اس کو تلاش کرنا اور اس کو قبول کرنا اور اس کی برکتوں سے حصہ پانا یہ تمہارا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلد صداقت کو قبول کر لیں گے۔

پس عربی میں قرآن کریم کی تفسیر اور فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر، چینی زبان میں، روسی زبان میں، فرانسیسی زبان میں، اٹالین زبان میں، یوگوسلاوین زبان میں، سپینیش زبان میں، مغربی افریقہ کی تین زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کروانا، ان پر نظر ثانی کرنا اور ان کو اشاعت کے لئے تیار کرنا، ان کی طباعت کرنا، اور طباعت پر خرچ کرنا اس پر ہی پچاس ساٹھ لاکھ روپے کے خرچ کا اندازہ ہے۔ تاہم اس پر جتنا بھی خرچ آئے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے۔

سوم:- اس منصوبہ کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اسلام پانچ دس ممالک کے لئے تو نہیں آیا۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ بیس قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ اسلام تو رب العالمین کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر نوح انسانی کو مخاطب کرتا ہے کہ میں تمہاری بھلائی کے لئے آیا ہوں اور دنیا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کا قیام اُنْخِرَجْتَ لِلنَّاسِ ہے۔ ”النَّاس“ یعنی انسانوں کی مردوزن کی بھلائی کے لئے ہے۔ پس ہمارا خدا جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ صرف اسرائیل کا خدا نہیں یا وہ صرف ہندوؤں کا خدا نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ اس نے سب جہانوں کو پیدا کیا اور وہی خدا ان کی ربوبیت کرتا ہے۔ بڑی عظمت والا ہے ہمارا خدا۔ پھر وہ عالمین جن کے کناروں تک ہمارا بھی تخیل بھی نہیں پہنچا اس کو بھی اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ میں انسان کی ایک نسل پیدا کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس کی خدمت پر لگانا چاہتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بڑی طاقتیں عطا فرمائیں

فَسُوْلُكَ فَعَدَلْتُكَ (الانفطار: ۸) اور ان قوتوں کو درجہ بدرجہ مختلف ارتقائی مدارج میں سے گزارنے کے لئے ہر قسم کے سامان عطا فرمائے۔ پھر خدا نے انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا اے انسان! تیری نوع کو میں نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ تیری نوع میں سے میں اپنا ایک پیارا وجود پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے معاً پہلے تک نوع انسانی کو قبولیت اسلام کے لئے تربیت دی جاتی رہی۔ چنانچہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچمبر اس لئے آئے کہ وہ نسل انسانی کی تربیت اس رنگ میں کریں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔

پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انسان کو بنایا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی بھلائی کے لئے ”رحمۃ للعالمین“ بنا کر مبعوث کیا گیا مگر اے احمدی جماعت کے لوگو! تم یہ سوچو کہ ہم کتنوں تک پہنچے ہیں؟ میں نے اپنے منصوبے کو ابھی محدود رکھا ہے کیونکہ بعض بنیادی قسم کے کام اگلی صدی کی ابتداء کے لئے بھی چھوڑ دینے چاہئیں اور شاید ان کو ہم کر بھی نہ سکتے ہوں۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ اس وقت ہمیں اس صدی کا جشن منانے اور اگلی صدی کے استقبال کے لئے اور اس عزم کے اظہار کے لئے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ایک سوزبانوں میں اسلام کا بنیادی لٹریچر شائع کرنا ہوگا۔ میں نے حساب لگایا ہے کہ اگر فی زبان ایک لاکھ کی تعداد میں لٹریچر شائع کیا جائے تب بھی ایک مختصر سی کتاب پر پچاس ساٹھ لاکھ روپے خرچ آئیں گے لیکن ابھی میں خرچ کی طرف نہیں آرہا۔ میں صرف ایک ضرورت بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان میں اسلامی لٹریچر شائع ہونا چاہئے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تصور کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے؟ مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے دل کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس نے نوع انسانی کے کن پہلوؤں کی کس رنگ میں خدمت کرنی ہے؟ اس نے کس طرح انسان کا دل جیتنا ہے اور جیتنے رکھنا ہے اپنے محبوب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھی آقا اللہ تعالیٰ کے لئے۔ اس قسم کی ساری باتیں اس لٹریچر میں آئیں گی۔ یہ لٹریچر سردست سوزبانوں میں شائع کرنے کا منصوبہ ہے۔ ویسے اپنی اہمیت کے لحاظ سے دنیا کی ساری زبانوں میں ہونا چاہئے۔

پس اگلے سولہ سال میں دنیا کی مختلف سوزبانوں میں لٹریچر تیار کرنا، اس پر نظر ثانی کرنا اور پھر مختلف ممالک سے مشورے کرنا کہ ان کی کس قسم کی ضرورت ہے اور ہزاروں چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ میرے خیال میں اس کے لئے شاید ہمیں آٹھ دس سال تیار کرنی پڑے گی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں طباعت کا کام تو بڑھ جائے گا لیکن اس عرصہ میں چھپ کر دنیا میں تقسیم ہو جائے گا۔

بہر حال سوزبانوں میں لٹریچر پیدا کرنا اور اس کی تقسیم کا انتظام کرنا، یہ اس منصوبہ کا ایک اہم حصہ ہے اور اس لٹریچر کو تقسیم کرنے کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ دو ورقہ اشتہارات ہیں۔ اس طریق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ آف سیٹ (Off Set) کے دو چھوٹے پریس (یہ ستراسی ہزار روپے کا آجاتا ہے) افریقہ کے لئے اور ان سے ذرا بڑا انگلستان ہمیں مفت دے رہا ہے۔ ابھی ہمارے بعض محکموں کے افسر یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چیز ملک کو مفت مل رہی ہے وہ لے لینی چاہئے یا نہیں۔ خیر ان کو کسی وقت سمجھ آجائے گی۔ اگر پہلے آگئی ہوتی تو وہ اس وقت تک یہاں پہنچ چکا ہوتا؟ آہستہ آہستہ ہر ملک میں اس قسم کے چھوٹے اور بڑے عمدہ پریس لگائے جائیں گے۔ اس قسم کے پریس بڑے اعلیٰ معیار کے دو ورقہ اشتہارات شائع کیا کریں گے۔ ان کا انتظام ہونا چاہئے۔ اس نکتے کا اگلے حصہ کے ساتھ تعلق ہے۔ وہاں بھی اس کو بیان کر دوں گا۔ اس وقت دنیا کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کچھ پتا نہیں لگ رہا کہ تو میں کس نبج پر چلتی ہیں اور کہاں پہنچتی ہیں یا ان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک جگہ اچھے پریس پر انحصار نہیں کرنا چاہئے۔ اس لئے ہمیں پاکستان میں مرکزی اعلیٰ پیمانے کے پریس کے علاوہ دنیا کے کسی اور دو مقامات پر جو اس کام کے لئے مناسب ہوں وہاں دو اچھے پریس بھی لگا دینے چاہئیں۔ یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔

چہارم :- حضرت مسیح موعود مہدی معہود علیہ السلام کا ایک بڑا کام یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نوع انسانی کو امت واحدہ بنا دیں گے۔ ایک تو کسر صلیب ہے۔ دوسرے

”مسلمان را مسلمان باز کردند“

کا کام تھا یعنی جو اندرونی فتنے اور کمزوریاں اور خرابیاں تھیں ان کو دور کر کے سچا اور پکا اور دلیر اور قربانی دینے والا، عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کرنے والا مسلمان بنانا تھا اور تیسرے ساری دنیا کو

اور ساری نوع انسانی کو امت واحدہ بنا دینا آپ کا اصل مقصد تھا۔ ساری ملتیں مٹ جائیں گی سوائے ملت اسلامیہ کے۔ یہ پیشگوئیاں موجود ہیں۔ یہ پرانی خبریں ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ کام ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہ کہا اور اس کے ایک حصہ کے متعلق ہماری عقل اور سمجھ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو کام کرنے ہیں ان کاموں کا عرصہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔ کچھ پہلی صدی میں ہوئے، کچھ دوسری صدی میں ہوئے اور کچھ پندرہویں میں ہوں گے۔ اگر قیامت تک کے کام پہلی صدی میں ہو جاتے تو باقی دنیا کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے لئے کچھ نہ کچھ کام رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کام کہ نوع انسانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض اور برکات سے ایک خاندان بن جائے، ایک امت واحدہ بن جائے، یہ ذمہ داری پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ ایک آخری کام ہے۔ پھر جب اسلام کا کامل طور پر غلبہ ہو جائے گا تو پھر (جیسا کہ میں نے بچوں کو بتایا تھا اور بڑوں کو بھی بتایا تھا) بیرونی محاذ کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ نہ کوئی غیر رہے گا نہ غیر سے جنگ کا کوئی سوال پیدا ہوگا لیکن تربیت کا جو اندرونی محاذ ہے اس پر تو نوع انسانی جب تک زندہ ہے جنگ جاری رہے گی۔

بہر حال آخری کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو کرنا تھا وہ نسل انسانی کو امت واحدہ بنانے کا تھا اور یہ کام پیشگوئیوں کے مطابق آپ کے جس جرنیل کے سپرد کیا گیا ہے اسے احادیث کی رو سے مہدی اور مسیح کا لقب دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کا قائم کرنا یہ ایک بہت اہم کام ہے اور مشکل کام بھی ہے۔ اس میں تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا بنیادی طور پر اور ذہنی لحاظ سے دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جو نیشنلزم کی حدود کو پار کر کے انٹرنیشنلزم برادری کی طرف حرکت کر چکی ہے اور نیشنلزم یعنی قومیت کا جو جذبہ تھا دوسروں کے ساتھ ملاپ نہیں کرنا، کہتے تھے ہم فرانسیسی ہیں، ہم انگریز ہیں، ہم جرمن ہیں یہ سرحدیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو یورپین کامن (Common) مارکیٹ بن چکی ہے۔ پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی۔ اب یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بن گئی ہے لیکن دوسرا حصہ ایسا ہے جو مظلوم اور غلام بنا رہا اور استحصال کا شکار رہا۔ ان کو نئی نئی آزادیاں ملی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے نیشنلزم میں سے ضرور گزرنا چاہئے۔ خواہ آج کی دنیا میں

انسان ان نقصانات کو برداشت کئے بغیر انٹرنیشنلزم (بین الاقوامی برادری) ہی کا حصہ کیوں نہ بن سکتا ہو۔

اب جہاں جہاں نئی نئی آزاد مملکتیں قائم ہوئی ہیں وہاں انٹرنیشنلزم یعنی قومیت کا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کی پیروی کی بجائے انٹرنیشنلزم سے چمٹے رہنا چاہئے۔ مثلاً میں ۱۹۷۰ء میں جب افریقہ کے دورے پر گیا تو ایک موقع پر مجھے بتایا گیا کہ چند لوگ کہتے ہیں

Ghanian for Ghana

لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ

Ghanians are for the whole world, not for Ghana alone

میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ جہاں تک تمہاری سیاست کا تعلق ہے تم انٹرنیشنلزم بنے رہو۔ خود سیاسی حالات تمہیں یہ سبق سکھا دیں گے کہ تمہیں کس حد تک انٹرنیشنلزم بننا چاہئے اور کس حد تک تمہیں انٹرنیشنلزم (بین الاقوامی برادری) میں شامل ہو کر اس کے فوائد حاصل کرنے چاہئیں لیکن جہاں تک دین اسلام کا تعلق ہے خدا کا مہدی اور مسیح آ گیا۔ اب مسیح کی خلافت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ خلافت کا مرکز تم سے کچھ مانگتا نہیں بلکہ وہ تمہیں کچھ دیتا ہے۔ اس لئے دین کے معاملہ میں انٹرنیشنلزم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی برادری (یہ اس زمانہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے) اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ نسل انسانی امت واحدہ بننے کے لئے تیار ہو چکی ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنا پڑے گی۔ ذہنی تربیت کرنی پڑے گی لیکن بہر حال یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک تحریک چل پڑی ہے، جو انشاء اللہ کامیاب ہوگی۔

پس دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لئے تدابیر کرنی چاہئیں۔ دعا کرنی چاہئے۔ چنانچہ وہ تدابیر جو اس وقت تک میرے ذہن میں آچکی ہیں وہ یہ ہیں۔ اول:- دنیا میں ٹیلیفون کے علاوہ ایک طریقہ ٹیلیکس کا ہے۔ یہ ایک جدید نظام ہے جو تار اور ٹیلیفون کی نسبت جلد پیغام پہنچانے میں کام آتا ہے اور سستا بھی ہے۔ ساری دنیا کے ممالک جہاں اس وقت تک جماعت احمدیہ مضبوط ہو چکی ہے، ان کا آپس میں ٹیلیکس کے ذریعہ باہمی تعلق قائم ہو جانا چاہئے۔ چنانچہ میں نے اس کی ابتداء جماعت احمدیہ انگلستان کو تحریک کر کے کروادی تھی۔ وہاں پتہ کروایا گیا تھا۔ ایک کمپنی ایسی ہے جو

نمبر دے دیتی ہے اور پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں اور پیغام بھی فوراً پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس نمبر کی اطلاع دی۔ ہفتہ کو مجھے اطلاع ملی۔ آگے اتوار کا دن تھا۔ پیر کے روز میرا پہلا پیغام انگلستان کو ٹیلیکس کے ذریعہ لاکپور سے بھجوایا گیا۔ اس موصلاتی نظام پر آٹھ دس ہزار روپے خرچ آتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دو آنے کا زمانہ گذر گیا۔ اب جماعت پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ دس ہزار کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ جب میں نے انگلستان کو ٹیلیکس پر پیغام بھیجا علاوہ دعاؤں کے میں نے ان کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہاں سے ٹیلیفون پر پورے یورپ کے تمام مشنوں کو کہو کہ خلیفہ وقت نے آپ کو یہ دعائیں بھیجیں ہیں۔ اب دیکھو جلسہ سالانہ کی خبریں مہینے گزر جاتے تھے تب جا کر بیرونی ملکوں کو پتہ لگتا تھا اور خبر وہی جو خط کے ذریعہ جاتی تھی اور جماعتیں بڑا تملقاتی تھیں۔ ان کا غصہ بجا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ جلسہ سالانہ کی خبریں ہمیں بروقت ملیں۔ اب آپ ہی دیکھ لیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے کتنی سکینت اور آرام محسوس کر رہے ہیں۔ وہ محروم تھے۔ ان کو جلسہ سالانہ کی کوئی نہ کوئی خبر تو جلد پہنچنی چاہئے تھی خواہ وہ دھندلی ہی کیوں نہ ہوتی۔ پہلے کئی کئی ہفتوں کے بعد ان کو خبر ملتی تھی کہ جلسہ سالانہ پر کیا کیا ہوا ہے لیکن اب یہ انتظام ہو گیا۔ اگرچہ یہ انتظام ابھی کچھ حصہ کے متعلق ہوا ہے لیکن ابتداء ہو گئی ہے۔ ۲۶ تاریخ کو جلسہ سالانہ کی مختصر رپورٹ نصف گھنٹے میں بھجوا دی گئی۔ پھر ۲۷ تاریخ کی رپورٹ آج چلی گئی اب اس تقریر کے خلاصہ کی خبر کل چلی جائے گی۔

تو یہ نظام انشاء اللہ ترقی کرے گا اور بہت سے ممالک میں پھیل جائے گا۔ پھر سب کے تعلق ایک جیسے ہو جائیں گے اور اس طرح امت واحدہ کی ایک شکل بن جائے گی۔ بھائی بھائی ہونے کا احساس آپ تبھی محسوس کریں گے جب آپ عملاً بھائی بھائی بن جائیں گے اور آپ کے درمیان ایک قریبی تعلق پیدا ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں جو دوسری بات جو میرے دماغ میں آئی وہ بھی جماعت احمدیہ انگلستان نے شروع کی ہے اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے:- (World Bilal Radio Amateur Club) آزاد ملکوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ جو شخص چاہے اور دلچسپی رکھتا ہو وہ ایک خاص قسم کی ریڈیائی لہروں پر پیغام نشر کر سکتا ہے اور اسی پر وہ ایک دوسروں سے ملاپ کرتے ہیں۔ دوستیاں

کرتے ہیں لیکن جو ملک ابھی نئے نئے آزاد ہوئے ہیں مثلاً ہمارا ملک ہے یہ بھی نیا نیا آزاد ہوا ہے۔ اس میں بھی گودیر سے اجازت ملے گی لیکن کسی نہ کسی وقت اس کی اجازت ضرور مل جائے گی لیکن جہاں اس قسم کی نشریات کی آزادی ہے وہاں تو کام شروع کر دینا چاہئے۔ مختلف کلبز (Clubs) بن جائیں اور آپس میں پیغامات کا تبادلہ کریں۔ ایک دوسرے کو بتائیں کہ ایسا موسم ہے مثلاً اگر یہاں بھی اس کی اجازت ہوتی تو آپ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بتاتے کہ صبح سے یہاں شدید دھند پڑی ہوئی ہے اور سردی بھی بہت ہے۔ ایسی سردی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی مگر ایمان کی حرارت بھی عجیب چیز ہے کہ دوست اس سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سانس ٹھیک طرح سے آ نہیں رہا۔ منہ سے بخارات دھواں بن کر نکل رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جلسہ میں شامل ہونے والا ہر آدمی سگریٹ پی رہا ہے لیکن بائیں ہمہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور جلسہ کی تقاریر سن رہے ہیں۔

تیسری بات جو بین الاقوامی سطح پر کی جائے گی وہ آپس میں قلم دوستی ہے۔ بعض ملکوں سے ہمیں اس غرض کے لئے ہزاروں آدمی مل جائیں گے (بعض ملکوں سے کم ملیں گے) جو آپس میں خط و کتابت کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ کام ایک انتظام کے ماتحت ہونا چاہئے۔ مثلاً سوئٹزرلینڈ میں کچھ درجن احمدی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پاکستان کے ایک احمدی سے خط و کتابت کر رہا ہو اور دوسرا امریکہ کے ایک احمدی سے، تیسرا انانچیریا کے ایک احمدی سے، چوتھا انڈونیشیا کے احمدی سے، پانچواں فجی کے ایک احمدی سے تو جس وقت اتوار کے دن اکٹھے ہو کر باتیں کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہوا ہے فجی کی جماعت پر کہ انہوں نے اتنے قرآن کریم ہوٹلوں میں رکھوا دیئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کہے گا ناچیریا کے احمدی دوستوں پر کتنا فضل ہوا کہ میرے دوست نے خط لکھا ہے کہ سو بت پرستوں نے اپنے بتوں کو جلا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا دیا۔ پس ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بڑی نازل ہو رہی ہیں ہم ابھی ان کو سمیٹنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اس (قلم دوستی) سے بھی ساری دنیا کو امت واحدہ بنانے میں بڑی مدد ملے گی۔ ہم ایک دوسرے کے حالات قریب سے جاننے لگ جائیں گے۔

امت واحدہ بنانے کے سلسلہ میں چوتھی بات یہ ہے کہ پہلے دنیا کے کسی مناسب مقام پر

ایک بہت بڑا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن قائم کرنا پڑے گا۔ میں نے پچھلے جلسہ سالانہ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ نائیجیریا نے ہمیں براڈ کاسٹنگ اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ گو اجازت تو دے دی ہے لیکن ہمیں بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن جو بہت چھوٹے پیمانہ پر کام کر سکتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس ملک کے دستور کی رو سے بڑے پیمانے پر ریڈیو اسٹیشن لگانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اگر حکومت چاہے بھی تب بھی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس لئے نائیجیریا کی جماعت احمدیہ اس ملکی دستور میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خدا کرے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ جس وقت وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر حکومت کو اجازت دینے میں سہولت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر ممکن ہے وہ نائیجیریا ہی ہو یا کوئی دوسرا ملک آگے آجائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح روسی ریڈیو اسٹیشن دنیا کا سب سے بڑا اور صاف سنائی دینے والا نشریاتی ادارہ ہے اس سے بھی زیادہ عمدہ ریڈیو اسٹیشن ہو۔ اگر کبھی ہمیں فرصت ہو یا خاص وجہ ہو یا اتفاقاً روسی اسٹیشن سننے کا موقع مل جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا کوئی شخص باتیں کر رہا ہے۔ روس نمبر ایک نہیں۔ نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ اس لئے دنیا میں انشاء اللہ عنقریب سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن اسلام کا ہوگا اور اس منصوبہ کے مطابق اس کے لگانے کی کوشش کی جائے گی۔

پانچویں یہ کہ مرکز سلسلہ میں جلسہ سالانہ پر اقوام عالم کے وفد کی شرکت کا جو نظام جاری ہوا ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس میں بعض دقتیں بھی ہیں۔ مثلاً ان کی رہائش کی، ان کے آرام و آسائش کی دقت ہے۔ اس دفعہ ان کو مختلف جگہوں پر ٹھہرایا گیا ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن سوچ رہی ہے کہ وہ ایک گیسٹ ہاؤس بنا دے جو ۲۰ رہائشی کمروں پر مشتمل ہو۔ میں نے خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ اماء اللہ کی ذیلی تنظیموں کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے زیر انتظام تین تین کمروں پر مشتمل ایک ایک گیسٹ ہاؤس بنوائیں۔ اس طرح موجودہ گیسٹ ہاؤس کو ملا کر ۳۳ کمرے تو میسر آجائیں گے۔ پھر انشاء اللہ اور بنتے رہیں گے۔

بہر حال ان وفد کے آنے کا بڑا فائدہ ہوا۔ یہاں کے رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوا اور باہر سے آنے والوں کو بھی فائدہ ہوا اور میں اپنی طرف سے اور سب احمدیوں کی طرف سے اور ان کی

طرف سے بھی جو اس جلسہ میں شامل نہیں ہو سکے ان سب (وفود) کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔

امت واحدہ بنانے کے اس منصوبہ کا چھٹا حصہ یہ ہے کہ تصاویر کا تبادلہ کیا جائے۔ مثلاً اب یہاں بھی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ گوان کی ابتدائی شکل ہے لیکن کام شروع ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سلسلہ میں الہم تیار ہونے چاہئیں جو ملک ملک بھجوائے جائیں۔ اس موقع پر بھی اور شوریٰ کے علاوہ دوسرے اجتماعات کی تصاویر بھی الہم کی صورت میں باہر بھجوائی جائیں اور اسی طرح مثلاً جماعتی تقریبات ہوتی ہیں۔ نائیجیریا میں، غانا میں، آئیوری کوسٹ میں، لائبیریا میں سیرالیون میں۔ ان کی تصاویر بھی یہاں آپ کے پاس پہنچی چاہئیں۔ وہ Still بھی ہوں یعنی بورڈوں پر لگادی جائیں اور movies بھی ہوں جو پروجیکٹر پر دکھائی جائیں اور آپ کو پتہ لگے کہ احمدیت کتنی ترقی کر رہی ہے۔ آپ یہ بات تصور میں نہیں لاسکتے کہ سالٹ پانڈ میں میں نے جو خطبہ جمعہ دیا تھا اس میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ احباب شامل تھے اور یہ بھی نمائندے تھے۔ سارے دوست جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح سیرالیون میں ہزار ہا کی تعداد میں لوگ مجھے ملتے رہے ہیں اور وہ بھی مختلف جماعتوں کے نمائندے تھے۔ نائیجیریا میں جہاں مجھے ایک ہی خطبہ دینا تھا اس جگہ جہاں نماز کا انتظام کیا گیا تھا دو رو یہ کمرے تھے اور بیچ میں صحن اور ہال تھا۔ غرض کمرے، صحن اور ہال بھرا ہوا تھا۔ ہر جگہ مجھے احمدی ہی احمدی نظر آرہے تھے اور وہ سب نمائندے تھے۔ کیونکہ وہ ایک بڑا پھیلا ہوا اور وسیع ملک ہے اس لئے بہت کم نمائندے آسکتے ہیں اور اقوام عالم کے جو وفود یہاں آئیں گے اگر ملکی قانون اجازت دیتا ہو تو مناسب مقامات پر شامل ہونے والے وفود کے قومی جھنڈے بھی لہرائے جائیں تاکہ اس طرح یہاں والوں کے ایک تو علم میں اضافہ ہو اور دوسرے ان قوموں کی اس طور پر عزت افزائی کی جائے۔ اتحاد کے قیام کے لئے دو ورقہ اشتہارات کی بھی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ اندرون ملک بھی اتحاد ضروری ہے ملک کے اندر دو ورقہ اشتہارات کی کثرت سے اشاعت اور اس کے لئے چھوٹے پریس قائم کرنا۔

پنجم۔ اور اس منصوبہ کی جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ فرقے فرقے میں بٹ گئی ہے۔ ہر ایک کی اپنی احادیث ہیں۔ ہر ایک کی اپنی روایات ہیں۔ ہر ایک کی اپنی

تفسیر ہیں۔ ہر ایک کی اپنی عادتیں ہیں۔ ہر ایک کے اپنے طریق عبادات ہیں۔ کوئی آمین بالجہر کہتا ہے کوئی آمین بالخفی کہتا ہے۔ مسلمانوں پر ایسا زمانہ بھی گذرا ہے کہ آمین بالجہر کہنے والے کی مسجد میں اگر اس فرقے کا آدمی آ گیا جو آمین بالجہر نہیں کہتا تو وہ اس کی گردن اڑادی گئی۔ اسی طرح آمین بالجہر نہ کہنے والوں کی مسجد میں آمین بالجہر کہنے والوں کی گردن اڑادی گئی۔ یہ اختلافات ہیں مگر لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے یہ تو سوچو کہ ان اختلافات کے باوجود کتنے اہم وہ امور ہیں جن میں ہمارا اتحاد موجود ہے۔ ہم توحید باری پر متحد ہیں۔ افراد کی یا آدمیوں کی عادتیں بگڑ کر مشرکانہ شاید بن گئیں ہوں لیکن جہاں تک عقیدہ کا سوال ہے اور زبان سے اقرار کا تعلق ہے ہم سب خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ’لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘ کہنے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہر فرقہ خاتم النبیین کے معنی مختلف کر جائے گا لیکن کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ خاتم النبیین کے عقیدہ میں ہم سب متحد ہیں۔ سارے فرقے قرآن کریم کی عظمت کا اقرار کم از کم زبان سے تو کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کر رہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ اور جب زبان سے اقرار کیا جا رہا ہے تو دل سے تسلیم کرو۔ قرآن عظیم کی عظمت کو پہچانو اور اس کا اعلان کرو۔ یہ ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے۔ ہم قرآن کریم کو ایک کامل اور مکمل کتاب مانتے ہیں۔ یہی ہمارے سب فرقوں کا عقیدہ ہے۔ تمام فرقے قرآن کریم کو قیامت تک کے لئے کامل ہدایت نامہ سمجھتے ہیں۔

پس اس سولہ سال کے عرصے میں ہم اسلام کے تمام فرقوں کو بڑی شدت کے ساتھ نہایت عاجزی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ اور غمخواری کے ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ جن باتوں میں ہم متحد ہیں ان میں اتحاد عمل بھی کرو اور اسلام سے باہر کی دنیا میں توحید خالص کے پھیلانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو منوانے اور قرآن کریم کی شان کے اظہار کے لئے اکٹھے ہو کر کوشش کرو اور باہر جا کر آپس میں نہ لڑو تا کہ اسلام کو فائدہ پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ جن کے ذریعہ زیادہ کام لے گا یا جو دوسروں کو زیادہ قائل کر لیں گے یا جن سے ان کو زیادہ فیض پہنچے گا وہ نمایاں ہو کر سامنے آجائیں گے۔ اس لئے نتیجہ خدا پر چھوڑ دو۔ پس اتحاد عمل کرو، ان بنیادی اصولوں پر جن میں

ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ پس یہ پیغام ہے اس منصوبہ کا جو آج میں ساری اسلامی دنیا کو دے رہا ہوں۔ اشاعت اسلام کا یہ وہ جامع منصوبہ ہے جسے میں نے مختصر بیان کر دیا ہے۔ دنیا کا ہر منصوبہ روپیہ چاہتا ہے مثلاً جو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن لگانے پر روپیہ خرچ ہوگا۔ قرآن کریم کے تراجم پر روپیہ خرچ ہوگا۔ سوزبانوں میں اسلامی لٹریچر کی اشاعت پر بہت رقم خرچ آئے گی۔ ہر زبان میں مختصر سی کتاب پر بھی ۵۰، ۶۰ لاکھ روپے کی لاگت کا اندازہ ہے۔ سولہ سال میں یہ رقم جمع ہونی ہے لیکن سولہ سال پر پھیلا کر کام کرنے ہیں۔ کچھ کام تو ابھی سے شروع کر دیئے جائیں گے۔ مثلاً تراجم ہیں۔ ان کی نظر ثانی کرانی ہے۔ اگر غیر ہوئے تو وہ کہیں گے پیسے لاؤ۔ ابھی حال ہی میں جس شخص نے فرانسیسی ترجمہ قرآن کریم پر نظر ثانی کی ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی تھا لیکن ہم اسے پیسے دیتے تھے۔ اب پھر احمدی دوست اس کی دوبارہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔

بہر حال اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک معقول رقم کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم ”صد سالہ احمدیہ جو بلی فنڈ“ کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس فنڈ کے لئے رقم کی ضرورت ہے۔ اس کی آخری شکل تو سولہ سال کے بعد بنے گی۔ سر دست اس کے لئے جتنی رقم کی اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اڑھائی کروڑ روپیہ ہے۔ یہ رقم بظاہر بہت بڑی رقم ہے اس لئے بھی کہ جماعت دیگر مالی قربانیوں میں ان سولہ سال میں اگر اس معیار پر بھی چلتی رہے (ویسے ہر سال آمدنیاں بڑھ رہی ہیں۔ برکتیں بڑھ رہی ہیں قربانیوں کا جذبہ بڑھ رہا ہے) تو ۲۵، ۲۶ کروڑ روپیہ اشاعت اسلام پر خرچ کر رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے اڑھائی کروڑ روپے کی اپیل کی ہے۔ خدا تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ جماعت بڑھے گی یعنی چندہ دینے والے آئیں گے۔ چندہ دینے والوں کی آمدنیاں بڑھیں گی۔ یہ ۲۶، ۲۷ کروڑ کا اندازہ تو جماعت کی قربانیوں کا آج کا معیار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جماعت اگلے سولہ سال میں اشاعت اسلام پر ۵۰ کروڑ روپے خرچ کرنے لگ جائے۔ ہم مذہب کو کھیل نہیں سمجھتے اور نہ ہم دشمن کے اعتراض کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ ہمارے خدا نے ہمارے اندر ایک آگ لگا رکھی ہے کہ ہم نے اسلام کو مادی دنیا پر غالب کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے منشاء کو پورا کرنے کی انسان کی طرف سے حقیر سی کوشش اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ یہ خدا کا منشاء اور حکم ہے ورنہ کامیابی تو اس کے فضل سے حاصل ہوتی ہے مگر خدا تعالیٰ ہماری تھوڑی سی کوشش سے بے شمار

نعمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ پس آج میں اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے اڑھائی کروڑ روپے کی اپیل کرتا ہوں لیکن میں اپنے رب کریم پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آج ہی یہ اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سولہ سالوں میں ہمارے اس منصوبہ کے لئے پانچ کروڑ روپے کا انتظام کر دے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

میں نے ابھی اس منصوبہ کا اعلان نہیں کیا تھا کہ انگلستان کی جماعت نے ایک کروڑ روپے کا وعدہ کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں گو جماعت تھوڑی ہے لیکن ان کی آمدنیاں کافی ہیں۔ دوسرے ممالک میں بھی ہمارے احمدی بستے ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ ۵۰، ۴۰ لاکھ کے قریب غیر ممالک سے اس مد میں چندہ اکٹھا ہو جائے اور جتنی رقم آپ نے پچھلے تین سال میں ”نصرت جہاں ریزرو فنڈ“ میں دی ہے اگر اسی نسبت سے اتنی رقم آپ اگلے سولہ سالوں میں دیں تو یہ کوئی پونے تین کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی آگے لے جایا جاسکتا ہے تاہم ہمارے دل میں کوئی تکبر نہیں پیدا ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دین کی اشاعت کا کام کرو اور یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری حقیر کوششوں کو قبول کر کے کام میں فرشتوں سے کرواؤں گا اور کریڈٹ تمہیں دے دوں گا۔ اس لئے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ اڑھائی یا پانچ کروڑ روپیہ کہاں سے آئے گا یا آئے گا بھی یا نہیں۔ انشاء اللہ ضرور آئے گا اور اس کے لئے جس قدر انسانوں کی ضرورت ہے اور جس قسم کے دماغوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا جو فکر ہمیں کرنی چاہئے مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ یہ ہے کہ خدا کرے ہماری ان حقیر قربانیوں کو قبول کر کے وہ عظیم نتائج جو اپنے فرشتوں کے ذریعہ اپنے فضل سے پیدا کرے گا ان کے سارے کے سارے انعامات (فرشتوں نے انعام لے کر کیا کرنا ہے) آپ کی جھولیوں میں ڈال دے اور ہماری حقیر قربانیوں کو وہ قبول کرے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہمیں بہت سی بشارتیں دے رکھی ہیں۔ ایک بشارت کا اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے:-

”میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصاریٰ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنہ سے خون ہوتا جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر

اور کون سادلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشیتِ خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولیٰ اور میرا قادر تو انا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے۔ غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کئے جائیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں۔ سواب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھادے۔ سواب دونوں میں گے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا اور وہ تمام خراب استعدادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام۔ اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا۔ اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا لیکن نہ کسی تلوار سے نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روجوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔‘

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ ۷، ۸)

جس چیز کو خدا کا ایک ہی ہاتھ مٹا سکتا ہے۔ جو فتح خدا تعالیٰ کی ایک قادرانہ تجلی حاصل کر سکتی ہے اس کو ایک لمبے عرصے میں پھیلا کر اور اس مجاہدہ میں آپ کو شریک کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہے جماعت احمدیہ پر۔

پس اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ جھکو اور اس سے دعائیں کرو۔ اسی سے مانگو۔ کوئی بت نہ ظاہری اور نہ اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ سب بتوں کو توڑ کر اور سب حیلوں سے منہ موڑ کر اس خدا پر کامل اور پختہ اور زندہ ایمان لاؤ جو نہایت ہی پیار کرنے والا اور بہت ہی رحمتیں نازل کرنے والا اور اس دنیا میں نیک بندوں اور پیاروں کے لئے جنت کو پیدا کرنے والا اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنانے والا ہے اور دشمن کے دیئے ہوئے ہر دکھ کو سکھ میں تبدیل کر دینے والا ہے، جو ہر آگ کو جو اس کے سلسلہ کو مٹانے کے لئے جلائی جائے ٹھنڈی کر دینے والا اور سلامتی سے لبریز کر دینے والا خدا ہے۔ جس نے اپنے مہدی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خدمت کرنے کے لئے مبعوث کیا اور اسلام کے غلبہ کے لئے پیشگوئیاں عطا ہوئیں جس نے نوع انسانی کے دلوں کو جیتنے کے روحانی اور اخلاقی اسلحہ عطا کئے اس کی جماعت ہو کر کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ اس کو مانو۔ اس کا عرفان حاصل کرو۔ اسی کے ہو جاؤ اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جھکو اور نہ کسی کا خیال اپنے دل میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تم پر اس قدر نزول ہوگا کہ تمہاری زندگیوں کے لمحات ختم ہو جائیں گے مگر خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا شمار نہ ہو سکے گا۔ خدا بڑی پیاری ہستی ہے۔ تم اس کو کبھی نہ بھولو۔ اس سے کبھی جدائی اختیار نہ کرو۔ کیونکہ اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی سے ہمارا نور اور اسی سے ہمارا سکون اور وہی ہماری جنت اور وہی ہماری روح ہے۔

اب ہم دعا کریں گے اور اس دعا پر اس سال کے جلسہ سالانہ کا اختتام ہوگا۔ جہاں اور بہت سی دعائیں دل سے یا زبان سے کہیں وہاں میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سردی کے موسم میں اس دھند میں، ان برفانی ہواؤں میں اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جلسہ میں شمولیت کی توفیق عطا کی ہے اور یہاں آپ کا حافظ و ناصر ہوا ہے۔ جن کو آپ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کا بھی حافظ و ناصر ہو اور آپ پیار کے جذبہ کے اظہار کے لئے یہاں آئے۔ (آخر یہ پیار کا جذبہ ہی تھا جو دوستوں کو اس شدید سردی کے موسم میں یہاں لے آیا)۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پیار کے جذبے کی احسن جزا عطا فرمائے اور جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھی نہیں بن سکے، یہاں سے غیر حاضر رہ گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ ہی کے ساتھ رحمت اور

فضل میں شامل کرے۔

اور جیسا کہ خدا نے وعدہ دیا ہے، وہ اپنی رحمت اور برکت اور فضل سے آپ کے نفوس میں برکت ڈالے۔ آپ کے اموال میں برکت ڈالے۔ آپ کے درو دیوار سے برکتوں کے سوتے پھوٹیں اور دنیا آپ سے فیض حاصل کرے اور دنیا میں کسی فرد واحد کو بھی آپ میں سے کوئی دکھ نہ دے۔ آپ ہر ایک کے لئے سکھ کے سامان پیدا کرنے والے ہوں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتوں کی طرف ان کو کھینچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر جہت سے اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہو آپ کا مددگار ہو۔ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہر تکلیف سے آپ کو بچائے رکھے۔ آپ خوش و خرم یہاں آئے۔ ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے آپ نے اس جلسہ میں شمولیت کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ خدا کرے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہنستے مسکراتے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ جس طرح یہاں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کے دروازے اس لئے کھلے کہ آپ نے اس للہی جلسہ میں شرکت کی، اسی طرح آپ کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی برکت کے دروازے اس لئے کھلیں کہ آپ نے ایک امتیاز پیدا کیا خدا کے فضل سے اور آپ کو مسیح موعود علیہ السلام و مہدی معبود علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہونے کی توفیق عطا ہوئی اور اس وقت ہمارے جو مبلغ دنیا میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اور اشاعت اسلام کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رہبر ہو، ان کا معلم ہو۔ ان برکتوں کا اظہار ان کی زبانیں اور ان کی قلمیں کریں جن کی بشارت دی گئی ہے اور وہ دشمن اسلام کا منہ بند کرنے والے ہوں اور وہ اپنے نور فراست سے دنیا پر غالب آنے والے ہوں اور جہاں جہاں بھی ہمارے احمدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان کا دل خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جیتنے کے سامان ان کو میسر آئیں۔

آؤ اب دعا کر لیں۔

(از رجسٹر خطابات ناصر غیر مطبوعہ)

اشاریہ

مرتبہ : مکرم حبیب الرحمن زیروی صاحب

- (۱) آیات قرآنیہ ۳
- (۲) احادیث ۹
- (۳) الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۱۰
- (۴) مضامین ۱۱
- (۵) اسماء ۵۱
- (۶) مقامات ۶۷
- (۷) کتابیات ۷۳



آيات قرآنية

ال عمران

- قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَّائِبَاتِ (١٢) ٢٥
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ.....
 ٢٢٢ (٢٢)
 ٣٢١ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ (٢٢)
 ٢٣٣ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
 يُحِبِّكُمْ اللَّهُ (٣٢) ٢٣٣
 ٣٢٢ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (٨٢)
 ٢٠٤، ٣٩٨ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 (١١) ٢٠٤، ٣٩٨

وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.....

- ٢٠٨ (١١)
 ٨٦ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (١٦٠)
 ٢٥٢ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٦١)

النساء

- ٩٣ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ (٢٢)
 ٢٢٢ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا
 ٢٢٢ مِّنَ الْكِتَابِ..... (٢٥)
 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٢)

٥٤٦

الفاتحة

٢٢٢، ٢٢٠، ٣٠٥ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)

البقرة

- ٢٢٦، ٢٠٦ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (٣)
 ٢٢٦ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٣)
 ٣٠٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
 جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (٣١)
 ٣٩ كُنْ فَيَكُونُ (١١٨)
 ١٣٠، ١٢ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (١٣٠)

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا

- ٢٢٦ الْخَيْرَاتِ (١٢٩)
 ٢٥٢ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٣)
 ١٢٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ.....
 (٢١٥)

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً
 ٢٢٢ (٢٥٠)

٣١٣ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ (٢٥٢)
 لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

٢٥٣

(٢٨٤)

٢٢١	إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (١٥٩)	قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ	
٢٣٣	وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٩)	مِنْ رَبِّكُمْ..... (١٤١)	٢٠٤
٦٩	يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٤)	المائدة	
	الانفال	تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٣)	
	إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَمَامِكَ قَلِيلًا.....	٥٩٩، ١٢٢	
٢٥	(٢٥، ٢٢)	الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ..... (٢)	٣٢١
٢٦	لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا (٢٥)	الانعام	
٢٨	وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ..... (٦٢)	مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ..... (٣٩)	٢١٤
	التوبة	وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا	
	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ	فَقُلْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ..... (٥٥)	٨٤
٢٢٩	وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ..... (٢٢)	فِيهِدَاهُمْ أَفْتَدَهُ..... (٩١)	٣٢٤
	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.....	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ مُصَدِّقٌ	
٦٣٣	(٢٦)	الَّذِي..... (٩٣)	٢٠٩
	وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّاتِمْ لِيَتَحْمِلَهُمْ.....	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ	
٣١٥	(٩٢)	(١٥٢)	٢٣٣
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ.....	
٢٦٣	وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ (١١٢، ١١١)	(١٥٦)	٢٠٩
	يونس	قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.....	
٢٢٥	إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (٦٦)	(١٦٢، ١٦٢)	٥٤٣
٥٤٨	أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٤٣)	قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ	
	يوسف	وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... (١٦٣)	
٣١٢	لَا تَثْرِبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ (٩٣)	٥٤٤، ٥٤٣	
	الاعراف	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (١٥٤)	٣١١

٢٤٥

لِّلْمُؤْمِنِينَ (٨٣)

الكهف

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ..... (١١١)

٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٣٣

مريم

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ

٢١٥

بَغِيًّا (٢٩)

٢١٥

جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ (٣٢)

٢١٥

بِرًّا بَوَالِدَتِي (٣٣)

٢١٢

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٢٢)

طه

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا

٢١٣

أَمْرِي (٩١)

٢١٢

فَنَسِيًّا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٦)

الانبياء

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا

٢٢٥

بُرْهَانَكُمْ (٢٥)

٢٠٥

كَانَتَا رَتْقًا..... (٣١)

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَاتِي الْأَرْضَ نَنْفُصُهَا.....

٩٣

(٢٥)

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

٢٥٢

مُنْكَرُونَ (٥١)

الرعد

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

٩٢

مَا بِأَنْفُسِهِمْ (١٢)

ابراهيم

وَإِذْ تَادُّنَ رَبُّكُمْ لِنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.....

٢٥١، ٣١

(٨)

٨٨

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٢)

النحل

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا..... (١٩)

٢٥١

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا

٢٢٦

خَيْرًا (٣١)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ

٢١٤

(٩٠)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ.....

٢٣٤، ٢٣٦

(٩٤)

٣٨٢

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٤)

٢٣٦

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا (٩٨)

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ (١٢٦)

٢٢٨

بنی اسرائیل

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ..... (٨٢) ٢٢٠

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

العنكبوت

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (٣٥)

٣٠٦

الروم

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ (٩)

٣٠٦

لقمن

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ (٢١)

٣٠٩، ٣٠٨

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٢١)

٢٥١

الاحزاب

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

حَسَنَةٌ (٢٢)

٥٤٣

كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٢٣)

٥٩٢

سبا

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا (١١)

٢١٣

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (١٣)

٢٥١

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

(١٦)

٣٦٠، ٣٥١

فاطر

وَأَنَّ مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٥)

٢١٦

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ (٣٠، ٣١)

٥٦٢

وَأَلَوْ طَآ اْتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجِّنِيهِ..... (٤٥)

٢١٢

الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ (٤٥)

٢١٣

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(١٠٨)

٥٩٠، ٢٤٥

الحج

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ (٤٨، ٤٩)

٢٢٠

المؤمنون

بَلْ آتَيْنَهُمْ بَدْرَهُمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ

مُعْرِضُونَ (٤٢)

٢٨٢

النور

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(٣٦)

٥٨٢، ٥٨٣، ٣٣٣، ٨٨، ٣٩

الفرقان

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (٥٨)

٥٩٢

الشعراء

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

(٢)

١٢٢

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (١١٠)

٥٦٤

النمل

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

وَجَعَلُوا قَرْيَةً دُخَانًا (٣٥)

٥٠٢

الصِّفَاتُ

سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٨٠)

٢١٢

ص

إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٨)

٢١٢

الزَّمَرُ

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنَىٰ عَنْكُمْ (٨) ٣٥١

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الذِّينَ (١٣، ١٢) ٥٤٦، ٥٤٣

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (٥٢) ٢٠٢، ٤٢

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (٥٢) ٢٠١

اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

(٥٦) ١٠١، ١٠٠

حَمَّ السَّجْدَةِ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمِلَ صَالِحًا (٣٢) ٥٨١

الشُّورَى

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا

(٥٣) ٦٢

الزَّخْرَفِ

وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَ لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ

تُسْأَلُونَ (٣٥) ٢٨٢

الجاثية

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ (١٦، ١٣) ٣٠٩

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

(١٦) ٣١٠

الاحقاف

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجِلٍ مُّسَمًّى (٢) ٣٠٤

الفتح

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (٢) ٥٩٣

الذِّرَاتِ

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

(٢٠) ٢٩٨، ٢٩٦

النَّجْمِ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (١١، ٣) ٣٠١، ٣٠٣

الرحمن

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٣٠) ٢٥١، ٢٦٩

الواقعة

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٥) ٥٨٦

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٨٠) ٥٤٥

الدھر

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (١٠)

٥٩٤، ٣٥٥، ٢٩٩

النزعت

أَمَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

٢٣٦

عَنِ الْهَوَىٰ (٣١)

الانفطار

٦٦٨

فَسَوْكَ فَعَدَلَكَ (٨)

البروج

٣١١

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٣)

الفيل

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ

٢٢

الْفِيلِ (٢)

الكوثر

٦٩

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (٢)

الاحلاص

٣٩٢

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (٢)

الحديد

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

٢٢٦، ٢٢٣

عَرْضُهَا..... (٢٢)

الحشر

وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ (٨) ٢٣٥

الصّف

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

٢٢١

الْحَقِّ..... (١٠)

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (١٠) ٢٨٠، ٢٤٨

الجمعة

الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (٢) ٦٥٥، ٢٤٨

التحریم

٢٢٦

رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا..... (٩)

القلم

٢٢١

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (٢ تا ٤)

٢٢٣

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٢)

٣١٣

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٥)

٢٨٢

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٣)



احادیث نبویہ

احادیث بالمعنی

۱۳۰	تین آدمیوں کا کھانا چار کے لئے اور چار کا پانچ کے لئے کافی ہو جاتا ہے	۳۱	مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا.....
۲۶۸	جس پلیٹ میں بال آ جائے اسے اپنے کھانے کیلئے استعمال نہ کرنا	۲۴، ۲۳، ۲۱	تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ الْحَلِيمِ سَيِّدِ فِي الدُّنْيَا وَسَيِّدِ فِي الْآخِرَةِ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ لِحَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجِدٌ فِي طَيْبَتِهِ
۳۷۵	جوئی کا تسمہ لینا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو	۶۹	لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْآفَلَكَ ۳۱۹، ۳۱۴
۴۰۴	مہدی خنزیر کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑے گا	۳۱۴	كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً
۴۸۱	گھوڑوں کی پیشانی میں امت مسلمہ کے لئے قیامت تک خیر و برکت کے سامان رکھے ہیں	۳۱۷	كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطَّيْنِ ۳۱۹، ۳۱۸
۵۴۷	مجھے لوائے حمد عطا کیا گیا ہے	۳۱۷	كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ
۵۹۳	رکابی میں ایک لقمہ بھی اپنی ضرورت سے زائد نہ ڈالو	۵۷۹	كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ
۶۲۸		۵۷۴	
		۶۰۷	



الہامات

(حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

اردو الہامات	عربی الہامات
۲۱ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں	أَنْتَ الشَّيْخُ الْمَسِيحُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقْتُهُ
۲۳ رسول اللہ ﷺ پناہ گزین ہوئے قلعہ ہند میں	۱۸۲
میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک	۲۹ إِذَا نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ جَعَلَ لَهُ الْحَاسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
۲۰۸، ۲۰۱ پہنچاؤں گا	۳۷ خُذُوا التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ يَا أَبْنَاءَ الْفَارِسِ
۲۷۱ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو	۶۸ يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
	۷۱ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ



مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۳۲	ہر احمدی کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے سرد ہو جائے	۵۲۵	آریہ آزمائش
۴۶۷	دنیا کے سارے جواہر ایک مخلص احمدی کے دل کو نہیں خرید سکتے		جو حوادث زمانہ ابتلاء اور امتحان کے طور پر آتے ہیں دراصل ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے
	اختلاف	۵۰۲	
۶۰۶	بھائی بھائی میں اختلاف ہو جایا کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کرتا کہ بھائی بھائی کی گردن اُڑا دے		ابتلاء
	اخلاص	۱۷۸	ابتلاء کے وقت خدا تعالیٰ کے نیک بندے سکون اور راحت محسوس کیا کرتے ہیں
۵۶۳	اگر تمہارا اخلاص غیر معمولی ہوگا تو تمہارے اموال میں غیر معمولی زیادتی ہوگی		اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بالکل ظاہر ہو کر تو سامنے نہیں آسکتیں ورنہ یہ دنیا ابتلاء اور امتحان کی دنیا نہ رہے
	اخوت	۵۲۱	
۴۲۸	رہتہ اخوت قائم کرو کسی سے دشمنی کو خدانے جائز قرار نہیں دیا		اتباع
۴۳۸	ہر ایک کی بھلائی چاہو کسی سے دشمنی نہ کرو خواہ وہ ساری عمر تم سے دشمنی کرتا رہا ہو	۲۳۳	تمہارا نیک انجام ہونا نبی کریم ﷺ کی اتباع پر منحصر ہے
۵۳۸، ۴۳۶، ۹۸، ۹۷، ۱۰	ادارۃ المصنفین	۲۳۳	تم محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرو گے تو تمہارا انجام بخیر ہو جائے گا
	اساتذہ		اجرام فلکی
۱۱۲	ہمیں ٹرینڈ اساتذہ کی ضرورت ہے جو غیر ممالک میں خدمت کے لئے جائیں	۳۰۷	اجرام فلکی کی بناوٹ اور اس میں حکمت

۲۰۷، ۲۰۳، ۱۵۸، ۱۵۱ تا ۱۴۹	اسلام	ہمیں ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو کم
۱۸۰ تا ۲۷۸، ۲۷۶، ۲۶۴، ۲۵۰، ۲۱۲، ۲۰۹		تخواہ پر مشرقی افریقہ کے ممالک کے
۲۵۹، ۲۵۳، ۲۸۷، ۳۵۵، ۳۰۱ تا ۲۹۸، ۲۹۶		سکولوں میں جا کر کام کریں
۶۵۵، ۶۵۱، ۶۵۰، ۵۴۷، ۶۱۲، ۶۰۴، ۵۹۹		
۶۶۲، ۶۵۹، ۶۵۷		استعداد
۲۱۵	صرف اور صرف اسلام کا خدا ہی زندہ خدا ہے	اپنی اپنی استعداد کے مطابق صفات باری
	اسلام کے استحکام اور قیام کا انحصار خدائے	کے مظہر بنو
۲۲	جی و قیوم کی طاقتوں پر ہے	اپنی قوتوں اور استعدادوں کو آنحضرت ﷺ
	ہر طاقت جو اسلام کی بڑھتی ہوئی عزت کے	کے اسوہ کے مطابق کمال تک پہنچاؤ
۷۴	راستہ میں حائل ہوگی ذلیل کر دی جائے گی	جہاں تک طاقت اور استعداد ہے اسے
	خدائے تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجز	انتہاء تک پہنچاؤ راستہ میں نہیں چھوڑنا
۱۵۰	اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں	اپنی طاقت اور قوت، اپنی استعداد کے
	خدائے تعالیٰ ہم جیسے عاجز بندوں کو بھی اسلام کی	مطابق پورا زور لگا دینا یہ مجاہدہ ہے
۱۵۴	صدافت کے ثبوت میں استعمال کر سکتا ہے	قوتوں اور استعدادوں کی کمال نشوونما کے لئے
	جماعت احمدیہ نے تمام ادیان کے مقابلہ میں	جس چیز کی ضرورت تھی وہ رب العالمین نے
۱۶۷	اسلام کی حقانیت اور صدافت کو ثابت کرنا ہے	پیدا کر دی ہے
	دُنیا کے لئے تباہی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے	ہمارے اندر اطاعت کی قوت اور استعداد
۲۱۱	کہ وہ اسلام کی عافیت بخش آغوش میں آ جائیں	اور صفت اور خلق ہونا چاہیے
	محمد رسول اللہ ﷺ کی غلامی میں آ جاؤ اور	دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص نے
۲۱۲	پاک دل اور پاک ارادہ ہو جاؤ	اپنی قوتوں اور استعدادوں کی نشوونما اس لئے نہیں کی
	روس کے رہنے والوں کی اکثریت اسلام کی	کہ اُس کے رب نے اسے بھلا دیا
۲۱۲	طرف مائل ہو جائے گی	نوع انسانی میں استعداد اور قوت ہے کہ وہ
	اسلام ہی مغربی ممالک کے لئے مستقبل کا	صفات الہی کی مظہر بن سکیں
۲۱۴	مذہب ہے	
۲۱۵	صرف اور صرف اسلام کا خدا ہی زندہ خدا ہے	اسٹیٹ بینک آف پاکستان

۲۴۵	اللہ تعالیٰ نے سارے نئے علوم کو اسلام کا خادم بنایا ہے	۲۱۵	اسلام کو دلائل کا ہتھیار اور آسمانی نشانوں کا ہتھیار دیا گیا ہے
۲۵۹	اسلام کا محبت کا پیغام غالب آ کر رہے گا	۲۱۵	اسلام دنیا میں جنگ کرنے کے لئے نہیں بلکہ جنگوں کو روکنے کے لئے آیا ہے
۲۵۹	نہ اسلام خطرے میں ہے نہ اسلام کی تمہیں کچھ فکر کرنی چاہئے اپنی فکر کرو	۲۱۸	اسلام اور احمدیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر سے اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرے
۲۹۷	ہم اسلام کی بجائے اشتراکیت کو رائج کریں گے کوئی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا	۲۲۶	اسلام دنیا میں رضا کارانہ خدمت سے پھیلا کوئی وہاں Paid مربی نہیں بھیجے گئے تھے
۵۰۱	اسلام کہتا ہے کہ امیر ہو یا غریب خدا کا بندہ ہے سب کو حق ہے کہ ان کی استعدادیں کمال تک پہنچیں	۲۹۸	اسلام میں کوئی شخص نہ امیر ہے اور نہ غریب اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا
۵۰۲	اسلام تو دنیا کے ان دکھوں کو دور کرنے کے لئے آیا ہے جو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کئے	۲۷۱	اسلام مخالف قوتوں کے مقابلہ کے لئے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے
۵۰۲	اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ظلم کو مٹا کر دوسرا ظلم نہیں کرنا ایک محرومی کو دور کر کے دوسری جگہ محرومی پیدا نہیں کرنی	۲۷۳	اسلام جس اللہ کو پیش کرتا ہے وہ تمام صفات حسنہ کا جامع اور تمام نقائص اور تمام برائیوں سے پاک اور منزہ ہے
۵۰۲	اسلام نے جو حسین تعلیم دی ہے وہی صداقت اور وہی حق ہے اور وہی دکھوں اور دردوں کا صحیح علاج ہے	۴۱۶	اسلام سے زیادہ شفقت ہمدردی اور غم خواری کوئی اور ازم انسان کو نہیں سکھاتا
۵۰۳	اسلام دکھ پیدا کر کے دکھ دور نہیں کرتا بلکہ ساروں کے دکھ دور کر دیتا ہے	۴۱۷	دنیا کی نوجوان نسل احمدیت کی اور اسلام کی ہے یہ تو اسلام کو ملے گی
۵۰۳	اللہ تعالیٰ اسلام کو انسان کے لئے رحمت بنا کر بھیجے والا ہے اس کو فتنہ و فساد کا موجب بنانے والا نہیں	۴۳۹	نہ عیسائی اپنے بچوں کو بچا سکتا ہے اور نہ ہندو اپنے بچے کو بچا سکتا ہے یہ نسل تو اسلام کی ہے یہ تو اسلام کو ملے گی
۵۷۴	بنانے والا نہیں	۴۳۹	

	اسوہ حسنہ	ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی طاقتوں اور استعدادوں کو ان کے کمال تک پہنچائے
۲۴۹	جب تم بہترین نمونہ ہو گے تب دنیا تمہاری طرف جھکے گی اور مائل ہوگی	۵۷۸
	اشاعت	۵۸۸
۲۹۱	ضروری کتب کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے	۶۰۵
۴۴۲، ۴۴۱	کتب کی کثرت سے اشاعت سے مراد یہ ہے کہ نئے سے نئے علوم نکلیں گے	۶۰۵
	چودہ سو سال کی کتب کے مقابلے میں اس زمانہ میں شاید ایک ماہ میں ان سے زیادہ کتب شائع ہو جاتی ہیں	۶۰۶
۴۴۱	اشتراکیت	۶۱۸
۴۹۱	اشتراکیت نے جو نعرہ لگایا وہ بظاہر بڑا حسین ہے لیکن ضرورت کی تعریف نہیں کی گئی	۶۵۰
۴۹۲	اشتراکیت نے غلط فہمی ہے کہ اشتراکیت اس کے دکھوں کا مداوا ہے ایسا ہرگز نہیں	۶۵۱
۵۰۱	اشتراکیت کہتی ہے کہ ہم نے امیر کی دولت بھی لینی ہے اور ہم نے اس کی جان بھی لینی ہے	۶۶۰
	اشتہار	۶۷۰
۱۵۲	اشتہار بوعده انعام دس ہزار روپیہ	۶۷۴
	اطاعت	
۲۳۵	ہمارے اندر اطاعت کی قوت اور استعداد اور صفت اور خلق ہونا چاہیے	
	تانیف کی موت سے نجات پاوے اور یہی اسلام کے معنی ہیں اور یہی کامل اطاعت کی حقیقت ہے	
۲۳۹		
		ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی طاقتوں اور استعدادوں کو ان کے کمال تک پہنچائے
		انسان اپنے جسم اور اپنی طاقت کے لحاظ سے ہر دوسری مخلوق سے زیادہ طاقت ور ہے
		اسلام ہر انسان کے حقوق قائم کرتا ہے اور ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے
		ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلامی سوشلزم کے متعلق راہنمائی کرنا یہ ہمارا کام ہے
		جہاں تک کمیونزم پہنچایا جہاں تک چین کا سوشلزم پہنچا اسلام اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے
		خدا نے آسمانوں پر یہی فیصلہ کیا کہ اسلام کے دلائل کو دنیا کے ہر قسم کے دلائل پر فوقیت حاصل رہے
		پہلے صلحاء کی کوشش اسلام کے سورج کی روشنی کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لئے نہیں تھی
		احمدیت کے آنے سے پہلے اسلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کی گردنیں شرم سے جھک جاتی تھیں
		اسلام کی یہ آخری جنگ ہے اور ساری دنیا پر اسلام نے قیامت تک کے لئے غالب آنا ہے
		ساری ملتیں مٹ جائیں گی سوائے ملت اسلامیہ کے
		دنیا میں انشاء اللہ عنقریب سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن اسلام کا ہوگا

		اللہ تعالیٰ (خدا تعالیٰ)
۲۲۹	نیستی کا جامہ پہننا پڑتا ہے	جب انسان اپنی ساری طاقت خرچ کر دیتا ہے تو خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے
۲۳۳	چاہیے کہ جو خدا کہتا ہے وہ تم کرو	ہم کمزور ہیں لیکن جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں
۲۳۸	مونس اور آرام جان قرار دیا جائے	خدا کی راہ میں تمہارے اعمال، اخلاص و ارادات سے پُر اور فساد سے خالی ہوں
۲۵۴	ہمارا اللہ تمام صفاتِ حسنہ سے متصف ہے	خدا کی حمد میں مشغول رہنا اور شکر بجالانا تمہاری عادت بن جائے
۲۵۵	تمام قدرتوں کا مالک ہے	کوئی غلطی ہمارے رب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی
۲۵۵	عاجزی کے وقت ایک وہی ذات ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے	صرف اور صرف اسلام کا خدا ہی زندہ خدا ہے
۲۵۹	ہم عاجز ہیں لیکن ہمارا خدا عاجز نہیں	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار جو ہے وہ تو وہی نہیں سکتا
۲۵۹	کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا ہو	خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہو قطع نظر اس کے کہ اس نے ہم پر کتنے احسان کئے ہر احمدی کے دل میں اپنے رب کے لئے ذاتی محبت پیدا ہونی چاہیے
۲۶۰	ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے	گلاب کے پھول کا حسن اللہ تعالیٰ کے حسین جلووں کی ایک ہلکی اور خفیف سی جھلک ہے
۲۶۰	عاجز اندہ اپنے رب کے حضور جھک کے اسے اپنے حالات اور اپنی تکلیفیں بتائیں	اللہ تعالیٰ کے حسن کی معرفت اگر حاصل کر لو تو تم اس سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے
۲۶۱	اے ہمارے رب! ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچالے اور اپنی پناہ میں لے لے	اگر محبت ذاتی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں
۲۶۲	اللہ تعالیٰ کی گرفت شدید ہے کچل کر رکھ دیتی اور ہلاک کر دیتی ہے	

۲۶۴	اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور کون ہے	سورج میں ذاتی طور پر نہ گرمی ہے اور نہ روشنی ہے یہ تو خدا تعالیٰ کی روشنی کا ایک انعکاس ہے
۲۶۵	تم عاجزی اور تضرع کے ساتھ اس کے حضور سجدہ زیر ہو جاؤ	جو سورج کے ذریعہ ہمیں مل رہا ہے
۲۷۰	اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے موقع پر معجزانہ طور پر مسرت کے سامان پیدا کر دیتا ہے	خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے دلوں کو ہر غیر کی محبت سے خالی کر دو
۳۰۰	جس نے اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیا وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اور روحانی بینائی رکھنے والے کی آنکھ میں معزز بن گیا	متصرف بالا ارادہ خالق اپنی منشاء سے پیدا کرنے والی ذات ہے
۳۰۰	جو خدا سے دور ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتوں سے انہیں نوازتا ہے
۳۰۵	رب کے معنی ہیں پیدا کر کے درجہ بدرجہ مدارج ارتقا طے کروا تا چلا جانے والا	خدا تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ جتنی وسعت ہے اس کے مطابق زیادہ پر میں گرفت نہیں کروں گا
۳۲۷	اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اور اس کے جلوے غیر محدود ہیں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی ہر اس صفت کا بیان کیا ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے	مسکراہٹ کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے
۳۵۹	اپنی درگاہ سے دھتکار دیتا ہے	اللہ تعالیٰ ہر شخص کی قوت اور استعدادوں کو اس کے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے
۳۶۱	اے ہمارے رب! تیری عظمت اور کبریائی نے ہمارے درخت و جود کو جھنڈ کر رکھ دیا ہے	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم کھیتیاں پیدا کرتے ہو؟ تم نہیں پیدا کرتے میں پیدا کرتا ہوں
۳۹۳	اللہ تعالیٰ بغیر مقصود کے لغو طور پر کوئی فعل نہیں کرتا کیونکہ وہ نقص سے پاک ہے	اللہ تعالیٰ آپ کی پیش کش مقبول کرے تو تب اللہ تعالیٰ کی رضائل سکتی ہے
۴۳۳	اللہ تعالیٰ میں تمام صفات حسنہ جمع ہیں اور کوئی عیب اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا	اللہ تعالیٰ خود ہی کام کرنے والے آدمی بھی دے گا میں نے مٹی کے بت گھر کر تو افریقہ نہیں بھیجنے
۴۳۳	اللہ تعالیٰ ہی ہر خیر اور خوبی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے	اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے

۶۰۹	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارا ہے وہ مجھے دے دو جو میرا ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا اور تم غالب آ جاؤ گا	۵۳۰	اصل قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے تعلق قائم کریں
۶۱۳	اے ہمارے پیارے رب! تو ہمیں ہماری غفلتوں اور گناہوں کے بُرے نتائج سے بچا	۵۳۱	ہمارا خدا بڑی قدرتوں والا وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑی طاقتوں والا رب ہے
۶۲۸	خدا تعالیٰ ہماری تھوڑی سے کوشش سے بے شمار نعمتوں کا وارث بنا دیتا ہے	۵۳۳	اللہ تعالیٰ سے تجارت ایک ایسی تجارت ہے جس میں پیسے کے ضیاع کا کوئی خطرہ نہیں
۶۲۹	جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کئے جائیں گے	۵۶۰	اللہ تعالیٰ بدلے ہوئے حالات میں خود معلم بنتا ہے اور انگی پکڑ کر منزل کی طرف لے جاتا ہے
۶۸۰	سب حیلوں سے منہ موڑ کر اس خدا پر کامل توکل اور پختہ اور زندہ ایمان لاؤ	۵۷۰	اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے
۶۸۰	ہمارا خدا دشمن کے دیئے ہوئے ہر دکھ کو سکھ میں تبدیل کر دینے والا ہے	۵۷۰	اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے فضل کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا
۶۸۰	ہمارا خدا ہر آگ کو ٹھنڈی کر دینے والا اور سلامتی سے لبریز کر دینے والا ہے	۵۷۰	اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے دنیا جہاں کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے
۶۸۰	خدا کو کبھی نہ بھولو اس سے کبھی جدائی اختیار نہ کرو اسی میں ہماری زندگی ہے	۵۸۵	خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت اور عرفان کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے
۶۸۰	خدا میں ہمارا سکون اور وہی ہماری جنت اور وہی ہماری روح ہے	۵۸۸	اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو شریعت نہیں دینی تھی اس لئے گھوڑے کو وہ جسم نہیں دیا نہ عقل اور سمجھ
۱۵۱	صفات باری تعالیٰ	۵۹۰	خدا نے رحیم انسان کی کوششوں کو ضائع ہونے سے بچاتا اور سچی کوشش اور محنت کا پھل دیتا ہے
۲۲۹	اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سب مخلوق پر جلوہ گر ہوتی ہیں	۶۰۱	اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو وہ جسم نہیں دیا نہ عقل اور سمجھ
	اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے جلوے دیکھنے کے بعد انسان کا سب کچھ خدا کا ہو جاتا ہے	۶۰۲	خدا نے رحیم انسان کی کوششوں کو ضائع ہونے سے بچاتا اور سچی کوشش اور محنت کا پھل دیتا ہے

۵۹۰	خداے رحیم اپنی رحیمیت کی صفت کے تحت انسانی کوششوں میں کمزوریوں کو دور کرتا ہے	۳۱۰	جو شخص اپنی استعداد کے مطابق صفات باری کا مظہر بن جاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی حاصل کرتا ہے
۵۹۲	خدا تعالیٰ صفت رحمانیت کے تحت بغیر کسی عمل کے فیض پہنچاتا اور نفع پہنچاتا اور نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے	۳۱۰	اپنی اپنی استعداد کے مطابق صفات باری کے مظہر بنو
۵۹۳	انسان کو تمام قوتیں اور طاقتیں صفات باری تعالیٰ کا مظہر بننے کے لئے دی گئی ہیں	۳۱۱	اللہ تعالیٰ کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام کامل اور اچھی صفات کی جامع ہے
۶۶۶	امام مہدی دوسروں کی نسبت شیعوں کا امام مہدی سے زیادہ تعلق ہے	۳۱۱	مظہر اتم بن جائے یعنی اس کے اندر بھی ظلی طور پر تمام صفات الہیہ جمع ہو جائیں
۶۶۷	شیعہ کتب میں امام مہدی کا نقشہ دوسرے فرقوں کی نسبت زیادہ صحیح کھینچا گیا ہے	۳۹۲	بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا مظہر بنانے کے لئے کامل اور مکمل نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے
۴۲۶	امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو غیر محدود ترقیات کے وعدے دیئے ہیں	۳۹۲	اللہ تعالیٰ تمام صفات حسنہ سے متصف ہے
۴۳۷	ہر وہ شخص جو امت محمدیہ میں مذہب یا سیاست کے نام پر فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے ہم اس کی بات کو رد کرتے ہیں	۳۹۳	ہر نبی اللہ تعالیٰ کا مظہر اتم نہیں تھا بلکہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا مظہر تھا
۴۶۷	دنیا ملت واحدہ بن جائے گی پاکستان، ہندوستان اور چین اور روس اور یورپ اور امریکہ اور جزائر کے رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا	۳۹۶	اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں اور پھر ان صفات کے جلوے غیر محدود ہیں
۴۸۱	امام مہدی کے علاوہ کوئی بزرگ امت مسلمہ میں ایسا پیدا نہیں ہوا جسے حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنے سلام کے لئے منتخب کیا ہو	۳۹۷	حقیقت محمدیہ اللہ کی مظہر اتم ہے تمام صفات حسنہ کی جامع ہے
۴۸۲		۵۸۱	اگر تمہاری کوششوں کے نتیجہ میں تمہاری زندگی پر خدا تعالیٰ کی صفات کا رنگ نہیں چڑھا تو تمہاری کوشش غلط ہے
		۵۸۵	انسان کو اپنے دائرہ استعداد کے اندر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے لئے پیدا کیا ہے

۳۲۸	انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ آنحضرت ﷺ میں جمع تھے	۴۹۸	اب اگر دنیا ملت واحدہ بن جائے گی تو امریکہ والے روس کی خدمت کر رہے ہونگے روس چین کی خدمت کر رہا ہوگا
۴۰۹	ہر نبی کو اس کی قوم کے علاوہ دنیا کی باقی اقوام نے عملاً جھٹلادیا	۵۲۹	جماعت احمدیہ کے ذریعہ ساری دنیا کے احمدی مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں
۴۱۵	ہر نبی پر اتہام لگایا گیا اور ان تہمتوں کو دور کرنے کے لئے سوائے محمد ﷺ کے اور کوئی نہیں آیا	۶۵۲	بہتر فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے ہیں جبکہ دشمن اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے
۴۱۵	ہر نبی فسق و فجور کو دور کرنے اور انذار کرنے کے لئے آیا	۶۷۶	دنیا میں توحید خالص کے پھیلانے کے لئے اکٹھے ہو کر کوشش کرو آپس میں نہ لڑو تاکہ اسلام کو فائدہ پہنچے
۴۱۶	بنی اسرائیل کے نبی ہوں یا ہندوؤں کے نبی ہوں قرآن کریم نے سب کی برأت کر دی	۶۷۶	بنیادی اصولوں پر جن میں ہمارا عقیدہ ایک ہے آپس میں اتحاد عمل کرو
۴۱۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث کیا جائے گا	۵۵۰، ۵۳۹	امراء اضلاع
۴۱۹	وہ رشی جن پر یہ وید اپنی اصل شکل میں اترے وہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی تھے	۱۱۳	امراء اضلاع اور مر بیان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معلومات جماعتوں تک پہنچائیں
۴۱۹	تمام انبیاء جو ہدایتیں لے کر آئے تھے ان تمام کو قرآن کریم نے اپنے اندر جمع کر لیا	۱۱۷	اگر آپ ضلع کے امیر ہیں تو ضلع کی ساری جماعتوں کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی
۴۱۹	تمام انبیاء ضرورت زمانہ کے مطابق ہدایتیں لے کر آئے تھے	۴۷۲	امراء اضلاع کی ذمہ داری ہے کہ تمام اضلاع کی نمائندگی تعلیم القرآن کلاس میں ہونی چاہیے
	انسان		انبیاء
۱۴۶	انسان انسان کو دھوکا دے سکتا ہے لیکن کوئی انسان اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا	۱۲	انبیاء کے کام تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس ہیں
۳۰۸	نوع انسانی میں استعداد اور قوت ہے کہ وہ صفات الہی کی مظہر بن سکیں	۱۶۶	کامل نبی وہ جس نے کامل زندگی دنیا میں گزاری حقیقت میں محمدی تخلیق تیار تھی اور نبوت کی نعمت اس وقت سے آپ کو عطا کی گئی تھی

پ

پادری

آہستہ آہستہ ہر ملک میں اس قسم کے
چھوٹے اور عمدہ پریس لگائے جائیں گے

۶۶۹

۶۰۴، ۴۵۸

پیپلز پارٹی

پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الحاق نہیں ہوا تھا

۴۵۸

ہم نے بعض دوسروں کو بھی ووٹ دیئے

پیشگوئی

عالمگیر تباہی موسم بہار میں ہوگی اور اس کا

۲۵۵

مقابلہ ہی نہیں کر سکتے

پیغام صلح

آئندہ سولہ سالہ عرصہ میں اسلام کے تمام فرقوں سے

عاجزی کے ساتھ پیغام دینا ہے کہ جن باتوں

۶۷۶

میں ہم متحد ہیں ان میں اتحاد عمل بھی کرو

ت

تبلیغ

اشاعت ہدایت کے لئے علم کی نسبت جذبہ

۱۸

کی زیادہ ضرورت ہے

دنیا کے ملک ملک میں پھیل جاؤ اور وہاں تبلیغ

۲۴۸

قرآن کرو اور تبلیغ اسلام کرو

تکمیل ہدایت تو ہوگئی لیکن اشاعت تکمیل ہدایت

۴۷۸

کا وعدہ عملاً اُس وقت پورا نہیں ہوا تھا

ہم آپ کے دل جیتیں گے اور تمہارے پیدا

کرنے والے رب کے قدموں میں جا کر

۵۱۷

رکھ دیں گے

۱۶۴

پادریوں کو دعوت مقابلہ

۲۱۶

پادریوں اور مستشرقین کو مقابلہ کی دعوت

پادری تورات کا مقابلہ پورے قرآن کریم

۳۵۲

سے کیا سورۃ فاتحہ سے بھی نہیں کر سکتے

یورپ میں پادریوں کو تفسیر سورۃ فاتحہ کے

۳۵۲

مقابلہ کا چیلنج

پادریوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ افریقہ

۶۵۱

ہماری جھولیوں میں پڑا ہے

پادریوں نے مسلمان ممالک کو فتح کرتے

ہوئے خداوند یسوع مسیح کا جھنڈا خانہ کعبہ

۶۵۱

پر لہرانے کا دعویٰ کیا

ہندوستان کے پادریوں نے اعلان کر دیا تھا کہ

۶۵۱

دیکھنے کو کوئی مسلمان باقی نہیں رہ جائے گا

پاک تبدیلی

اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل یورپ کے دلوں

۲۱۹

میں پاک تبدیلی پیدا کر رہے ہیں

پاکیزگی

اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح دارین حاصل ہو اور لوگوں

۲۴۹

کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو

پریس

پاکستان میں اعلیٰ پیمانے کی پریس کے علاوہ دو

۶۶۹

اور ممالک میں عمدہ پریس لگائے جائیں گے

تربیت	۳۷، ۳۴، ۳۳، ۲۰، ۱۹، ۱۶	تحریک جدید
تربیت کا اندرونی محاذ ہے اس پر تو نوع انسانی	۱۳۳، ۱۲۸، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۷ تا ۱۰۲، ۶۵	
۶۷۰ جب تک زندہ ہے جنگ جاری رہے گی	۳۷۳، ۳۶۶، ۳۵۱، ۲۸۵، ۲۰۰، ۱۹۸، ۱۸۹، ۱۸۸	
تصاویر	۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۳۸۵، ۳۸۳، ۳۸۰، ۳۷۶	
امت واحدہ بنانے کے منصوبہ کا ایک حصہ	۵۵۵ تا ۵۵۱، ۵۴۴، ۵۴۲، ۵۳۷، ۴۶۵	
۶۷۵ یہ ہے کہ تصاویر کا تبادلہ کیا جائے	۶۳۸، ۶۳۷، ۵۶۹	
تعلیم		تحریک جدید کے اجرا کی غرض دنیا میں ایک
مجھے اس سے غرض نہیں کہ بچے کے	۵	عظیم روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا
اخراجات کون برداشت کرتا ہے مجھے تو اس		تحریک جدید کی غرض اکناف عالم میں
۴۹۴ سے غرض ہے کہ بچہ پڑھ جائے	۱۶	اشاعت اسلام کے سامان پیدا کرنا ہے
تفسیر		تحریک جدید بھی جماعت کا ایک اہم شعبہ
سورۃ فاتحہ میں صد ہا حقائق اور معارف دینیہ	۱۶	ہے اسے ۱۹۳۴ء میں شروع کیا گیا تھا
اور روحانی حکمتیں ہیں		تحریک جدید کو اپنے کاموں کے لئے
۱۶۲ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے مقابلہ کی دعوت	۱۷	مبلغوں اور روپیہ کی ضرورت ہے
۱۶۳ خلفائے احمدیت کی سورۃ فاتحہ کی گئی تفسیر		دلوں کو فتح کرنے کے لئے ہی تحریک جدید
بڑی حسین اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے	۱۷	کو قائم کیا گیا تھا
۳۵۳، ۳۵۱ ہر نوجوان کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر اپنی بغل میں		بیرونی دنیا کی روحانی پیاس کو بجھانا تحریک جدید
۳۵۴ رکھنی چاہئے	۱۷	کے ذمہ ہے
سورۃ فاتحہ کی اقتصادی تفسیر بیان کرنے کی		سات ممالک میں مزید فوری مشن کھولنے کی
ضرورت ہے	۷۶	ضرورت ہے
۳۵۴ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ کے یہ معنی ہیں کہ ایک ایسا شہر جو انسان		تحریک جدید کا اعلان حضرت مصلح موعودؑ
کی نشوونما کے کمال کو پہنچانے کے لئے اچھا ہے	۱۰۲	نے پہلے تین سال کے لئے فرمایا تھا
متنخواہ		۱۹۴۴ء تک تحریک جدید کا سارا بار مرکزی
۱۰۵ جماعتوں پر تھا	۱۰۵	
۳۷۳، ۳۵۱ وکالت تبشیر		
۴۵۶ ہوا ہے لوگ کہتے ہیں یہودیوں نے بنایا ہے	۳۸۹، ۱۳۳	وکالت زراعت

ج

- جامعہ احمدیہ ۵۵۷ تا ۵۵۵، ۲۸۹، ۹۹، ۷۷
- جامعہ احمدیہ جماعت کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ۱۸
- جلسہ سالانہ ۶۱۸، ۳۵۰ تا ۳۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶
- ہم کسی دنیوی میلہ میں نہیں خدا تعالیٰ کی
- محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں ۲
- جب جم غفیر ہوتا ہے تو بعض تکلیفیں بھی
- برداشت کرنی پڑتی ہیں ۲
- آپ روحانی خزانے سے جھولیاں بھرنے
- کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں ۳
- آپ کے جانے کے بعد ہم ربوہ والے کئی
- دن تک اداسی محسوس کرتے ہیں ۱۷۸
- ان ایام میں خصوصاً اور ساری زندگی میں
- عموماً اپنے اوقات کو دعاؤں سے معمور رکھیں ۱۸۲
- جلسہ سالانہ کے انتظامات میں کام کرنے والوں
- کی اکثریت رضا کارانہ خدمت کرتی ہے ۲۵۲
- جلسہ کے یہ بابرکت ایام کوئی دنیاوی میلہ یا
- اکٹھ نہیں ۲۵۹
- تقریر کی تیاری کے لئے مجھے بڑی کثرت
- سے دعائیں کرنی اور استغفار کرنا پڑتا ہے ۲۹۵
- مقرر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تسکین قلب کے
- سامان کرے غفلت سے کام نہ لے ۲۹۵
- محبت اور پیار کا ایک سمندر ہے جس میں ہم نہاتے
- اور اپنی ساری کدورتیں دور کرتے ہیں ۲۹۶

توحید

- خدا کرے رسلاً بعد نسل خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے
- گانے والی اور شرک کے ہر دروازے کو بند کرنے
- والی اقوام اس دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہوں ۵۲۵
- توکل
- کامل توکل اور کامل اُمید ایک مومن بندہ کو
- اپنے رب پر ہوتی ہے ۱۴۰
- مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر توکل نہیں کیا کرتے ۲۵۴
- خدا کا بندہ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو
- وہ ایک ایسی ذات پر توکل کرتا ہے جس میں
- کام کی ساری طاقتیں ہیں ۲۵۴
- توکل کے بغیر ہم اسلام کے مخالفوں کا
- مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ۲۵۵
- ہمارے کم عمر اور نا تجربہ کار مبلغ جب بھی توکل
- کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ
- ان کی مدد کے لئے آسمان سے نازل ہوا ۲۵۶
- ہمیں اپنے رب پر توکل ہے اور دنیا کی کوئی
- طاقت احمدیت کو ناکام نہیں بنا سکتی ۲۵۶

ٹ

ٹیلیکس

- ساری دنیا کے ممالک کے احمدیوں کا آپس
- میں ٹیلیکس کے ذریعہ باہمی تعلق قائم ہونا چاہیئے ۶۷۱

ٹیلیفون

- ٹیلیفون پر پورے یورپ کے تمام مشعوں کو کہو
- کہ خلیفہ وقت نے آپ کو یہ دعائیں بھیجی ہیں ۶۷۲

سردی کی وجہ سے منہ سے بخارات دھواں بن کر نکل رہے ہیں جیسے ہر آدمی سگریٹ پی رہا ہو	۶۷۳	آپ کی وجہ سے ہم نے بہت سی خوشیاں اور برکات حاصل کیں اور اب آپ ہمیں اداس چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں	۴۲۷
مرکز سلسلہ میں جلسہ سالانہ پرا توام عالم کے وفد کی شرکت کے نظام کو مضبوط کیا جائے گا	۶۷۴	اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حافظ و ناصر ہو اور وہ ہر قسم کی تکلیف، دکھ، آفت اور حادثہ سے آپ کو محفوظ رکھے	۴۲۷
اگر ملکی قانون اجازت دیتا ہو تو شامل ہونے والے وفد کے قومی جھنڈے بھی لہرائے جایا کریں	۶۷۵	اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں اور ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھیں	۴۲۸
جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لئے پردرد اور اثر انگیز دعائیں	۶۸۰	سفر و حضر میں اور دوسرے حالات میں اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا حافظ ہو	۴۲۸
جماعت احمدیہ	۵۳۸، ۲۷۰، ۲۹۷	جلسہ سالانہ پر قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے	۴۳۲
جماعت احمدیہ کا ہر فرد معمور الاوقات ہوگا	۲	دنیا کی لالچ کے لئے نہ ہم نے آپ کو یہاں اکٹھا کیا نہ آپ یہاں آئے	۴۳۲
ایک ایسی جماعت کا سنبھالنا جو دنیا کے متعدد ممالک میں پھیلی ہوئی ہے کس قدر مشکل کام ہے	۱۳	جلسہ سالانہ پر آنحضرت ﷺ کے حسن و احسان کے جلووں پر روشنی ڈالی جاتی ہے	۴۳۲
ایک عظیم انقلاب پیدا کرنا اس جماعت کے سپرد ہے	۱۴	آپ اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں	۴۳۹
دنیا کے سارے ممالک میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے کی ذمہ داری اس چھوٹی جماعت پر ڈالی گئی ہے	۱۴	جلسہ سالانہ عام انسانی میلوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اجتماع ہے جس کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے	۵۲۷
افریقہ کے بیشتر ممالک میں جماعت کو بہت ترقی نصیب ہوئی ہے	۱۶	آپ کا یہ اولین فرض ہے کہ ایام جلسہ میں اپنے رب کریم کے حضور عاجزانہ جھکے رہیں	۵۲۹
ہمیں ظاہری حکومتوں اور ملکوں کی ضرورت نہیں			
ہمیں بنی نوع انسان کے دل کی ضرورت ہے	۱۷		
تم اپنے آپ کو فی الحقیقت کمزور اور ناتواں جانو	۳۸		
خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر دم اور ہر وقت اپنی روح گداز رکھو	۳۸		

۱۱۸	جماعت احمدیہ بنی نوع انسان کی بہبود اور فلاح کے لئے ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنے کے لئے تیار ہے	۸۴	اللہ تعالیٰ احمدیوں کو توفیق بخشے کہ کسی بھی علمی میدان میں جب بھی ان کے مقابلہ پر کوئی آئے وہ اس پر بھاری رہیں
۱۱۸	اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت کو قربانی کے بلند معیار پر قائم کیا ہے	۸۷	جو عہد بیعت تم نے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ پختگی سے قائم رہو
۱۱۸	جماعت پر فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے جماعت کے دلوں میں تحریک کی	۹۳	ہمارے رب کا یہی حکم ہے کہ گالی کے مقابلہ میں گالی نہ دو
۱۲۶	اللہ تعالیٰ نے احمدی کو عقل اور فراست بڑی دی ہے	۹۳	تدریجی ترقی الہی سلسلہ ہونے کی دلیل ہے
۱۲۹	جو قوم قربانی کر رہی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس جماعت پر ہوتا ہے	۹۴	ہر نیا سورج ہمارے لئے ترقیات کے ساتھ چڑھا ہے
۱۲۹	جو سلسلہ قربانیوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہو دنیا کی کونسی طاقت ہے جو اسے ہلاک کر سکے	۹۴	خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت بتا رہی ہے کہ ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی
۱۲۹	اللہ تعالیٰ کے فرشتے امریکہ کے ہوائی جہازوں سے جو کہ ویت نام پر منڈلا رہے ہیں زیادہ تعداد میں اس کی مدد کے لئے منڈلا رہے ہوتے ہیں	۹۴	اگر ہمارے عقائد بدل جاتے تو خدا تعالیٰ کا ہمارے ساتھ سلوک بھی بدل جاتا
۱۳۰	جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ کوئی احمدی رات کو بھوکا نہ سوئے	۱۰۰	خلیفہ وقت سے آپ نے عہد بیعت کیا ہے کہ جو نیک کام بتائیں گے اس کی فرما برداری کروں گا
۱۳۱	ہم نیک باتوں میں حکومت وقت کا ساتھ دیتے ہیں	۱۰۵	۱۹۴۵ء تک تمام دنیا میں غلبہ اسلام کے کام کی ذمہ داری صرف مرکزی جماعت پر تھی
۱۳۲	آپ کا فرض ہے کہ حکومت سے تعاون کرتے ہوئے ملک میں امن صلح اور آتش کی فضا قائم رکھیں	۱۰۶	پہلا اور بنیادی کام ہماری جماعت کا اشاعت قرآن ہے
۱۳۳	کوشش کریں کہ ہمارے اپنے دوست اقتصادی اور زرعی میدان میں ترقی کریں	۱۱۴	اپنی قربانیوں کے معیار کو اور قربانیوں کی رفتار کو بڑھاؤ
		۱۱۸	ہماری جماعتی زندگی کا تعلق اپنی زندگیاں قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے میں ہے

۱۹۱	ہر آواز جو مرکز احمدیت سے جماعت کی تربیت کے لئے اٹھتی ہے جماعت کو اس طرف توجہ دینا پڑے گی	۱۳۵، ۱۳۴	دوران سال وفات پانے والے احباب کے لئے دعائے مغفرت
۱۹۴	ہم بے طاقت ہیں ہم میں کوئی علم نہیں اس دنیا کے مقابلہ پر ہم کچھ بھی نہیں	۱۶۷	جماعت احمدیہ نے تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور رحمتیں تم پر ہوں اور ساری دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں تم پاک دل اور مطہر نفس بن جاؤ اور نفس اتارہ کی پلیدیاں تم سے دور ہو جائیں
۲۰۷	ہم تمہارے دل جیت کر اسلام کو پھیلائیں گے احمدیت یعنی حقیقی اسلام اصلاحی تحریک ہے اور اس کا نصب العین دنیا کو قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کی طرف واپس لانا ہے	۱۸۱	تکبر اور خود بینی اور خود نمائی اور خود ستائی کا شیطان تمہارے سینہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے تم خدا کی وہ جماعت ہو جسے اسلام کے عالمگیر غلبہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
۲۱۳	خدا تعالیٰ کی برگزیدہ جماعت میں بنیادی صفات، اخلاق کا ہونا ضروری ہے	۱۸۲	ہر آرزو کے وقت رب کریم سے شہادت قدم کی توفیق پاؤ بس اسی کے ہو جاؤ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے
۲۲۵	ہر فرد جماعت کو چاہئے کہ اپنے اندر صحابہ رسولؐ والی بنیادی خوبیاں پیدا کرے	۱۸۳	خدا کرے کہ تمہارے نفس کی دوزخ کٹی طور پر ٹھنڈی ہو جائے
۲۲۶، ۲۲۵	جماعت احمدیہ میں پائی جانے والی بنیادی صفات کا تذکرہ	۱۸۳	چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے آج اسی کی جان محفوظ ہے جو اس قلعہ میں پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آمدنیوں کو اور ہمارے روپیہ کو ناجائز مصارف سے بچاتا ہے
۲۲۷، ۲۲۶	ہم نے یہ نیت کی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم انشاء اللہ اپنی ذمہ داری ک ضرور نبھائیں گے	۱۸۴	جس قوم نے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اس کو ہر قسم کی عادت سے آزاد رہنا چاہیے
۲۲۶	جماعت احمدیہ کا کام بیت اللہ کی برکات سے ساری دنیا کو مستفیض کرنا ہے	۱۸۷	۱۹۳، ۱۸۷
۲۳۹	ہم نے ہر شخص کو محمد رسول اللہ ﷺ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا ہے		
۲۳۹	شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا طاغوتی قوتیں آپ کو مٹانے اور ناکام بنانے کے لئے ہر کوشش کریں گی		

جماعت احمدیہ پر آنے والے قربانیوں کے	۲۳۹	احمدی وہ ہیں کہ جب وہ کام شروع کرتے	۲۳۹
ایام خوشیوں کے ایام کے ساتھ بالکل لگے	۲۳۹	ہیں چھوڑتے نہیں انجام تک پہنچاتے ہیں	۲۳۹
ہوئے ہوتے ہیں	۲۳۹	ہم نے ہر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا	۲۳۹
ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکتوں کی بارش	۲۳۹	کرنا ہے	۲۳۹
اپنے پرنازل ہوتی دیکھ رہے ہیں	۲۳۹	ہم نے ساری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے	۲۳۹
ہمارا اصل کام ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو	۲۳۹	ہمیں عادت ہو کام کو انجام تک پہنچانے کی	۲۳۹
اس وقت اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں	۲۴۰	ہر احمدی کے اندر روح مجاہدہ، صفت جہاد	۲۴۰
ہم نے اب اسلام مخالف طاقتوں پر حملہ آور	۲۴۰	ہونی چاہیے	۲۴۰
ہونا ہے	۲۴۱	تمہیں اے جماعت احمدیہ! ایک برگزیدہ	۲۴۱
کسی وقت فخر اور غرور کے جذبات تمہارے	۲۴۱	مقام عطا کیا گیا ہے کہ اس جماعت میں	۲۴۱
دل میں پیدا نہ ہوں	۲۴۱	شامل ہونے کی توفیق عطا کی	۲۴۱
خلوص، کوشش اور حسن تدبیر کے ساتھ آپ کی	۲۴۱	تم خدا اور اس کے دین کی راہ میں اپنی تمام	۲۴۱
تسکین کے سامان پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے	۲۴۱	طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں اور	۲۴۱
ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں نازل ہوتی	۲۴۱	اموال اور عزتوں کو خرچ کرو	۲۴۱
دیکھی ہیں	۲۴۲	جماعت احمدیہ کی اس رنگ میں تربیت کی	۲۴۲
احمدیت اور اسلام میں مالی لحاظ سے کوئی	۲۴۲	جائے جس طرح صحابہ کی کی گئی تھی	۲۴۲
غریب نہیں	۲۴۲	تم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر تمام دنیا	۲۴۲
جماعت احمدیہ میں نہ اضافی طور پر کوئی زیادہ معزز	۲۴۲	میں پھیل جاؤ	۲۴۲
اور نہ اضافی طور پر کوئی زیادہ غریب ہے	۲۴۲	جماعت احمدیہ میں رضا کارانہ خدمت کی	۲۴۲
اسلام اور احمدیت میں سب ایک جیسے معزز ہیں	۲۴۲	روح پختہ طور پر پیدا ہونی چاہیے	۲۴۲
جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والا ہر شخص	۲۴۲	ہر سورج جو اس دنیا پر چڑھے گا وہ جماعت	۲۴۲
قابل صد عزت و احترام ہے	۲۴۲	احمدیہ کی ترقی پر ایک گواہ بن کے چڑھے گا۔	۲۴۲
دنیا کی فکروں سے بھی آزاد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ	۲۴۲	انشاء اللہ	۲۴۲
کے فضلوں کے بھی وارث بن جائیں	۲۴۲		۲۴۲

۴۲۸	جماعت کے ہر فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جماعت ایک وجود ہے اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں	۳۴۸	نیستی ہمارے وجود کی اصلیت اور حقیقت ہے جب تک قوم شکر کے اس مقام پر رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتی چلی جائے گی
۴۵۲	اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنی زندگیوں، اپنے اوقات اپنے دنوں اور اپنی راتوں کو معمور کر دو	۳۶۳	انڈونیشیا کی جماعت کثرت تعداد اور کثرت ایثار اور قربانی کے لحاظ سے آپ کے مقابلہ میں کھڑی ہے
۴۵۲	جو ملے ہم ایک سال میں گزارتے ہیں وہ محدود ہیں لیکن نعمتیں غیر محدود ہیں	۳۷۰	جماعت احمدیہ کی ترقی حاصل کرنے کے لئے نشان آسمانی اور تائیدات سماوی کی ضرورت ہے
۴۵۳	آپ کو ابراہیمی پرندے بننا پڑے گا تب ہمارے کام پورے ہوں گے	۳۷۱	جماعت یہ انتظام کرے کہ کثرت سے بچے جامعہ احمدیہ میں داخل ہوں
۴۶۱	جماعت کی دوسری نسل کے اوپر بھی کم ذمہ داری نہیں کیونکہ ابھی خلافت کا سلسلہ جاری ہے	۳۷۳	ہم ایک غافل انسان کے دشمن نہیں ہیں ہم ناپاکی کے دشمن ہیں
۴۶۱	دنیا کے نعروں کا جماعت پر کیا فرق پڑا یا کیا پڑسکتا ہے	۴۲۸	ہم بدی کے دشمن ہیں لیکن ہم بد کے دشمن نہیں
۴۶۹	جماعت احمدیہ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا خون ہے	۴۲۸	ہم اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے کے بھی دشمن نہیں ہاں ان کی گالیوں کے ہم دشمن ہیں اس بدی کے ہم دشمن ہیں
۴۶۹	تم تو اچھے خادم ہو آج نہیں تو کل دنیا تمہیں پہچانے گی	۴۲۹	اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں اپنی کامل قدرتوں کے نظارے دکھاتا تھا
۴۷۰	دنیا تم سے جو مرضی ہے دشمنی کرتی رہے تم کسی کے دشمن نہیں ہو تم تو خادم ہو	۴۲۹	عزیز از جان بھائیو، بہنوں اور بچو! ہمارے محبوب و مقصود رب کریم کے آپ پر ہزاروں سلام ہوں
۴۷۰	جماعت احمدیہ کے لئے آج تمام دنیا کے دل جیتنے کا پہلا وسیلہ شرف انسانی کا قیام ہے	۴۳۱	اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ دے گا کہ قیامت تک تمہاری نسلیں تم پر فخر کریں گی
۴۸۹		۴۳۹	

جماعت احمدیہ کے ذریعہ ساری دنیا کے احمدی	جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں آج تمام دنیا
۵۲۹ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے	کے دل جیتنے کا دوسرا وسیلہ مساوات انسانی
مخالف ہمیں مارنے کی فکر میں ہیں اور ہم ان	۴۸۹ کا قیام ہے
۵۳۰ کو زندہ کرنے کے غم میں گھلے جاتے ہیں	جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں آج تمام دنیا
اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیشہ ہمیں بشارتیں دیں کہ	کے دل جیتنے کیلئے تیسرا وسیلہ ہمدردی اور
۵۳۱ دشمن خواہ کتنا بڑا ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں	۴۸۹ غم خواری کرنے کا دیا گیا ہے
ترقیات کے دروازے کھل چکے ہیں اب	ہم نے انشاء اللہ اسلام کی حسین تعلیم کے
۴۹۰ ہمارا کام ہے کہ ان دروازوں میں داخل ہو	مطابق عمل کرنا اور کروانا ہے
۵۳۱ کر اس شاہراہ پر تیز سے تیز چلتے جائیں	ہم نے روحانی، اخلاقی، حسن تعلیم اور
اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسے مادہ سے بنایا	احسان کے ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں کے
ہے کہ جس کے اجزاء آج کا سائنس دان	۵۰۰ دلوں کو جیتنا ہے
۵۴۵ پتہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ ہے کیا چیز	ہم ساری دنیا میں قرآن کریم کے تراجم
جس مادہ سے احمدی بنا ہے اس کو سائنس دان	۵۱۱ پھیلائیں گے
۵۴۵ نہیں پہچان سکے اور نہ پہچان سکیں گے	گورنمنٹ ہسپتال میں مثلاً دو انیاں اچھی ملتی ہوئیں
ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جماعت احمدیہ کو	توجہ، نرسنگ اچھی ہوتی ہوگی لیکن وہ دعا نہیں مل
۵۵۱ اپنے اثر و رسوخ اور خدمت میں زیادہ پاتا ہے	۵۲۱ سکتی جو احمدیہ کلینک میں مل سکتی ہے
ترکوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں	آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں
۵۵۳ نے احمدیت کا پیار پیدا کیا ہوا ہے	جماعت احمدیہ کی تعداد ایک کروڑ سے آگے
دُنیا تئوریوں پر چڑھا کر اور سرخ آنکھیں	۵۲۸ نکل چکی ہے
نکال کر تمہاری طرف دیکھتی ہے تم اس کی	اُمت واحدہ ایک ایسا جسم بنا دیا جائے گا کہ
۵۸۵ طرف مسکراتے چہروں سے دیکھو	جس کی اگر ایک انگلی بھی دکھے تو سارے
ہمارے پروگرام بنی نوع انسان کی خدمت کیلئے	۵۲۹ جسم میں درد پیدا ہوتا ہے
۵۹۶ ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے	افریقہ کے بسنے والے جن کو دنیا نے دھتکار دیا تھا
ہم دنیا سے شکر گزاری کے متمنی ہیں نہ	اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو آلہ کار بنا کر انہیں دنیا
۵۹۷ کسی سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں	کے سفید و سرخ اور گندمی رنگ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا
	۵۲۹

۶۵۸	دنیا انشاء اللہ احمدیت کے ذریعہ ان نشانوں کو دیکھتی چلی جائے گی	۵۹۷	ہم تو خدا تعالیٰ کے بندے بن کر بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے میدان جہاد میں برسرا پیکار ہیں
۶۶۰	جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے کے مواقع میسر آئے	۶۰۶	میں احباب جماعت سے کہتا ہوں کہ تم پیار سے دلائل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو
۶۶۶	آج نہیں تو کل لوگوں نے احمدیت کی طرف آنا ضرور ہے	۶۱۴	دنیا بھی یہ جان لے اور دنیا بھی یہ پہچان لے کہ ہمارا رب اور اُن کا رب جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے
۶۷۵	Movies پر وجیکٹر پر دکھائیں آپ کو پتہ لگے کہ احمدیت کتنی ترقی کر رہی ہے	۶۲۰	جو ذمہ داریاں جماعت احمدیہ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں جب سے حضرت آدمؑ کی پیدائش ہوئی اتنی ذمہ داریاں کسی قوم پر نہیں ڈالی گئیں
۶۷۸	جس قدر روپیہ کی ضرورت ہے آدمیوں کی ضرورت ہے جس قسم کے دماغوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دے گا انشاء اللہ تعالیٰ	۶۳۳	خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم منافق نہیں ہمارے اندر نور ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت سمندر کے پانیوں سے زیادہ موجزن ہے
۶۷۸	اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دین کی اشاعت کا کام کرو کام میں فرشتوں سے کرواؤں گا اور کریڈٹ تمہیں دے دوں گا	۶۳۴	اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی ہوا چلی ہے اور ہم دنیا میں پھیل رہے ہیں
۶۸۰	خدا کی جماعت ہو کر کسی اور کی طرف نہ دیکھو اس کی مانو اس کا عرفان حاصل کرو	۶۳۷	اللہ تعالیٰ کی قادرانہ مدد اور نصرت اس جماعت کے شامل حال ہے
۶۸۰	اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تم پر اس قدر نزول ہوگا کہ تمہاری زندگیوں کے لمحات میں ان کا شمار نہ ہو سکے گا	۶۴۱	ہم نے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اور نہ آج تک پھیلائے ہیں نہ کبھی پھیلائیں گے
۶۸۱	اللہ تعالیٰ احمدیوں کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان کا دل خدا اور محمد ﷺ کے لئے جیتنے کے سامان ان کو میسر آئیں	۶۴۱	یہ عجیب لوگ ہیں یہ باہر سے آئے ہیں حکومت پیسہ دیتی ہے اور یہ لیتے نہیں ہیں
۶۸۱	آپ کی درود یوار سے برکتوں کے سوتے پھوٹیں اور دنیا آپ سے فیض حاصل کرے	۶۴۱	اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہم نے تو ہر دینی اور دنیوی حسد اُسی سے حاصل کرنی ہے
		۶۵۱	احمدیت کے آنے سے پہلے اسلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کی گردنیں شرم سے جھک جاتی تھیں

۶۳۷، ۵۵۵، ۵۵۴	حدیقۃ البشیرین	جیسا کہ خدا نے وعدہ دیا ہے وہ اپنی رحمت اور برکت اور فضل سے آپ کے نفوس میں برکت ڈالے
۳۰۰	حقارت کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو اور کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو	۶۸۱ جمعہ
۲۳۵، ۲۲۵	خانہ کعبہ	جمعہ کے اجتماع کے موقع پر قبولیت دعا کی گھڑی آتی ہے
۱۹۰	بیت اللہ کی از سر نو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ کروائی گئی تھی	۲ جنت
۲۲۵	تعمیر بیت اللہ کے عظیم الشان مقاصد	جس جنت کا وعدہ ہمیں اسلام دیتا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور اخروی زندگی سے بھی ہے
۲۲۶	برکات بیت اللہ سے دنیا نے بعد کی صدیوں میں بھی فائدہ اٹھایا	۲۶۴ جہاد
۲۲۶	تعمیر بیت اللہ کی برکات سے بنی نوع انسان کو روشناس کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو قائم کیا ہے	اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو ورنہ یہ بزرگی تم سے واپس لے لی جائے گی
۲۲۶	خدمت	۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰
۲۵۲	جلسہ سالانہ کے انتظامات میں کام کرنے والوں کی اکثریت رضا کارانہ خدمت کرتی ہے	۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰
۲۵۳	ہمیں انتہا کی قربانی دینی پڑے گی اور ان قربانیوں کی بنیاد رضا کارانہ خدمت پر ہونی چاہیے	۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰
۲۵۳	مضبوط ہونا چاہیے	۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰
۲۹۵	انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے	۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰
		ح
		حبر رسول
		احمدیوں میں نبی کریم ﷺ کی محبت نمایاں ہونی چاہیے
		۲۲۹
		اپنی ساری محبتوں کو خدا اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دو
		۲۳۰
		۲۶۳
		۵۲۳
		حجۃ الوداع کی نصاب

جماعتی کاموں میں فیصلہ کرنا صرف خلیفہ وقت	جماعت میں مختلف شکلوں میں امداد کی جاتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار ہے کسی پراحسان جتنا مقصود نہیں ہر دوسرے شخص کی خدمت کرنا خدمت کے مواقع اور دروازے پیدا کر دیتا ہے
۱۰۱ کا کام ہے کسی اور کا نہیں	۵۴۳
۱۰۱ فیصلہ کرنا کہ کونسے مقام یا کون سے ملک میں کونسا طریق احسن ہے خلیفہ وقت کا کام ہے	۶۰۸
۱۰۱ خلیفہ وقت امر بالمعروف کا مرکزی نقطہ ہے خلیفہ وقت کی طرف آپ کے کان اور آنکھیں ہونی چاہئیں	۶۰۸
۱۰۲ خلیفہ وقت کے احکام کو ماننا ہر ملک کے احمدیوں پر فرض ہے	۶۰۸
۱۱۴ جس کو اللہ تعالیٰ جماعت کا سربراہ بناتا ہے اس سے جماعت کے لئے نقصان دہ حرکت سرزد نہیں ہونے دیتا	۶۶۵
۱۲۶ جو شخص خلفاء سلسلہ احمدیہ اور دوسرے بزرگوں کی کتب دیکھنے کی عادت نہیں ڈالتا وہ روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے	۱۲
۲۸۹ ضرورت وقت کے لحاظ سے خلیفہ وقت کا پیغام بھی قرآن کریم کی تفسیر ہی ہے	۱۲
۲۹۶ خلیفہ وقت کا پیغام جو مختلف موقعوں پر وہ دے آپ کے پاس فوری آنا چاہئے	۱۲
۲۹۶ کوئی خلیفہ اور نائب ایسا نہیں جو اس کی صفات کا مظہر نہ بنے	۱۵
۳۰۸ ہر لمحہ اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت ساتھ نہ دے تو خلافت کی ذمہ داری نہیں نبھائی جاسکتی	۱۵
۳۴۴	۲۰
	۱۰۰
	جماعت میں مختلف شکلوں میں امداد کی جاتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار ہے کسی پراحسان جتنا مقصود نہیں ہر دوسرے شخص کی خدمت کرنا خدمت کے مواقع اور دروازے پیدا کر دیتا ہے بے نفس اور بے لوث خدمت کرنا چاہئے کسی سے کچھ نہ مانگیں دینے والا تو خدا ہے وہ بہت کچھ دے دیتا ہے ہم تو نوع انسانی کی خدمت کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور کسی سے ہمیں دشمنی نہیں خلیفہ وقت نظام جماعت کی پوری ذمہ داری خلیفہ وقت پر ہوتی ہے خلیفہ وقت کا کام نیابت، ماموریت اور نبوت کا ہے خلیفہ وقت کو جماعت کے مخلصانہ مشوروں اور دعاؤں کی ضرورت ہے جو کام خلیفہ وقت کا ہے وہ ایک صدر انجمن تو کیا ہزاروں انجمنیں بھی نہیں کر سکتیں جو کام خلیفہ وقت کا ہے وہ صدر انجمن احمدیہ اور دوسری تنظیمیں نہیں کر سکتیں جماعتی نظام کی نگرانی کا کام خلیفہ وقت کے سپرد ہے خلیفہ وقت سے آپ نے عہد بیعت کیا ہے کہ جو نیک کام بتائیں گے اس کی فرمانبرداری کرونگا

۴۳۰	اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کر کے ساری دنیا کے گرد احاطہ کر لیں	۳۴۴	خلافت حقہ راشدہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خوف، خطر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے
۶۸۰	اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ جھکنا اور اس سے دعائیں کروا سنی سے مانگو	۴۶۱	جماعت احمدیہ اجتماعی وجود ہے کہ خلیفہ وقت اور ساری جماعت ایک وجود کا حکم رکھتی ہے
۱۴۶	درمیان فیصلہ کرے	۶۵۷	اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں خلافت حقہ راشدہ کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور میں ایک خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہوں
۱۴۹	پوپ کو دعوت فیصلہ	۶۷۱	خلافت کا مرکز تم سے کچھ مانگتا نہیں بلکہ وہ تمہیں کچھ دیتا ہے
۱۵۰	لا علاج مریضوں کی بذریعہ دعا شفا یابی کے مقابلہ کی دعوت	و	دعا
۱۵۱	وہ مریض جو ہمارے حصہ میں آئیں گے ان میں سے اکثریت خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا یاب ہو جائے گی	۱۹۷	دعا کے نتیجے میں فوت جذب پیدا ہو جاتی ہے
۱۵۱	جو مریض مخالفین کے حصہ میں آئیں گے ان کی اکثریت موت کا منہ دیکھے گی	۱۹	نتیجہ زیادہ انکسار اور دعا سے نکلتا ہے
۱۵۱	دعوت فیصلہ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعودؑ کی جماعت صداقت پر قائم ہے	۷۷	دوسروں کی خدمت بھی دعا کے ذریعہ کی جاسکتی ہے
۱۶۳	اپنے تمام آسمانی صحیفوں کا مقابلہ ہمارے صحیفہ آسمانی کی پہلی اور مختصر سی سورۃ الفاتحہ سے کر کے دیکھ لیں	۱۳۴	اپنی زمین کے کناروں پر چکر لگاتے ہوئے اور بل جوتے ہوئے خدا سے دعائیں کیا کریں
۱۶۵	بشپ آف لاہور کی دعوت فیصلہ قبول کرنے کا اعلان	۱۳۷	انتہائی مظلومیت اور متضرعانہ دعا اللہ تعالیٰ کی معجزانہ نصرت کو جذب کرتی ہے
	بشپ آف لاہور اور تمام دوسرے بشپ بھائیوں کو ہماری طرف سے دعوت فیصلہ کہ کامل اور زندہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۳۸	انتہائی مظلومیت اور دعا میں انتہائی تضرع اور انتہال اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ ہیں
۱۶۷		۳۷۷	اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا اور بغیر دعاؤں کے بھی ہمارے کام کرتا ہے

۱۱۲	اے میرے بھائی ڈاکٹر و! خدا کے دین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کرو	۱۶۸	ہندوؤں کو دعوت مقابلہ قرآن کریم صدائقوں کا مجموعہ ہے یا وید
۵۲۰	جو ڈاکٹر اپنے مریض کے لئے دعائیں نہیں کرتا وہ بڑا ظالم ہے	۱۷۰	مسلمانوں کو دعوت فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر جانے کے بارہ میں کوئی حدیث نکال کر دکھائیں
	ذ	۱۷۷	مخالفین سلسلہ کو دعوت کہ آؤ سات سال کے لئے ہم سے صلح کر لو
	ذکرا الہی		دنیا
۸۹	تمہارے گھر ذکرا الہی سے معمور اور شیطانی وساوس سے بلند و بالا ہوں	۵۴	دنیا کو مقابلہ کا چیلنج
	حوادث زمانہ کے لحاظ سے جو دکھ انسان کو پہنچتے ہیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ	۲۱۱	دنیا کے لئے ایک ہولناک تباہی مقدر ہے اور دنیا اس سے بے خبر ہے
۵۰۰	ذکرا الہی اور استغفار سے دور ہو سکتے ہیں	۲۲۹	یہ دنیا کی محبتیں عارضی اور بعض دفعہ بیہودہ ہی ہوتی ہیں
	ذیلی تنظیمیں	۲۵۳	آئندہ تیس سال دنیا کے لئے انتہائی نازک ہیں
۲۲	ذیلی تنظیمیں جہاں جماعت قائم ہے اپنی مجلس کو منظم کریں	۳۹۲	دنیا کی ہر شے اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے جو عالمگیر تباہی دنیا کے سر پر اس وقت منڈلا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت سے محفوظ رکھے
۲۲	جہاں جہاں جماعتیں پائی جاتی ہیں وہاں فعال ذیلی تنظیمیں ہونی چاہئیں	۵۲۳	خدا کرے جب ہم نگاہ تصور سے دنیا کو دیکھیں تو ساری دنیا ایک خاندان، ایک جسم اور ایک وجود کی طرح ہمیں نظر آئے
۶۷۴	مہمانوں کے لئے بنوائیں	۵۲۵، ۴۷۷، ۱۶	دہریہ
۲۹۲، ۲۵۲، ۹۹، ۳۴، ۲۱، ۲۰	مجلس اطفال الاحمدیہ		ڈ
۱۱۵	احمدی بچے اپنے مقام کو پہچانیں		ڈاکٹرز
	وقف جدید کا تمام بوجھ پندرہ سال سے کم عمر بچے اور بچیاں اٹھائیں	۱۱۲	ڈاکٹرز تحریک جدید کے انتظام کے ماتحت اپنی زندگیاں وقف کریں

جلسہ سالانہ پر ہنگامی طور پر تھوڑے وقت میں ساڑھے نو ہزار روٹی تیار کر کے لنگر خانہ ۳۰۴ میں بھجوا دی	۲۴۹	جن بچوں کو ان کے گھروں میں دین کی باتیں کثرت سے سنائی جاتی ہیں وہ اچھے بھلے مولوی بن جاتے ہیں
۶۷۴، ۶۳۵	۲۴۶، ۳۴، ۲۱، ۲۰، ۸	مجلس انصار اللہ
۲۹۲، ۲۴۶، ۳۴، ۲۱، ۲۰	۶۷۴، ۵۴۲، ۴۵۱، ۳۲۲	مجلس خدام الاحمدیہ
ر	۲۴۶، ۱۸۸، ۹۹، ۳۴، ۲۱، ۲۰، ۸	۶۷۴، ۶۲۲، ۵۴۲، ۵۳۷، ۴۵۱، ۴۴۸، ۴۴۷، ۲۹۶
رزق		تر بیت کا کام جماعتی رضا کار کے طور پر
رزق کی تقسیم تو رزق کمانے کی اہلیت کے نتیجہ میں ہوتی ہے اور وہ انسان کے اختیار کی بات نہیں	۲۰	خدام الاحمدیہ کے سپرد ہے
۴۵۳	۲۰	احمدی نوجوانوں میں تذلل اور تواضع کا جذبہ اُبھار کر اسے ان کا شعار بنا دیں
توت اور استعداد کی تقسیم کے نتیجے میں مال اور دولت کی تقسیم انسان کے ہاتھ میں نہیں	۲۱	خدام الاحمدیہ کو بھی عجز و انکسار تذلل اور تواضع کا ایک نمونہ ہونا چاہیئے
۴۵۴	۲۱	خدام الاحمدیہ کوئی دنیوی تنظیم نہیں ہے کہ اسے وٹڈو ڈریسنگ اور نمائش کی ضرورت ہو
جلسہ سالانہ کے انتظامات میں کام کرنے والوں کی اکثریت رضا کارانہ خدمت کرتی ہے	۲۱	خدام الاحمدیہ کی اصل اور بنیادی غرض یہ ہے کہ نوجوان احمدی کو یہ احساس پیدا ہو جائے
۴۵۲	۴۴۸	کہ جماعت کی کوشش میں میرا بھی حصہ ہے
ہمیں انتہائی قربانی دینا پڑے گی اور ان قربانیوں کی بنیاد رضا کارانہ خدمت پر ہونی چاہیئے اور ہوگی	۱۰	مجلس خدام الاحمدیہ لاہور
۴۵۳	۱۸۹، ۹۹، ۳۴، ۲۱، ۲۰	لجنہ اماء اللہ
رضا کارانہ خدمت کے جذبہ کو پختہ اور مضبوط کریں اور بیدار رکھیں	۴۴۷، ۳۸۳، ۲۹۶، ۲۴۶، ۱۹۱	
۴۵۳		جلسہ سالانہ پر ہنگامی طور پر چھوٹی تندوریوں
رضا کارانہ خدمت کا جذبہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیئے	۳۰۳	پر رضا کارانہ روٹیاں پکانے کا انتظام کیا
۲۶۳		رمضان المبارک

۶۳۷، ۵۵۱، ۳۸۰، ۷۸، ۶۰	ڈچ زبان	رویا
۶۳۷، ۵۵۳، ۱۹۹، ۱۹۰، ۶۰	ڈینش زبان	بعض اوقات زانیہ عورتوں کو بھی سچی خوابیں
۶۶۷، ۶۶۵، ۲۸۴، ۷۹، ۶۰	روسی زبان	آجاتی ہیں
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی احمدی ایسا		ز
۶۶۵	دے دے جو روسی زبان جانتا ہو	زبان
۶۶۵	روسی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ ہو چکا ہے	دنیا کی ہر زبان میں اسلامی لٹریچر شائع ہونا چاہیے
۳۵۶، ۲۸۴، ۲۷۹	سپینش زبان	۶۶۸ لٹریچر سر دست سوزبانوں میں شائع کرنے کا
۶۶۷، ۶۶۵، ۶۶۴، ۵۵۳ تا ۵۵۲	سواحلی زبان	منصوبہ ہے ویسے اپنی اہمیت کے لحاظ سے
۵۵۴، ۵۵۲، ۵۵۱، ۱۹۰، ۶۱	سوئڈش زبان	۶۶۸ دنیا کی ساری زبانوں میں شائع ہونا چاہیے
۵۵۲، ۱۹۰	سوئڈش زبان	اگلے سولہ سال میں دنیا کی مختلف سوزبانوں
۳۵۵، ۲۰۰	عربی زبان	۶۶۹ میں لٹریچر تیار کرنے کا پروگرام ہے
۶۶۷، ۶۶۶، ۳۸۰، ۳۷۸، ۳۷۵	عربی بولنے والی اقوام کی توجہ یکدم احمدیت	۲۰۰، ۷۸، ۶۱
۲۸۴	یعنی حقیقی اسلام کی طرف ہوئی ہے	۶۶۷، ۵۵۴، ۲۸۴، ۲۷۹
۶۶۶	ہمارے عربی لٹریچر کی بڑی مانگ ہے	۳۵۵، ۱۹۰
۶۶۶	فارسی زبان	۵۴۷، ۳۷۶، ۲۰۰
۲۸۳، ۲۸۰، ۱۹۹، ۷۸، ۶۰	فرانسیسی زبان	۳۸۰، ۲۸۳، ۱۹۹، ۶
۶۷۰، ۶۶۳، ۶۶۲، ۵۱۰، ۳۷۵، ۳۵۶	ہاؤساز زبان	۲۰۱، ۲۰۰، ۶۰
۶۶۶، ۶۶۵، ۶۰۷، ۶۰۵	ہسپانوی زبان	۶۶۴ تا ۶۶۲، ۵۵۱، ۳۷۵، ۳۵۵، ۳۳۶، ۲۷۹
۷۸، ۶۱	یوگوسلاوی زبان	۶۶۴، ۲۸۴، ۷۸، ۶۱
۶۶۷، ۴۶۳	یوگنڈوی زبان	۵۵۴ تا ۵۵۲، ۴۶۳، ۱۹۰
۵۵۲	زکوٰۃ	۲۷۹
۵۱۹	دولت امیر سے لے کر غریب پر خرچ کرو	۶۳۷، ۵۵۱، ۲۷۹، ۲۰۰، ۱۹۰، ۶۰
		۶۶۷، ۶۶۵، ۷۸، ۶۰

س

سزا

قانون نے یہ تو کہا ہے کہ اگر سچا الزام بھی

ہو مگر ثابت نہ ہو تو سزا نہیں ملنی چاہیے

۴۹۷

سکولز

مشرقی افریقہ میں ہائر سیکنڈری سکول کھولنے

کی بڑی اشد ضرورت ہے

۱۱۳

سلسلہ باطلہ

تدریجی تنزل کرنے والا سلسلہ خدا تعالیٰ کی

طرف سے نہیں ہو سکتا

۹۳

سوشلزم

ماسکو میں روسی تہذیب اور ان کی سوشلزم کا

۶۰۵، ۵۰۱

بہترین نمونہ نظر آنا چاہیے تھا جو کہ نہیں تھا

۴۹۲

روسی اشتراکی اخلاق سے جتنا پیچھے تھے اتنا ہی

چینی سوشلزم نے اخلاقیات پر زور دیا ہے

۶۶۵

چینی سوشلزم نے اخلاقیات پر زور دیا ہے

۶۶۵

ایک اور صحیح قدم آگے بڑھاتے تو وہ

روحانیت کے میدان میں پہنچ سکتے تھے

۶۶۵

ش

شدھی تحریک

۱۵

شرک

تم دنیا کے اسباب کو ایسی عزت نہ دو اور نہ ان پر

ایسا بھروسہ کرو کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے شریک ہیں

۳۸

الشركة الاسلامیہ

۵۳۸، ۳۵۵، ۱۸۸، ۹۸

شکر

اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے تین طریق

جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ

کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے

۳۱

شعر

مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا

۱۷

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

۷۳

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

۴۰۰

جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا

۴۱۷

صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا

۴۳۹

اک سے ہزار ہو ویں بابرگ و بار ہو ویں

۵۲۸

سیف کا کام قلم سے دکھایا ہم نے

۵۳۶

گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آ رام دو

۵۹۸

فارسی شعر

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار

۲۲

بنالم بردرش ز اں ساں کہ نالد

۱۴۲

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

۲۷۰

مسلمان را مسلمان باز کردند

۶۶۹

شفا

دوائی نے تو آرام نہیں دینا اللہ تعالیٰ کی

قدرت کے ایک جلوے نے آرام دینا ہے

۵۲۰

اللہ نے شفا دینی ہے ہمارے بعض بزرگوں

نے کاغذ کی گولی بنا کر دی تو پیٹ درد سے

تڑپنے والے مریض کو آرام آ گیا

۵۲۱

صحابہ اپنے سارے اموال اور ساری غیر منقولہ جائیداد مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے	۲۵۰	شفقت علی خلق اللہ	۲۸۸
آپ کو اس قسم کی رضا کارانہ خدمت کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی	۲۵۰	وہ تو اپنے تصور میں نہیں لاسکتے تھے کہ افریقہ میں کوئی ان کے بچوں سے پیار کر سکتا ہے	۲۸۸
صحابہ ایک لمبے عرصہ تک اپنے سارے اموال اوقات، جانوں اور عزتوں کو قربان کرتے رہے	۲۵۰	صبر	۲۳۷
انہوں نے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور اپنے رب کی رضا پر خوش رہے	۲۵۰	صبر کے معنی مصائب پر دوایا نہ کرنے کے بھی ہیں	۲۳۷
”صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا“ بلکہ ہر نسل جو بعد میں آئی وہ صحابہ سے ملتی چلی گئی	۵۲۵	صبر کے معنی نیکیوں پر ثبات قدم دکھانے کے بھی ہیں	۲۳۷
صحبت صالحین		صبر کے معنی رک جانے کے بھی ہیں	۲۳۷
خدا رسیدہ بزرگ انسانوں کی ضرورت ہے جو وہاں جا کر اپنا نمونہ ان کے سامنے رکھیں	۲۷۸	صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد جماعت کو چاہئے کہ اپنے اندر صحابہ رسول والی بنیادی خوبیاں پیدا کرے	۲۲۶، ۲۲۵
صدقات		قرآن شریف صحابہؓ کی تعریفوں سے بھرپڑا ہے	۲۳۹
حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا جب پوری صدقات تمہارے سامنے آئے اسے قبول کرنے کے لئے تیار رہو	۲۱۸	دنیا میں اپنا اور امت مسلمہ کا ایک حسین نام چھوڑ گئے	۲۳۸
صدر انجمن احمدیہ پاکستان	۳۷، ۳۴، ۷	صحابہ جیسی اطاعت خدا اور رسول کی ہم کریں تو خانہ کعبہ کے مقاصد ہم حاصل کر سکتے ہیں	۲۳۸
۳۸۰، ۳۷۳، ۲۸۸، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۳۳، ۱۲۸، ۱۱۴		اطاعت کی روح اس قدر پختہ اور بیدار تھی کہ نشہ کی حالت میں بھی اطاعت کر گئے	۲۳۸
۵۵۴، ۵۴۳ تا ۵۴۱، ۴۵۵، ۳۸۷، ۳۸۵، ۳۸۳		ان میں سے کوئی شخص دوسرے سے پیچھے رہنا پسند نہیں کرتا تھا	۲۳۷
۶۳۹، ۶۳۰، ۶۲۲، ۵۵۵		صحابہ کی زندگیاں روح مسابقت کے حسین مناظر سے بھری پڑی ہیں	۲۳۸
صدر انجمن احمدیہ کے سپرد ایک عظیم کام ہے اور اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے	۱۵		

۶۷۷	صدر انجمن احمدیہ پر ایک عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے اُسے جماعتوں سے ان احکام کی تعمیل کرانی چاہیئے	۱۶	۶۳۳، ۶۳۲، ۵۳۷
۶۷۸	نظارت اشاعت	نظارت اصلاح و ارشاد	۱۹۰، ۱۸۹، ۹۸
۶۷۷	نظارت بیت المال	نظارت زراعت	۶۳۷، ۴۳۶، ۳۸۰، ۲۳۶
۶۷۷	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۱۹۵، ۱۱۸
۶۷۸	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۱۳۳
۶۷۷	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۶۸، ۶۶۱، ۶۶۰، ۶۴۷
۶۷۷	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۴۷
۶۷۷	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۴۸
۱۱۶	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۶۱
۱۳۱	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۶۱
۳۸۹	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۶۱
۴۳۸	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۶۸
۴۹۴	نظارت اشاعت	نظارت اشاعت	۶۷۷

۵۷۰	اس کے فضل کو جذب کرنے کے لئے سر کبھی اونچے نہیں ہوا کرتے بلکہ جھکتے جھکتے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں	۴۹۴	بہر حال محرومی ایک لعنت ہے اور مظلوم ہونا لعنتی بنانے کا ایک آلہ ہے
	عرب		ع
۲۷۵، ۲۷۴	عرب ممالک میں تبلیغ اور بیعتوں کا تذکرہ	۱۸۲	عاجزی
	عزت		تذلل اور فروتنی اور انکسار اور بے نفسی کے نقوش سجائیں
۲۹۹	عزتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ذلتوں کا منبع اس سے دوری ہے	۲۴۰	کمال ادب اور کمال نیستی اور تذلل اختیار کر کے عبادت میں لگ جاؤ
	عزت نفس	۴۴۰	جو شخص اپنے نفس کے عجز کو پہچان لیتا ہے اس کے دل پر تکبر اور غرور حملہ نہیں کیا کرتا
۴۸۳	ہر انسان کی عزت اور اس کے احترام کو قائم کرنے کا نعرہ لگا دیا گیا	۴۴۰	ہر وقت استغفار کرتے رہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہیں
۵۰۹	عزتیں اسی طرح قربان ہوتی ہیں کہ گالیاں سنیں اور نرس پڑیں	۴۶۹	انسان تو عاجز ہے اس کو اپنے عجز کا ہی اقرار کرنا چاہیے
	عفو		اپنی عاجزانہ کیفیت اور عاجزانہ مقام کو نہ بھولیں اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں سے کبھی غافل نہ ہوں
۴۳۸	معاف کرنے کی عادت ڈالو خدا کے بندوں سے پیار کرو	۵۳۰	اللہ تعالیٰ کے فضل کے حصول کے لئے عاجزانہ راہوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے
	علم	۵۷۰	اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لئے اپنی روح کو پانی کی طرح اس کے آستانہ پر بہانا پڑتا ہے
۳۸	تم اپنے علم پر غرور کرو اور نہ اپنے اعمال پر ناز ہمارے بچے دین اور دنیا کے علوم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہیں	۵۷۰	اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لئے بہانا پڑتا ہے
۸۴	اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جلاء پیدا کرے	۵۷۰	دنیا کی ہر مخلوق کو اپنے وجود سمیت لاشیٰ محض سمجھنا پڑتا ہے
۸۴	علم کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہی معلم حقیقی ہے	۵۷۰	

عیادت

بیمار کی عیادت مسلمان پر ایک فریضہ ہے جب وہ اس کے لئے دعا کرے گا تو اس کو عیادت کا ثواب مل جائے گا

۲۹۷

عید

حقیقی عید کے معنی یہ ہوئے کہ خوشی اور

۲۶۹

مسرت کے لمحات تکالیف سے زیادہ ہیں

۲۷۰

عید کے ساتھ تکلیف بہر حال لازم لگی ہوئی ہے

عیسائی

۲۷۶، ۲۵۷، ۲۴۱، ۲۱۰، ۲۰۲، ۱۶

۵۲۵، ۴۷۷، ۴۵۹، ۴۰۸، ۳۷۰، ۲۷۸

۶۶۳، ۶۶۲، ۶۲۰، ۵۵۹، ۵۵۶

عیسائی حکومتوں نے اسلام کے مقابلے میں

۱۵۹

اور عیسائیت کے حق میں دل کھول کر خرچ کیا

عیسائی حکومتوں نے اسلام کے خلاف

نہایت جھوٹا اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا

۱۵۹

ساری دنیا میں کیا

عیسائی حکومتوں نے پادریوں کی سیاسی میدانوں

۱۵۹

میں بھی مدد کی اور پیسہ سے بھی ان کی مدد کی

۱۶۱

ہر قسم کا دجل عیسائیت نے استعمال کیا

میں حضرت مسیح موعودؑ کے نمائندہ اور خلیفہ

ہونے کی حیثیت میں تمہارے ساتھ مقابلہ

۲۱۵

کرنے کے لئے تیار ہوں

عیسائیوں کے پاس سورۃ فاتحہ کے مقابلہ

۳۵۲

کے لئے کچھ نہیں ہے

جو متکبر دماغ تثلیث کا نمائندہ بن کر میرے

۴۴۴

سامنے اٹھتا، اسے توحید کے سامنے جھکنا پڑا

خصوصاً کیتھولکس کو یہ ہدایت ہے کہ احمدی

۴۴۹

بچے سے بھی بات نہیں کرنی

افریقہ میں عیسائیت سو سال سے انہیں کہہ

رہی تھی کہ وہ مساوات کا پیغام لے کر آئی

۴۸۷

ہے مگر وہاں اس پر عمل نہیں کر رہی تھی

اللہ تعالیٰ نے نائیجیریا میں بسنے والوں کو ضرورت

کی ہر چیز دی تھی لیکن عیسائیت نے ان سے

۴۹۰

چھین لی

عیسائی دنیا میں ہمیں ایک آدمی بھی نہیں

۶۵۸

دکھایا جاسکتا جس کا تعلق خدا سے ہو

مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور

۶۷۹

اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا

عیسائیت۔ پادری

اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے ایسے جوابات

مجھے سکھائے کہ وہ ساکت ہو جاتے تھے اور اپنے

۲۱۶

سوالوں کو آگے نہیں چلا سکتے تھے

غ

غریب

اسلام نے کہا کہ غریب کا حق دو اور تم نے

۴۵۵

احسان نہیں لینا، شکر یہ بھی وصول نہیں کرنا

کم از کم وہ تو دے دو جو ہمارا کم سے کم معیار پیٹ

۴۵۵

بھرنے کا ہے اس سے زیادہ بھوکا تو نہ رکھو

ہر خاندان حضرت نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد

۴۵۷

کی روشنی میں ایک شخص کا کھانا نکال سکتا ہے

۶۰۸	غلبہٴ اسلام کے لئے جس قدر مادی ذرائع اور اثر و رسوخ کی ضرورت ہے ہمارے پاس اس کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہے	۴۵۷	ہمارے امیر گھرانوں میں تو ایک کا کھانا دو کیلئے اور دو کا چار کے لئے پورا ہو سکتا ہے
۶۱۲	اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اسلام کی آخری جنگ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے عظیم روحانی فرزند کے ذریعہ جیتی جائے گی	۱۹۴	غذا کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس سے صحت مند جسموں میں صحت مند دماغ اور ہمت والی روح قائم رہ سکتے ہیں
۶۲۱	جب شیطان کی ڈھیل کا زمانہ ختم ہو رہا ہے ہم اس آخری زمانہ میں داخل ہو رہے ہیں	۷۵	غلبہٴ اسلام آئندہ پچیس تیس سال کے اندر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی روحانی انقلاب کو روک نہیں سکتیں
۶۲۱	اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ شیطانی طاقتوں اور اندھیروں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے	۲۷۱	سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا
۶۳۷	شک باقی نہیں رہا ہمارے خدا نے ہمارے اندر ایک آگ لگا رکھی ہے کہ ہم نے اسلام کو مادی دنیا پر غالب کرنا ہے	۴۲۹	اللہ تعالیٰ ہم ناچیز بندوں کو اپنا ہتھیار بنالے اور ہمارے ذریعہ سے دنیا کی انسانیت میں انقلاب عظیم برپا کرے
۶۷۹	سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا	۵۲۴	خدا کرے کہ جب غلبہٴ اسلام کا یہ سورج نصف النہار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ صدیوں اسے وہیں رہنے دے
۶۷۹	سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا	۵۰۰	مہدی معبود کے زمانہ میں آپ کی جماعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ غلبہٴ اسلام کی پیشگوئی کو پورا کرے گا
۶۷۹	اب وہ دن نزدیک ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا	۵۲۴	روحانی سورج جب اپنے سفر میں آسمان کے بلند تر مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہاں ٹھہرتا ہے

غیر مبائعین

غیر مبائعین کو حضرت اقدس کی کتاب

- ۹۲ ”ایک غلطی کا ازالہ“ کے مطابق فیصلہ کی دعوت
غیر مبائعین قادیان چھوڑتے وقت خزانہ
خالی چھوڑ کر گئے
۹۴ غیر مبائعین پر چڑھنے والا ہردن انہیں تنزل
کے گڑھوں کی طرف لے کر گیا
۹۴ غیر مبائعین نے دعویٰ کیا تھا کہ قادیان کے
تعلیمی اداروں پر عیسائیت کا قبضہ ہوگا
۹۴ ہمارے غیر مبائعین دوست ہیں انہوں نے
مہدی کو پایا مگر اس کی عظمت کو نہیں پہچانا
۶۵۶

ف

فراست

- عقل دینا اور فراست دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۱۲۶
فضل عمر فاؤنڈیشن ۱۲۹، ۱۲۸، ۳۷ تا ۳۳
۱۹۵، ۱۹۷، ۲۸۷ تا ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷
۵۶۲، ۲۵۸ تا ۲۵۷، ۵۰۷، ۴۷۰، ۴۶۷، ۴۶۶
۶۷۴، ۶۲۳ تا ۶۲۲، ۵۶۵، ۵۶۳
حضرت المصلح الموعودؑ کے احسانوں کی یاد
۱۹۵ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی
فضل عمر فاؤنڈیشن پاکستان سے ۲۵ لاکھ کی
۴۶۸ تحریک تھی لیکن ستائیس لاکھ ہو گئے
فضل عمر فاؤنڈیشن اس خیال کے اوپر تازیانہ
۴۶۸ تھا جو کہتے تھے کہ اب جماعت مرجائے گی
۱۲۸ فضل عمر فاؤنڈیشن صدر

ق

قرآن پبلیکیشنز

- ۵۵۷ قرآنی
تم اپنے اعمال، قربانیوں اور اپنی جدوجہد پر
۳۸ نکتہ نہ کرو
جس وقت کوئی ملک پورا احمدی ہو گیا تو وہ
کہے گا کہ نظام ہمارے ہاتھ میں دو یا
۹۱ ہمارے مقابلہ میں قربانیاں دو
۱۰۳ قربانی وہی ہے جو موت تک کی جاتی ہے
مرکزی جماعتوں کا قربانیوں کا معیار بہر حال
۱۱۴ دوسری جماعتوں سے بڑھ کر رہنا چاہیے
رضا کارانہ طور پر ہر قربانی خدا تعالیٰ کی اس برگزیدہ
۲۵۳ جماعت کے نظام کے سامنے پیش کر دیں
ہمیں انتہائی قربانی دینی پڑے گی اور ان قربانیوں
۲۵۳ کی بنیاد رضا کارانہ خدمت پر ہونی چاہیے
قلمی دوستی
قلمی دوستی سے بھی ساری دنیا کو امت واحدہ
بنانے میں بڑی مدد ملے گی ہم ایک دوسرے
۶۷۳ کو قریب سے جاننے لگیں گے
قتاعت
۱۹۳ صرف ضرورت پوری کرنے کی عادت ہونی چاہیے
جسم کو اتنا کھانے کو دینا چاہیے کہ وہ اپنے پر
۱۹۳ چربی نہ چڑھائے اور صحت قائم رکھے

۳۰۷	اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین کو ایک خاص مقصد کے لئے اور ایک مقررہ وقت کے لئے پیدا کیا ہے	۲۹۶	قناعت سے بڑی دولت کوئی نہیں اور حرص سے زیادہ کوئی غربت نہیں
۳۰۷	بے شمار سورج ہمارے نظام شمسی کی طرح اس عالمین میں پائے جاتے ہیں	۲۹۸	اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو زیادہ دے گا یا اس تھوڑے میں تمہارے لئے زیادہ برکت ڈال دے گا
۳۰۷	چاند اور سورج کی روشنی ہماری فصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے	۳۰۱	جو حقیقی طور پر احمدی اور مسلمان ہے اس کے دل میں قناعت کے خزانے لاکر رکھ دیئے گئے ہیں
۳۰۸	اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگایا ہے		قوت فیصلہ
۳۹۱	اس ساری کائنات کو ایک کھیل کے طور پر بلا مقصد اور بلا غرض پیدا نہیں کیا گیا	۴۱۳	اللہ تعالیٰ نے حضرت لوطؑ کو قوت فیصلہ اور علم روحانی عطا کیا تھا
۳۹۲	دنیا کی ہر شے چیونٹی سے لے کر ستاروں کے خاندانوں تک کی پیدائش با مقصد ہے	۶۰۰	کوئی فیصلہ نفس کے جوش سے نہیں کرنا چاہیئے ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی منشاء اور اسلامی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیئے
۳۹۲	مجموعی طور پر تمام اشیاء اور کائنات کی پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے		ک
۳۹۷	اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کی بہبود اور فائدہ پہنچانے کے لئے مسخر کر دیا ہے		کارکنان
۴۲۴	گلکسی میں بے شمار سورج اور ان کے گرد جو ستارے ہیں وہ ستاروں کا ایک خاندان بنتا ہے اور اس عالمین میں ایسے بے شمار خاندان ہیں	۴۵۵	ہم اتنی گندم کارکنان کے گھر میں دے دیتے ہیں کہ وہ گھر آٹے کے لحاظ سے سارے سال کا کفیل ہو جاتا ہے
۴۲۴	جب دو گلکسیز کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گن کہتا ہے اور ایک نئی گلکسی پیدا ہو جاتی ہے	۳۵۵	کالج
۲۹۱	کتب ضروری کتب کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیئے	۴۴۹	کالج تعلیم الاسلام کالج گورنمنٹ لاہور
		۳۰۵	کائنات پیدائش عالمین ان عالمین کی پیدائش بلا وجہ اور بغیر مقصد کے نہیں
		۳۰۶	ان عالمین میں بنیادی طور پر تدریجی ترقی کا اصول قائم کیا گیا ہے

۴۹۳	کیونزوم نے جہاں اپنا اثر رسوخ پیدا کیا وہاں ہمیں مسکراہٹ نظر نہیں آئی	چودہ سو سال کی کتب کے مقابلے میں اس زمانہ میں شاید ایک ماہ میں ان سے زیادہ کتب شائع ہو جاتی ہیں	۴۴۱
۵۴۷	گھوڑا پال سکیم گھوڑوں اور ان کی افزائش نسل کی طرف توجہ کرنے کی تحریک	کتب کی کثرت اشاعت سے مراد یہ ہے کہ نئے سے نئے علوم نکلیں گے	۴۴۲، ۴۴۱
۲۹۱	لاہیریری ہر جگہ لاہیریری قائم کرنا بہت ضروری ہے	غیروں کی کتب بھی پڑھنی چاہئیں ورنہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ دوسرے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خادم بنایا ہے	۴۵۰
۲۹۱	میرے نزدیک ایک کمرے کی دیوار سے	کسر صلیب کسر صلیب سے مراد نصلائی کے جھوٹ اور	۴۷۹
۲۹۱	لاہیریری کا کام لیا جاسکتا ہے	بطلان کا اظہار ہے	۴۷۹
۲۹۷	جماعتیں کوشش کر کے اپنی اپنی جگہ لاہیریریاں قائم کریں	سورج اور چاند گرہن کے بارہ میں پیشگوئی ۱۷۵ تا ۱۷۲	۱۷۵ تا ۱۷۲
۱۹۸، ۱۹۷	خلافت لاہیریری۔ ربوہ	کلمہ طیبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	۶۷۶، ۶۳۷، ۴۲۹، ۳۷۶، ۲۷۳، ۱۸۴
۶۷۰	لیگ آف نیشنز	کیونزوم	۶۰۴
۱۸	م ان کی تیاری میں بڑا وقت اور محنت درکار ہوتی ہے	کیونزوم کی کتابوں میں کہیں بھی Needs کی	۴۹۱
۱۸	وہ پوری طرح تعلیم حاصل کر کے تبلیغ و تربیت کے میدان میں اترتے ہیں	تعریف نظر نہیں آئی	۴۹۱
۷۷	مبلغ کے لئے دعا۔ اپنے رب پر توکل اور کبر و غرور سے فقدان کی ضرورت ہے	ماسکو میں کسی ایک شخص کی جسمانی حالت ایسی نظر نہیں آئی جس سے معلوم ہو کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے	۴۹۲
۱۰۱	اگر ان لوگوں نے خلیفہ وقت کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچانی تو اور کون پہنچائے گا	ماسکو میں کسی ایک کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی	۴۹۲
		ساری عمر رو کر ہی گزارنی ہے تو پھر اشتراکیت کا ہمیں کیا فائدہ	۴۹۲

۱۲۳	اور مر بیان اضلاع پر ہے	۱۱۳	کہ وہ تمام معلومات جماعتوں تک پہنچائیں
۱۲۴	مجلس موصیان موصیوں میں تقویٰ کے بلند معیار کو قائم کرنے کی کوشش کریں	۱۱۷	اگر آپ ضلع کے مربی ہیں ضلع کی ساری جماعتوں کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی
۱۲۴	مجلس موصیان ہر وقت چوکس اور بیداری سے جائزہ لیتی رہیں کہ کوئی موصی تقویٰ کے بلند مقام سے نہ گرے	۳۷۳	ہمارے پاس سینکڑوں تعلیم یافتہ مبلغ ہونے چاہئیں اس کے بغیر آج ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے
۱۲۴	مجلس موصیان کی ذمہ داری ہے کہ ہر گھر میں ہر بچہ ہر بڑا مرد اور عورت قرآن کریم سیکھے	۳۷۴	انڈونیشیا جماعت کا مطالبہ ہے کہ کم از کم دس مبلغ فوری بھجوائیں
۱۲۵	مجلس موصیان وقف عارضی کی سکیم اور منصوبہ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں	۳۷۵	بعض مخلص اور فدائی مبلغین اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ آدمی ان پر قربان ہی ہو جائے
۱۲۵	مجلس موصیان نگرانی کریں کہ جماعت اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق وقف عارضی میں حصہ لے	۳۷۵	جماعت کو عقل و فراست والی پاکیزہ روحمیں چاہئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنادے
۱۲۵	مجلس مشاورت رشوری	۵۵۷	ایک مبلغ کو تو ساری کتابیں کم از کم تین دفعہ پڑھی ہونی چاہئیں
۱۲۸، ۱۰	مجلس مشاورت رشوری	۶۸۱	دشمن اسلام کا منہ بند کرنے والے ہوں اور اپنے نور فراست سے دنیا پر غالب آنے والے ہوں
۶۷۸، ۶۶۲، ۶۶۱، ۵۴۴، ۵۴۲، ۵۴۱	مجلس مشاورت رشوری	۶۸۱	اللہ تعالیٰ ان کا رہبر، ان کا معلم ہو۔ ان برکتوں کا اظہار ان کی زبانیں اور قلمیں کریں
	مجلس موصیاں		
	تعلیم القرآن، وقف عارضی اور موصیوں کا انتظام		
۱۲۵	مجلس موصیاں	۱۲۲	دراصل ایک ہی نظام کے تین پہلو ہیں
۲۲۷	مجلس موصیاں		مستورات موصیات الگ تنظیم قائم کریں گی اور
	انسانی تاریخ میں یہ وقوعہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نفرت محبت کے مقابلہ میں جیتی ہو	۱۲۳	ان کی صدر مجلس موصیان کی نائب صدر ہوگی
۴۵۹	مجلس موصیاں	۱۲۳	مجلس موصیان ہر جماعت میں قائم ہونی چاہئے

مخالفین سلسلہ

۲۴۶	جنت کی طرف روح مسابقت کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے چلے جاؤ	۲۱۰	اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو محمد ﷺ کے سایہ تلے آ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے
۲۴۶	مسابقت کی روح پیدا کرنے کے لئے ذیلی تنظیموں کو قائم کیا گیا ہے	۶۰۶	تم کہتے ہو مرزائیوں کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم ہاتھ لگاؤ تم پڑھو تم ہماری غلطیاں نکالو
۲۴۶	روح مسابقت اگلی نسل کے اندر پیدا کرنی چاہیئے	۶۴۸	نوع انسانی کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں شیطانی طاقتوں کا بڑا زبردست حملہ ہوگا
۲۴۶	اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیئے	۶۴۹	شیطانی طاقتیں اپنے قید خانہ سے نکلیں گی اور دجال کا دجل ساری دنیا میں پھیل جائے گا
۲۴۶	ہماری جماعت میں مسابقت قائم ہونی چاہیئے	۶۴۹	یہ آخری جنگ ہوگی جس کے بعد شیطانی طاقتوں کو ہمیشہ کے لئے اسلام کی روحانی طاقت مغلوب کرے گی
۲۴۷	یہ نہیں کہ وہ یہ انعام نہ پائیں وہ بھی پائیں لیکن ہم ان سے زیادہ پائیں ہر ایک کے اندر یہ روح ہونی چاہیئے	۶۴۹	اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی روحانی منصوبہ تیار کر کے زمین پر بھیجے گا جو ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرے گا
۲۴۷	قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے روح، مسابقت کا مظاہرہ کرو تو تم جنت پا لو گے	۶۷۷	ہم مذہب کو کھیل نہیں سمجھتے اور نہ دشمن کے اعتراض کی کوئی پرواہ کرتے ہیں
۲۴۸	ایک کم سے کم معیار پر ہر احمدی فرد اور ہر احمدی جماعت اور ہر احمدی ملک کو لے کر آنا ہے۔ پھر ان کا آپس میں مقابلہ کروانا ہے	۶۱۸	مدرسہ احمدیہ قادیان
	مساجد		مسابقت
۶۱	مساجد انسانی معاشرہ کے اندر بڑا ضروری کردار ادا کرتی ہیں		ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کرو پھر جو خامی رہ جائے اس کی تمہیں کوئی فکر اور غم نہیں کرنا چاہیئے
۳۶۶	مسجد اقصیٰ		تم خیرات کے تعلق میں روح مسابقت کو اپنا سطح نظر بناؤ
۳۶۸	مسجد ڈنمارک	۲۴۵	
۱۰۸	ڈنمارک میں کوپن ہیگن کی مسجد مکمل ہو چکی ہے	۲۴۶	
۵۴۶	مسجد مبارک ربوہ		
	مساوات		
	جتنا حق ایک غریب بچے کو ترقی کا ہے اتنا ہی حق ایک امیر گھرانے میں پیدا ہونے والے ذہین بچے کا ہے		
۵۰۱			

مسکراہٹ

پریشانیوں کو اٹھاؤ اللہ کے سامنے کیونکہ دوسروں کے سامنے تو ہم مسکراتے رہتے

۴۶۲

ہیں ہماری مسکراہٹیں کوئی نہیں چھین سکتا

جس کو اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل ہو اس کے چہرے سے مسکراہٹ کون چھین سکتا ہے

۴۹۳

دوستوں کو ہر ایک سے مسکراتے چہرے کے

۵۸۵

ساتھ ملنا چاہیئے

مسلمان

پڑھے لکھے مسلمان بھی عیسائیت کے رعب

۱۶۱

میں آگئے تھے

آپ پہلے حنفی مسلمان تھے اب تم حنفی احمدی

۵۵۳

مسلمان بن جاؤ گے

مقابلہ

ہر شخص مقابلہ کے میدان میں آئے تھے تو پتہ

۲۲۸

لگے گا کہ کون آگے نکلتا ہے

ملائکہ اللہ

ملائکہ اور ان کی قوتیں بھی انسان کی خدمت

۳۰۸

میں لگی ہوئی ہیں

آسمان کے دروازے بند نہیں کئے جاسکتے نہ

آسمان کے فرشتوں کے نزول پر کوئی پابندی

۳۷۸

لگائی جاسکتی ہے

مواخات

مدینہ میں مواخات

۲۵۰

موت

کوئی شخص موت سے زندگی کے مقابلہ میں

۴۸۹

زیادہ پیار نہیں کر سکتا

مومن

جب اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے تو

۲۹

زمین میں ان کے حاسد پیدا کر دیتا ہے

مومن غیر اللہ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ

۲۵۴

ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں

۲۵۹

مومن کی زندگی کا ہر لحظہ اور لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے

مومن خدا کی راہ میں اپنے اموال خرچ

کر کے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں

۵۶۳

نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں

ن

نجات

خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر تم پر نجات کی راہ

۳۸

ہرگز نہیں کھل سکتی

حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے

۳۲۶

کھولیں اور باقی سب اس کا ظل تھے

ناصرات الاحمدیہ (دیکھئے عنوان ذیلی تنظیمیں)

نصرت الہی

جب انسان اپنے اوپر موت وارد کر لیتا ہے تو

۱۳۹

اس وقت اللہ تعالیٰ کی معجزانہ نصرت ملتی ہے

نصرت جہاں آگے بڑھو سکیم

۶۴۴، ۵۶۱، ۵۵۸، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۰۷، ۴۴۶

۱۱۲	وآقین زندگی غریب نہیں بلکہ دنیا داروں کی نسبت اپنے نتیجے کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں وسوسہ	۵۰۸،۵۰۷،۴۶۹ تا ۴۶۷ ۶۳۹،۵۹۷،۵۶۳ تا ۵۶۲،۵۴۵،۵۴۴،۵۱۱ ۶۶۰،۶۴۲
۲۳۹	چند دن کی زندگی ہے عیش کر لو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ نفس امارہ کے ذریعہ ہوتا ہے	نظام جماعت جماعتی نظام صدر انجمن احمدیہ تحریک جدید
۲۴۳	یورپ کا فلسفہ اور یورپ کا تمدن ہر دو شیطانی وسوسے پیدا کرتے ہیں	۲۰ اور وقف جدید کے مجموعہ کا نام ہے نظام شمسی
۲۴۴	شیطان کے وسوسوں اور شیطانی دباؤ کے محاذ پر ہم نے مجاہدہ کرنا ہے اور اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچانا ہے	۳۰۵ لکھو کھہا سال گزار کے نظام شمسی موجودہ حالت کو پہنچا نفس
۷۷،۳۴،۲۰،۱۹،۱۷،۱۳	وقف جدید	انسان کا نفس اس کو بُری باتوں یا غفلتوں یا کوتاہیوں کی طرف مائل کرتا ہے
۳۸۵،۳۸۳،۳۸۲،۳۸۰،۲۹۳،۲۹۲،۲۵۲ ۶۳۳،۵۴۴،۵۴۲،۵۴۰،۴۶۵،۴۵۵	وقف جدید انجمن احمدیہ میں ابھی پھیلاؤ اور وسعت کی بڑی گنجائش ہے	۲۴۴ نیشنلزم دین کے معاملہ میں نیشنلزم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
۱۹	احمدی بچے اور بچیاں وقف جدید کا سارا بوجھ اٹھالیں	۶۷۱
۱۱۵	ماؤں کی طرف سے وقف جدید اطفال کی تحریک پر والہانہ شرکت	و وصیت
۱۱۶	وقف جدید کے نئے سال کا آغاز	۱۲ وصیت کا مالی نظام جاری کرنے کی وجہ
۳۰۱	وقف جدید معلمین	۱۲۸ تا ۱۲۶، ۷۶ وقف بعد ریٹائرمنٹ کی تحریک
۱۹	ہمیں ساٹھ، ستر، اسی ہزار معلموں کی ضرورت ہے	۴۷۱،۳۸۲
۱۱۵	وقف جدید معلمین اور ان کے خرچ برداشت کرنے کے لئے آپ کی ضرورت ہے	واقفین بعد ریٹائرمنٹ کے لئے تربیتی نصاب کا تعین
۳۹۱	اہل اور قابل معلم وقف جدید کے نظام کے لئے جلد سے جلد مہیا کریں	۱۱۲ وقف زندگی وقف زندگی کی لذت کے مقابلہ میں دنیا کی تمام لذتیں اور سرور چھ ہیں

۱۹۲	وقف عارضی کی تحریک کے تحت قرآن کریم کے پڑھانے کی سکیم کو چلایا جاتا ہے	۵۴۱	نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ وقف کرنا چاہیے
۱۹۴	تر بیت کے لحاظ سے وقف عارضی کا منصوبہ بڑا ہی اہم ہے	۲۹۳، ۱۹۴، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۲۴، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۱۸	وقف عارضی
۲۹۳	سات ہزار واقفین عارضی میدان تربیت میں لاکھڑا کریں گے	۶۳۲، ۶۳۱، ۵۵۰ تا ۵۴۸، ۴۷۲، ۴۷۱، ۳۸۲، ۲۹۴	تحریک وقف عارضی کا مجالس موصیان اور قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی تحریک کا بڑا گہرا تعلق ہے
۶۷۵	ویڈیو Movies پر وجیکٹر پر دکھائیں آپ کو پتہ لگے کہ احمدیت کتنی ترقی کر رہی ہے	۱۱۸	اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بڑے ہی اچھے نتائج نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں
	و	۱۱۹	وقف عارضی کا وفد دو احمدی بھائیوں پر مشتمل ہوتا ہے
	وحی	۱۲۰	کم از کم پانچ ہزار دوست وقف عارضی میں اپنے آپ کو پیش کریں
۶۵۸	یہ کہنا کہ وحی کا دروازہ بند ہے خدا نے اب بولنا بند کر دیا ہے بالکل غلط ہے	۱۲۰	وقف عارضی کے فود نے ہمیں پہلا بڑا فائدہ یہ پہنچایا کہ نہ امیر ضلع نہ مرہی بعض جماعتوں کے صحیح حالات ہمیں پہنچاتے تھے
	ہ	۱۲۱	تعلیم القرآن، وقف عارضی اور موصیوں کا انتظام
۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۳	ہندو	۱۲۲	در اصل ایک ہی نظام کے تین پہلو ہیں
۶۶۷، ۵۲۵، ۴۷۷، ۴۵۹	لگے آٹھ دس سال میں پاکستان میں موجود ہندو اچھوتوں کی اکثریت اسلام قبول کر چکی ہوگی	۱۲۲	وقف عارضی کی ساری تحریک میں جماعت کے بیت المال پر ایک دھیلہ کا بوجھ نہیں ڈالا گیا
۶۳۴	ہیرا	۱۲۲	تحریک وقف عارضی کے واقفین تمام خرچ خود برداشت کرتے ہیں
	جب کان سے ہیرا نکالتے ہیں تو اسے کب فروخت کے لئے بھیجتے ہیں۔ جب تک اس کو پالش نہ کر لیں کٹ نہ کر لیں	۱۲۳	وقف کی تحریک بڑی برکتوں والی ہے
۵۵۶	ی	۱۲۵	تعلیم القرآن میں ہماری بچیاں زیادہ شوق سے حصہ لے رہی ہیں
۵۵۶، ۵۲۵، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۰۹	یہودی	۱۲۵	پانچ ہزار تو کیا اگر ہم چاہیں تو دس پندرہ ہزار واقفین عارضی ہمیں مل سکتے ہیں

اسماء

		آ- ا
۳۱۸	ابوالقاسم	
۲۳۸، ۲۳۷	ابی بن کعب	۳۲۲، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۹
۱۲۸	احمد جان چوہدری امیر جماعت راولپنڈی	۳۳۴، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵
۲۱۳	السخن علیہ السلام حضرت	۲۰۲، ۲۰۰، ۳۹۵، ۳۹۳، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۳۹، ۳۳۵
۲۱۳	آپ پر دروغ گوئی کا الزام لگایا گیا تھا	۶۶۸، ۶۲۰، ۴۹۸، ۴۲۵، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۱۱، ۴۰۷
۲۱۳	آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت میں	۳۲۸، ۳۲۱، ۳۱۹، ۱۳۹
۲۱۳	زندگی گزارنے والے تھے	۲۰۹، ۲۰۲ تا ۳۹۹، ۳۲۲، ۳۳۶، ۳۳۵
۶۲۲	اسد اللہ کاشمیری مولانا	۵۷۷، ۴۲۵، ۴۱۲
۸۳	امۃ الحفیظہ بیگم حضرت سیدہ نواب	خدا تعالیٰ کی تجلی نے آگ کو ٹھنڈک اور
	امری عبیدی شیخ	روح کا سکون بنا دیا تھا
۶۳	احمدیت کے شیدائی اور فدائی	۱۳۹
۱۹۸، ۱۹۷	ام متین مریم صدیقہ حضرت سیدہ	آپ کو تو زندگی میں ایک بار آگ میں پھینکا گیا
۳۲۲	امیر خسرو	آپ بھی بعض صفات باری تعالیٰ کے مظہر
۲۶	اندرسن مراد آبادی نشی	بنے تھے تمام صفات کے نہیں
۲۳۷	انسؓ حضرت	ابوالعطاء جالندھری۔ حضرت مولانا
۱۲۸، ۳۷	انور احمد کالوں چوہدری	۵۵۰، ۱۹۷، ۹۹، ۹، ۸
۲۹۱	انجیل	۴۳، ۴۲، ۴۱
		۳۲۸، ۳۲۱، ۳۱۹
		آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ محمد ﷺ پر قربان کیا
۳۱۸	بالی آفندی شیخ	۲۳۲، ۲۳۱
۶۲۲	برکت اللہ قاضی ڈاکٹر	۲۳۸، ۲۳۷
۶۲۱، ۹۸	بشیر احمدؒ حضرت مرزا قمر الانبیاء	۲۳۸، ۲۳۷
		ابوبکر صدیقؓ۔ حضرت
		ابو طلحہ حضرت
		ابوعبیدہ بن الجراح حضرت

ب

۵۶، ۵۵	مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے	۱۰۹	بشیر احمد آرچرڈ مبلغ سکاٹ لینڈ
۵۶	میں ہی مصلح موعود کی پیشگوئی کا حقیقی مصداق ہوں	۲۰۸	بشیر احمد خان رفیق امام بیت الفضل لنڈن
۵۷	اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلند یوں پراڑتا ہوا دکھائی دینے کی پیشگوئی		بشیر الدین محمود احمد۔ حضرت مرزا المصلح الموعودؑ خلیفۃ المسیح الثانی
۶۱، ۶۰، ۵۹	آپ کے ذریعہ کلام اللہ کا مرتبہ اقوام عالم پر ظاہر ہونا	۹، ۷، ۵، ۳، ۱	۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۳، ۲۵، ۲۴، ۲۹، ۲۰، ۱۷، ۱۶، ۱۰
۶۲	آپ نے اپنے عہد مبارک میں چھیا لیس بیرونی ممالک میں مشن قائم کئے	۷۵، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۶۹، ۶۴، ۶۱، ۵۳، ۵۰، ۴۸	۱۳۳، ۱۲۹، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۲، ۹۶، ۹۵، ۹۱، ۸۰
۶۲	آپ کے عہد مبارک میں بیرونی ممالک میں ۳۲۱ مساجد تعمیر ہوئیں	۳۵۶، ۲۹۳، ۲۸۶، ۲۸۲، ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۵۵، ۱۵۴	۴۴۷، ۴۲۶، ۳۸۰، ۳۷۱، ۳۶۹، ۳۶۵، ۳۶۳
۶۲	آپ کے عہد مبارک میں ایک سو چونسٹھ مبلغین نے بیرون ممالک میں فریضہ تبلیغ ادا کیا	۵۳۸، ۵۳۷، ۵۰۳، ۴۷۰، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵	۶۲۲، ۶۰۶، ۶۰۵، ۵۵۴، ۵۵۲، ۵۲۸، ۵۲۵
۶۲	آپ کے رویا و کشف کی تعداد کم و بیش پانچ سو اور الہامات کی تعداد ۸۸ ہے	۶۶۰، ۶۴۷، ۶۲۸، ۶۲۷، ۶۲۳	آپ کا دماغ ہر وقت جماعتی ترقی اور اشاعت اسلام کی تدابیر سوچتا تھا
۶۵	آپ کی بعض پیشگوئیاں جو میرے بعد ہوگا وہ بھی آدمی ہوگا جس کے زمانہ میں فتوحات ہوں گی	۳۳	خدا شاہد ہے کہ پسر موعود کے شامل حال ایک عظیم الشان نور تھا
۶۷، ۶۶	بچپن سے خواہش تھی کہ اسلام کا جو کام بھی ہو میرے ہی ہاتھ سے ہو	۱۵۶، ۱۵۵، ۴۶	پیشگوئی مصلح موعود کا حقیقی مصداق
۶۷	قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے گا جس میں میرے شاگرد نہ ہوں گے	۴۹، ۴۵	۵۰
۶۷	ربوہ کی سرزمین کا ذرہ ذرہ جسے آپ نے اپنے آنسوؤں اور خون سے سینچا آپ کی اولوالعزمی پر گواہ ہے	۵۲، ۵۱	نور آتا ہے نور کی تشریح
۶۹		۵۳، ۵۲	علوم ظاہری اور باطنی سے پُر کیا جائے گا
		۵۹، ۵۷	

۲۰۳	روزنیل	۷۱	ہمارا دل کا "حلیم" محبوب زمرہ ابرار میں شامل تھا
۵۳۹	روشن دین تنویر شیخ۔ ایڈیٹر الفضل	۹	آپ کے کھولے ہوئے بیرون ممالک مشن
۹۷	زین العابدین ولی اللہ شاہ حضرت سید	۷۵	جو بند ہوئے انہیں دوبارہ کھولا جائے گا
	د۔ ذ		ہم نے حسن و احسان میں مسیح موعودؑ کے اس
۴۱۴، ۳۹۴، ۳۳۲، ۳۲۹	داؤد علیہ السلام حضرت	۳۶۴	نظیر کے جلوے دیکھے ہیں
	آپ انسانوں میں سے بھی بڑے شرف اور	۱۶۴	بلی گرام ہم ڈاکٹر کو دعوت مقابلہ
۴۱۴	فضیلت والے انسان تھے	۱۶۴	بلی گرام ڈاکٹر عیسائیت کی تبلیغ میں بڑے تیز ہیں
	آپ پر یہ اتہام لگا کہ وہ اور یاہ کی بیوی سب	۵۹۱، ۴۱۹، ۴۰۸، ۳۹۴	بنی اسرائیل
۴۱۴	پر عاشق ہوئے اس سے زنا کیا		ت، ث
	اے داؤد کی اولاد! شکر کرو۔ ایسا شکر جو محض		تقی الدین سبکی حضرت شیخ
۴۵۲	زبان سے نہ ہو بلکہ عمل سے کیا جائے	۳۱۷	ڈیڑھ سو کتب کے مصنف (وفات ۱۳۴۹ھ)
۲۹۷، ۱۲۸، ۳۳	داؤد احمد سید حضرت میر	۱۱	ثاقب زیروی (مدیر لاہور)
۶۲۱	دوست محمد شاہد حضرت مولانا		ج
۶۰۴، ۴۶۸	ذوالفقار علی۔ بھٹو	۳۱۷	جلال الدین سیوطی حضرت علیہ رحمۃ
۳۶۹	ذوالقرنین	۱۳۴	جلال الدین شمسؒ حضرت مولانا
	س۔ ش	۶۳	جولیس نائیر ریڑھ صدر
۴۹۱	شالن		ح
۱۶۰	سراج الدین۔ عیسائی	۲۲۴، ۲۲۳	حسین علیہ السلام حضرت امام
۴۵۳	سعد بن ابی وقاصؓ	۲۳۲	حنظلہؓ حضرت
۲۶۸	سعد بن معاذؓ حضرت		ر، ز
۳۳۳	سلمان علیہ السلام حضرت	۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹	رچرڈ گریو
۶۵۵، ۶۵۴	سلمان فارسیؓ حضرت	۱۰	رحمت اللہ صاحب شاگرد شیخ حضرت
۱۸۹، ۳۴	سنگھائے ایف۔ ایم گورنر جنرل گیمبیا	۶۴۴	رشید الدینؒ خلیفہ حضرت

۶۳۹	عثمان غنیؓ حضرت	۵۴۸، ۱۹۷	سیف الرحمن ملک مفتی سلسلہ حضرت
	عرباض بن ساریہ حضرت	۲۸۵	شریف احمد بانی
۳۱۶، ۳۱۵	اصحاب الصّفہ میں سے تھے	۳۷۹، ۳۱۸	شہاب الدین سہروردی حضرت صوفی
۲۶۸	عمر بن معاذؓ حضرت	۳۵۶	صلاح الدین ملک ایم۔ اے قادیان
۹۸	عزیز الرحمن منگلا مربی سلسلہ مولانا		ط۔ ط
	عطاء اللہ کرئل نائب صدر فضل عمر فاؤنڈیشن	۶۲۵، ۵۴۸	طاہر احمد مرزا حضرت صاحبزادہ (رحمہ اللہ)
۵۶۵، ۱۲۸، ۳۷		۳۵۶	ظہور احمد چوہدری
۳۲۷، ۳۲۲، ۳۱۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۵۱۷	ظہور احمد باجوہ چوہدری
۴۰۸، ۳۹۹، ۳۹۴، ۳۴۱، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۰			ع۔ غ
۴۳۳، ۴۲۷، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۰، ۴۰۹			
۶۵۶، ۶۰۷، ۴۹۷		۳۲۵	عائشہ صدیقہؓ حضرت
	آپ پر تہمت لگی کی آپ بدکار اور زنا کار	۶۲۲	عباد اللہ گیانی (مینجر الفضل)
۴۱۴	عورت کی اولاد ہو اور وہ لعنتی ہوتا ہے	۲۳۴	عباسؓ حضرت
۴۱۵	آپ کو لعنتی اور خدا سے دھتکارا ہوا کہا گیا	۹۹	عبد الرحمن مہشر فاضل مربی سلسلہ
	آپ پر الزام لگا کہ وہ اپنی ماں سے بدسلوکی	۴۴۷	عبدالرشید غنی پروفیسر
۴۱۵	کرنے والے تھے	۲۵۵، ۲۲۲، ۲۱۹	عبدالسلام میڈلسین
	اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھا تھا کہ	۱۳۴	عبدالغنی خان صاحب مولوی
۴۱۵	وہ اپنی والدہ سے حسن سلوک کریں	۳۱۸	عبدالقادر جیلانی بغداد کے نامور صوفی
	آپ پر یہ تہمت لگائی گئی کہ آپ کی زندگی	۱۳۴	عبدالقادر صاحب شیخ مربی سلسلہ
۴۱۵	ملعون زندگی تھی	۳۱۸	عبداللہ
۵۱۲	غلام احمد بریڈ بیئر ڈاکٹر		عبدالوہاب شعرانی حضرت امام
۳۲۳	غلام فرید چاچڑاں شریف حضرت خواجہ	۳۱۸	(سولہویں صدی کے مشہور بزرگ اور قطب)
۵۵۱	غلام مجتبیٰ ڈاکٹر	۵۴۷	عبدالہادی کیوسی ڈاکٹر

	حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
۵	آپ کی کتب کا کم از کم تین بار ضرور مطالعہ کرنا چاہیئے ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۳۸، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۶، ۱۳، ۱۱، ۱۰
۶	در حقیقت ہماری روح کی غذا حضور کی کتب میں پائی جاتی ہے ۷۳، ۷۲، ۶۹، ۶۵، ۶۴، ۶۲، ۶۱، ۵۳، ۵۲، ۴۸
۶	آپ کی تفسیر قرآن سے ہمیشہ نئے سے نئے علوم نکلتے رہتے ہیں ۹۴، ۹۲، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۷۹، ۷۶، ۷۴، ۷۳
۹۲	ہم نے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم اور عدل مانا ہے ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۹۸، ۹۶، ۹۵
۱۳۷	آپ نے اسلام کے تمام ادیان باطلہ پر غالب آنے کی پیشگوئی فرمائی ۱۴۷، ۱۴۴، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۳۳
۱۳۷	آپ نے ہر دل میں خدا تعالیٰ کی خالص توحید کا پودا لگانے کا دعویٰ کیا ۱۶۵، ۱۶۱، ۱۵۹، ۱۵۷، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۴۸
۱۳۷	آپ نے ہر سیدہ کو محمد رسول اللہ ﷺ کے نور سے منور کرنے کا دعویٰ کیا ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶
۱۳۸	آپ کو ملنے والی تائیدات اور نصرتوں کا سلسلہ جاری ہے ۲۱۴، ۲۰۸، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۱، ۱۸۸، ۱۸۴، ۱۸۱، ۱۷۷
۱۳۸	آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور تائیدیں ملیں ۲۲۹، ۲۲۶، ۲۲۱، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۰، ۲۲۶، ۲۱۵
۱۴۱	آپ نے اپنے وجود کو کلیۃً محمد رسول اللہ ﷺ سے زیادہ دکھ اور تکالیف آپ کو پہنچائیں ۳۰۴، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۸، ۲۸۴، ۲۸۲، ۲۶۷، ۲۵۶
۱۴۱	آپ نے اپنے وجود کو کلیۃً محمد رسول اللہ ﷺ سے زیادہ دکھ اور تکالیف آپ کو پہنچائیں ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۴، ۳۲۲، ۳۱۹، ۳۱۳، ۳۱۲
۱۴۲	وہ بندہ جسے دنیا نے دھتکار دیا تھا اور ذلیل سمجھا تھا وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۰، ۳۲۹
۱۴۲	آپ کی کتب ہمارے لٹریچر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھنے والی ہیں ۳۵۵، ۳۵۳، ۳۵۱، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۲
۱۴۲	آپ کی کتب میں قیامت تک کے مسائل کے لئے ضروری مواد موجود ہے ۳۶۹، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۳، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷
۱۴۲	آپ کی بیان فرمودہ قرآن کریم کی تفسیر آج کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے ۴۲۰، ۴۰۸، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۱، ۳۹۲، ۳۷۹، ۳۷۸
۱۴۲	آپ کی کتب ہمارے لٹریچر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھنے والی ہیں ۴۴۴، ۴۳۶، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۲۶
۱۴۲	آپ کی کتب میں قیامت تک کے مسائل کے لئے ضروری مواد موجود ہے ۵۳۹، ۴۸۱، ۴۷۳، ۴۶۴، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۴۹
۱۴۲	آپ کی بیان فرمودہ قرآن کریم کی تفسیر آج کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے ۶۴۷، ۶۰۰، ۵۹۶، ۵۹۰، ۵۷۹، ۵۵۳، ۵۴۰
۱۴۲	آپ کی کتب ہمارے لٹریچر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھنے والی ہیں ۶۸۱، ۶۷۰، ۶۶۶، ۶۵۶، ۶۵۵

آپ نے صلیب کو زبردست دلائل اور	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملنے والی تین
۱۶۱ نشانات آسمانی کے ساتھ توڑ دیا	۱۴۴ قسم کی نصرتیں
آپ کے دلائل نے عیسائی پادریوں کے	اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے وعدے
۱۶۱ دماغوں پر ایک رعب قائم کر دیا	۱۴۴ قیامت تک پورے ہوتے رہیں گے
۱۷۶ خدا جانتا ہے کہ میں ہرگز کاذب نہیں	آپ کو مرنے کے لئے نہیں بلکہ زندہ رہنے
مخالفین کو سات سال کے لئے صلح کی پیشکش	۱۴۴ اور زندہ رکھنے کے لئے مبعوث کیا گیا
۱۷۶، ۱۷۵	آپ کی مولوی محمد حسین بٹالوی کو مقابلہ کی دعوت
جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے حق	آپ حضرت رسول کریم ﷺ کے فرزند جلیل
۱۸۱ میں آپ کی دعائیں	۱۴۱ اور آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں گم تھے
آپ کی کتب قرآن کریم کی بہترین تفسیر ہیں	آپ کی دعوت فیصلہ اب بھی قائم ہے اور
۱۸۸ جس آواز کو کہا گیا تھا کہ قادیان کی گلیوں	۱۴۹ جماعت احمدیہ اس کی ذمہ دار ہے
میں بھی بلند ہونے نہیں دی جائے گی وہ دنیا	آپ کی دعوت فیصلہ کے مخاطب تمام غیر مذاہب
۲۰۴ کی فضاؤں میں گونج رہی ہے	۱۴۹، ۱۴۷ اور ان کے سربراہ ہیں
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غرض سے مبعوث کیا ہے کہ	اللہ تعالیٰ نے زبردست نشان آپ کو عطا
میں دلائل کے ساتھ اس صلیب کو توڑ دوں جس	کئے ہیں اور بڑی برکتوں کے وعدے دیئے ہیں
۲۸۰، ۲۶۰، ۲۱۳ نے مسیح کی ہڈیوں کو توڑا اور آپ کو زخمی کیا تھا	۱۵۷ کوئی شخص آپ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ تیرے مقابل	۱۵۷ کے قرب کو ثابت نہیں کر سکا
۲۵۶ پر آ کر جو پیشگوئی کرے گا وہ ناکام ہوگا	اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ
آپ کی بعثت کے ساتھ عید کا دن اسلام پر	اسلام کو تمام ادیان عالم کے مقابلہ میں
۲۷۲ چڑھا جو قیامت تک جائے گا	۱۵۸ غالب کرے گا
آپ کی عربی کتب کی اشاعت کے لئے	اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۲۸۴ کمیٹی کے قیام کا اعلان	سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کے خلفاء کی
بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح	۱۵۹ مدد کے لئے آسمان سے اترے گا
۲۹۰ کے آنے کا قصہ ہی ایک فسانہ ہے	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لئے مبعوث
	۱۶۱ کیا گیا تھا کہ آپ کس صلیب کریں

آپ کی کتب میں قرآنی تفسیر کی روشنی میں قیامت تک کے مسائل کا حل پایا جاتا ہے	۵۳۵	جب کوئی حدیث قرآن کریم سے ٹکرائے تو راوی خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو تم اسے رد کر دو	۳۱۶
کوئی نسل آپ کی خدمت کی قدر کرنے اور ان سے استفادہ کرنے سے بے نیاز نہیں رہ سکتی	۵۴۰	آپ دنیا میں اشاعت ہدایت قرآن کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے	۳۳۴
آپ کی بعثت سے معاً قبل کا زمانہ انتہائی فتنوں کا زمانہ تھا۔ انتہائی دجل کا زمانہ تھا	۶۵۰	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے میرے دل میں بھی آپ کیلئے دعا کا جوش پیدا کیا گیا ہے	۳۵۴
مہدی کو خدا نے زبردست روحانی ہتھیار دیا ہے اس لئے اسلام کو ایٹم بموں کی ضرورت نہیں ہے نہ توپوں کی ضرورت ہے	۶۵۱	آپ نے جس زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کی اسی زبان میں پڑھنے کی عادت ہونے چاہیے	۳۵۱
آپ نے ساری دنیا کی دولتوں، طاقتوں اور ان کے سارے دنیوی اثر و رسوخ اور اقتدار کو لگا لگا کر	۶۵۱	شراب کے نشہ میں مست دوست کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کا عزم	۴۰۳
آپ کو خدا نے اس لئے بھیجا کہ امت محمدیہ کو اتحاد کی لڑی میں پرو دیا جائے	۶۵۲	آپ نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے جس کی تمہیں اتباع کرنی پڑے گی	۴۱۹
مجھے خدا نے حکم بنا کر بھیجا ہے تا میں اسلام کے اندر کفر بازی کو بند کراؤں	۶۵۲	ساری دنیا اکٹھی ہو گئی مگر ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی اس اکیلی آواز کو خاموش نہیں کر سکیں	۴۳۴
آپ نے فرمایا قرآن کریم کی جو تفسیر میں کروں وہ تمہیں ماننی پڑے گی	۶۵۳	جو حضرت مسیح موعود کی کتب کو پڑھتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو وقف کریں	۴۶۱
آپ نے فرمایا جن احادیث کے متعلق میں یہ کہوں کہ قابل قبول نہیں تو وہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا	۶۵۳	اعتراض اگر امام مہدی آگئے ہیں تو ہمیں پتہ کیوں نہیں لگا	۴۶۴
اللہ تعالیٰ آپ کو خدا رسیدہ اور مقررین کی ایک جماعت دے گا جو آپ کی مددگار ہوگی	۶۵۴	آپ کے زمانہ میں یہ پیشگوئی کہ اسلام تمام انسانوں کے دل جیت لے گا	۴۷۸
امت محمدیہ میں مہدی معبود کے سوا اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جس کو آنحضرت ﷺ نے سلام کہلوا یا ہوا	۵۴۰	آپ حُلق، خواہر ہمت اور ہمدردی خلائق میں حضرت نبی کریم ﷺ سے مشابہ تھے	۴۸۱
		اسلام کی خدمت جو آپ کے ذمہ لگائی گئی وہ زمانہ کے لحاظ سے آپ کی ماموریت سے لے کر قیامت تک ممتد ہے	۵۳۴

سیکرٹری فضل عمر فاؤنڈیشن ۳۶۵، ۲۱۸
 مبارک احمد مرزا صاحبزادہ حضرت ۱۵۵، ۱۲۸، ۷۲، ۷۱
 مبارک احمد مرزا صاحبزادہ حضرت وکیل التبشیر
 ۵۵۴، ۵۴۱، ۴۶۳، ۳۵۵
 مبارکہ بیگم۔ حضرت سیدہ نوابؑ ۸۳
 مجدد الف ثانیؒ حضرت ۳۲۳
 حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین ﷺ
 ۶۶، ۴۶، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۱، ۳۰، ۴
 ۱۳۴، ۱۳۲ تا ۱۲۹، ۹۶، ۸۷، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۱
 ۱۸۴، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۶۶، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۴۴، ۱۴۱
 ۲۱۵، ۲۱۲، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۱، ۱۹۰، ۱۸۵
 ۲۳۷، ۲۳۵ تا ۲۳۰، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۲
 ۲۶۸ تا ۲۶۳، ۲۶۰، ۲۵۸، ۲۵۰، ۲۴۸، ۲۴۴
 ۳۰۱، ۲۸۸، ۲۸۰، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱
 ۳۱۹، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۰۵، ۳۰۴
 ۳۳۶ تا ۳۳۳، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۶ تا ۳۲۱
 ۳۵۷، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۲ تا ۳۴۰، ۳۳۸
 ۳۹۵ تا ۳۹۳، ۳۷۹، ۳۷۵، ۳۵۹، ۳۵۸
 ۴۲۳، ۴۲۱ تا ۴۱۹، ۴۱۳ تا ۴۰۸، ۴۰۶ تا ۳۹۷
 ۴۴۱، ۴۳۶ تا ۴۳۳، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۶، ۴۲۵
 ۴۷۵، ۴۷۳، ۴۶۰، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۰، ۴۲۹، ۴۲۴
 ۵۲۴، ۵۰۴، ۴۹۶، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۷۶،
 ۵۶۷، ۵۵۶، ۵۵۳، ۵۴۰، ۵۳۹، ۵۳۰،
 ۵۹۰، ۵۸۳ تا ۵۸۱، ۵۷۹، ۵۷۸، ۵۷۵ تا ۵۷۳
 ۶۲۸، ۶۰۹، ۶۰۷، ۶۰۵، ۶۰۴، ۵۹۸، ۵۹۴، ۵۹۳
 ۶۷۶، ۶۷۰، ۶۶۸، ۶۵۸، ۶۵۷، ۶۵۶، ۶۵۴، ۶۵۱

ایک بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ مہدی پہلے
 انبیاء سے بلندتر مقام رکھتے ہیں
 وہ اکیلا تھا اس کی آواز اپنے گھر میں بھی
 سنائی نہ دیتی تھی
 ۶۵۶
 ۶۵۹
 خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ
 اہل مکہ فوج در فوج اللہ کی اس جماعت میں
 داخل ہوں گے
 ۶۶۶
 آپ کا بڑا کام نوع انسانی کو امت واحدہ
 بنانا ہے
 ۶۶۹

ف۔ ق۔ ک

فراکو جنزل ۳۷۲، ۳۷۱
 قاسم نانوتوی حضرت مولانا ۳۲۳
 قانتہ ۲۱۸
 قدرت اللہ صاحب سنوریؒ حضرت مولانا ۱۱
 قیصر ۴۸۹
 کارل مارکس ۴۹۱
 کسریٰ ۴۸۹
 کمال یوسف سید امام مبلغ سلسلہ ۲۱۱، ۲۰۹
 ۲۵۷، ۲۲۱، ۲۱۹، ۲۱۸

ل۔ م

لطیف احمد قریشی ۶۲۲
 لوط علیہ السلام حضرت ۴۱۳، ۴۱۲
 لینن ۴۹۱
 مبارک احمد شیخ مولانا حضرت

۲۳۰	روحانی طور پر کوئی فیض آپ کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا	۳۹	آپ عبودیت تامہ کاملہ کے ارفع اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے
۲۳۳	اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا	۱۳۹	آپ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ تکالیف برداشت کیں کہ جن کے تصور سے رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں
۲۳۳	ہر جگہ نبی کریم ﷺ بطور لیڈر اور بطور قائد آگے ہوئے	۱۳۹	مکی زندگی میں کون سا ظلم تھا جس کا آپ نشانہ نہ بنے وہ کون سی بے عزتی تھی جو آپ کو دیکھنی نہ پڑی
۲۳۵	جس چیز سے بھی نبی کریم ﷺ تمہیں روکیں رک جاؤ کہ تقویٰ اسی میں ہے	۱۳۹	تیرہ سال تک دشمن کی جلائی ہوئی آگ میں بظاہر آپ جلانے گئے
۲۴۴	آپ نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے	۱۳۹	دنیا آپ کو آگ میں دیکھ رہی تھی اور آپ خود کو جنت میں محسوس کر رہے تھے
۲۶۹	آپ جو عید ہمارے لئے لے کر آئے وہ عید قیامت تک چلنے والی ہے	۱۳۹	آپ کے خلاف مکی زندگی میں تیرہ سال مخالفت کی آگ بھڑکانی گئی
۲۶۸ تا ۲۶۶	آپ کی مدنی زندگی کے دو انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ واقعات کا تذکرہ	۱۳۹	آپ کی تیرہ سالہ مکی زندگی کا ایک ایک لحظہ آپ کی صداقت کا گواہ ہے
۳۰۳	خلافت حقہ کا حق ادا کرنے والے انسان کا مل محمد ﷺ ہیں	۱۳۹	آپ کی روح اپنے رب کے حضور جھکی اور بالکل گداز ہو گئی
۳۱۲	جس کے معرض وجود میں آنے کے لئے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا	۱۳۹	آپ نے جو تکالیف برداشت کیں ان کے تصور سے بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں
۳۱۲	آپ سے زیادہ کوئی کامل انسان نہیں کیونکہ آپ ہی انسان کامل ہیں	۱۳۹	کسی ماں نے آنحضرت ﷺ سے افضل بچہ نہیں جنا
۳۱۲	آپ سے زیادہ بلند اور ارفع شان رکھنے والا کوئی نبی نہیں کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں	۱۴۰	جب تک تم مجھے اسوہ نہیں بناؤ گے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل نہیں ہو سکتی
۳۱۲	وہ انسان کامل جس نے خلافت حقہ کا حق ادا کیا	۱۴۱	سب سے اعلیٰ اور ارفع اور کامل اور مکمل نمونہ اور اسوہ محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات ہے
۳۱۳	آپ بلند تر مقام تک جہاں انسان اپنی روحانی ارتقاء میں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچے		

۳۲۲	آپ کی شریعت صفات جلالیہ و جمالیہ دونوں کی حامل تھی	۳۱۳	آپ پر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ہر قسم کے جلوے ختم ہو گئے
۳۲۲	ہر ایک نبی آپ کی امت میں داخل ہے		آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہیں کہ اس سے زیادہ عظمت والے اخلاق انسانی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا
۳۲۲	آپ کے طفیل ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب اور برکات حاصل کیں	۳۱۳	ہمیں خدا تعالیٰ کی کسی صفت کا جو کوئی جلوہ نظر آتا ہے وہ آپ کے طفیل ہے
	آپ نے حکم دیا ہے کہ جس انسان کی فطرت اور کردار میں بال آجائے اس کو میرے لئے استعمال نہ کرنا	۳۱۳	اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کی پیدائش نہ ہوتی
۳۷۵	آپ عالم قضا و قدر کی پیدائش کا مقصود ہیں	۳۱۵	اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو بنی نوع انسان کی پیدائش نہ ہوتی
۳۹۳	عالم قضا و قدر میں نبی کریم ﷺ کی ذات کو مرکزی نقطہ بنایا گیا	۳۱۵	اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو کسی نبی کی پیدائش بھی نہ ہوتی
	آپ سے علیحدہ ہو کر کوئی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل نہیں کر سکتا	۳۱۵	آپ نے جو بات بھی کی ہے قرآن کریم کی تفسیر ہی کی ہے
۳۹۳	نبی کریم ﷺ کی حقیقت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی	۳۱۶	حضرت رسول کریم ﷺ بنی آدم کی تخلیق سے بھی قبل خاتم النبیین تھے
۳۹۵	آپ ہی کے فیوض سے سارے انبیاء نے فیض حاصل کیا	۳۱۸	دراصل پیدائش خلق سے بھی پہلے آپ کی حقیقت موجود تھی
	اپنے وتر کی حرکت میں آپ برزخ بین اللہ و بین المخلوق بن گئے	۳۱۸	آپ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کی طرف مبعوث کئے گئے
۴۰۳	تمام مخلوق پر خدا تعالیٰ کے فضل اور ربوبیت کا جلوہ آپ کے طفیل ہوا	۳۱۹	تمام کائنات کا چشمہ آپ ہی کی ذات مبارک سے پھوٹا
۴۰۴	آپ کی شان ختم نبوت اور حقیقت محمدیت		کمالات نبوت، کمالات انسانیت، کمالات خلق آپ پر ختم تھے
۴۰۵	آپ کی شان کی وسعت اور بلندی اور گہرائی تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلووں کے پیرا مل ہے	۳۱۹	آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں
۴۰۸		۳۲۱	

۴۲۰	اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ آپ کے وجود اور قرآن کریم کے نور میں کامل طور پر جلوہ فرما ہوا	۴۰۶	آپ کا افاضہ روحانی اور افاضہ جسمانی تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے
۴۲۲	آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ پہلی کتب سماویہ کو سب تہمتوں سے بری قرار دیا	۴۰۹	خدا تعالیٰ کا یہ عظیم رہبر اور راہنما اور ہادی تمہیں بلند سے بلند تر رفعتوں تک لے جاتا چلا جائے گا
۴۳۱	آپ کی بعثت کی یہ غرض تھی کہ دنیا کی تمام اقوام اپنے پیدا کرنے والے رب کے قدموں میں جمع ہو جائیں	۴۰۹	نبی کریم ﷺ کا پہلی قوموں پر عظیم احسان ہے مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ تمہیں باقی سب انبیاء پر بھی جو میرے عزیز شاگرد ہیں
۴۳۳	ہر خیر اور نیکی کا منبع آپ کی ذات ہے	۴۰۹	ایمان لانا پڑے گا
۴۳۳	آپ کا وجود خدا تعالیٰ کا نور اور اس کا مظہر اتم تھا جو اپنے وجود میں پوری کی پوری صفات باری کا انعکاس کر رہا تھا	۴۰۹	اگر تم مجھ پر اور باقی انبیاء کی نبوتوں پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں نجات مل جائے گی
۴۳۵	آپ کا وجود حُسن و احسان میں ایسا بے نظیر وجود ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے	۴۱۰	آپ نے دنیا کی تمام اقوام عالم کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ تمام انبیاء سچے اور برگزیدہ ہیں
۴۳۵	آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنی روحانی قوت اور فیض سے حصہ دیا	۴۱۰	اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے تو تمہیں ان تمام سابقہ انبیاء کو سچا ماننا پڑے گا
۴۳۷	میری امت میں تو وہی اختلاف ہوگا جس کے نتیجے میں رحمت پیدا ہوگی	۴۱۱	آپ نے تمام انبیاء کے متعلق یہ اعلان کیا کہ وہ ہر قسم کی تہمتوں سے پاک ہیں
۴۴۲	نبی اکرم ﷺ کی عظمت کے ہزاروں لاکھوں پہلو ہیں	۴۱۲	آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی تہمت سے بری قرار دیا
۴۴۲	آپ کی بعثت کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ قلم اور دوات سے بڑی کثرت سے کتب شائع ہوں گی	۴۱۶	آپ ایسی شریعت لے کر آئے جو ہر لحاظ سے کامل مکمل اور نقائص سے پاک تھی
۴۴۲	انسان پر آپ کا بڑا احسان ہے اور انسان اس کے بدلہ میں درود بھیجے گا	۴۱۹	آپ نے پہلے انبیاء سے ہی تہمتیں دور نہیں کیں بلکہ پہلی کتابوں پر سے بھی تہمتیں دور کیں

۴۸۱	آپ نے فرمایا اگر تم مہدی کو ملو تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا	تحقیق جو نئے سے نئے میدانوں میں کی جائے گی اس کے نتیجے میں آپ کی حقانیت اور صداقت ثابت ہوگی
۴۸۶	آپ کی ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں بشر ہونے کے لحاظ سے آپ کو کہیں فرق نظر نہیں آئے گا	وہ ابدی حیات والا زندہ نبی جس طرح چودہ سو سال پہلے زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا
۴۹۹	آپ نے نہ صرف عرب کے دلوں کو جیتنا تھا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر نسل کے دلوں کو جیتنا تھا یہ ایک بشارت تھی	آپ نے فرمایا دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہے تین کا چار کے لئے اور چار کا پانچ کے لئے آپ تمام بنی نوع انسان کے لئے رحمت بن کر مبعوث ہوئے
۵۲۳	آپ نے فرمایا تھا کہ آدم آدم میں کوئی فرق نہیں انسان اور انسان میں کوئی امتیاز نہیں	آپ کی دعائیں کسی خاص قوم یا زمانہ تک محدود نہیں تھیں
۵۲۴	حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا خطاب اسوۂ نبی ﷺ کے بارہ میں قرآن کریم کے بیان فرمودہ بنیادی اصول	آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ تمام اقوام عالم وحدت اجتماعی کی شکل اختیار کر لیں گی اور ایک خاندان بن جائیں گی
۵۲۳	آپ کی زندگی بنی نوع انسان کے لئے ایک اُسوۂ حسنہ ہے	آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کر کے ایک حسین اسوۂ بنی نوع کے ہاتھ میں دیا
۵۲۶	کوئی نبی آپ کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا ذاتی جوہر میں بھی اور ظاہری خدمت کی رو سے بھی	آپ کے سارے ارشادات اور اقوال قرآن کریم کی تفسیر ہیں خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے
۵۲۷	قرب الہی کے حصول میں آپ ساری مخلوقات سے آگے نکل گئے	آپ کا ہر ارشاد اور ہر قول قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے
۵۲۷	آپ کی طاقتیں سب سے زیادہ تھیں آپ کا دائرہ استعداد ایک کامل دائرہ استعداد تھا	اصولی طور پر انسان کا دماغ یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے کچھ بھی قرآن کریم سے زائد کہا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا
۵۲۹	تم حضرت نبی کریم ﷺ کی طرح اپنے اپنے دائرہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بنو	
۵۸۱		

۳۵۶،۹۸	محمد اجمل شاہد مرنبی سلسلہ	قریباً قریباً ساری خدائی صفات آپ کی
۳۸۸	محمد احمد سید	۵۸۲ زندگی میں جلوہ گرہیں
۱۲۸	محمد احمد مظہرؒ شیخ حضرت، صدر مجلس وقف جدید	ہمیں آپ کی ذات میں خدا کی وہی شکل
۶۱۸	محمد اسحاقؒ حضرت سید میر	اور کیفیت نظر آتی ہے جو قرآن کریم میں
۹۸	محمد اسماعیلؒ شیخ پانی پتیؒ	۵۸۲ بیان ہوئی
۲۵۵،۲۰۲	محمد اسماعیل منیر مولانا مرنبی سلسلہ	آپ حسن و احسان میں صفات باری کے
۴۵۴،۹۸	محمد اسماعیلؒ میر سید حضرت	۵۸۲ مظہر اتم ہیں
۱۹۷	محمد اسلم صاحب قاضی	آپ حسن و احسان باری میں یکتا اور انسان کامل
۳۱۸	محمد اکرم صابری حضرت شیخ	۵۸۲ ہیں اس لئے منفرد ہیں
۱۲۸،۳۷	(سلسلہ صابریہ قدوسیہ نظاریہ کے پیشوا)	آپ زور زور سے تو نہیں ہنتے تھے البتہ ہر
۱۲۸،۳۷	محمد بخش میر حضرت گوجرانوالہ امیر جماعت	۵۸۶ وقت مسکراتے رہتے تھے
۱۲۸،۳۷	محمد حنیف شیخ امیر جماعت کوٹہ	صفت ربوبیت کے مظہر اتم ہونے کا جلوہ
۳۸۲	محمد دین سندھو ڈاکٹر	۵۹۰ رحمۃ للعالمین کی شکل میں ظاہر ہوا
۱۳۴	محمد رشید قاضی وکیل المال	آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں
۱۳۴	محمد شریف صاحب ٹنگمری والے	۵۹۲ ہے اور آپ رحمانیت کے بھی مظہر اتم ہیں
۳۷۳	محمد صادق ساٹھی مولانا مرنبی سلسلہ	آپ ہی سرچشمہ ہیں ان سارے منصوبوں
۴۶۰،۳۶۵،۳۶۳،۱۹۷،۱۹۵،۱۲۸،۳۷،۳۴	محمد ظفر اللہ خانؒ حضرت چوہدری سر	۶۲۰ کا جو ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے
۵۶۳،۵۴۳،۵۴۰،۵۳۹،۴۶۶		کے لئے جاری کئے گئے ہیں
۱۳۵،۱۳۴	محمد عبداللہؒ حضرت قاضی	آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسیؒ ہم میں
۵۱۶،۴۶۳	محمد علی چوہدری	۶۵۴ سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں
۵۳۸،۳۵۷،۹۸،۶۴	محمد نذیر قاضی حضرت مولانا	آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ مہدی معبود
۱۹۷	محمد احمد ناصر میر	کو پانے کا موقع نصیب کرے تو وہ میری طرف
۲۰۰	محمد اسلم صاحب قاضی	۶۵۴ سے اسے سلام کہے
	محمد اسلم صاحب قاضی	۳۵۶ محمد ابن سیرین امام

اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر کھڑا کیا ہے اس	محمد الدین ابن عربی حضرت شیخ
۷۳ مقام کی حفاظت کا ذمہ خود اس نے لیا ہے	۶۵۴، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹
میں ایک حقیر انسان اور ناچیز ذرہ ہوں مگر یہ	۶۰۰، ۴۴۷
۹۶ ناچیز ذرہ خدا کے ہاتھ میں ہے	مریم صدیقہ سیدہ حضرت
میں نے کبھی فراست اور عقل مندی کا دعویٰ	مریم علیہ السلام حضرت
۹۶ نہیں کیا	اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تو پاک بنت
میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جماعت کے تمام	۴۱۵
۱۲۵ افراد کو قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کروں	پاک ہے تیری اولاد بھی پاک ہوگی
میں حضرت مسیح موعودؑ کی نیابت میں تمام مذاہب	۴۱۵
۱۵۴ کو دعوت فیصلہ دیتا ہوں	۶۰۰، ۵۰۶
جب تک خدا تعالیٰ مجھے زندگی دیتا ہے میں	منصورہ بیگم حضرت سیدہ نواب
آپ کو ان ذمہ داریوں کے نبھانے میں	۵۳۸
۱۱۷ سست نہیں ہونے دوں گا	۸۰
چاہے آپ مجھ سے ناراض ہوں یا خوش میں اپنے	۳۱۷، ۳۱۱، ۳۹
۱۱۷ مولیٰ کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دوں گا	موودوی ابوالاعلیٰ مولانا
اگر سب مخالفین کے مقابلہ میں اکیلا دعا کروں	منور احمد مرزا ڈاکٹر صاحبزادہ
۱۵۹ گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبولیت بخشے گا	۸۰
میں سچ کہتا ہوں اگر میرے جسم کے ایک سو	۳۱۷، ۳۱۱، ۳۹
پچاس ٹکڑے کر دیئے جائیں اور وہ کام	۵۹۱، ۴۹۸، ۴۳۳، ۴۱۵، ۴۱۰، ۳۲۷، ۳۲۲
۱۶۱ آجائیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں	ناصر احمد۔ مرزا حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ
میں مامور تو نہیں۔ میں تو خدا تعالیٰ کے ایک	۶۱۸، ۹۶، ۹۵
۱۷۶ مامور کا خلیفہ ہوں	میں نے آپ کے بارہا کرنے اور پریشانیوں
۲۰۵ سفر سے قبل اپنی ایک رُویا کا تذکرہ	کو دور کرنے کے لئے اپنے رب رحیم سے
اگر کسی عیسائی کو بھی دعویٰ ہے کہ اس کا خدا	۲
زندہ خدا ہے تو وہ میرے ساتھ قبولیت دعا	قبولیت دعا کا نشان مانگا ہے
میں مقابلہ کرے	۱۲
۷۳	مجھے آپ کے مخلصانہ مشوروں اور پُرسوز
	دعاؤں کی بہت ضرورت ہے
	اللہ تعالیٰ کا قادر و توانا اور قوی ہاتھ ہمیشہ
	میرے ساتھ رہے گا

دس پندرہ منٹ کا بھی وقت ملتا ہے تو حضرت مسیح موعود
کی کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دیتا ہوں اور وہ
وقت ضیاع سے بچ جاتا ہے ۳۵۴

اگر میں اس طرح دوستوں کی خوابوں کی
تعبیر کرنے لگوں تو غالباً جماعت کا اور کوئی
کام نہ کر سکوں ۳۵۶

میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں تو
ایک حقیر بندہ ہوں اگر تو مجھے علم سکھائے
گا تو میں بیان کروں گا ۴۰۵

میں نہ سوشلزم کے حق میں ہوں اور نہ سرمایہ داری
کے حق میں میں تو اسلام کے حق میں ہوں ۴۱۸

اللہ تعالیٰ کے سکھائے بغیر میں کچھ جانتا نہیں
اور اُس کی طاقت اور مدد کے بغیر میں کچھ
نہیں کر سکتا ۴۲۳

قادیان میں سکھ بعض دفعہ بڑی شرارتیں کیا
کرتے تھے یعنی اگر کبھی وہ حملہ کر دیں تو اُن
سے جا کر لڑا بھی کرتے تھے ۴۲۸

بچو! خدا نے مجھے اپنے فضل سے اس مقام پر کھڑا
کیا ہے کہ تمہارا خاندان تمہیں نہیں پڑھا سکتا تو
میں تمہارے پڑھانے کا ذمہ لیتا ہوں ۴۵۷

تم کہتے ہو کہ پاکستان میں اسلام خطرے
میں ہے میں بتاتا ہوں کہ ساری دنیا میں
اسلام کے علاوہ ہر مذہب خطرے میں ہے ۴۵۹

میں کہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک وجود ہیں
تو میرے ساتھ آپ کو بھی پریشان رہنا
پڑے گا ۴۶۰

میرے نزدیک جماعت احمدیہ اور میں ایک
ہی وجود کا نام ہے ۲۱۷

جماعت احمدیہ پر یہ فرض ہے کہ وہ میرے
معروف احکام کی اطاعت کرے ۲۱۷

میں قرآن کریم کے احکام اور نبی کریم کے
اسوہ کا پابند ہوں اور پوپ پر ایسی کوئی
پابندی نہیں ۲۱۷

اللہ تعالیٰ نے شروع خلافت میں ہی اس
عاجز اور بالکل کم مایہ بندے سے یہ وعدہ کیا
تھا کہ ”تینوں میں ایسا دیواں گا کہ توج
جائیں گا“ ۲۵۴

میرے دل میں تو کبھی گھبراہٹ پیدا نہیں
ہوتی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے ۲۷۹

میں نے جب اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہو تو
بیماری کا احساس نہیں ہوتا ۲۹۵

میں خدا کی عظمت اور اس کے جلال سے ہر
وقت کانپتا رہتا ہوں ۳۴۴

میری جان آپ پر قربان میں ہمیشہ آپ
کے لئے ہر رنگ میں دعائیں کرتا رہتا ہوں
سارا سال جو دعائیں میں آپ دوستوں
کے لئے کرتا رہتا ہوں وہ سورۃ فاتحہ کی
دعائیں ہیں ۳۴۷

تفسیر قرآن سرہانے رکھنی چاہیے میرے تو
سرہانے پڑی رہتی ہے ۳۵۴

۶۷۴	میری خواہش ہے کہ روسی ریڈیو سٹیشن سے بھی زیادہ عمدہ اور صاف سنائی دینے والا نشریاتی ادارہ ہونا چاہیے	۴۶۸	میں بڑی عاجزی کے ساتھ حکومت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آنکھیں کھلی رکھو اور کان بھی کھلے رکھو
۲۰۷	نذیر احمد علیؒ حضرت مولانا نصرت بھٹو بیگم	۴۷۰	خلیفہ تو میں اب بنا پچھلے تیس سال سے میں کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا کی دولت احمدی کی قیمت نہیں ہو سکتی
۵۱۱، ۴۶۸	نوح علیہ السلام حضرت	۴۸۷	جب میں نے ایک افریقن بچے سے پیار کیا تو یہ انہوں نے ان کی زندگی میں پہلی بار دیکھا میں تو خزانوں کا مالک نہیں ہوں میں تو ایک دھیلے کا مالک بھی نہیں ہوں یہ تو سب کچھ اس کی عطا ہے
۵۹۱، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۰۹، ۴۰۷	ہ	۵۴۵	گر میوں میں مجھے کسی نہ کسی ٹھنڈے مقام کی طرف جانا پڑتا ہے ورنہ میں کام نہیں کر سکتا
۴۱۴، ۴۱۳، ۳۹۹	ہارون علیہ السلام حضرت	۵۵۰	میرا میلان صد سالہ جشن منانے کی طرف اتنا نہیں جتنا دوسری صدی کے استقبال کے طرف میرا میلان ہے
۴۱۳	آپ پر الزام لگایا گیا کہ وہ پچھڑا پرستی جیسے گھناؤنے گناہ کے مرتکب ہوئے	۶۲۸	میں نے اپنے منصوبے کو محدود رکھا ہے کیونکہ بعض بنیادی کام اگلی صدی کی ابتداء کے لئے چھوڑ دینے چاہئیں
۴۱۴	اپنی قوم کو کہا میری اتباع کرو تا کہ میں تمہیں شرک سے نجات دلا کر خدائے رحمان کے قدموں پر لا ڈالوں	۶۶۸	
	ی		
۴۹۴	یسعیاہ نبی حضرت		
۳۹۴، ۳۲۷	یعقوب علیہ السلام حضرت		
۴۹۰	یعقوب بوگون صدر نا ئیجیریا		
۵۹۳، ۳۲۷	یوسف علیہ السلام حضرت		



مقامات

		آ-۱
ہم نے میاں بیوی استاد افریقہ بچھوانے ہیں	۴۷۸، ۴۷۷، ۷۵	آسٹریلیا
جہاں لڑکوں کا سکول کھلے گا وہاں لڑکیوں کا	۶۶۳، ۶۶۲، ۳۷۷، ۷۵	اٹلی
۵۱۸ بھی سکول کھلے گا	۲۶۷، ۲۳۲	احد
۳۸۰، ۸۰، ۷۶ افریقہ جنوبی	۶۲	ارجنٹائن
۶۶۵، ۳۷۷، ۲۸۱، ۲۰۳، ۱۹۹، ۶۱، ۶۰ افریقہ مشرقی	۶۲	اردن
۶۲ افریقہ مغربی	۶۶۷، ۵۵۴	اسرائیل
انگریز نے اپنے ملک کا دکھ دور کر دیا مگر	۱۹۵، ۱۹۰، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۱۴، ۶۴، ۳۴	افریقہ
۵۰۱ افریقہ کولونٹ کر لے گئے	۴۳۴، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۰۳، ۳۷۹، ۲۷۶، ۲۵۱، ۲۰۳	
مغربی افریقہ میں کم از کم ایک لاکھ پاؤنڈ	۲۸۷، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۶۶، ۲۶۲، ۲۳۶، ۲۳۵	
۵۰۶ فوری طور پر خرچ کرنے کی الہی تحریک	۵۵۳، ۵۲۹، ۵۱۸، ۵۱۲، ۵۰۷، ۵۰۳، ۴۹۹، ۴۹۱	
ہمیں ان کی سیاست میں حصہ نہیں لینا اور	۶۷۱، ۶۶۹، ۶۶۵، ۶۶۲، ۶۵۱، ۶۳۹، ۵۵۶	
۶۳۹ ان کی دولت میں کوئی لالچ یا طمع نہیں	مغربی افریقہ میں ایک عظیم انقلاب اسلام	
ایک ڈاکٹر نے ڈیڑھ سال میں تیس ہزار پاؤنڈ	۴۴۷ اور احمدیت کے حق میں بپاہور ہے	
۶۴۰ کی خالص بچت کی	باہر سے پیسے لاتے ہیں اور افریقہ میں خرچ	
یہ سکول تمہارے لئے ہیں تم نے قومیا نے ہیں	۴۹۹ کرتے ہیں	
۶۴۱ تو قومیا لو اور معاوضہ ہم نے کوئی نہیں لینا	ہمیں افریقہ کی سیاست میں کوئی دلچسپی ہے	
۷۶ افریقہ وسطی	۴۹۹ اور نہ ان کے مال میں ہمیں دلچسپی ہے	
۳۷۰، ۲۸۱، ۱۹۵، ۱۷۲، ۶۴، ۵۶، ۲۹ امریکہ	پچاس سال سے ایک دھیلہ تمہارے ملک	
۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۶۲، ۴۶۰، ۳۷۸، ۳۷۵	سے باہر نہیں لے کر گئے لاکھوں روپے باہر	
۶۶۴، ۶۳۵، ۶۲۲، ۵۷۱، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۱۰، ۵۰۹	۴۹۹ سے لائے اور تم پر خرچ کر دیئے	

۸۴	جس وقت بھی پاکستان کو مشکل پیش آئے وہ ملائکہ اللہ کی امداد سے محروم نہ ہو	۶۶۴، ۶۶۳، ۲۸۱	امریکہ۔ جنوبی
۸۴	اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے پاکستان کی حفاظت کرتا رہے وہ ہمیشہ ملائکہ کی افواج بھجواتا رہے	۶۶۴، ۶۶۳، ۲۸۱	امریکہ۔ شمالی
۸۴	حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق پاکستان کا کوئی فرد بشر بھوکا نہیں رہ سکتا	۲۵۱، ۸۲، ۶۲، ۶۲	انڈونیشیا
۱۳۰	پاکستان میں رہنے والا کوئی فرد بشر بھوکا نہ رہے ہمیں اس سے دلچسپی ہے	۶۷۳، ۳۷۰، ۳۷۲، ۲۸۳	انگلستان
۱۳۱	اگر ہم اپنا زائد کھانا بچالیں تو پاکستان کا کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے جو رات کو بھوکا سوئے دعا کرتے رہیں کہ خدا بین الاقوامی شر سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ہماری آزادی برقرار رکھے	۳۶۵، ۲۷۶، ۲۱۰، ۱۹۰، ۱۰۹، ۸۲، ۶۲	ایرین
۱۳۱	توفیق ہمیشہ پاکستانی حکومتوں کو ملتی رہے ہمیں اپنے ملک کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیئے	۵۱۰، ۵۰۹، ۵۰۸، ۵۰۷، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۶	ایسے سینیا
۱۳۲	حکومت کا فرض ہے کہ ہر پاکستانی کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا مہیا کرے	۶۷۶، ۳۷۳، ۷۵، ۶۲	ایٹ آباد
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی غلامی سے محفوظ رکھے	۵۲۹	آئیوری کوسٹ
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۵۹۸	ب
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۶۷۵، ۶۳۷، ۱۹۹، ۱۰۹، ۶۲	بٹالہ
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۱۶۰	برٹش گی آنا
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۳۷۶	برما
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۶۲	بورنیو شمالی
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۶۲	بیلجیئم
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۵۷	پ
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۶۴، ۳۵، ۳۰، ۲۸، ۲۴، ۲۳، ۱۳	پاکستان
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۱۹۵، ۱۶۷، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۰۴، ۸۳، ۷۷	
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۴۳۹، ۳۷۷، ۳۷۰، ۳۶۳، ۲۱۸، ۲۱۰، ۲۰۹	
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۵۱۸، ۵۱۴، ۵۰۹، ۵۰۸، ۴۹۵، ۴۷۶، ۴۷۰	
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۵۶۰، ۵۴۶، ۵۴۴، ۵۴۳، ۵۴۱، ۵۴۰، ۵۲۰	
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۶۳۱، ۶۲۲، ۶۰۳، ۶۰۲، ۵۶۸، ۵۶۴، ۵۶۲	
۱۳۲	اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے سیاسی، اقتصادی اور دوسرے دباؤ سے محفوظ رکھے	۶۷۳، ۶۶۹، ۶۵۹، ۶۴۴، ۶۳۳	

ہمارا ملک جب سے بنا مظلوم ہی چلا آ رہا ہے۔	اللہ تعالیٰ ہمارے ہم وطنوں کے سینوں کو
۶۰۶ ظلم کی انتہا ہوگئی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے	قرآن کریم کے حقیقی نور قبول کرنے کے
پاکستان کے حالات کی وجہ سے میں کئی	۱۸۲ لئے تیار کرے
راتیں سو نہیں سکا کتنی صبحیں ایسی آئیں	اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے استحکام کو
۶۰۶ کہ جنہوں نے مجھے سارا دن پریشان رکھا	۱۸۲ غلبہ اسلام میں ممد بنائے
یہ ملک اور اس ملک کے حالات ہم سے یہ	اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو اسلامی دنیا میں
مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ایک	۳۴۳ بھی ایک ضعف واقع ہو جائے گا
۶۰۷ بڑا حصہ ان کا بھی رکھیں	پاکستان کا استحکام اسلامی دنیا میں بڑا اثر پیدا
بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی	۳۴۳ کر سکتا ہے
۶۰۷ قسمت سنوارے	یہ بھی سن لو کہ ہمارے ملک میں محمد رسول اللہ ﷺ
خدا کرے ہمارے ملک میں بھی کوئی آدمی ایسا	۴۵۸ کی تعلیم رائج کی جائے گی
۶۰۸ نہ رہے جس کو کوئی دکھ اور پریشانی ستا رہی ہو	اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے انعامات
۴۶۵، ۴۹۰ پاکستان۔ مشرقی	کے شکل میں جو ذہن عطا کئے تھے وہ تم نے
مشرقی پاکستان ہماری بد قسمتی اور ہمارے	۴۹۵ ضائع کر دیئے شکوہ کس سے
۵۴۱ گناہوں کے نتیجے میں ہم سے علیحدہ ہو گیا	ایک اندازہ کے مطابق پاکستان نے ایک
۴۷۲:۸ پشاور	لاکھ ذہن اپنی غفلت اور بے توجہگی میں
ت	۴۹۵ ضائع کر دیئے ہیں
۲۳۱ تبوک	خدا تعالیٰ پاکستان کو نہیں بھولا تھا ہم خدا تعالیٰ
۳۷۳ ترکی	کی نعمتوں کو بھول گئے اور اس کے ناشکر گزار
۱۰۸، ۸۲، ۷۹، ۶۲ تترانیہ	۴۹۵ بندے بن گئے
۶۳۲، ۵۰۹، ۴۶۲، ۳۷۷، ۲۸۱	پاکستان کو اس کی حقیقی ماں نہیں ملی۔ آری چل
۴۹۲ تہران	۶۰۳ گئی ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا
ٹ	جمہوریت میں تمہیں اظہار خیال سے کوئی
۴۶۲، ۲۸۱، ۶۲ ٹرینیڈاڈ	نہیں روک سکتا لیکن تم ان کو کام کرنے کا
۷۶ ٹوگولینڈ	۶۰۴ موقع تو دو

ر، ز	ج
۵۴۴،۴۷۲	جاپان ۲۷۷،۷۶،۷۵،۶۲
۷۹،۶۹،۲۹،۲۸،۳	۳۷۲،۳۶۹،۲۸۶،۲۸۵،۲۷۹،۲۷۸
۵۵۷،۵۵۱،۵۵۰،۴۷۷،۳۸۵،۳۵۵،۱۷۸	جاپان میں اس وقت اسلامی تعلیم کو قبول کرنے کی فضا ہے
۶۳۰،۶۲۶،۶۱۸	۲۷۸
۲۱۴،۷۵،۶۲،۲۹	جاپان میں احمدیہ مشن کا قیام
۶۷۴،۴۹۸،۴۷۶،۳۷۰	جاپان کی عالمگیر مذہبی کانفرنس میں جماعت احمدیہ کا مدعو کیا جانا
روس جس کا اعلان کہ وہ خدا کا نام صفحہ زمین سے مٹا دے گا بالآخر حق کی طرف رجوع کرے گا	جرمنی ۲۱۵،۲۱۰،۲۰۸،۲۰۰،۱۰۹،۶۲
۲۱۲	۶۷۰،۵۷۱،۵۵۳،۵۰۹،۳۸۰،۲۷۹،۲۴۳
۲۴۲	جزائر سلسلی ۷۵
۲۱۵	جزائر غرب الہند ۴۶۲
س	جہلم ۱۰۱
۶۶۳،۳۷۱،۶۲	چ، چ ۲۱
۶۳۱،۱۳	چٹاگانگ ۹۲
۲۰۹	چنیوٹ ۲۵۱،۷۹
۱۳۲،۲۱،۸	چین ۶۶۵،۴۸۹،۴۷۷،۴۷۶،۳۸۶
۸۲،۶۲	حدیبیہ ۲۳۴
۸۲،۶۲	ڈ ۲۱۰،۲۰۹،۱۰۸،۸۲،۷۹،۶۲
۶۷۳،۴۶۰،۳۶۷،۳۶۶،۲۱۸،۶۲	ڈنمارک ۲۲۲،۲۲۰،۲۱۹،۲۱۷،۲۱۵،۲۱۴،۲۰۴،۱۹۰
۴۵۹	۶۶۳،۵۱۶،۳۶۷،۳۶۶،۲۷۵،۲۲۳
۹۸	ڈنمارک میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہم آپ کے دل جیتیں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے
۱۱۱،۱۱۰،۸۲،۷۹،۶۲	۵۱۷
۵۰۴،۴۴۳،۲۸۱،۲۰۹،۲۰۴،۱۹۹،۱۱۴	
۵۶۹،۵۶۸،۵۱۴،۵۱۳،۵۱۲،۵۰۹،۵۰۵	
۶۷۵،۶۵۰،۶۳۷،۶۳۲،۵۷۰	

ک	۸۲۰۶۲	سیلون
۷۶	۲۵۱	سینگال
۱۸۷، ۹۸، ۹۲، ۲۱	ش	
۵۵۹، ۴۹۲، ۳۷۶، ۲۴۶، ۲۱۹	۶۲	شام
۳۵۶، ۲۷۳، ۱۷۸، ۱۰۰، ۴	ع	
۲۸۱، ۱۹۹	۳۷۸	عراق
۲۱۸، ۲۰۹، ۲۰۴، ۱۰۸	۳۷۸، ۲۷۴	عرب
۲۸۵، ۲۰۹	غ	
۳۷۹، ۳۷۷، ۱۰۸، ۶۲	۱۱۴، ۱۰۹، ۱۰۸، ۸۲، ۸۰، ۷۹، ۶۲	غانا
۶۶۴، ۶۶۳، ۵۰۹، ۸۲	۵۱۳، ۵۱۲، ۵۰۹، ۲۹۰، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۰۹، ۱۹۹	
گ	۶۷۵، ۶۷۱، ۶۳۷، ۵۶۹، ۵۶۸، ۵۵۵، ۵۱۴	
۱۳۳، ۱۰۱	ف	
۱۳۳	۷۹	فارموسی
۱۰۸، ۷۹، ۶۲، ۴۳	۶۷۳، ۳۷۰، ۲۵۱، ۶۲	فجی
۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۴، ۳۸۰، ۲۸۲، ۱۱۴، ۱۱۱، ۱۱۰	۶۷۷، ۶۷۰، ۶۶۳، ۶۶۲، ۲۰۲	فرانس
۶۳۹، ۶۳۷، ۶۳۲، ۵۶۸، ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۹	۴۹۲، ۲۱۵، ۲۰۰	فرینکفرٹ
ل	۷۶، ۷۵، ۶۲	فلپائن
۶۵، ۵۵، ۲۵، ۱۱	۶۲	فلسطین
۴۹۲، ۴۷۲، ۴۶۲، ۳۵۵، ۱۶۷، ۱۶۵، ۱۰۷	۶۷۲	فیصل آباد (لاہور)
۶۶۵، ۶۶۴، ۶۲۷، ۵۱۴	ق	
۴۶۶، ۲۱۲، ۲۰۷، ۲۶	۲۰۴، ۲۰۱، ۱۶۰، ۹۴، ۹۳	قادیان
۵۶۱، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۱۱، ۴۶۳، ۴۷۰	۶۶۰، ۶۵۹، ۶۱۹، ۵۲۸، ۴۴۸، ۳۵۵، ۲۹۸	
۶۷۵، ۶۳۷، ۱۱۰، ۱۰۹، ۶۲	۹۴	قادیان کو اللہ تعالیٰ نے ارض حرم قرار دیا ہے
م	۱۱۰	قصور
۵۰۹، ۳۹۰، ۲۰۲، ۶۲		

۱۱۰	واگہ	۴۹۲	ماسکو
۲۹	ویت نام	۲۵۹،۲۳۱	مدینہ منورہ
۵		۴۵۳،۳۷۸،۲۶۹،۲۶۸،۲۶۷	
۲۱۰،۸۲،۶۲	ہالینڈ	۶۶۳،۶۶۲،۵۱۰	مراکش
۴۹۱،۲۱۴،۲۱۳		۷۵	مسقط
۲۴۳،۲۱۵	ہمبرگ (جرمنی)	۲۷۴،۲۰۹،۱۹۵	مشرق وسطیٰ
۳۰،۲۷،۲۶،۲۳،۲۲،۱۰	ہندوستان	۶۶۶،۱۰۹،۷۵،۶۲	مصر
۶۵۱،۵۰۹،۴۷۶،۳۷۷،۱۶۷،۱۵۹،۱۰۳		۵۹۳،۴۸۹	ملکہ
۷۵،۶۲	ہنگری	۸۲،۶۲	ملائیشیا
	ی		ن
۲۰۴،۱۹۵،۱۰۷،۶۴،۵۶	یورپ	۱۰۸،۸۲،۸۰،۷۹،۶۲	نائیجیریا
۲۷۸،۲۷۶،۲۷۳،۲۴۳،۲۲۰،۲۰۹،۲۰۷		۳۷۹،۲۸۲،۲۸۱،۲۰۹،۲۰۴،۱۹۹،۱۴۴،۱۱۰	
۵۰۳،۴۹۲،۴۷۶،۴۴۳،۳۷۸،۳۶۹،۲۸۱		۵۱۲،۵۰۹،۵۰۶،۵۰۴،۴۹۰،۴۶۲،۴۶۱	
۶۷۲،۶۶۴،۶۶۲،۶۵۷،۶۳۵،۶۲۱		۵۷۱،۵۶۸،۵۶۶،۵۵۹،۵۵۵،۵۲۱،۵۱۷	
	اب یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید یورپ کی	۶۶۵،۶۳۱،۶۳۷،۶۳۵،۵۹۷،۵۷۵،۵۷۴	
۳۶۹	اکثریت ہلاکت سے بچ جائے	۶۷۵،۵۷۴،۵۷۳	
۳۷۳،۳۶۷	یوگوسلاویہ		نائیجیریا کے شمالی علاقہ میں پیدا ہونے والے مجدد
	اللہ تعالیٰ کے فرشتے Iron Curtian کو	۵۳۴	
۳۷۳	پھلانگ کر یوگوسلاویہ میں داخل ہو چکے ہیں		نائیجیریا کی حکومت کی طرف سے جماعت احمدیہ
	یوگوسلاویہ وہ پہلا کمیونسٹ ملک ہے جہاں	۵۷۱	کو براڈ کاسٹنگ سٹیشن قائم کرنے کی اجازت
	اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ منظم	۶۶۳،۳۶۸،۳۶۷،۲۱۸	ناروے
۳۷۳	طور پر قائم ہو چکی ہے	۳۸۰	نگر پارکر
۳۷۷،۶۲	یوگنڈا	۴۷۸،۴۷۷	نیوزی لینڈ
			و
		۸۲	واشنگٹن



کتابیات

		آ، ا
۳۲۳	اشارات فریدی	
۳۱۵	الاصابة فى معرفة الصحابة	آئینہ کمالات اسلام۔ روحانی خزائن جلد ۵
۳۵۶	اصحاب احمد	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
	اعجاز احمدی (روحانی خزائن جلد ۱۹)	۴۴۶، ۳۲۸
		۵۴۱
۱۷۲	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	احمدیت یعنی حقیقی اسلام
۳۲۳	افادات قاسمیہ	(تصنیف حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؑ)
	افریقہ سپیکس (Africa Speaks)	۶۱
		۱۲۲
۴۶۲، ۴۴۵، ۴۴۴		اربعین۔ روحانی خزائن جلد ۱
۳۱۸	اقتباس الانوار	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
	امن کا پیغام ایک حرف انتباہ	۱۲۲
		۱۸۹
۴۶۵، ۴۶۳، ۲۲۰، ۱۹۰، ۱۹۸		اللاہار لذوات الخمار
	انجام آتھم روحانی خزائن جلد ۱۱	(مجموعہ تقاریر حضرت مصلح موعودؑ)
		۶۰۷، ۵۳۸
۱۷۶	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	اسلام غریبوں اور یتیموں کا محافظ
	انصار اللہ (ماہنامہ)	۵۵۲، ۲۰۰
		۴۴۷
۶۲۱، ۵۳۷، ۴۴۹، ۳۵۷، ۲۹۶		اسلام کا اقتصادی نظام
	انجیل	اسلام کا وراثتی نظام
۲۰۲، ۱۶۲، ۱۶۱، ۵۴		۱۸۷، ۹۹، ۸
	انجیل برنباس	۶۲۱، ۵۳۷، ۴۴۹، ۳۵۷، ۲۹۶
		۴۴۵، ۳۵۳
۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰		اسلامی اصول کی فلاسفی (روحانی خزائن جلد ۱۰)
	یہ وہ کتاب ہے جو یورپ کی لائبریری میں	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
۳۳۱	ہمیشہ رہی	۱۸۹، ۱۰۹، ۱۰۷، ۶۱
		۴۲۶، ۳۸۰، ۳۳۵، ۱۹۹، ۱۹۸
		۱۹۸
		۹۸
		ہر مسلمان اور غیر مسلم کو بہت فائدہ دیتی ہے
		اسلامی نماز (کتاب)

۳۱۸	انسان کامل	براہین احمدیہ جلد پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱
۲۲۲	انفارمیشن (Information) ڈنمارک کا اخبار	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ) ۱۸۸، ۳۲۲، ۳۹۵، ۴۰۴
۶۵	انوار خلافت (انوار العلوم جلد ۳)	لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پُر زور دلائل کے ساتھ
۵۵	انوار العلوم جلد ۱۳	اللہ تعالیٰ کی تائید کے نشانات حاصل کروں
۵۵	انوار العلوم جلد ۱۴	برکات الدعاء (روحانی خزائن جلد ۶)
۵۷، ۵۷	انوار العلوم جلد ۱۷	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
۹۸	ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات	برہان ہدایت
	(روحانی خزائن جلد ۱۸)	
۵۵۲	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	پاکٹ بک
۹۵	ایک غلطی کا ازالہ (روحانی خزائن جلد ۱۸)	پیغام صلح (روحانی خزائن جلد ۲۳ - تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
۱۹۸، ۹۲	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	
	ب	
۶۲۲	بابانا تک کا مقدس چولہ	تاریخ احمدیت جلد ششم
۶۶۲	بارامانت	تاریخ احمدیت جلد ہفتم
۱۶۱، ۱۶۱	بائیکل	تاریخ احمدیت جلد دہم
۶۳۶، ۵۵۹، ۳۳۲، ۱۶۳		تاریخ احمدیت جلد یازدہم
۶۲۱	بائیکل کی الہامی حیثیت	تاریخ احمدیت جلد دوازدہم
۴۸۱، ۴۷۹	بحار الانوار	تاریخ احمدیت جلد سیزدہم
۴۷۹، ۴۲۶، ۳۲۸، ۲۳۷	بخاری	تاریخ احمدیت کو اپنے گھروں میں ضرور رکھو
۹۷	بخاری شریف مع ترجمہ و شرح	اپنی تاریخ سے واقفیت رکھنا زندہ اور بیدار
۳۵۵	بدر قادیان (اخبار)	قوموں کے لئے ضروری ہے
	براہین احمدیہ ہر چہار حصہ روحانی خزائن جلد اول	ہر تاریخی زمانہ اگلے زمانے کے لئے ایک
	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	سیڑھی بنتا ہے
۳۵۵، ۱۵۴، ۵۱۳، ۱۵۱، ۷۳، ۷۱، ۵۲، ۵۱		

۶۰۵،۵۸،۵۳	تفسیر کبیر	۵۳۹،۵۳۶،۴۴۷	تاریخ مجتہد امام اللہ
۹	تفہیمات ربانیہ	۶۲۱	تبلیغ ہدایت
۴۲۱،۴۲۰،۳۵۲،۳۳۲،۱۰۶،۱۰۵،۴۵	تورات	۱۱	تجلی قدرت
	توضیح مرام (روحانی خزائن جلد سوم)	۵۳۹	تحدیث نعمت
۵۸۰،۳۳۰،۳۲۹	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	۱۵	تحریک آزادی کشمیر
۱۹۸،۱۹۰	تین اہم امور	۶۲۱	تحریک پاکستان میں جماعت احمدیہ کا کردار
۹۸	تین مسئلے	۲۹۶،۱۸۷،۱۰۹،۱۰۸،۱۰۷	تحریک جدید (رسالہ)
	ٹ		تحفہ گوٹرویہ (روحانی خزائن جلد ۱۷)
۶۲۱	ٹروٹھ پر یولیز (Truth Prevails)	۴۸۱،۳۹۵،۳۲۶،۱۷۴	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
	ج		تذکرہ (مجموعہ الہامات حضرت مسیح موعودؑ)
۴۹۷	جامع البیان فی تفسیر القرآن	۳۵۵،۱۸۲،۲۹،۲۳	
	جنگ مقدس (روحانی خزائن نمبر ۶)	۳۱	ترمذی
۴۴۸	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	۱۸۷،۹۹،۸	تثخیز الاذہان (ماہنامہ)
	جیززن آف میری	۶۲۱،۵۳۷،۴۴۹،۲۹۶	
۶۲۲	(Jesus, son of Mary)	۳۵۶	تعبیر الروایا
۱۹۸،۱۹۱	چالیس جواہر پارے	۱۹۸،۱۹۰	تعمیر بیت اللہ کے تیس عظیم الشان مقاصد
	چ		تفسیر حضرت مسیح موعودؑ (سورۃ الفاتحہ)
	چشمہ معرفت (روحانی خزائن جلد ۲۳)	۴۴۶،۳۵۳،۳۵۲	
۵۳۷،۱۵۸،۱۵۶	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	۵۳۹	تفسیر حضرت مسیح موعودؑ (سورۃ البقرۃ)
	ح	۵۳۹	تفسیر حضرت مسیح موعودؑ (سورۃ النساء)
	حجۃ اللہ (روحانی خزائن جلد ۱۲)	۲۸۴،۲۸۳،۹۷،۹۶،۱۰۰،۹	تفسیر صغیر
۱۴۲	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	۱۸۸	علوم کا سرچشمہ اور تمام انوار کا سورج ہے
۶۲۱،۱۹۸	الحجة البالغة	۶۲۲	تفسیر صغیر کے بے مثال کمالات

۱۹۸	۵۴	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے
۳۲۳	۵۳۸	الحق المبين في تفسير خاتم النبیین
۹۸	۳۰۴	حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۹۶، ۱۹۱		حقیقتہ الوحی (روحانی خزائن جلد ۲۲)
۴۲۰، ۳۹۴، ۳۳۳، ۳۲۹	۴۹۷، ۱۴۳، ۱۴۲	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
۳۱۵	۳۵۵، ۲۳	الحکم قادیان (اخبار)
	۴۶۴	حیات احمد
		خ
۵۴	۱۸۷، ۹۹، ۸	خالد (ماہنامہ)
	۶۲۱، ۵۳۷، ۴۴۹، ۲۹۶	
	۶۲۱	ختم نبوت پر علمی تبصرہ
	۱۰۹، ۱۰۷	ختم نبوت کی حقیقت (انگریزی)
	۳۱۶، ۳۱۵	الخصائص الكبرى
	۲۳۹	خطبہ البہامیہ (روحانی خزائن جلد ۱۶)
	۵۸	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
		خلافت راشدہ (انوار العلوم جلد ۱۵)
		د، ر، ز
	۱۷۳	دارقطنی سنن
	۴۹۱	داس کپٹال
	۹۸، ۲۲	درشین فارسی
		دعوتہ الامیر
	۵۵۳، ۵۵۲، ۴۶۳، ۳۸۰، ۲۰۱، ۲۰۰	
	۳۸۰، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۳۵، ۲۳۱	دیباچہ تفسیر القرآن
		راہ ایمان (دینی مسائل پر مشتمل بچوں کے لئے)
		رسالہ قبلہ نما
		روحانی خزائن جلد ۲۰
		ریویو آف ریپلیجنز (رسالہ)
		زیور
		زرقانی شرح المواہب اللدنیۃ
		زندہ مذہب (انوار العلوم جلد ۳)
		تصنیف حضرت المصلح الموعودؑ
		س، ش
		سبزا شہتار۔ (روحانی خزائن جلد ۲)
		(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
		سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب
		(روحانی خزائن جلد ۱۲)
		(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
		اس میں سینکڑوں دلائل عیسائیت کے غلط
		عقائد کی تردید میں ملیں گے
		سراج منیر (روحانی خزائن جلد ۱۲)
		(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
		سرمد چشم آریہ (روحانی خزائن جلد ۲)
		(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
		اس دعویٰ اور یقین سے لکھی گئی ہے کہ کوئی
		آریہ اس کا رد نہیں کر سکتا

۳۲۲	فتوحات مکہ	۵۴۸	سوانح فضل عمر
	الفرقان (رسالہ ماہنامہ)	۲۳۲، ۲۳۱	سیرت ابن ہشام
۶۲۱، ۵۳۷، ۴۴۹، ۳۵۷، ۲۹۶، ۹۹، ۸			سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۳۱۸	فصوص الحکم شرح	۵۵۴، ۵۴۱، ۴۶۳، ۳۵۵	
۱۲۸، ۹۹، ۸، ۷	الفضل روزنامہ ربوہ	۹۸	سیرۃ خاتم النبیین
۵۳۷، ۴۴۹، ۳۵۷، ۲۹۷، ۲۹۶، ۱۲۹		۵۳۸	شان مسیح موعود
۱۰۰	الفضل کا ہر گھر میں پہنچنا ضروری ہے		ض
	الفضل سے خطبات، مضامین، درس اور	۴۴۶	ضرورت نبوت
۱۰۰	ڈائریاں وغیرہ ضرور سنائی جائیں	۳۱۵	طبقات ابن سعد
۱۰۱	زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الفضل خریدنا چاہیے		ع
	الفضل کی اشاعت کی طرف جماعت کو	۵۳۸	علمی تبصرہ
۱۰۱	خاص توجہ دینی چاہیے	۳۱۹	عوارف المعارف
	ہر جماعت میں کم از کم ایک پرچہ الفضل	۴۷۹	یعنی (شرح بخاری)
۱۰۱	جانا چاہیے		غ
۲۹۶	الفضل ہر احمدی کو پڑھنا یا سننا چاہیے	۹۸	غلبہ حق
۲۸	فقہ احمدیہ	۹۲، ۹۱	غیر مبایعین کی اشتعال انگیزیاں
	ق		ف
۶۴، ۶۱، ۶۰، ۵۸، ۵۴	قرآن کریم	۴۴۶، ۱۰	فاروق (سونیر) خدام الاحمدیہ
۱۳۸، ۱۱۴، ۱۱۲، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۳، ۷۸، ۷۷			فتح اسلام (روحانی خزائن جلد ۳)
۱۸۴، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۱، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۴۷، ۱۴۴		۵۵۲، ۲۷۱	(تصنیف حضرت مسیح موعود)
۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۵، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۳، ۱۹۰		۴۷۹	فتح الباری
۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۶، ۲۴۰، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۳		۹۸، ۹۱	فتح حق (غیر مبایعین کی کتاب)
۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۷۹، ۲۶۴، ۲۵۸، ۲۵۱، ۲۵۰			

۱۱۹	ہر گھر میں قرآن کریم کا پڑھا جانا ضروری ہے	۳۱۲، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۲۹۷، ۲۸۸
	اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑیں گے تو ہمارے	۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۶
۱۱۹	ایمان کا درخت سوکھ جائے گا	۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۱، ۳۴۶، ۳۴۱، ۳۳۳، ۳۲۸
۱۱۹	قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا بڑا ضروری ہے	۳۹۵، ۳۸۸، ۳۸۰، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۶۹، ۳۵۸
	قرآن کریم کے سارے کے سارے علوم کو	۴۱۳، ۴۱۲، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۳۹۶
۱۱۹	کوئی شخص یا کوئی نسل حاصل نہیں کر سکتی	۴۳۹، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۲، ۴۲۰، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵
	قرآن کریم کے خزانے کسی زمانہ میں ختم	۴۷۶، ۴۷۳، ۴۶۵، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۵۵، ۴۴۲
۱۱۹	نہیں ہوتے	۵۳۹، ۵۳۰، ۵۱۰، ۵۰۵، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۸۴
	جماعت کے ہر گھر میں قرآن کریم پڑھنے	۵۶۱، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۱، ۵۴۰
۱۱۹	پڑھانے کا کام ابد الابد تک جاری رہنا چاہیے	۵۹۲، ۵۸۱، ۵۷۹، ۵۷۶، ۵۷۵، ۵۷۴، ۵۶۷
	قرآن شریف سراسر حکمت اور معرفت اور	۶۳۴، ۶۳۱، ۶۲۲، ۶۱۱، ۶۰۵، ۵۹۹، ۵۹۵، ۵۹۳
۱۳۷	سچائی سے بھرا ہوا ہے	۶۶۴، ۶۵۱، ۶۴۸، ۶۳۸، ۶۳۶، ۶۳۵
	پڑھے لکھے مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ	۵۵
	قرآن کریم میں کوئی علوم نہیں ہیں سب علوم	قرآن کریم کے معارف کا مقابلہ کرنے کا چیلنج
۱۶۱	انجیل اور بائبل میں پائے جاتے ہیں	۱۰۶
	قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی اور مختصر سی	کا ترجمہ مکمل ہو کر شائع ہو چکا ہے
۱۶۲	سورۃ یعنی فاتحہ سے مقابلہ کی دعوت	۱۰۷
	خدا کا ابدی اور نئے بدلنے والا کلام قرآن کریم	قرآن کریم کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ مکمل
۱۶۴	ہی ہے۔ تمام صدائیں اس میں پائی جاتی ہیں	۱۰۷
	قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے	ہو چکا
۱۶۴	اس میں کوئی لفظی تبدیلی واقع نہیں ہوئی	۱۱۸
	خدا کے نیک بندے اس کی تفسیر کی حفاظت	قرآنی تعلیم پر عمل کئے بغیر جماعتی لحاظ سے
۱۶۴	کرنے والے ہیں	۱۱۸
		ہم زندہ نہیں رہ سکتے

قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ کوئی شخص	تمام صداقتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور ہر
۳۸۵ بھوکا نہ رہے	۱۶۴ قسم کے حملہ سے یہ محفوظ کیا گیا ہے
قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی	اگر ہم قرآن کریم کے علوم صحیح طور پر سیکھنا
۳۹۵ آنحضرت کی امت میں داخل ہے	۱۸۸ چاہتے ہیں تو تفسیر صغیر خریدیں
حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے	قرآن کریم کے بتائے ہوئے سارے ہی
۳۹۶ کھولیں اور باقی سب اس کے ظل تھے	۲۴۰ احکام پر عمل کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ
فطرت انسانی کے سب حقیقی تقاضوں کو پورا	قرآن کریم کے احکام خیر ہیں یعنی ان میں
۴۰۶ کرنے والی کتاب	۲۴۶ بھلائی ہی بھلائی ہے
انسان کی روحانی، جسمانی، معاشرتی، اخلاقی	قرآن کریم کو بزرگی کے قائم کرنے اور
اور سیاسی ضرورتوں کو پورا کرنے والی یہی	۲۴۸ بزرگی کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے
۴۰۶ کتاب ہے	ہم نے قرآن کریم کی حسین تعلیم کو ساری
یہ پہلوں اور پچھلوں پر احسان کرنے والی کتاب	۴۴۸ دنیا میں پھیلا کے دم لینا ہے
انسان کو ہر قسم کے شیطانی وساوس، ظن اور گمان	ہماری زندگی قرآن کریم ہے اور قرآن کریم
۴۰۷، ۴۰۶ سے نکال کر یقین کی رفعتوں تک پہنچاتا ہے	۲۹۷ کی صحیح تفسیر ان کتابوں میں ہے
ابدی صداقتوں کو قرآن کریم نے اپنے اندر	قرآن تمام آسمانی کتابوں کا آدم اور جمع
۴۰۷ محفوظ کر لیا	۳۲۴ معارف صحف سابقہ کا جامع ہے
قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمام	۳۵۱ قرآن کریم انگریزی مع تفسیری نوٹس تفسیر صغیر
انسانوں پر احسان کرنے والی کتاب ہوں	سورۃ فاتحہ میں ابھی تو بہت کچھ ہے بہت
قرآن کریم خدائے قیوم کی حفاظت میں	۳۵۳ زیادہ قیامت تک نکلتا رہے گا
۴۰۷ ہے جس حالت میں نازل ہوا وہ محفوظ ہے	قرآن سورۃ فاتحہ کے اجمال کی تفصیل
قرآن کریم اور آنحضرت نے حضرت آدم	۳۵۴ بیان کرتا ہے
۴۱۲ کو تہمت سے بری قرار دیا	۳۵۴ قرآنی مضامین کا اجمال سورۃ فاتحہ ہی ہے
قرآن کریم نے حضرت لوط کو تہمت سے	قرآن کریم کے باہر کوئی صداقت نہیں۔ یہ
۴۱۲ بری قرار دیا	۳۵۷ پکی بات ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق	کوئی ایسا اعتراض قرآن کریم پر نہیں کیا
۴۵۳ کی تقسیم بھی میں ہی کیا کرتا ہوں	۴۱۶ جاسکتا جسے معقولی طور پر رد نہ کر سکیں
جماعت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی	۴۱۶ تمام ہدایتیں قرآن کریم کے اندر پائی جاتی ہیں
۴۷۳ تعلیم کو پھیلا یا جائے	ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ قرآن میں پائی جاتی ہے
قرآن نے بنیادی طور پر ہماری زندگی	۴۱۶ قرآن کریم نے دنیا کے ہر نبی کی برأت کی
۵۷۴ کے ہر شعبہ میں ہماری راہنمائی کی ہے	ہے اور یہ بڑا ہی عظیم احسان ہے
قرآن کریم ایک رحمت، ایک کامل اور مکمل شریعت	۴۱۶ ہر قسم کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم
۴۷۷ کا حامل بن کر دنیا کی طرف نازل ہوا	میں موجود ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں قرآن	۴۱۷ قرآن کریم میں ہر چیز جو قابل بیان تھی یعنی جس
عظیم جیسی ہدایت اور افضل الرسل جیسا اسوۂ	۴۱۷ کی ضرورت تھی وہ بیان کر دی گئی ہے
۵۷۳ حسنہ عطا فرمایا ہے	وید کا وہ حصہ جو قرآن کریم سے مشابہت نہیں
خدا تعالیٰ کے پاک اور مطہر بندوں کے سوا	۴۱۹ رکھتا وہ خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا
کتاب مکنون یعنی قرآن کریم کے پوشیدہ	۴۲۵ قرآن شریف عزت اور شرف کا جامع ہے
۵۷۵ حصوں کو دنیا پر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا	قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان
ہماری خواہش ہے کہ اگلے پانچ سات سالوں	کے جلووں کو نمایاں کر کے ہمارے سامنے
میں مختلف زبانوں میں دس لاکھ قرآن کریم	۴۳۲ رکھا ہے
۵۶۰ مترجم دنیا کے ملک ملک میں پھیلا دیں	ہر سچائی اور صداقت جو انسان معلوم کرتا ہے وہ
انسان کی نجات کی سب راہیں اسی سرچشمہ	۴۳۵ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے
۶۱۲ سے نکلتی ہیں	قرآن کریم سے زائد ہو ہی نہیں سکتا اسے
قرآن کریم آخری شریعت ہے بلکہ ایک	ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
۶۱۲ کامل اور مکمل ہدایت نامہ ہے	۴۳۵ زندہ کیا اور پیدا کیا اور زندہ رکھا ہے
خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہر راستہ قرآن کریم	قرآن کریم سے باہر کوئی صداقت نہیں ہے
۶۱۲ کے نور سے منور ہو کر راہنمائی کرتا ہے	۴۵۰ اصولی طور پر اسی کی تفسیر ہے

۱۹۸، ۱۹۰	قرآنی انوار	دنیا میں ہوٹلوں کے ہر کمرہ میں قرآن کریم
	ک	کا ترجمہ رکھنے کا منصوبہ
	کتاب البریہ (روحانی خزائن جلد ۱۳)	اب دنیا کے ہوٹلوں کے ہر اس کمرہ میں
۱۶۹	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	جس کے اندر بائبل موجود ہے اس کے اوپر
	کشتی نوح (روحانی خزائن جلد ۱۹)	قرآن کریم مترجم رکھا ہونا چاہیے
۱۸۹، ۱۹	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	بڑی جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا کے
۵۵۲، ۳۹۵، ۳۲۶، ۱۹۸		ہر ہوٹل کے کمرہ میں بائبل ہو یا نہ ہو قرآن کریم
۳۵۶	کشمیر کی کہانی	مترجم ضرور ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ
	الکفر ملۃ واحده (تصنیف حضرت مصلح موعود)	حمد اور عزم کے عظیم مظاہرے کے لئے
۵۵۲، ۴۶۳		قرآن کریم کی عین ہدایت کے مطابق ہم
۳۱۵	کنز العمال	نے تیاری کرنی ہے
	ل	سائنسی ایجادات کو اسلام اور قرآن عظیم
۴۴۹، ۱۸۷، ۱۱	لاہور (ہفت روزہ)	کے مقابلہ میں لاکھڑا کر دیا گیا
	لائف آف محمد (Life Of Muhammad)	عربی جاننا قرآن کریم کے سمجھنے کے لئے تو
۵۵۲، ۲۰۰		شرط نہیں ہے
	لیکچر سیالکوٹ (روحانی خزائن جلد ۲۰)	قرآن کریم کا ترجمہ نوع انسانی کے ہاتھ
۳۲۴	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)	میں دینا اشد ضروری ہے
	م	چینی زبان میں ترجمہ قرآن کریم ضروری ہے
۳۲۲	مثنوی مطلع الانوار	ہمیں فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ
۳۳	مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریرات کی رو سے	اور تفسیر شائع کرنی چاہیے
۳۱۴	مسلم صحیح	ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم
۱۰	مسلم نوجوانوں کے سنہری کارنامے	کی عربی تفسیر شائع کریں
۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴	مسند احمد بن حنبل	تمام فرقے قرآن کریم کو قیامت تک کے
		لئے ہدایت نامہ سمجھتے ہیں

ن	۶۲۲	مسح الدجال یا جوج ماجوج
نزول المسح (روحانی خزائن جلد ۱۸)		مسح ہندوستان میں (روحانی خزائن جلد ۱۵)
۱۴۳	۵۵۲،۲۰۰	(تصنیف حضرت مسیح موعودؑ)
و	۴۴۷	مشعل راہ
۵۴۱	۳۱۵	مشکوٰۃ المصابیح
الوصیٰ (روحانی خزائن جلد ۲۰)	۶۲۱،۲۹۶،۱۹۱	مصباح (ماہنامہ)
۱۸۳،۱۱	۳۱۴	موضوعات کبیر
۴۲۲،۴۲۱،۴۲۰،۴۱۹،۵۴	۹۸	مقام خاتم النبیین
وید	۳۲۲ تا ۳۱۹	مقام مہدویت اور ختم نبوت کی حقیقت
وید پر بڑا سخت اتہام ہے کہ اس نے نیوگ	۴۰۳	مقام محمدیت اور ختم نبوت کی حقیقت
۴۱۹	۳۲۳	مکتوبات امام ربانی
وید اپنی اصلی حالت میں خدا تعالیٰ کے ایک	۲۲۹	ملفوظات جلد اول
۴۲۰	۲۳۸	ملفوظات جلد دوم
برگزیدہ نبی پر نازل ہونے والی کتاب تھی	۹۸	ملفوظات جلد ۱۰
ہ-۵		مجموعہ اشتہارات جلد اول
۱۹۸		۳۴۵،۱۸۱،۱۵۶،۵۰،۴۷،۴۶،۴۵
ہمارے عقائد	۱۶۶،۷۲	مجموعہ اشتہارات جلد دوم
۱۹۸	۶۸	منصب خلافت (انوار العلوم جلد ۲)
ہم مسلمان ہیں	۵۳۹	میری والدہ
۴۲۶		میں اسلام کو کیوں مانتا ہوں
۶۲۲	۲۰۰	(Why I believe in Islam)
یاد رکھنے کی باتیں		
یاد محمود (حضرت مصلح موعودؑ کی یاد میں)		
۱۹۸		
احباب جماعت کی نظموں کا مجموعہ		
۳۱۹		
الیواقیت واللجوہر		

